

آروزان میں اپنی نوعیت کی منفرد اور اولین کاوش

الْفَتْحُ الرَّبَّانِي

فقیہی ترتیب

شیخ احمد عبدالرحمن بناسامانی رَحْمَةُ اللهِ

مُسْتَدَامَا أَحْمَد بن حنبل

شیخ الإسلام، صاحب المنهاج، شيخ السنة، إمام أهل الحديث وصاحب المنهاج على الأمة
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الرَّبَّانِيُّ

ترجمہ

ڈاکٹر عبدالنجم گوندوی پروفیسر سعیدی محبتی سعیدی ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان

تحقیق و تخریج و شرح
ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان

نظارت کافی
ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر
تقریظ
ڈاکٹر عبدالمناصر رحمانی اعوان

8



انصار السنہ
پبلیکیشنز
لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com



اردو زبان میں اپنی نوعیت کی منفرد اور اولین کاوشیں
سلیبس ترجمہ، تشریح، تحقیق و تخریج

8

الْفَتْحُ الرَّبَّانِي

فِقهی ترتیب

مُسْتَدْرَاكُ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ

شیخ الإسلام ضامب الذهب شيخ السنة امام اهل الحديث و صامب البنة على الامة

ابن عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني

ترجمہ

مولانا عباس نجم گوندوی پرفیسر سید محمد مجتبیٰ سعیدی

ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان



اصناف السنن

پبلیکیشن کیسٹرن لائبریری

تحقیق و تخریج و تشریح: ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان

تقریظ: شیخ الحدیث ناصر رحمانی حفظہ اللہ
نظارتی: حافظ عبداللہ رفیق
لوگوور کتاب لاہور

اسلامی اکادمی < 1- الفضل مارکیٹ اُردو بازار لاہور

042- 37357587

جملہ حقوق بحق

انصار السنۃ پبلیکیشنز

محفوظ ہیں

نام کتاب: **مُسْنَدُ اِمَامِ اَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ**

شیخ الاسلام، صامب المنہب، شیخ السنۃ، امام اہل الحدیث و صامب المنۃ علی الامۃ

تالیف: **ابن عبد اللہ بن محمد بن حنبل بن الشیبانی**

تقریباً
حافظ عبدالشرفیق
شیخ الحدیث تلمذہ علیہ بالذکر کتاب لغوی

تحقیق و تصحیح و مسح،
ابوالخاتم محفوظ اعوان

مولانا عبدالرحیم گوندلوی پروفیسر سعیدی
ابوالخاتم محفوظ اعوان

اہتمام: **محمد رمضان محمدی محمد سلیم جلالی**

ناشر: **ابومومن منصور احمد**

اسلامی اکادمی ۱۰۱ الفضل مارکیٹ اتر ڈوب کاناں لاہور 042-37357587

Dar-us-Salam

486 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217

TEL:(718) 625-5925 FAX:(718) 625-1511

E-Mail: darussalamny@hotmail.com

Web Site: www.darussalamny.com



امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ سے کہا:
اِحْتَفِظْ بِهَذَا الْمُسْنَدِ ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
تم اس مسند کی حفاظت کرنا، پس بیشک عنقریب یہ لوگوں کا امام ہوگی۔

(سیر أعلام النبلاء: ۱۱ / ۳۲۷)



فہرست مضامین

- قرآن کریم کے فضائل، تفسیر اور اسباب نزول کی کتاب
- 27 ----- قرآن کی فضیلت اور اس کو تھامنے کا بیان
- قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے، اس کو حفظ کرنے پر رغبت دلانے
- 31 ----- اور اس کی فضیلت کا بیان
- قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینے کا بیان
- 36 ----- قرآن مجید کی اور اس کے تلاوت آداب کا بیان
- 38 ----- (قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت)
- 44 ----- قرآن پاک دلکش آواز میں پڑھنے کی ترغیب
- 47 ----- قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر (ترتیل سے) پڑھا جائے
- بوریت کے ڈر سے قراءت قرآن میں میانہ روی اختیار کرنے کا، نیز اس چیز کا بیان کہ کتنے دنوں میں قرآن مجید کی تکمیل کی جائے
- 50 -----
- 53 ----- قرآن مجید کی تلاوت پر سکینت اور فرشتوں کے نزول کا بیان
- 54 ----- سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کی فضیلت کا بیان
- 54 ----- مکمل قرآن مجید حفظ کر لینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان
- عذاب والی آیت یا رحمت والی آیت اور بعض سورتوں کی تکمیل کے وقت قاری کے لیے مستحب ذکر کا بیان
- 56 -----
- 57 ----- قرآن مجید سننے کی فضیلت اور اس وقت رونے کا بیان
- قرآن مجید کی دیکھ بھال کرنے اور اس کو یاد رکھنے کا بیان اور اس سے ممانعت کہ بندہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں -
- 58 ----- حفظ کر لینے کے بعد مکمل قرآن مجید کو یا بعض حصے کو بھلانے

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ وَأَسْبَابِ نَزُولِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ وَالْإِعْتِصَامِ بِهِ
بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ وَحِفْظِهِ
وَفَضْلِ ذَلِكَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرِ أَوْ تَعْلِيمِهِ بِأَجْرِ
أَبْوَابِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَأَدَابِهَا

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَبُّدِ بِهِ وَالتَّعَمُّلِ بِمَا فِيهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّجُورِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَنُّيِ بِهِ
وَحُسْنِ الصَّوْتِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ
بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْقِرَاءَةِ خَوْفَ الْمَلَلِ ، وَفِي كَيْفِ
يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

بَابُ نَزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
يَذْكُرُ مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ

بَابُ مَا يَسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ الْقَارِئُ عِنْدَ ذِكْرِ آيَةِ
عَذَابٍ أَوْ رَحْمَةٍ وَعِنْدَ خَتْمِ بَعْضِ السُّورِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ
بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَاسْتِذْكَارِهِ
وَالنَّهْيِ عَنْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا كَذَا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ نَسِيَ الْقُرْآنَ

والے، یا اپنی قراءت کی وجہ سے ریا کاری کرنے والا، یا اس کے ذریعے کھانے والا، یا اس پر عمل نہ کرنے والے کے لیے سخت

وعید کا بیان ----- 60

قرآن مجید اور اوراد کی تحزیب کرنے اور مصاحف میں اس کی تالیف کرنے جمع کرنے اور اس کو لکھنے کے

ابواب

قرآن مجید کی تالیف کا بیان ----- 64

قرآن اور اوراد کے حزب مقرر کرنا ----- 64

عہد نبوی میں کندھوں کی ہڈیوں اور سفید پتھروں پر قرآن مجید کی

کتابت کا بیان ----- 66

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تالیف قرآن کا بیان --- 70

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے زمانہ خلافت میں (ایک قراءت کے

مطابق) مصاحف لکھوانا، پھر ان کو مختلف علاقوں میں تقسیم کرنا اور

لوگوں کو اس پر پابند رہنے پر آمادہ کرنا اور اس کے مخالف قراءت

والے اور قدیم مصاحف کو جلا دینے کا بیان ----- 73

مصنف عثمانی کے بارے میں سیدنا ابن مسعود b کی رائے -- 75

قراءت، ان میں اختلاف کا جواز اور ان کے بارے

میں جھگڑنے سے ممانعت کے ابواب

قراءتوں کے بارے میں عام روایات اور اس مسئلہ میں صحابہ کے

اختلاف کا بیان ----- 80

مفصل قراءت اور اس میں صحابہ

کے اختلاف کا بیان

سورہ مائدہ میں قراءتوں کے اختلاف کا بیان ----- 86

سورہ ہود کی قراءت کا بیان ----- 86

سورہ مریم کی قراءت کا بیان ----- 87

أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ حِفْظِهِ أَوْ تَرَأَى بِقِرَاءَةٍ تَهْ أَوْ تَأْكُلُ بِهِ
أَوْلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ
وَأُورَادِهِ وَتَأْلِيفِهِ وَجَمْعِهِ وَكِتَابَتِهِ فِي

الْمَصَاحِفِ

بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ وَأُورَادِهِ

بَابُ مَنْ قَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وَرِيدِهِ مَتَى يَقْضِيهِ

بَابُ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي الْأَكْتَابِ وَاللِّحَافِ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ فِي خِلَافَةِ

أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بَابُ كِتَابَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصَاحِفِ فِي خِلَافَتِهِ

وَتَوَازِينِهَا فِي الْأَفْطَارِ وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى عَدَمِ

الْحُرُوجِ عَنْهَا وَحَرْقِ مَا يُخَالِفُهَا مِنَ الصُّحُفِ

وَالْمَصَاحِفِ الْقَدِيمَةِ

بَابُ رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَصَاحِفِ عُثْمَانَ

أَبْوَابُ الْقُرَاءَاتِ وَجَوَازِ اخْتِلَافِهَا

وَالنَّهْيِ عَنِ الْمِرَاءِ فِيهَا

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ عَامًّا وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ

فِيهِ

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مُفْصَلًا

وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ هُودَ

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ

- 87 ----- سورة فرقان کی قراءت کا بیان
- 89 ----- سورة روم کی قراءت کا بیان
- 89 ----- سورة زمر کی قراءت کا بیان
- 90 ----- سورة احقاف کی قراءت کا بیان
- 90 ----- سورة محمد کی قراءت کا بیان
- 92 ----- سورة ذاریات کی قراءت کا بیان
- 92 ----- سورة قمر کی قراءت کا بیان
- 93 ----- سورة طلاق کی قراءت کا بیان
- 93 ----- سورة لیل کی قراءت کا بیان

نزول قرآن کی کیفیت کے ابواب

- قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں کے نزول کے وقت کا بیان اور صحابہ کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے ----- 95
- قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والے حصے کا بیان -- 96
- قرآن مجید کے سات قراءتوں میں نازل ہونے کا مطلب 101 اس کا بیان کہ قرآن کی سورتوں اور آیات میں سے کون سا حصہ آخر میں نازل ہوا ----- 106
- نبی کریم a اور سیدنا جبریل کا قرآن مجید کا دور کرنے کا بیان 108
- قرآن مجید کے نسخ کا بیان ----- 109
- ان آیات کا ذکر، جو قرآن مجید میں موجود تھیں، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئیں ----- 111
- قرآن مجید کے ساتھ جھگڑا کرنے یا اس کی تاویل کرنے یا بغیر علم کے اپنی رائے کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے والے کی وعید کا بیان - 118
- قراءت سے پہلے تعوذ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کا بیان ----- 122

- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الرُّومِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الزُّمَرِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ
- مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ اللَّيْلِ

أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ نُزُولِ الْقُرْآنِ

- أَبُ وَفَتْ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَعَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ
- لِسَمَاوِيَّةٍ وَخَوْفِ الصَّحَابَةِ مِنْ نُزُولِ الْقُرْآنِ
- بِهِمْ
- بَابُ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ
- بَابُ نُزُولِ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ
- بَابُ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ وَأَيَاتِهِ
- بَابُ مُعَارَضَةِ جِبْرِيلَ وَالنَّبِيِّ ﷺ لِلْقُرْآنِ
- بَابُ جَوَازِ نَسْخِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَالِدَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ
- بَابُ ذِكْرِ آيَاتِ كَانَتْ فِي الْقُرْآنِ وَنُسِخَتْ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعِيدِ مَنْ جَادَلَ بِالْقُرْآنِ أَوْ تَأَوَّلَهُ
- أَوْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَسْتِعَاذَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ
- تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
- الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

قرات سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان ----- 126
تفسیر، اسباب نزول اور سورتوں کی ترتیب کے مطابق سورتوں اور آیتوں کے فضائل کے ابواب

سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت کا بیان ----- 126
﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ﴾ کی تفسیر ----- 130
سورۃ بقرہ کی تفسیر اور اس کے فضائل کا بیان ----- 131
تفسیر و اسباب نزول کا بیان

﴿اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ کی تفسیر اور ہاروت اور ہاروت کا قصہ ----- 135
﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ کی تفسیر ----- 137
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ کی تفسیر ----- 137
﴿فَاَيْنَمَا تُولُوْنَ فَنَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾ کی تفسیر ----- 142
﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾ کی تشریح ----- 143
﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا﴾ کی تفسیر ----- 144
﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 145
﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمٰوٰتِ﴾ کی تفسیر ----- 145
﴿اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ﴾ کی تفسیر ----- 147
﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ کی تفسیر ----- 149
﴿اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 152
﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَبِيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ کی تفسیر ----- 153
﴿عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 154

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبِسْمَلَةِ قَبْلَ الْقِرَاةِ وَفَضْلِهَا

اَبْوَابُ التَّفْسِيْرِ وَاسْبَابُ النُّزُوْلِ
وَفَضَائِلُ السُّوْرِ وَالآيٰتِ مُرتَّبًا ذٰلِكَ
عَلٰى نِظَامِ السُّوْرِ

بَابُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَمَا وَرَدَ فِى فَضْلِهَا
بَابُ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
بَابُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا جَاءَ فِى فَضْلِهَا
التَّفْسِيْرِ وَاسْبَابُ النُّزُوْلِ
بَابُ ﴿اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ وَقِصَّةُ
هَارُوتَ وَمَارُوتَ

بَابُ: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾
بَابُ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾
بَابُ: ﴿فَاَيْنَمَا تُولُوْنَ فَنَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ﴾
بَابُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى﴾
بَابُ: ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا﴾
بَابُ: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اِيْمَانَكُمْ﴾
بَابُ: ﴿قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمٰوٰتِ﴾
بَابُ: ﴿اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ﴾
بَابُ: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾
بَابُ: ﴿اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى
نِسَائِكُمْ﴾
بَابُ: ﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَبِيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
بَابُ: ﴿عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ﴾

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ...﴾

156 ----- کی تفسیر

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾

157 ----- کی تفسیر

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾ کی تفسیر - 158

﴿وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ کی تفسیر - 161

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَى...﴾ کی

162 ----- تفسیر

﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ﴾ کی تفسیر - 163

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى﴾ کی

166 ----- تفسیر

آیہ الکرسی کے فضیلت کا بیان - 169

﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنحِي الْمَوْتَى﴾

172 ----- کی تفسیر

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا

173 ----- فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ...﴾ کی تفسیر

178 ----- سورة بقرہ کی آخری آیات کے فضائل

سورة آل عمران کی تفسیر اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا بیان - 179

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

180 ----- مُحْكَمَاتٌ...﴾ کی تفسیر

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ کی تفسیر - 181

﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

181 ----- کی تفسیر

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

182 ----- قَلِيلًا﴾ کی تفسیر

بَابُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ

رَأْسِهِ...﴾

بَابُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ

رَبِّكُمْ﴾

بَابُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾

نَابُ: ﴿وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾

بَابُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

آذَى...﴾

بَابُ: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ﴾

بَابُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

الْوَسْطَى﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

بَابُ: ﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنحِي

الْمَوْتَى﴾

بَابُ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ

تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ...﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَوَاتِمِ الْبَقَرَةِ

مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَبَيَانِ اسْمِ

اللَّهِ الْأَعْظَمِ

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ...﴾

بَابُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾

بَابُ: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ﴾

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ

ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ کی تفسیر

185

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ

أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ کی تفسیر

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ کی تفسیر

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبِيْنِي إِسْرَائِيلَ﴾ کی تفسیر

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

سَبِيلًا﴾ کی تفسیر

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ..... الخ﴾ کی تفسیر

﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ کی تفسیر

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..... الخ﴾ کی تفسیر

﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ کی تفسیر

193

﴿أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى

هَذَا﴾ کی تفسیر

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾

کی تفسیر

﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ

لِلنَّاسِ﴾ کی تفسیر

سورہ نساء کی تفسیر

وراثت کی آیت کا بیان

﴿وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ.....﴾ کی تفسیر

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ اور اللہ کے اس قول ﴿وَلَا

تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کی

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ.....﴾ کی تفسیر کا

بیان

بَاب ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ

إِيمَانِهِمْ﴾

بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ

يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾

بَاب: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

بَاب: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّبِيْنِي إِسْرَائِيلَ﴾

بَاب: ﴿وَإِنَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

بَاب: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ..... الخ﴾

بَاب: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾

بَاب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..... الخ﴾

بَاب: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾

بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوْلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ

أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا﴾

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾

بَاب: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ﴾

مَاجَاءَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ

بَابُ آيَةِ الْجُمَرَاتِ

بَاب: ﴿وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ.....﴾

بَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾

وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى

بَعْضٍ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

بِشَهِيدٍ.....﴾

- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 201
- باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ کی تفسیر ----- 202
- بَابُ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ کی تفسیر ----- 203
- بَابُ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا.....﴾ الخ کی تفسیر -- 204
- بَابُ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ کی تفسیر ----- 205
- بَابُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ.....﴾ الخ کی تفسیر ----- 207
- بَابُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ کی تفسیر ----- 209
- بَابُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ کی تفسیر ----- 210
- بَابُ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا﴾ کی تفسیر ----- 211
- بَابُ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 212
- بَابُ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ کی تفسیر ----- 214
- بَابُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ کی تفسیر ----- 214
- سُورَةُ الْمَائِدَةِ ----- 217
- سورة مائدہ کی فضیلت کا بیان ----- 217
- بَابُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....﴾ الخ کی تفسیر - 218
- تیم کا بیان ----- 219
- بَابُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.....﴾ الخ کی تفسیر ----- 221
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ کی تفسیر ----- 222
- بَابُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.....﴾ الخ کی تفسیر ----- 231
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
- باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
- بَابُ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾
- بَابُ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا.....﴾ الخ
- بَابُ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
- بَابُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ.....﴾ الخ
- بَابُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
- بَابُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾
- بَابُ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا﴾
- بَابُ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾
- بَابُ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾
- بَابُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾
- سُورَةُ الْمَائِدَةِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
- بَابُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....﴾ الخ
- بَابُ آيَةِ التَّيْمِيمِ
- بَابُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.....﴾ الخ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
- بَابُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.....﴾ الخ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

- 232 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ الخ﴾
- 233 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾
- 236 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَاتَّبِعْتُمْ عِبَادَتَكُمْ﴾
- 240 ----- سورة الانعام ﴿بَابُ: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾
- 240 ----- کی تفسیر الخ ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾
- 241 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾
- 243 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾
- 245 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
- 246 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾
- 246 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾
- 247 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾
- 249 ----- سورة الاعراف ﴿بَابُ: فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ الخ﴾
- 249 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
- 250 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
- 251 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
- 254 ----- سورة الانفال کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
- 257 ----- کی تفسیر الخ ﴿بَابُ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ کی تفسیر 257

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

خَاصَّةً﴾ کی تفسیر ----- 258

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....﴾ کی تفسیر — 259

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ کی تفسیر — 260

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى.....﴾ کی تفسیر 261

سورہ توبہ ----- 265

اس سورت کے شروع میں "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"

کے نہ لکھنے کی وجہ کا بیان ----- 265

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ.....﴾ کی تفسیر ----- 269

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ کی تفسیر — 270

﴿الْمَوْلَافَةَ فُلُوهُهُمْ﴾ کی تفسیر ----- 272

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ..... وَلَا تَصَلِّ عَلَى

أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَابَ آدَابًا﴾ کی تفسیر ----- 273

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ کی تفسیر 275

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِينَ..... إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ﴾ کی تفسیر — 276

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ.....﴾ کی تفسیر — 278

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ.....﴾ کی تفسیر 288

سورہ یونس ----- 290

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر — 290

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ کی

تفسیر ----- 290

﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُو

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾

بَابُ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

خَاصَّةً﴾

بَابُ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا.....﴾ 255

بَابُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

بَابُ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى.....﴾ الخ

سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَابُ سَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهَا

بَابُ ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ.....﴾

بَابُ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ.....﴾

بَابُ: ﴿الْمَوْلَافَةَ فُلُوهُهُمْ﴾

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ

لَهُمْ..... وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَابَ آدَابًا﴾

بَابُ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾

بَابُ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

لِلْمُشْرِكِينَ..... إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ﴾

بَابُ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ.....﴾

بَابُ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ.....﴾

سُورَةُ يُوسُفَ

بَابُ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

بَابُ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ﴾

بَابُ: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتَ بِهِ بَنُو

- 292 ----- اسرَائیل ﴿ کی تفسیر ﴿ اسرَائیل ﴿
- 293 ----- سورۃ ہود ----- سورۃ ہود ﴿
- 293 ----- سورۃ ہود میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان -----
- ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 293 ----- ﴿ قَالَ لَوْ أَنِّي لَبِيتُ بِكُمُ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 293 ----- ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 295 ----- سورۃ یوسف کی تفسیر ----- سورۃ یوسف ﴿
- 298 ----- ﴿ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 298 ----- ﴿ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 299 ----- سورۃ رعد ----- سورۃ الرعد ﴿
- 299 ----- ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 299 ----- ﴿ وَيَسْبِغُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 301 ----- سورۃ ابراہیم ----- سورۃ ابراہیم ﴿
- 301 ----- ﴿ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴾ کی تفسیر ﴿
- ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 302 ----- ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 303 ----- ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ کی تفسیر ﴿
- 304 -----
- ﴿ اسرَائیل ﴿
- سورۃ ہود ﴿
- سورۃ ہود میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان
- ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴿
- ﴿ قَالَ لَوْ أَنِّي لَبِيتُ بِكُمُ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿
- ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴿
- سورۃ یوسف کی تفسیر
- ﴿ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴿
- ﴿ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ﴿
- سورۃ الرعد ﴿
- ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿
- ﴿ وَيَسْبِغُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴿
- سورۃ ابراہیم ﴿
- ﴿ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿
- ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴿
- ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴿
- ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿

305 ----- سورہ حجر

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾ کی تفسیر

306 ----- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ کی تفسیر

306 ----- سورہ نحل

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ کی تفسیر

308 ----- ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ کی تفسیر

﴿وَمَا مَسَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا

309 ----- ﴿الْأُولُونَ﴾ کی تفسیر

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ کی

310 ----- تفسیر

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ کی

311 ----- تفسیر

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ کی تفسیر

312 ----- ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ کی تفسیر

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

313 ----- کی تفسیر

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سِتْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ کی تفسیر

316 ----- ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ کی تفسیر

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

317 ----- شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ کی تفسیر

317 ----- سورہ کہف

317 ----- سورہ کہف کی فضیلت کا بیان

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾

318 ----- کی تفسیر

319 ----- حضرت علیؑ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قصہ

سُورَةُ الْحَجَرِ

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ﴾

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾

سُورَةُ النَّحْلِ

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

بَابُ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾

الآية

بَابُ: ﴿وَمَا مَسَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ

بِهَا الْأُولُونَ﴾

بَابُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً

لِلنَّاسِ﴾

بَابُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا﴾

بَابُ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

بَابُ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾

بَابُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

رَبِّي﴾

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سِتْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾

بَابُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾

بَابُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾

سُورَةُ الْكَهْفِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾

بَابُ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾

﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا

تُصَاحِبْنِي.....﴾ کی تفسیر ----- 326

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ کی تفسیر

سورۃ مریم ----- 328

﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ کی تفسیر ----- 328

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ کی تفسیر ----- 328

﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ کی تفسیر ----- 329

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَ

وَلَدًا﴾ کی تفسیر ----- 331

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ کی تفسیر

سورۃ الحج ----- 333

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ﴾ کی تفسیر ----- 333

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمُ﴾ کی تفسیر ----- 335

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا.....﴾ کی تفسیر

سورۃ المؤمنون ----- 337

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.....﴾ کی تفسیر ----- 337

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ کی تفسیر

﴿تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ کی تفسیر

سورۃ نور ----- 341

﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ کی تفسیر

لعان کی آیات کی تفسیر

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ.....﴾

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ کی تفسیر

سورۃ الفرقان ----- 350

وَقِصَّةَ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى

بَابُ: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا

تُصَاحِبْنِي.....﴾

بَابُ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾

سُورَةُ مَرْيَمَ

بَابُ: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾

بَابُ: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾

باب: ﴿وَأَنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾

بَابُ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ

مَالًا وَوَلَدًا﴾

بَابُ: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾

سُورَةُ الْحَجِّ

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

بَابُ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمُ﴾

بَابُ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا.....﴾

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

بَابُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾

بَابُ: ﴿تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾

سُورَةُ النُّورِ

بَابُ: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

بَابُ آيَاتِ اللَّعَانِ

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ.....﴾

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

- 350 ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ کی تفسیر
- 351 سورۃ شعراء -----
- سورۃ شعراء کا ان سورتوں میں سے ہونا، جن کی آیات دوسو سے زائد ہیں ----- 351
- 352 ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کی تفسیر -----
- 354 سورۃ القصص -----
- 354 ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ کی تفسیر -----
- 355 سورۃ العنکبوت -----
- 355 ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ کی تفسیر -----
- 356 سورۃ روم کی تفسیر -----
- 356 ﴿الْمَ غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ کی تفسیر -----
- 358 سورۃ لقمان -----
- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ کی تفسیر ----- 358
- 359 ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ کی تفسیر -----
- 361 سورۃ سجدہ -----
- 361 ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ کی تفسیر -----
- ﴿وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ کی تفسیر ----- 361
- 362 سورۃ الاحزاب -----
- 362 ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ کی تفسیر -----
- 363 ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ کی تفسیر -----
- ﴿وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ کی تفسیر ----- 363
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ کی تفسیر ----- 365
- ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ کی تفسیر ----- 368

- بَابُ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾
سُورَةُ الشُّعْرَاءِ
- بَابُ أَنَّ سُورَةَ الشُّعْرَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الْمِائَتَيْنِ وَكَسْرٍ
- بَابُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾
سُورَةُ الْقَصَصِ
- بَابُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾
سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ
- بَابُ: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾
سُورَةُ الرُّومِ
- بَابُ: ﴿الْمَ غَلَبَتِ الرُّومُ﴾
سُورَةُ لُقْمَانَ
- بَابُ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾
- بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾
سُورَةُ السَّجْدَةِ
- بَابُ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾
- بَابُ: ﴿وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾
سُورَةُ الْأَحْزَابِ
- بَابُ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾
- بَابُ: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾
- بَابُ: ﴿وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ الْآيَةِ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾
- بَابُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ کی تفسیر ----- 370

﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ...﴾ کی تفسیر -- 371

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي
أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ...﴾ کی تفسیر ----- 374

﴿تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ
تَشَاءُ...﴾ کی تفسیر ----- 375

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ...﴾ کی تفسیر --- 377

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...﴾ کی
تفسیر ----- 378

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ کی تفسیر 381

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا
مُوسَى...﴾ کی تفسیر ----- 382

سورہ سبأ ----- 383

سبا اور اس کی اولاد کا ذکر ----- 383

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ کی
تفسیر ----- 384

سورہ فاطر ----- 386

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا...﴾ کی تفسیر ----- 386

سورہ یس ----- 388

سورہ یس کی فضیلت کا بیان ----- 388

سورہ صافات ----- 390

ذبح ہونے والے کا بیان اور ﴿نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ
صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾ کی تفسیر ----- 390

سورہ ص ----- 393

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ کی تفسیر ----- 393

سورہ زمر ----- 395

بَابُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾

بَابُ: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ...﴾

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي
أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ...﴾

بَابُ: ﴿تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ
تَشَاءُ...﴾

بَابُ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ...﴾

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ...﴾

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا
مُوسَى...﴾ الآية

سُورَةُ سَبَأًا

بَابُ ذِكْرِ سَبَأٍ وَأَوْلَادِهِ

بَابُ: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ
لَهُ...﴾

سُورَةُ فَاطِرٍ

بَابُ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ
عِبَادِنَا...﴾

سُورَةُ يَسٍ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

بَابُ قِصَّةِ الدَّبِيحِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا
إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾

سُورَةُ صٍ

بَابُ: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾

سُورَةُ الزُّمَرِ

- 395 ----- ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ کی تفسیر
- ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر 397 -----
- ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ کی تفسیر 397 -----
- سورۃ فصلت ----- 399
- ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ کی تفسیر 399 -----
- سورۃ شوریٰ ----- 400
- ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ کی تفسیر 400 -----
- ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ کی تفسیر 401 -----
- سورۃ زخرف ----- 403
- ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ کی تفسیر 403 -----
- ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ﴾ کی تفسیر 404 -----
- سورۃ دخان ----- 405
- ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ کی تفسیر 405 -----
- سورۃ احقاف ----- 407
- ﴿قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر 407 -----
- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ کی تفسیر 408 -----
- ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا﴾ کی تفسیر 410 -----
- ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ﴾ کی تفسیر 411 -----
- سورۃ محمد (ﷺ) ----- 412
- ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کی تفسیر 412 -----

- بَابُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾
- بَابُ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾
- بَابُ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾
- سُورَةُ فَصَلَّتْ
- بَابُ: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾
- سُورَةُ الشُّورَىٰ
- بَابُ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾
- بَابُ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾
- سُورَةُ الزُّخْرَفِ
- بَابُ: ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾
- بَابُ: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ﴾
- سُورَةُ الدُّخَانِ
- بَابُ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾
- سُورَةُ الْاِحْقَافِ
- بَابُ: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾
- بَابُ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾
- بَابُ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا﴾
- بَابُ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ﴾
- سُورَةُ مُحَمَّدٍ (ﷺ)
- بَابُ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾

- سُورَةُ الْفَتْحِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَوَقْتُ نَزْلِهَا
بَابُ: ﴿وَهُوَ الَّذِينَ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ.....﴾
- سُورَةُ الْحُجْرَاتِ
بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ.....﴾
تفسير
بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾
بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِيَا فَتَبَيَّنُوا..... إِلَى..... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
بَابُ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا.....﴾
بَابُ: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾
- سُورَةُ ق
بَابُ ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ.....﴾
- سُورَةُ النَّجْمِ
بَابُ: ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى..... إِلَى قَوْلِهِ..... لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾
- سُورَةُ الْقَمَرِ
بَابُ قَوْلِهِ: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾
- سُورَةُ الرَّحْمَنِ
بَابُ: ﴿فِي آيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾
بَابُ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾
بَابُ: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ﴾
- سُورَةُ الْوَاقِعَةِ
بَابُ: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
بَابُ: ﴿وَوَظِلٌّ مَمْدُودٌ﴾
بَابُ: ﴿وَفَرُوشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾
بَابُ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾
- سُورَةُ الْفَتْحِ
سُورَةُ الْفَتْحِ اور اس کے نزول کے وقت کا بیان -- 413
﴿وَهُوَ الَّذِينَ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ.....﴾ کی تفسیر - 415
سُورَةُ الْحُجْرَاتِ ----- 417
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ.....﴾ کی تفسیر ----- 417
﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ کی تفسیر ----- 420
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِيَا..... إِلَى..... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ کی تفسیر ----- 420
﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ کی تفسیر - 423
﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ کی تفسیر ----- 424
سُورَةُ ق ----- 425
﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأتِ.....﴾ کی تفسیر - 425
سُورَةُ النَّجْمِ ----- 425
﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى..... إِلَى قَوْلِهِ..... لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ کی تفسیر ----- 425
سُورَةُ الْقَمَرِ ----- 428
﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ کی تفسیر ----- 428
سُورَةُ الرَّحْمَنِ ----- 430
﴿فِي آيِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ کی تفسیر ----- 430
﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ کی تفسیر - 430
﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ﴾ کی تفسیر ----- 431
سُورَةُ الْوَاقِعَةِ ----- 432
﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ کی تفسیر ----- 432
﴿وَوَظِلٌّ مَمْدُودٌ﴾ کی تفسیر ----- 432
﴿وَفَرُوشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ کی تفسیر ----- 433
﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ کی تفسیر ----- 433

- 434 ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾ کی تفسیر - 434
- 434 ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾ کی تفسیر ----- 434
- 434 سورۃ مجادلہ ----- 434
- 434 ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ کی تفسیر ----- 434
- 439 ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ کی تفسیر ----- 440
- 440 سورۃ حشر ----- 440
- 440 ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ﴾ کی تفسیر ----- 440
- 441 سورۃ حشر کی آخری تین آیات کی تفسیر ----- 441
- 442 سورۃ ممتحنہ ----- 442
- 442 ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ کی تفسیر ----- 442
- 442 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيْعُنَكَ﴾ کی تفسیر ----- 443
- 443 سورۃ صف ----- 445
- 445 سورۃ صف میں جو کچھ ہے، اس کا بیان ----- 445
- 446 سورۃ جمعہ ----- 446
- 446 ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ کی تفسیر ----- 446
- 452 ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾ کی تفسیر ----- 452
- 453 سورۃ منافقون ----- 453
- 453 سورۃ منافقون کے شان نزول اور سیدنا زید بن ارقم b کی منقبت کا بیان ----- 453
- 456 سورۃ طلاق ----- 456
- 456 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ کی تفسیر ----- 456
- 457 ﴿وَمَنْ يَتَى اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ کی تفسیر ----- 457
- 457 سورۃ التحریم ----- 457
- 457 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ کی تفسیر ----- 457
- 459 ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ کی تفسیر ----- 459

- بَابُ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ﴾
- بَابُ: ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾
- سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ
- بَابُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾
- بَابُ: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
- سُورَةُ الْحَشْرِ
- بَابُ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ﴾
- بَابُ مَا جَاءَ فِي آوَاخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ
- سُورَةُ الْمُتَحَنِّنَةِ
- بَابُ: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيْعُنَكَ﴾
- سُورَةُ الصَّفِّ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الصَّفِّ
- سُورَةُ الْجُمُعَةِ
- بَابُ: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾
- بَابُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾
- سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ
- بَابُ سَبَبِ نَزُولِهَا وَمَنْقَبَةِ لَزِيدِ بْنِ أَرْقَمٍ
- سُورَةُ الطَّلَاقِ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾
- بَابُ: ﴿وَمَنْ يَتَى اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾
- سُورَةُ التَّحْرِيمِ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
- بَابُ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾

- 465 ----- سورۃ ملک
- 465 ----- سورۃ ملک کی فضیلت کا بیان
- 465 ----- سورۃ ن
- 465 ----- ﴿الْعَتَلُ الرَّزِيمُ﴾ کے معانی کا بیان
- 466 ----- سورۃ معارج
- 466 ----- ﴿تَنْعَرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ کی تفسیر
- 466 ----- ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ کی تفسیر
- 467 ----- سورۃ جن
- 467 ----- ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾ کی تفسیر
- 467 ----- ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾ کی تفسیر
- 468 ----- سورۃ مدثر
- 468 ----- ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكْبَرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ کی تفسیر
- 469 ----- ﴿وَلَا تَمَنَّوْا تَسْتَكْبِرُ﴾ کی تفسیر
- 470 ----- ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ کی تفسیر
- 470 ----- ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ کی تفسیر
- 471 ----- سورۃ القیامہ
- 471 ----- ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ کی تفسیر
- 473 ----- سورۃ مرسلات
- 473 ----- ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ کی تفسیر
- 474 ----- سورۃ التکویر
- 475 ----- سورۃ المطففین
- 475 ----- سورۃ الانشقاق
- 475 ----- ﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾ کی تفسیر
- 476 ----- سورۃ البروج

- سُورَةُ الْمَلِكِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
- سُورَةُ ﴿ن﴾
- بَابُ مَا جَاءَ فِي ﴿الْعَتَلُ الرَّزِيمُ﴾
- سُورَةُ الْمَعَارِجِ
- بَابُ: ﴿تَنْعَرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾
- بَابُ: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾
- سُورَةُ الْجِنِّ
- بَابُ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾
-
- بَابُ: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾
- سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ
- بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكْبَرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾
- بَابُ: ﴿وَلَا تَمَنَّوْا تَسْتَكْبِرُ﴾
- بَابُ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾
- بَابُ: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾
- سُورَةُ الْقِيَامَةِ
- بَابُ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾
- سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ
- بَابُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾
- سُورَةُ التَّكْوِينِ
- سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ
- سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ
- بَابُ: ﴿فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا﴾
- سُورَةُ الْبُرُوجِ

- بَابُ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾
 سُورَةُ الْأَعْلَى
 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَفْسِيرِ صَدْرِهَا
 سُورَةُ الْفَجْرِ
 بَابُ: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾
 وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ
 بَابُ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ...﴾
 سُورَةُ الضُّحَى
 بَابُ: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى...﴾
 سُورَةُ الْعَلَقِ
 بَابُ: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾
 سُورَةُ لَمْ يَكُنْ...
 بَابُ تَفْسِيرِهَا وَمَنْعَبَةِ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ
 سُورَةُ الزَّلْزَالِ
 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
 بَابُ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾
 بَابُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...﴾
 سُورَةُ الْكَافِرُونَ
 بَابُ: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾
 سُورَةُ قُرَيْشٍ
 بَابُ تَفْسِيرِهَا وَقِصَّةِ قُرَيْشٍ
 سُورَةُ الْكَوْثَرِ
 بَابُ تَفْسِيرِهَا وَصِفَةِ الْكَوْثَرِ
 سُورَةُ الْكَافِرُونَ
 بَابُ تَفْسِيرِهَا وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
 سُورَةُ النَّصْرِ
 بَابُ أَنَّهَا نَزَلَتْ لِتُنْعِيَ النَّبِيَّ ﷺ نَفْسَهُ
 اس چیز کا بیان کہ سورہ نصر، نبی کریم ﷺ کی وفات کے اعلان کے لیے نازل ہوئی
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز
- 476 ----- ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ کی تفسیر
 477 ----- سورة الاعلى
 477 سورة اعلى کی فضیلت اور اس کے ابتدائی حصے کی تفسیر کا بیان
 478 ----- سورة فجر
 478 ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ﴾ کی تفسیر
 478 ----- ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ...﴾ کی تفسیر
 479 ----- سورة الضحى
 479 ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى...﴾ کی تفسیر
 480 ----- سورة العلق
 480 ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ کی تفسیر
 482 ----- ﴿لَمْ يَكُنْ...﴾ یعنی سورۃ البینہ کی تفسیر
 482 سورۃ البینہ کی تفسیر اور سیدنا ابی بن کعب b کی منقبت
 483 ----- سورة الزلزال
 483 سورة زلزال کی فضیلت کا بیان
 484 ----- ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ کی تفسیر
 485 ----- ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...﴾ کی تفسیر
 485 سورة الكافرون
 485 ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ کی تفسیر
 487 ----- سورة قريش
 487 سورة قريش کی تفسیر اور قريش کے قصے کا بیان
 487 سورة الكوثر
 487 سورة کوثر اور کوثر کی صفت کا بیان
 490 ----- سورة الكافرون
 490 سورة کافروں کی تفسیر اور اس کی فضیلت کا بیان
 491 ----- سورة النصر
 491 اس چیز کا بیان کہ سورہ نصر، نبی کریم ﷺ کی وفات کے اعلان کے لیے نازل ہوئی

- سورہ نصر کی تفسیر اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم کا تسبیح پڑھنے کا بیان ----- 492
- سورہ المسد ----- 493
- سورہ مسد کے شان نزول اور اس کی تفسیر کا بیان ----- 493
- سورہ اخلاص ----- 494
- سورہ اخلاص کی شان نزول اور اس کی تفسیر کا بیان --- -- 494
- سورہ اخلاص کی فضیلت کا بیان ----- 495
- سورہ اخلاص، سورہ لعلق اور سورہ ناس کی فضیلت کا بیان -- 499
- سورہ الفلق اور سورہ الناس ----- 501
- سورہ الفلق اور سورہ الناس کی فضیلت کا بیان ----- 501
- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کا بیان کہ معوذتین کتاب اللہ میں سے نہیں ہیں، نیز اس رائے کے غیر مقبول ہونے کا بیان 503
- سورہ الفلق ----- 505
- سورہ الفلق کی فضیلت اور تفسیر کا بیان ----- 505
- نیت اور عمل میں اخلاص
- نیت کے بارے میں باب ----- 507
- عمل میں اخلاص اور اس کی وجہ سے اجر کے بڑھ جانے کا بیان 513
- برائی کا عزم اور نیت کر لینے کا بیان ----- 514
- خیر و بھلائی کے لیے نیت کو اچھا کرنے، اس کی وجہ سے اجر کے بڑھ جانے اور عزم اور ارادے کا بیان ----- 515
- نفس کی گفتگو یعنی دل کے خیالات اور شیطان کے وسوسے اور اللہ تعالیٰ کا اس کو معاف کر دینے کا بیان ----- 516
- میانہ روی کے مسائل
- اعمال میں میانہ روی اور اعتدال کا بیان ----- 519
- دین میں رخصت کو قبول کرنے اور سختی نہ کرنے کے مستحب ہونے کا بیان ----- 534

- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَسْبِيحِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نُزُولِهَا
- سُورَةُ الْمَسَدِ
- بَابُ سَبَبِ نُزُولِهَا وَتَفْسِيرِهَا
- سُورَةُ الْإِخْلَاصِ
- بَابُ سَبَبِ نُزُولِهَا وَتَفْسِيرِهَا
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» وَالْمَعُودَتَيْنِ
- سُورَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهِمَا
- بَابُ رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَعُودَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَرَدَّ ذَلِكَ
- سُورَةُ الْفَلَقِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَفْسِيرِهَا
- كِتَابُ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّيَّةِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ وَمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ بِسَبَبِهِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْمِ وَالنِّيَّةِ عَلَى الشَّرِّ
- بَابُ إِحْسَانِ النِّيَّةِ عَلَى الْخَيْرِ وَمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِي الْعَزْمِ وَالنَّهْمِ
- بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ النَّفْسِ وَوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ
- كِتَابُ الْإِقْتِصَادِ
- بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْأَعْمَالِ
- بَابُ فِي اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ بِالرُّخْصَةِ وَعَدَمِ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ

536 ----- وعظ ونصيحت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

538 ----- معیشت میں میانہ روی اختیار کرنا

اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے کے مسائل

539 ----- اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان

مطلق طور پر نیکی اور اطاعت کے اعمال کرنے کی ترغیب دلانے

544 ----- کا بیان

نیکی کے افضل اعمال میں سے اجتماعی خصائل کی رغبت دلانے اور

550 ----- ان کے تناقض امور سے ممانعت کا بیان

نیکی اور صلہ رحمی کے مسائل

568 ----- نیکی اور مہمانی کی تعریف کا بیان

والدین کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے حقوق اور ان امور کی

571 ----- ترغیب دلانے کا بیان

اولاد اور پھر قریب سے قریب تر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا

583 ----- اولاد کے فوائد اور ان کی تربیت کرنے اور ان پر نرمی کرنے کی

587 ----- ترغیب کا بیان

بیٹیوں کا اکرام کرنے کی ترغیب اور ان کی تربیت اور ان پر نرمی

592 ----- کرنے کی فضیلت کا بیان

597 ----- صلہ رحمی کی ترغیب کا بیان

یتیم کی کفالت کرنے، اس کے ساتھ احسان کرنے اور اس کے سر

پر ہاتھ پھیرنے اور بیواؤں اور مسکینوں کی حفاظت و نگرانی کرنے

602 ----- کی ترغیب کا بیان

604 ----- مہمان کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب کا بیان

ضیافت اور اس کے آداب کے ابواب

مہمان کا اکرام کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت و برکت کا

609 ----- بیان

611 ----- مہمان کے لیے تکلف نہ کرنے کا بیان

ضیافت کی مدت اور مہمان کے حق اور اس کی ذمہ داری کا

613 ----- بیان

بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ

كِتَابُ التَّرْغِيبِ فِي صَالِحِ الْأَعْمَالِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بَابُ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ مُطْلَقًا

بَابُ فِي التَّرْغِيبِ فِي خِصَالِ مُجْتَمَعَةٍ مِنْ أَفْضَلِ

أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالنَّهْيِ عَنْ ضِدِّهَا

كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَاةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْرِيفِ الْبِرِّ وَالْإِنِّمِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَحُقُوقِهَا وَالتَّرْغِيبِ

فِي ذَلِكَ

بَابُ فِي بِرِّ الْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ الْأَقْرَبِ فَلَا اقْرَبِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَرَةِ الْأَوْلَادِ وَالتَّرْغِيبِ فِي

أَدْبَانِهِمْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِكْرَامِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْأَوْلَادِ

أَفْضَلُ تَرْبِيَّتِهِمْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي صَلَاةِ الرَّجِمِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كِفَالَةِ الْيَتِيمِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ،

وَمَسْحِ رَأْسِهِ وَالسُّهْرِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى النَّجَارِ

أَبْوَابُ الضِّيَافَةِ وَأَدَابِهَا

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ ذَلِكَ

وَبِرْكِيهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَمِ التَّكْلُفِ لِلضَّيْفِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَدَّةِ الضِّيَافَةِ وَمَا لِلضَّيْفِ مِنَ

الْحَقِّ وَمَا عَلَيْهِ

- جب مہمان زیادہ ہو جائیں تو ضیافت کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا اور باہمی تعاون کرنا --- 617
- مسلمانوں کی حرمتوں کی عظمت کے ابواب ----- 620
- مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 621
- مسلمان کی مدد کرنے، تنگی کو دور کرنے، حاجت کو پورا کرنے اور اس کے نقائص پر پردہ ڈالنے کی ترغیب کا بیان ----- 623
- مسلمان کی پشت پناہی کرنے، اس سے محبت کرنے، اس پر شفقت کرنے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے کی رغبت کا بیان ----- 626
- مؤمن کی مدد کرنے اور عزت کا دفاع کرنے کی ترغیب کا بیان 628
- مسلمانوں کے نقائص پر پردہ ڈالنے اور ان کو شہرت نہ دینے کی ترغیب کا بیان ----- 630
- ہدایت اور اعمال خیر کی طرف دعوت دینے اور ان پر رہنمائی کرنے اور سفارش کرنے اور آپس کی اصلاح کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 633
- راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے اور راہ بھولے کی رہنمائی کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 638
- اخلاق حسنہ اور ان سے متعلقہ امور کے مسائل
- اخلاق حسنہ کی ترغیب دلانے کا بیان ----- 641
- غمے کو پھیل جانے اور غم نہ ہونے کی ترغیب کا بیان ----- 647
- غمے کو ختم کرنے کے لیے آپ ﷺ کے بیان کیے گئے طریقے کا بیان ----- 651
- ظلم کو معاف کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان -- 652
- زہی کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان ----- 656
- حیوان کے ساتھ زہی کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 657
- اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب اور ایسا کرنے والے کے ثواب اور مخلوق پر رحم نہ کرنے والے کی وعید کا بیان --- 666
- شرم و حیا کی ترغیب دلانے اور اس چیز کا بیان کہ حیا خیر ہی لاتا

- بَابُ إِشْتِرَاكِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَاوُنِهِمْ فِي قَرَى الْأَضْيَافِ إِذَا كَثُرُوا
- أَبْوَابُ تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُسْلِمِ وَتَفْرِيجِ كَرْبِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَسِتْرِ عَوْرَتِهِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي شَدِّ أَرْزِ الْمُؤْمِنِ وَوُدِّهِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَالتَّأَلُّمِ لِأَلَمِهِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي نُصْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَالرَّدِّ عَنْ عَرَضِهِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي سِتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَدَمِ إِسَاعَتِهَا
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْهُدَى وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالذَّلَالَةِ عَلَيْهَا وَالشَّفَاعَةَ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَإِرْشَادِ الضَّالِّ
- كِتَابُ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَحَابِسِ الْأَخْلَاقِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كَطْمِ الْعَيْظِ وَعَدَمِ الْعَضْبِ
- بَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَذْهَابِ الْعَضْبِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْمَطَالِمِ وَقَضْلِهِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الرِّفْقِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الرِّفْقِ بِالْحَيَوَانِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الرَّحْمَةِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابِ فَاعِلِهَا وَوَعِيدِ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْحَيَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

670 ----- ہے

674 ----- سچائی اور امانت کی ترغیب کا بیان

677 ----- مہم کا شکر ادا کرنے اور نیکی کا بدلہ دینے کا بیان

681 ----- تواضع کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان

685 ----- توکل کی ترغیب دلانے کا بیان

690 ----- قناعت اور عفت کی ترغیب دلانے کا بیان

زہد، دنیا سے معمولی مقدار لینے اور بقدر ضرورت رزق پر راضی ہو جانے کے مسائل

دنیا اور اس کی زینت و سجاوٹ اور نعمتوں سے بے رغبتی اختیار

693 ----- کرنے کی ترغیب کا بیان

اس چیز کی ترغیب کا بیان کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے

صحابہ کے پاس دنیا کی بقدر ضرورت قلیل مقدار تھی

702 ----- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کا واقعہ اور اس معاملے نبی کریم

ﷺ کے عظیم معجزے کا بیان

فقر اور غنی کے مسائل

714 ----- راست روی اور نیکی کے ساتھ فقیری کی ترغیب کا بیان

719 ----- فقیر مہاجرین اور کمزور لوگوں کی فضیلت کا بیان

فقراء مساکین کی فضیلت اور ان سے محبت کرنے اور ان کے

725 ----- ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دلانے کا بیان

فقیر لیکن سوال سے بچنے والے میاں بیوی کے قصے اور اللہ تعالیٰ

731 ----- کی طرف ان کی کی گئی تکریم کا بیان

733 ----- نیک آدمی کے لیے مناسب غنی کی ترغیب کا بیان

سہر، اس کی ترغیب، صابر کے لیے اللہ تعالیٰ کے تیار

کیے ہوئے اجر عظیم اور فضل کثیر کے مسائل

اس چیز کا بیان کہ انبیاء سب سے زیادہ آزمائش والے ہوتے اور

740 ----- پھر دوسرے نیکوکار

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي شُكْرِ الْمُنْعَمِ وَالْمُكَافَاةِ عَلَى

الْمَعْرُوفِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّوَاضُّعِ وَفَضْلِهِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّوَكُّلِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقِنَاعَةِ وَالْعِفَّةِ

كِتَابُ الزُّهْدِ وَالتَّقْلِيلِ مِنَ الدُّنْيَا

وَالرِّضَا بِالْكَفَافِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا

وَتَعْيِمِهَا

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ

بِالنَّوْكِ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ

بَابُ قِصَّةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجُوعِ وَفِيهَا

عَجِزَةٌ عَظِيمَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ

كِتَابُ الْفَقْرِ وَالْغِنَى

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْفَقْرِ مَعَ الصَّلَاحِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قُرَّاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ

وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ

بَابُ فِي ذِكْرِ قِصَّةِ الرَّجُلِ وَرُؤُوسِهِ الْفَقِيرِينَ

الْمُتَعَمِّقِينَ وَمَا أَكْرَمَهُمَا اللَّهُ بِهِ

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْغِنَى الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

كِتَابُ الصَّبْرِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ وَمَا أَعَدَّهُ

اللَّهُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ وَالْفَضْلِ

الْجَسِيمِ

بَابُ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الصَّالِحُونَ

- ناپسندیدہ امور پر مطلق طور پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کی
 فضیلت کا بیان ----- 746
- مطلق طور پر ہر بیماری پر صبر کرنے کی ترغیب، اگرچہ وہ انسان
 کے کسی عضو میں ہو اور اس کی فضیلت کا بیان ----- 749
- مخصوص امراض پر صبر کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 752
- بخار اور درد سر پر صبر کرنے کی ترغیب کا بیان ----- 752
- مرگی کی بیماری پر صبر کرنے کی ترغیب کرنے اور اس کے ثواب کا
 بیان ----- 754
- آنکھوں سے محروم ہو جانے پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کے
 ثواب کا بیان ----- 755
- اس چیز کا بیان کہ جس آدمی کو بیماری نیک عمل کرنے سے روک
 دے، اس کے لیے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے ----- 757
- جس کو دنیا میں آزمایا نہیں گیا، اس کے غیر مقبول ہونے کا بیان 759
- بچوں کی وفات پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کے ثواب کا
 بیان ----- 760
- سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا اپنے خاندان سیدنا ابوطالب انصاری b کے ساتھ
 اس وقت کے قصے کا بیان، جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا --- 772
- رسول اللہ ﷺ کے فرمان ”بیشک صدمہ کی ابتداء میں صبر ہوتا
 ہے“ کا بیان ----- 776
- مصیبت میں مبتلا ہونے والے کی دعا کا بیان ----- 777

- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ مُطْلَقًا
 وَفَضْلَ ذَلِكَ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَرَضِ مُطْلَقًا فِي
 أَيِّ عَضْوٍ كَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَفَضْلِهِ
- أَبْوَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى أَمْرَاضٍ مُعَيَّنَةٍ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَرَضِ الْحُمَى
 وَالصَّدَاعِ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَرَضِ الصَّرْعِ
 وَثَوَابِ ذَلِكَ
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِ الْعَيْنَيْنِ
 وَثَوَابِ ذَلِكَ
- بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْمَرَضُ عَنْ عَمَلِ الْخَيْرِ يُكْتَبُ لَهُ
 ثَوَابُ الْعَامِلِ
- بَابُ عَدَمِ قُبُولِ مَنْ لَمْ يُبْتَلْ فِي الدُّنْيَا
- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَوْتِ الْأَوْلَادِ
 وَثَوَابِ ذَلِكَ
- بَابُ قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي طَلْحَةَ
 الْأَنْصَارِيِّ ؓ عِنْدَمَا تُوُفِيَ وَلَدُهُمَا
- بَابُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ
 الصَّدْمَةِ الْأُولَى))
- بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَابُ عَنِ الْمُصِيبَةِ



کتاب فضائل القرآن و تفسیرہ و اسباب نزولہ

قرآن کریم کے فضائل، تفسیر اور اسباب نزول کی کتاب

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ وَالْإِعْتِصَامِ بِهِ
قرآن کی فضیلت اور اس کو تھامنے کا بیان

سیدنا علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد! آپ کے بعد آپ کی امت اختلاف کا شکار ہوگی، میں نے کہا: اے جبریل! اس اختلاف سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہر سرکش کی شان توڑتا ہے، جو اس کو تھامے گا، وہ نجات پائے گا، جو اسے چھوڑ دے گا، وہ ہلاک ہوگا، یہ جملہ دو مرتبہ فرمایا، یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ مذاق نہیں (حقیقت یہ مینی سچا کلام ہے) زبانیں اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتیں، اس کے عجائبات اور اسرار ختم نہیں ہوتے، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں تمہارے مابین ہونے والے فیصلے ہیں اور تمہارے بعد ہونے والی اخبار کا بیان ہے۔“

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عامرؓ سے مروی ہے، وہ کہتے

(۸۳۲۱)۔ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، بِهِ يَقْصِمُ اللَّهُ كُلَّ جَبَّارٍ، مَنْ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ نَرَكَهُ هَلَكَ، مَرَّتَيْنِ، قَوْلٌ فَضْلٌ وَلَيْسَ بِالنَّهْزِلِ، لَا تَخْتَلِفُهُ الْأَلْسُنُ، وَلَا تَفْنِي أَعَاجِيئُهُ، فِيهِ نَبَأٌ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَفَضْلٌ مَا بَيْنَكُمْ، وَخَبْرٌ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ.))

(مسند احمد: ۷۰۴)

(۸۳۲۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ:

(۸۳۲۱) تخريج: اسنادہ ضعیف لضعف الحارث بن عبد اللہ الاعور، ثم هو منقطع، محمد بن اسحاق، لا تعرف له رواية عن محمد بن كعب القرظي - أخرجه الترمذی: ۲۹۰۶ (انظر: ۷۰۴)

(۸۳۲۲) تخريج: اسنادہ ضعیف، ابن لہیعة سبیء الحفظ، و عبد الرحمن بن مریح مجهول، هكذا قال ابن حجر فی "اللسان"، لكنه قال فی "التعجیل": "هو رجل مشهور، له ادراك (انظر: ۶۶۰۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیں: ایک دن نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ﷺ ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں محمد نبی امی ہوں، آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھے کلمات کی ابتدائی، انتہائی اور جامع صورتیں عطا کی گئی ہیں، مجھے یہ بھی علم ہے کہ دوزخ کے نگران کتنے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں، میری امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری تکالیف سے درگزر کیا گیا ہے اور مجھے اور میری امت کو عافیت دی گئی ہے، جب تک میں تم میں موجود ہوں، میری بات سنو اور اطاعت کرو اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کتاب اللہ پر عمل لازم پکڑنا، اس کی حلال کردہ اشیا کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کردہ امور کو حرام سمجھنا۔“

فوائد: آپ ﷺ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا آپ ﷺ کے کلام کا وصف تھا اور آپ ﷺ کی گفتگو فصاحت و بلاغت کی شاہکار ہوتی تھی۔
جوامع الکلم: ان سے مراد یہ ہے کہ بظاہر تو کلام مختصر اور کم حروف والے الفاظ پر مشتمل ہو، لیکن وہ اپنے اندر کئی معانی اور احکام کو سموئے ہوئے ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کو اتنے معجزات اور نشانیاں عطا کی گئی ہیں کہ لوگ اس پر ایمان لاتے رہے، جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے، وہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے فرمانبرداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔“

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَا كَانُ الْمَوْدِعَ فَقَالَ: ((أَنَا مُحَمَّدُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ، قَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، أُوْنَيْتُ فَوَاتِحَ الْكَلِيمِ، وَخَوَاتِمَهُ، وَجَوَامِعَهُ، وَعَلِمْتُ كَمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَتُجُوزُ بِي وَعُوفِيَتْ وَعُوفِيَتْ أُمَّتِي، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُنْتُ فِيكُمْ، فَإِذَا ذَهَبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ.)) (مسند احمد: ٦٦٠٦)

(٨٣٢٣). عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْنَيْتُ وَحِيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: ٨٤٧٢)

فوائد: ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق معجزات اور خارق عادت امور عطا کیے گئے، جن سے ان کی تصدیق ہوتی تھی، نبی کریم ﷺ کو بھی مختلف معجزات عطا کیے گئے، لیکن آپ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید

ہے، جس نے آپ ﷺ کے بعد والے افراد کو بھی حیران و ششدر کیے رکھا، آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت قرآن مجید سے متاثر ہوئی، اب پندرہویں صدی جاری ہے، لیکن نبی کریم ﷺ پر نازل ہونے والے کلام اور خود آپ ﷺ کے کلام کا اعجاز قائم ہے اور قائم رہے گا۔

(۸۳۲۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ.)) قَالَ: ((فِيُشَفَّعَانِ)) (مسند احمد: ۶۶۲۶)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روک رکھا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، ادھر قرآن کہے گا: میں نے اس کو رات کو نہ سونے دیا، پس تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ سو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔“

فوائد: قرآن کریم اور روزہ، دونوں کی سفارش کے الفاظ پر غور کریں تاکہ ہم میں قرآن پر عمل کرنے، رات کو قیام کرنے اور روزے کے تقاضے پورے کرنے کی رغبت پوری ہو۔

(۸۳۲۵)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ.)) (مسند احمد: ۱۷۴۹۹)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا اگر قرآن پاک کو چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر آگ میں ڈال دیا جائے تو جلے گا نہیں۔

فوائد: شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا: مناوی نے ”فیض القدر“ میں اس حدیث کا مفہوم واضح کرنے کے لیے لمبی اور بے فائدہ بحث کی۔ ظاہری معنی وہی ہے جو امام بیہقی جیسے محدثین نے مراد لیا۔ وہ ”شعب الایمان“ میں ابو عبد اللہ بو شیبہ کے حوالے سے کہتے ہیں: ”يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَهُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.“ جن نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر اس کو پڑھتا رہا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

امام احمد نے کہا، جیسا کہ ”الأسماء“ میں نقل کیا گیا ہے: ”وَأَنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ: أَنَّ الْمُرَادَ حَامِلُ

(۸۳۲۴) تخریج: صحیح، قاله الالبانی فی المشكاة - أخرجه الحاكم: ۱ / ۵۵۴، والبيهقي في ”الشعب“: ۱۹۹۴ (انظر: ۶۶۲۶)

(۸۳۲۵) تخریج: صحیح، قاله الالبانی فی صحیحته - أخرجه الدارمي في ”سننه“: ۲ / ۴۳۰، والطحاوي في ”مشكل الآثار“: ۱ / ۳۹۰، وأبو القاسم بن عبد الحكيم في ”فتوح مصر“: ۲۸۸، وأبو يعلي في ”مسنده“: ۳ / ۲۸۴ / ۱۷۴۵، والطبراني في ”المعجم الكبير“: ۱۷ / ۳۰۸، وابن عدي في ”الكامل“: ۶ / ۴۶۹، والبيهقي في ”الشعب“: ۲ / ۵۵۴ / ۲۶۹۹ وفي ”الأسماء و الصفات“: ۲۶۴ (انظر: ۱۷۳۶۵)

الْقُرْآنَ وَحَافِظُهُ وَتَالِيَهُ لِيُوجِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، لَا يَبْتَغِي عَلَيْهِ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِلَّا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَّا كَانَ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيءُ - كَمَا فِي "مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى": ((تَفْسِيرُهُ: أَنَّ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَهُوَ شَرُّ مَنْ خَنَزِيرٍ - بلا شك وشبه اس حدیث کا مرادی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا حافظ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے پڑھتا ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر اور قدر دانی کا امیدوار ہو تو اسے جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ وگرنہ وہ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن یزید مقری کے قول کا مصداق بنے گا، جو "مسند ابویعلیٰ" میں ہے کہ "جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر جہنم میں داخل ہوا وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ (صحیحہ: ۳۵۶۲)

(۸۳۲۶)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ)).
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو رفعتیں عطا کرتے ہیں اور بعض کو ذلیل کر دیتے ہیں۔"
(مسند احمد: ۲۳۲)

فوائد: مسلمانوں کی رفعت کا دار و مدار قرآن مجید پر ہے، مسلمانوں کے عروج کا سبب قرآن مجید کے نظام کا پاس و لحاظ تھا، جب سے امت مسلمہ نے اس کتاب عظیم سے غفلت برتی اس وقت سے ذلت کا سامنا ہے۔ بقول علامہ اقبال

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

(۸۳۲۷)۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ ، فَيَقْرَأُ سُورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا ، يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ ، حَتَّى يَهْبَ مَتَى هَبَّ)). (مسند احمد: ۱۷۲۶۲)

سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جو آدمی بھی اپنے بستر پر آتا ہے اور کتاب اللہ میں سے ایک سورت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی طرف بھیجتا ہے، جو اس کی تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، جب بھی ہو۔"

فوائد: حدیث نمبر (۵۵۲۸) اور اس کے بعد والی احادیث میں سوتے وقت کے اذکار کا بیان ہے۔

(۸۳۲۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۱۷ (انظر: ۲۳۲)

(۸۳۲۷) تخریج: استاده ضعیف لابہام الراوی عن شداد بن اوس ، وابو مسعود سعید بن ایاس اختلط ، وروایة ہارون عنہ بعد اختلاطہ - أخرجه الترمذی: ۳۴۰۷ ، والنسائی: ۵۴ / ۳ (انظر: ۱۷۱۳۲)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِهِ وَحِفْظِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ

قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے، اس کو حفظ کرنے پر رغبت دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان

(۸۳۲۸)۔ عَنِ عُثْمَانَ (يَعْنِي: ابْنَ عَفَانَ) سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُكُمْ (وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ خَيْرَكُمْ) مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ (وَعَلَّمَهُ)) (مسند احمد: ۵۰۰)

فوائد: قرآن مجید وہ کلام ہے جسے جہانوں کے پانہار نے ترتیب دیا، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کے اسطے سے سید البشر محمد رسول اللہ ﷺ تک پہنچایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی، ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے، ایسے ہی اس کا کلام لاٹانی، عدیم النظیر اور بے مثال ہے، یہ رب کریم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ گزشتہ سوا چودہ صدیوں میں کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کی جاسکی، جن بد باطن لوگوں نے ناکام کوشش کی، انہوں نے اپنے منہ پر تھوکا اور ان کے اس برنامہ زمانہ کردار سے قرآن پاک کے مقام و مرتبہ میں اضافہ ہو گیا۔

اس اعتبار سے یہ منفرد کلام ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے دلوں کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضیلت والا ذکر ہے، انسانیت کی رشد و ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریت کے نام آخری اور لازوال پیغام ہے، اس کی موافقت کرنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا دونوں جہانوں میں رسوا و خوار ہوتا ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت دی، وہاں اس کو سرچشمہ ہدایت و رشد بھی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم بلکہ عظیم تر امور کو سرانجام دینے کے لیے قرآن مجید کے معلمین اور محصلین کا انتخاب کیا۔ آج سے چودہ سو بیس (۱۳۲۰) برس پہلے قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہو چکی تھی، لیکن کیا مجال کہ قرآن کریم کی درس و تدریس کرنے والوں نے اس کتاب عظیم کے زیر زیر میں فرق آنے دیا ہو۔

لیکن اس وقت کے لوگوں کی ترجیحات اور میلانات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں اور عملی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے، بچوں کو پڑھانے اور اس کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے کی رغبت ختم ہو چکی ہے، الا ماشاء اللہ۔

(۸۳۲۹)۔ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مِثْلَهُ)) سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔ (مسند احمد: ۴۱۲)

(۸۳۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۲۸ (انظر: ۵۰۰)

(۸۳۲۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین (انظر: ۱۲)

(۸۳۳۰)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ (وَفِي لَفْظٍ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ) فَاسْتَظْهَرَهُ وَحَفِظَهُ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، وَشَقَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ)) (مسند احمد: ۱۲۷۸)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا اور اسے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کریں گے اور اس کے گھروالوں میں سے ان دس افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول کریں گے، جن کے حق میں دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔“

فوائد: بہر حال امت مسلمہ کے نیک لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گنہگاروں کے حق میں سفارش کریں گے۔

(۸۳۳۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْتَيْبِ الْحَرْبِ)) (مسند احمد: ۱۹۴۷)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کے پیٹ میں قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔“

فوائد: دلوں کی آبادی ایمان اور تلاوت قرآن سے ہے، جیسا گھروں کی آبادی ساز و سامان اور حسن و جمال کے ساتھ ہے، سو جس دل میں قرآن نہیں ہے، وہ اس گھر کی طرح ہے، جو سامان سے خالی اور بے آباد پڑا ہو۔

(۸۳۳۲)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوْلَمْ تَرَوْهُ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ)) (مسند احمد: ۲۴۸۷۸)

سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ وہ قرآن سیکھتا ہے، (سو بہتر کیوں نہ ہو)۔“

(۸۳۳۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: إِقْرَهُ وَارْقَهُ! فَإِنَّ مِنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا۔ (مسند احمد: ۱۰۰۸۹)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، وہاں تیری منزل ہوگی۔ امام اعمش کو راوی حدیث کے نام میں شک ہوا۔

(۸۳۳۰) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، لضعف حفص بن سلیمان القاریء، وجہالة كثير بن زاذان - أخرجہ ابن ماجہ: ۲۱۶، والترمذی: ۲۹۰۵ (انظر: ۱۲۷۸)

(۸۳۳۱) تخریج: ضعیف، لضعف قابوس۔ أخرجہ الترمذی: ۲۹۱۳ (انظر: ۱۹۴۷)

(۸۳۳۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لهيعة (انظر: ۲۴۳۷۴)

(۸۳۳۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشيخين - أخرجہ الترمذی: ۲۹۱۵ (انظر: ۱۰۰۸۷)

(۸۳۳۴)۔ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَاَرَقْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةِ تَقْرَأُهَا)) (مسند احمد: ۶۷۹۹)

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس بیشک تیری منزل وہ ہوگی، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔“

فوائد: معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے، جس کو جتنی آیات یاد ہوں گی، اس کو اتنے ہی درجے ملیں گے۔

امام مبارکپوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام خطابی نے کہا: بعض آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن مجید کی آیتوں کے برابر ہے۔ قاری سے کہا جائے گا کہ جتنا قرآن آپ پڑھتے تھے، اتنے درجات چڑھ جاؤ۔ جو مکمل قرآن مجید کا قاری ہوگا وہ جنت کے منتہی درجے تک پہنچ جائے گا۔ (تحفۃ الاحوذی) اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

(۸۳۳۵)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأْ وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ)) (مسند احمد: ۱۱۳۸۰)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت پر درجہ بدرجہ چڑھتا جائے گا۔ یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائے گا۔

(۸۳۳۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَيَّنَّتْ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأَوَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ)) (مسند احمد: ۲۴۹۴۷)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو قرآن پاک سے پہلی سات سورتیں یاد کرے وہ ایک بڑا عالم ہے۔

فوائد: ایک روایت ”الأول“ کے بجائے ”الطَّوَال“ کے الفاظ ہیں، ان سے مراد درج ذیل سات سورتیں ہیں:

(۱) سورہ بقرہ، (۲) سورہ آل عمران، (۳) سورہ نساء، (۴) سورہ مائدہ، (۵) سورہ انعام، (۶) سورہ اعراف، (۷) سورہ انفال، سورہ توبہ (بعض اہل علم سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک سورت تسلیم کرتے ہیں)۔

(۸۳۳۴) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه ابوداود: ۱۶۶۴، والترمذی: ۲۹۱۴ (انظر: ۶۷۹۹)

(۸۳۳۵) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸۰ (انظر: ۱۱۳۶۰)

(۸۳۳۶) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه الحاكم: ۱ / ۵۶۴، والبخاری: ۲۳۲۷ (انظر: ۲۴۴۴۳)

قرآن مجید کے بیشتر، مفصل، فقہی اور اہم مسائل کا بیان پہلی سات سورتوں میں ہے۔

(۸۳۳۷)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ لِرَبِّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ)) فَقِيلَ: مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلٌ لِلَّهِ وَخَاصَّتُهُ)) (مسند احمد: ۱۲۳۰۴)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں سے اہل اللہ بھی موجود ہیں۔“ کسی نے کہا: اہل اللہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن والے اللہ کا اہل اور اس کے بندگان خاص ہیں۔“

فوائد: اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں، جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تعلم کا بندوبست کرتے ہیں۔ اہل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اس کے خاص لوگ ہیں۔

(۸۳۳۸)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوا وَتَعَنُوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْمَحَاضِرِ فِي الْعُقُلِ)) (مسند احمد: ۱۷۴۵۰)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کتاب اللہ کو سیکھو اور پھر اس کی نگہداشت کرو اور گاہ کر یعنی خوبصورت آواز میں اس کو پڑھو، پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بہ نسبت (سینوں سے) جلدی نکل جانے والا ہے۔“

فوائد: کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنے کے تین انداز ہیں: (۱) ناظرہ (۲) حفظ (۳) ترجمہ و تفسیر۔ جو آدمی جس انداز میں اس کتاب کی تعلیم حاصل کر چکا ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، جس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ بار بار اس کو پڑھا جائے اور اس کے معانی و مفہیم کا مطالعہ کیا جائے، عام لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کا تعلق صرف حافظ قرآن سے ہے، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے۔

(۸۳۳۹)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا وَنَحْنُ فِي الصُّقَّةِ، فَقَالَ: ((أَيْكُمُ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوِينَ))

سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک دن صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور پوچھا: ”تم میں سے کون ہے، جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ روزانہ صبح صبح وادی بطنان یا وادی عقیق میں جایا کرے اور

(۸۳۳۷) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابن ماجه: ۲۱۵ (انظر: ۱۲۲۷۹)

(۸۳۳۸) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه ابن ابی شیبہ: ۲ / ۵۰۰، والدارمی: ۳۳۴۸، والنسائی فی

”الکبریٰ“: ۸۰۳۴ (انظر: ۱۷۳۱۷)

(۸۳۳۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۰۳ (انظر: ۱۷۴۰۸)

کسی گناہ اور قطع رحمی کے بغیر وہاں سے خوبصورت اور بڑی کوہان والی دو اونٹنیاں لے آیا کرے؟“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی مسجد میں صبح جائے، کتاب اللہ سے دو آیتیں سیکھ لے، یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور تین آیتیں، تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں، چار چادر سے بہتر ہیں، غرضیکہ جتنی آیات، اتنی اونٹنیاں۔“

زَهْرًا وَاوَيْسًا، فَيَأْخُذَهُمَا فِي غَيْرِ اِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟)) قَالَ: قُلْنَا: كُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ! يُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: ((فَلَا نَبْغِدُوْا اَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ آيَاتِنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثِ، وَارْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ اَرْبَعِ، وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْاِبِلِ)). (مسند احمد: ۱۷۵۴۳)

فوائد:..... انسان ظاہری اور خاص طور پر مال و دولت کی نعمت کو زیادہ اور جلدی محسوس کرتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے یہ مثال دے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذہن روحانی خزانے کی طرف منتقل کر دیا۔
(۸۳۴۰) - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَيِّدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانُ كَرْتِهِ هِيَ أَوْ نَبِيٌّ ﷺ سَيِّدَنَا مِنْ سِيِّدَاتِنَا لَمَّا جَلَسَتْ حَدِيثَ بَيَانِ كَرْتِهِ هِيَ - (مسند احمد: ۱۰۰۱۷)

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: ((أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ يَجِدُ ثَلَاثَ خَلِيفَاتٍ عِظَامِ سِمَانَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِيفَاتٍ عِظَامِ سِمَانَ))..... ”کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو اس کو وہاں تین موٹی تازی اور بڑی کوہان والی حاملہ اونٹنیاں مل جائیں، بس تین آیات ہیں، اگر کوئی آدمی اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے تین موٹی تازی اور بڑی کوہان والی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔“

(۸۳۴۱) - عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ - (مسند احمد: ۱۹۷۷۳) دیں۔
سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔

فوائد:..... نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ سے یمن کی طرف ان دو صحابہ کو بھیجا تھا اور ان کو روانہ کرنے کا ایک مقصد قرآن مجید کی تعلیم بھی تھا۔

(۸۳۴۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۰۲ (انظر: ۱۰۰۱۶)

(۸۳۴۱) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه الحاكم: ۱ / ۵۶۷ (انظر: ۱۹۵۴۴)

بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ أَوْ تَعْلِيمِهِ بِأَجْرٍ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت لینے کا بیان

سیدنا اہل بن سعد رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، سیاہ، سفید اور سرخ رنگ والا، ہر کوئی اس کو سیکھتا ہے، اس کو اس وقت سے پہلے پہلے سیکھ لو، جب لوگ اسے سیکھیں گے، لیکن یہ ان کی ہنسی کی ہڈیوں سے نیچے نہیں اترے گا اور اس کے الفاظ اس طرح سیدھے کریں گے، جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں ہی اس کی اجرت طلب کریں گے، آخرت تک تاخیر نہیں کریں گے۔“

(۸۳۴۲)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فِيكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، يَتَعَلَّمُهُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ، تَعَلَّمُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُهُ نَاسٌ، وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَيُقَوِّمُونَهُ كَمَا يَقْوَمُ السَّهْمُ، فَيَتَعَجَّلُونَ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ)) (مسند احمد: ۲۳۲۵۳)

فوائد: ایسے لوگ تکلف کر کے قرآن مجید کے الفاظ میں حسن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی

طرف راغب ہوں، جیسے آپ ﷺ نے پیشین گوئی کی، اب ایسے ہی واقع ہو چکا ہے۔

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ (مسلمانوں کی مصلحتوں میں) مصروف رہتے تھے، جب بھی کوئی ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس آتا تو آپ ﷺ اس کو ہم میں سے کسی آدمی کے ساتھ ملا دیتے تاکہ وہ اسے قرآن پاک کی تعلیم دے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی میرے حوالے کیا، وہ میرے گھر میں ہی رہتا تھا، میں اسے وہی کھانا دیتا، جو میرے گھر والے کھاتے تھے، میں اسے قرآن پاک پڑھاتا تھا، جب وہ اپنے گھر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ میرا اس پر حق ہے تو اس نے مجھے کمان بطور تحفہ دی، میں نے اس جیسی بہترین لکڑی اور اس جیسی بنی ہوئی کمان نہیں دیکھی تھی، پس میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس بارے میں آپ

(۸۳۴۳)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِّنَّا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فَدَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا، وَكَانَ مَعِيَ فِي النَّبْتِ أَعْشِيهِ عَشَاءَ أَهْلِ النَّبْتِ فَكُنْتُ أَفْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَاَنْصَرَفَ اَنْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا لَمْ أَرَأْ جُودَ مِنْهَا عُوْدًا، وَلَا أَحْسَنَ مِنْهَا عِطْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا؟ قَالَ: ((جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقْلَدُتْهَا

(۸۳۴۲) تخریج: حدیث حسن - أخرجه ابوداود: ۸۳۱ (انظر: ۲۲۸۶۵)

(۸۳۴۳) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابوداود: ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، وابن ماجه: ۲۱۵۷ (انظر: ۲۲۷۶۶)

أَوْ تَعَلَّقَتْهَا)) (مسند احمد: ۲۳۱۴۶) کی کیا رائے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تیرے کندھوں کے درمیان آگ کا انگارا ہے، جو تو نے لٹکا لیا ہے۔“

فوائد: اس حدیث مبارکہ کے ایک طریق کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: عَلِمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةِ وَالْقُرْآنِ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ وَأَرَمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنْ سَرَكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبَلْهَا)) ”میں نے اہل صفہ کے کچھ لوگوں کو کتابت اور قرآن مجید کی تعلیم دی، ان میں سے ایک آدمی نے مجھے ایک کمان تھمہ دی، میں نے کہا: یہ میرے لیے کوئی مال تو نہیں ہے، (یہ تو جہاد میں کام آنے والا ہتھیار ہے) میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکوں گا، (اس لیے لے لیتا ہوں)، لیکن جب میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے آگ سے طوق پہنا دیا جائے تو قبول کر لے۔“ (مسند احمد: ۲۲۶۸۹)

(۸۳۴۴)۔ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقَرِّئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرُونَ وَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ۔

”ابو عبد الرحمن کہتے ہیں: جن صحابہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھایا، انھوں نے ہمیں بیان کیا کہ جب وہ نبی کریم ﷺ سے دس آیات پڑھ لیتے تھے تو اگلی دس آیات اس وقت تک نہ پڑھتے تھے، جب تک وہ ان آیات پر عمل نہیں کر لیتے تھے، انھوں نے کہا: ہم نے علم اور عمل دونوں چیزوں کی تعلیم ایک ساتھ حاصل کی۔“

(مسند احمد: ۲۳۸۷۸)

فوائد: قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیں حدیث نمبر (۶۱۳۱) کا باب اور اس کی شرح۔ قارئین کرام! اس بحث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تعلیم سے متعلقہ افراد کا معاملہ بڑا حساس ہے، ان کو سنجیدگی سے غور کر کے اپنے ارادے کا جائزہ لینا چاہیے۔



(۸۳۴۴) تخريج: اسنادہ حسن - أخرجه ابن ابى شيبة: ۱۰ / ۶۶۰، والطحاوی فی ”شرح مشکل الآثار“:

۱۴۵۱ (انظر: ۲۳۴۸۲)

أَبْوَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَآدَابِهَا

قرآن مجید کی اور اس کے تلاوت آداب کا بیان

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّعَبُّدِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ (قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت)

(۸۳۴۵)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آتَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)) (مسند احمد: ۴۹۲۴)

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا درست ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس پر عمل کرتا ہو اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور وہ دن رات اس کو حق میں خرچ کرتا ہو۔“

فوائد: اس حدیث میں حسد سے مراد رشک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے شخص پر نظر آنے والی نعمت کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ وہ اس کو بھی دی جائے لیکن بیچ میں یہ خواہش نہ ہو کہ یہ نعمت اس شخص سے زائل ہو جائے۔

(۸۳۴۶)۔ عَنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَنَافَسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى قُلَانًا فَأَقُومَ

”سیدنا یزید بن اخنس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش اور رغبت نہیں ہے، مگر دو آدمیوں کے مابین، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے، دوسرا آدمی اس پر رشک کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے

(۸۳۴۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۵۲۹، ومسلم: ۸۱۵ (انظر: ۴۹۲۴)

(۸۳۴۶) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، دون ذکر النجدة، وهذا اسناد ضعیف لانقطاعه، سليمان بن موسى

لم يدرک كثير بن مرة - أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۶۲۶ / ۲۲، وفي "الاوسط": ۲۲۰۵ (انظر: ۱۶۹۶۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بھی یہ نعمت عطا کی ہوتی تو میں بھی اس کا اسی طرح اہتمام کرتا، جیسے وہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو وہ اسے خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے: اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے دے تو میں بھی اس کی طرح صدقہ کروں گا۔“ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! دلیری اور بہادری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اگر وہ کسی آدمی میں ہو،..... حدیث کا باقی حصہ ضائع ہو گیا۔“

بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يَنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فَلَانًا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ.))، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ بِنُكِّ السَّجْدَةِ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ، وَسَقَطَ نَاقِي الْحَدِيثِ. (مسند احمد: ۱۷۰۹۱)

فوائد:..... باقی نیک اعمال میں رشک اور ریس کرنا بھی درست ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دو نیکیاں بہت

بڑی ہیں، صاحب قرآن اور صاحب مال لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔

”سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کہتا ہے، اس کے لئے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے، اسے مکمل کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی تمہارے اس دنیوی گھر سے بہتر ہوگی، جس میں سورج آجائے، (یہ تو والدین کا مرتبہ ہے) اور جو اس پر عمل کرے گا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔“

(۸۳۴۷)۔ عَنِ سَهْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، نُبِتَ لَهُ عَرَسٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَكْمَلَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا، هُوَ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ مَنْ بَيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيهِ فَمَا ظَنَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ؟)) (مسند احمد: ۱۵۷۳۰)

فوائد:..... فضیلت قرآن پر دلالت کرنے والی درج ذیل حدیث بڑی خوبصورت ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تَجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدُهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولَانِ: يَا رَبِّ! أَنَّى لَنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ. وَإِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِقْرَأْ وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُّ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةِ مَعَكَ.))

(۸۳۴۷) تخریج: حدیث حسن لغیرہ دون قولہ: ”من قرأ القرآن فأكمله.....“ وهذا اسناد ضعيف لضعف

زبان بن فائد، وابن لهيعة سبيء الحفظ، أخرجه مختصرا ابوداود: ۱۴۵۳ (انظر: ۱۵۶۴۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید روزِ قیامت اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحبِ قرآن سے پوچھے گا: کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ (پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا: میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائیگی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا (کی قیمت) ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! یہ سب کچھ ہمارے لیے کہاں سے؟ جو اب کہا جائے گا: تمہارے اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے۔ صاحبِ قرآن کو روزِ قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت (کی تلاوت ختم ہو گی)۔“ (معجم اوسط للطبرانی: ۱/۵۳۲-۱/۵۸۹۴/۲، صحیحہ: ۲۸۲۹)

اس میں صاحبِ قرآن کی فضیلت کا بیان ہے۔ لیکن آجکل صرف حافظِ قرآن کو ان احادیث کا اولین مصداق ٹھہرایا جاتا ہے۔

قطع نظر اس سے کہ آیا وہ قرآن مجید سمجھتا ہے یا نہیں یا اس کا اس کتابِ قانون پر عمل بھی ہے یا نہیں۔ خود اس حدیث میں صاحبِ قرآن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ رات کے قیام کو نیند پر ترجیح دیتا ہے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی صرف ایک مثال روزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۸۳۴۸)۔ عَنْ نَعِيمِ بْنِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ بِمِثْقَلِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ فَنُوتُ لَيْلَةٍ)) (مسند احمد: ۱۷۰۸۳)

”سیدنا نعیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو ایک رات میں سو آیات پڑھتا ہے، اس کے لیے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔“

(۸۳۴۹)۔ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ)) (مسند احمد: ۱۵۸۱۵)

”سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس شرحِ حضرمی کا ذکر کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایسا شخص ہے، جو قرآن کو تکیہ نہیں بناتا۔“

فوائد:..... آپ ﷺ کے ان الفاظ سے مدح بھی کشید کی جاسکتی ہے اور مذمت بھی، مدح کی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ تکیہ نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور مذمت کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نہ

(۸۳۴۸) تخریج: حدیث حسن بشواہدہ۔ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۰۵۵۳، والدارمي: ۲۴۵۰ (انظر: ۱۶۹۵۸)

(۸۳۴۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه النسائي: ۳/ ۲۵۶ (انظر: ۱۵۷۲۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کو قرآن مجید یاد ہے اور نہ وہ اس کی قراءت پر تنگی اختیار کرتا ہے، یعنی جب وہ سوتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہوتا۔

(۸۳۵۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ لَسْكِينَةٌ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ سَبْعَةٌ.)) (مسند احمد: ۷۴۲۱)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو باہم مل کر پڑھتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ان ہستیوں میں ذکر کرتا ہے، جو اس کے پاس ہیں، اور جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جاسکے گا۔“

فوائد: اس میں تلاوت قرآن کے اجتماع کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ حسب و نسب کوئی باعث امتیاز چیز نہیں ہے، اگر عمل صالح نہ ہو تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت مال اور نسب کو ترجیح دینے کی لپیٹ میں ہے۔

(۸۳۵۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا نُؤسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَنْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ مَرٌّ طَعْمُهَا وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ مَرٌّ طَعْمُهَا وَلَا رِيحَ لَهَا.)) (مسند احمد: ۱۹۸۴۳)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال نارنگی کی مانند ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی مانند ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، تلاوت کرنے والے فاجر کی مثال نیاز بو کی مانند ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن خوشبو اچھی ہوتی ہے اور تلاوت نہ کرنے والے فاجر کی مثال اندرائن کی مانند ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہوتی۔“

فوائد: یہ قرآن مجید کی پاکیزگی ہے، چاروں مثالوں پر غور کر کے فرق کو سمجھا جاسکتا ہے۔

(۸۳۵۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۹۹ (انظر: ۷۴۲۷)

(۸۳۵۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۲۰، ۷۵۶۰، ومسلم: ۷۹۷ (انظر: ۱۹۶۱۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۸۳۵۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بِجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ هَوَاجِرَكَ)) (مسند احمد: ۲۳۳۶۴)

سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا روز قیامت قرآن پاک زرد رنگت والے آدمی کی مانند آئے گا۔ اپنے ساتھی سے کہے گا میں نے تجھے رات بیدار رکھا اور تجھے دوپہر کے وقت پیاسا رکھا تو آج میں سفارش کروں گا۔

فوائد: ”الشَّاحِب“ کے معانی یہ ہیں: وہ شخص جس کا رنگ اور جسم کسی بیماری یا سفر جیسے عارضے کی وجہ سے بدلا ہوا ہو، حافظ سیوطی نے کہا: قرآن مجید کی اس حالت میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صاحب قرآن سے مشابہت ہو جائے، جس نے رات کو بیدار رہ کر تلاوت و قیام کے ذریعے اور دن کو روزے کے ذریعے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا، یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے دنیا میں عمل کی وجہ سے صاحب قرآن کا رنگ بدل جاتا تھا، اسی طرح قیامت والے دن اس کے لیے تگ و دو کرنے کی وہ سے قرآن کے مخصوص وجود کا رنگ بدلا ہوا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ حافظ قرآن اور دوسرے صاحب قرآن لوگوں کو قرآن مجید کے ان سفارشی الفاظ پر غور کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ آیا ہم ان الفاظ کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں۔

(۸۳۵۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ)) (مسند احمد: ۲۴۷۱۵)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہو تو اس کا ساتھ سفید چروں والے اور عزت والے نیکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ جو اسے پڑھتا ہے اور یہ اس پر گراں ہو تو اسے دہرا اجر ملے گا۔“

فوائد: قرآن کا ماہر وہ ہے کہ جس نے بہترین انداز میں حفظ کھل کیا ہوا ہو، دوران تلاوت کوئی انگن نہ آتی ہو، عمدگی اور تجوید کی رورعایت کر کے تلاوت کرتا ہو، سنتے وقت یوں لگتا ہو کہ قرآن مجید، قاری کی زبان پر تیر رہا ہے، جبکہ اس کے وجود پر قرآن کے عملی تقاضے کا حسن بھی نظر آتا ہو۔ دوہرے اجر سے تلاوت کا اجر اور مشقت برداشت کرنے کا اجر ہے۔ حدیث کے دوسرے حصے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی غلط ملط پڑھتا ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے، جس کی زبان مشکل سے ہی الفاظ ادا کر پاتی ہے، یا شروع شروع میں ناخواندگی کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ بہر حال ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم قرآن کے حصول کے لیے اچھے مدرس کا اہتمام کرے

(۸۳۵۲) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابن ماجه: ۲۷۸۱ (انظر: ۲۲۹۷۶)

(۸۳۵۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۳۷، ومسلم: ۷۹۸ (انظر: ۲۴۲۱۱)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو سنا، وہ ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی، مجھے تو وہ بھلا دی گئی تھی۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ہم میں عرب لوگ بھی تھے اور عجمی بھی اور سیاہ رنگت والے بھی تھے اور سفید رنگت والے بھی، اچانک رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”تم بھلائی پر ہو، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، جبکہ تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، عنقریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ اس کتاب کو خوبصورت پڑھنے کے لیے اتنا مبالغہ کریں گے، جیسے تیر کو بڑی توجہ کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اجر کو (دنیا میں ہی) جلدی جلدی وصول کریں گے اور اس کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں داخل ہوئے، جبکہ مسجد میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کریم پڑھو، پھر آپ ﷺ نے غور سے سنا اور پھر فرمایا: ”تلاوت کرو، تلاوت کرو، ہر ایک اچھا ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح ٹھیک ٹھیک کریں گے، جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں اس کا اجر طلب کریں گے اور آخرت تک اس کے ثواب کو مؤخر نہیں کریں گے۔“

(۸۳۵۴)۔ (وَعَنْهَا أَيْضًا) قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَجْلُو آيَةً، فَقَالَ: ((رَجِمَهُ لَلَّهِ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةٌ كُنْتُ نُسَيْبُهَا)) (مسند احمد: ۲۴۸۳۹)

(۸۳۵۵)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ فِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ وَالْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَنْتُمْ فِي خَيْرٍ، تَقْرَأُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، وَسَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَّقُونَهُ كَمَا يَتَّقُونَ الْقَدْحَ، يَتَعَجَّلُونَ أَجُورَهُمْ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهَا)) (مسند احمد: ۱۲۵۱۲)

(۸۳۵۶)۔ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، قَالَ: ((اقْرَأُوا الْقُرْآنَ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: فَاسْتَمِعَ، فَقَالَ: اقْرَأُوا وَافْكُلُوا حَسَنًا) وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقَدْحِ يَتَعَجَّلُونَ وَلَا يَتَأَجَّلُونَ)) (مسند احمد: ۱۴۹۱۶)

(۸۳۵۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۶۶۵، ۵۰۳۷، ۴۰۴۲، ومسلم: ۷۸۸ (انظر: ۲۴۳۳۵)

(۸۳۵۵) تخریج: اسنادہ ضعیف، وفاء الخولانی فی عداد المجہولین، وابن لہیعۃ سۃ الحفظ (انظر: ۱۲۴۸۴)

(۸۳۵۶) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۸۳۰ (انظر: ۱۴۸۵۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد: یعنی قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کے مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا، پرترتم اور سریلی آواز میں اور خوب اتار چڑھاؤ کے ساتھ تلاوت کی جائے گی، لیکن مقصود یہ ہوگا کہ لوگوں کو خوش کر کے ان سے مال و دولت بٹورا جائے۔ عصر حاضر میں ایسے لوگوں نے قرآن مجید کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ ان کی خلوتیں کیا، جلوتوں میں بھی قرآن حکیم کا ان کے وجود پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔

مزید دیکھیں حدیث نمبر (۶۱۳۱) والا باب اور اس کی تشریح۔

(۸۳۵۷)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ آيَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)) (مسند احمد: ۱۵۶۹۶)

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو رضائے الہی کی خاطر ہزار آیات پڑھے گا، روز قیامت اس کا ساتھ انبیائے کرام، صدیقیوں، شہیدوں اور نیک لوگوں میں لکھا جائے گا اور ان لوگوں کا ساتھ کتنا ہی اچھا ہے، ان شاء اللہ۔“

فوائد: رضائے الہی سے مراد اجرت اور شہرت طلبی وغیرہ کی وجہ سے تلاوت نہ کی جائے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے قرآن مجید پڑھا جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّغْنِي بِهِ وَحُسْنِ الصَّوْتِ
قرآن پاک دلکش آواز میں پڑھنے کی ترغیب

(۸۳۵۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ)) (مسند احمد: ۷۶۵۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کو اس قدر غور سے نہیں سنا جتنا وہ اپنے نبی کی آواز سننے کے لئے کان لگاتے ہیں، جب وہ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہا ہو۔“

فوائد: خشوع و خضوع، رقت اور خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔

(۸۳۵۹)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَئِدًا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانٌ كَرْتَهُ هِيَ كَرْتَهُ نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ

(۸۳۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف، لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ فی روایة زبان عنه۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۳۹۹/۲۰، وابویعلی: ۱۴۸۹، والحاکم: ۸۷/۲ (انظر: ۱۵۶۱۱)

(۸۳۵۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۲۳، ۵۰۲۴، ۷۴۸۲، ومسلم: ۷۹۲ (انظر: ۷۶۷۰)

(۸۳۵۹) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه ابوداود: ۱۴۷۰ (انظر: ۱۵۴۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ))، قَالَ وَكَيْفَ (أَحَدُ الرُّوَاةِ): ہے۔“وکج راوی نے اس کا یہ معنی بیان کیا: وہ اس کے ذریعے یعنی: يَسْتَعْنِي بِهِ۔ (مسند احمد: ۱۵۴۹) لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

فوائد: وکج راوی کا بیان کیا ہوا معنی درست نہیں ہے، اس کا صحیح معنی قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کا ہے۔

(”وہ ہم سے نہیں جو قرآن مجید کے ساتھ (اور چیزوں سے) مستغنی نہیں ہوتا۔“ حدیث کا یہ مفہوم بھی ٹھیک ہے، امام بخاری نے اسی زیر مطالعہ حدیث کے لیے عنوان قائم کر کے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی ہے۔ ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ﴾ اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴿﴾ (العنکبوت: ۵۱) ”کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے، وہ ان پر پڑھی جاتی ہے۔“ یعنی یہ کتاب پہلی کتب سماوی سے مستغنی کرتی ہے فضول اشعار اور تحریروں سے بے پرواہ کرتی ہے۔ (بخاری، باب من لم يتغنى بالقرآن قبل الحديث: ۵۰۲۲) معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے دونوں مفہوم درست ہیں یہ حدیث نبوی کا ایک کمال ہے۔) (عبد اللہ رفیق)

بلاشبہ خوبصورت آواز سے قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور تلاوت کرنے والوں اور سننے والوں میں مزید تلاوت کرنے اور سننے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں تکلف سے گریز کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت مخصوص سریلی آواز کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس معاملے میں عرب کے لہجے کو سامنے رکھنا چاہیے، جیسے حرم کی کے امام تلاوت کرتے ہیں، زیادہ تکلف سے بچنا چاہیے، جیسے آج کل مصری نراء کی تلاوت کا انداز ہے۔

(۸۳۶۰)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ)) (مسند احمد: ۱۷۵۸۱)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور پوشیدہ آواز میں تلاوت کرنے والا مخفی انداز میں صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔“

فوائد: مخفی صدقہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ریا کاری کا شبہ نہیں ہوتا، اگر ریا کاری کا شبہ نہ ہو اور کسی کو نصیحت کرنا مقصود ہو تو اعلانیہ صدقہ بھی درست ہے، یہی حکم تلاوت قرآن مجید کا ہے،

(۸۳۶۱)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَيِّدَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْجَادِينَ: ((أِنَّهُ ذُو وَجَادِينَ نَامِي أَيْكَ أَدْمِي كَيْ بَارِي مِي فِي فَرْمَايَا: ”بِيَشْكَ وَه“

(۸۳۶۰) اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابو داود: ۱۳۳۳، والنسائی: ۵ / ۸۰، والترمذی: ۲۹۱۹ (انظر: ۱۷۴۴۴)

(۸۳۶۱) تخریج: حسن لغیرہ۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۱۷ / ۸۱۳ (انظر: ۱۷۴۵۳)

بہت زیادہ گڑگڑانے والا ہے۔ یہ آدمی بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ذکر میں مشغول رہنے والا تھا اور دعا کرتے وقت اپنی آواز کو بلند کرتا تھا۔

أَوَاهُ۔) وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الذِّكْرِ لِيْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ۔ (مسند احمد: ۱۷۵۹۲)

فوائد:..... ”أَوَاهُ“ کے معانی: آپیں بھرنے والا، گڑگڑانے والا، زیادہ رونے والا، زیادہ دعائیں کرنے والا

سیدنا فضالہ بن عبید بن جراحؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف بہت زیادہ کان لگاتے ہیں، جو قرآن پاک خوبصورت آواز سے پڑھتا ہے، گانے والی کا مالک بھی گانے والی کی طرف اتنا کان نہیں لگاتا۔“

(۸۳۶۲)۔ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَلَّهِ أَشَدُّ أَدْنًا إِلَيَّ الرَّجُلِ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْتَةِ إِلَيَّ قَيْتِهِ))۔ (مسند احمد: ۲۴۴۴۶)

سیدنا ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں داخل ہوئے اور ایک آدمی کی تلاوت کی آواز سنی اور پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ کسی نے کہا: یہ عبداللہ بن قیس ہیں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تحقیق اس کو داود علیہ السلام کی بانسریاں عطا کی گئی ہیں۔“

(۸۳۶۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: ((لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ))۔ (مسند احمد: ۹۸۰۵)

سیدنا بریدہ اسلمیؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عبداللہ بن قیس اشعری کو داود علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بانسری عطا کی گئی ہے۔“

(۸۳۶۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ))۔ (مسند احمد: ۲۳۴۲۱)

فوائد:..... بانسری سے مراد خوبصورت آواز ہے اور آل داود سے مراد خود داود علیہ السلام ہیں۔

سیدنا براءؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنی آوازوں کے ذریعہ قرآن پاک کو خوبصورت بناؤ۔“

(۸۳۶۵)۔ عَنْ بَرَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ))۔ (مسند احمد: ۱۸۶۸۸)

- (۸۳۶۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، فان اسماعیل بن عبید اللہ لم یدرک فضالہ بن عبید، بینہما مسیرة مولی فضالہ، وهو مجهول۔ أخرجه الحاكم: ۱/ ۵۷۰، والبیہقی: ۱۰/ ۲۳۰ (انظر: ۲۳۹۴۷)
- (۸۳۶۳) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه ابن ماجہ: ۱۳۴۱ (انظر: ۹۸۰۶)
- (۸۳۶۴) تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابو عوانة: ۳۸۹۰، وابن حبان: ۸۹۲ (انظر: ۲۳۰۳۳)
- (۸۳۶۵) تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابو داود: ۱۴۶۸، والنسائی: ۲/ ۱۷۹، وعلقه البخاری فی ”صحیحہ“ فی کتاب التوحید (انظر: ۱۸۴۹۴)

فوائد: ان روایات کا مقصود یہ ہے کہ تجوید و حسن صوت اور خوش آوازی و خوش الحانی کے ساتھ ایسے سوز میں تلاوت کی جائے کہ جس سے رقت طاری ہو جائے اور حرفوں کی ادائیگی اس طرح ہو کہ اس میں کمی یا بیشی نہ ہو۔ زیادہ تکلف اور تصنع سے بچا جائے، جیسے آج کل کے بہت سے قاری بالخصوص مصر کے بعض قراء تلاوت کرتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَقِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ

قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر (ترتیل سے) پڑھا جائے

(۸۳۶۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ لَهَا أَنَّ نَاسًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَتْ: أَوْلَيْكَ قَرَأَ وَأَوْلَيْكَ يَقْرَأُ يَا، كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ انْتِمَامٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ اللَّيْلَةَ التَّمَامَ) فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ: يَا أَلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخَوْفٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِشْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ۔ (مسند احمد: ۲۵۱۱۶)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کے سامنے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو ایک رات میں ایک دو دو بار قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، سیدہ نے ان کے بارے میں کہا: ان کا پڑھنا بھی نہ پڑھنے کی طرح ہے، میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساری رات قیام کرتی تھی، آپ ﷺ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء پڑھتے تھے اور جب خوف والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور پناہ طلب کرتے اور اگر خوشخبری والی آیت کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کے سامنے عاجزانہ درخواست کرتے۔

فوائد: یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں نے نہ اس کتاب کو سمجھا اور نہ اس سے متاثر ہوئے۔ قرآن مجید کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے؟ ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۳۷۳)۔

(۸۳۶۷)۔ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَهَا قَالَتْ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تَعْنِي التَّرْتِيلَ۔ (مسند احمد: ۲۶۹۸۳)

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کسی بیوی سے سوال کیا گیا، میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں، نبی کریم ﷺ کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا: تم اس اندازِ تلاوت کی طاقت نہیں رکھتے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾۔

فوائد: یہ حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے، دوسندیں اور ان کے متون درج ذیل ہیں

(۸۳۶۶) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه البيهقي: ۲ / ۳۱۰ (انظر: ۲۴۶۰۹)

(۸۳۶۷) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ۲۶۴۵۱)

غور فرمائیں: ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں: قَالَ نَافِعٌ: أَرَاهَا حَفْصَةَ أَنهَآ سُبِّلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَالَتْ: إِنكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا، تَمَالَ: فَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَرَسَلَتْ فِيهَا، قَالَ أَبُو عَامِرٍ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَكَى لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ثُمَّ قَطَعَ، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ قَطَعَ، ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾۔ ایک زوجہ رسول، غالباً وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ان سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا: تم تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ کسی نے ان سے کہا: آپ ہمیں بتلا تو دیں۔ جواباً انہوں نے قراءت کی اور اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ ابن ابی ملیکہ نے اس کو یوں بیان کیا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ پڑھا، پھر ٹھہر گئے، پھر ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھا اور اس پر وقف کیا، پھر ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ پڑھا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا: آپ ﷺ ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾۔ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾۔ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾۔ (مسند احمد: ۲۶۵۸۳، ابوداؤد: ۴۰۰۱، ترمذی: ۲۹۴۷)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہر آیت پر وقف بھی کیا جائے اور ٹھہراؤ کا بھی خیال رکھا جائے۔ وائے مصیبت! اکثر مسلمان تلاوت قرآن کے سلسلے میں مقدار کی طرف توجہ کرتے ہیں، معیار کو نہیں دیکھتے، بالخصوص تراویح اور رمضان میں۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاروں کی تلاوت کر کے جلدی جلدی قرآن مجید ختم کیا جائے۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے عمل میں معیار کے مطابق حسن پیدا کریں، ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں اور ہر ایک آیت پر وقف کریں، اگر زیادہ مقدار چاہتے ہیں تو زیادہ وقت دیں۔

(۸۳۶۸)۔ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَتْ يَمْدُ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا، وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدًّا يَمْدُ بِهَا مَدًّا۔

امام قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم ﷺ کی قراءت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا: آپ کھینچ کھینچ کر اور لمبا کر کے قراءت کرتے تھے۔

(مسند احمد: ۱۲۲۲۲)

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (سورہ مزمل: ۴)..... ”قرآن مجید کو صاف

صاف اور عمدہ طریقہ پر پڑھا کرو۔“

(۸۳۶۹)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَيِّدَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانًا كَرِهَ نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ

(۸۳۶۸) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۰۴۵ (انظر: ۱۲۱۹۸)

(۸۳۶۹) تخريج: أخرجه البخاری: ۷۵۴۰، ومسلم: ۷۹۴ (انظر: ۲۰۵۴۲)

نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں سورہ فتح کی تلاوت کی، اور ایک روایت میں ہے: سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی، جب آپ ﷺ سفر میں تھے، پس آپ ﷺ نے اپنی سواری پر اس کی تلاوت کی اور بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے آواز کو گلے میں گھمایا، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر لوگوں کے مجھ پر جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے آپ ﷺ کی قراءت نقل کرتا۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسِيرِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: نَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَسِيرِهِ لَهُ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ: فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَنْ أَنْزَلَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لِحَاكَيْتِ لَكُمْ قِرَاءَتُهُ. (مسند احمد: ۲۰۸۱۶)

فوائد: ”فَرَجَعَ“: بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے آواز کو گلے میں گھمانا، اس سے ایک خاص قسم کا حسن

اثر قائم پیدا ہوتا ہے۔

سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں یہ اوپر والی حدیث کی مانند ہی بیان کرتے ہیں ابن جبابان نے کہا آء آء یعنی الف کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔

(۸۳۷۰) - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَأَبُو طَالِبٍ بْنُ جَبَابَانَ الْقَارِيُّ، قَالَ: نُنَا شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَنْسِلُ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ ابْنُ جَبَابَانَ فِي حَدِيثِهِ: آه آه. (مسند احمد: ۲۰۸۱۷)

فوائد: ”آہ آہ“ کے الفاظ صحیح بخاری میں یوں ہیں: آء آء آء۔ یہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ آواز کو گلے میں

گمانے کا انداز ہے، تجوید کا ماہر آدمی عملی طور پر آپ کو بتا سکتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو فتح مکہ والے دن قراءت کرتے ہوئے سنا، اگر مجھ پر لوگوں کا ہجوم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے نبی کریم ﷺ کی قراءت کی نقل اتارتا، آپ ﷺ نے سورہ فتح پڑھی تھی۔ معاویہ بن قرہ نے کہا: اگر مجھ پر لوگوں کے جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی بتلائی ہوئی سورت کی نقل اتارتا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیسے تلاوت کی تھی، غنمدر راوی

(۸۳۷۱) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِعُنَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَسُئِلَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لِحَاكَيْتِ لَكُمْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ، قَالَ ”يَعْنِي مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ“: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لِحَاكَيْتِ لَكُمْ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُغَفَّلٍ كَيْفَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بَهْزٌ: وَعُنْدَرٌ قَالَ:

(۸۳۷۰) تخريج: انظر الحديث السابق

(۸۳۷۱) تخريج: أخرجه البخاری: ۴۲۸۱، ۴۸۳۵، ۵۰۳۴، ومسلم: ۷۹۴ (انظر: ۱۶۷۸۹)

فَرَجَّ فِيهَا۔ (مسند احمد: ۱۶۹۱۲) نے کہا: آپ ﷺ نے آواز کو گھما کر پڑھا تھا۔
 (۸۳۷۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّدَ آيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ۔
 (مسند احمد: ۱۱۶۱۵)

فوائد: مذکورہ آیت یہ تھی: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَلَا تَهْتُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”اگر تو ان کو عذاب دے تو بیشک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو بیشک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔“ [المائدة: ۱۱۸] آپ ﷺ پورے قیام میں یہی آیت پڑھتے رہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عجیب انداز میں عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے۔

بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْقِرَاءَةِ خَوْفِ الْمَلَلِ، وَفِي كَيْفِ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

بوریت کے ڈر سے قراءت قرآن میں میانہ روی اختیار کرنے کا، نیز اس چیز کا بیان کہ کتنے دنوں میں قرآن مجید کی تکمیل کی جائے

(۸۳۷۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانٌ أَنْ تَمَلَّ، إِقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي، أَسْتَمِيعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرِينَ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمِيعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمِيعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمِيعُ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى۔ زَادَ فِي

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور ہر رات کو قرآن مجید کی تکمیل کرتا تھا، جب یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے خطرہ ہے کہ جب تو لمبی عمر پائے گا تو تو اکتا جائے گا، اس لیے ایک مہینہ میں ایک دفعہ قرآن مکمل کر لیا کر۔“ لیکن میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”چلو دس دن میں پڑھ لیا کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوت اور جوانی سے استفادہ کرنے دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سات دنوں میں ایک ختم کر لیا کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے

(۸۳۷۲) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۲/۱۱۵۹۳)

(۸۳۷۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۸۰، ومسلم: ۱۱۵۹ (انظر: ۶۵۱۶)

روایۃ: ((فَأَقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَا تَزِيدَنَّ))
 (مسند احمد: 6516)
 چھوڑ دیں، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے دیں، لیکن
 آپ ﷺ نے انکار کیا، ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ
 نے فرمایا: ”ہر سات دن میں قرآن ختم کر لیا کر، لیکن اس سے کم
 دنوں میں نہیں۔“

(دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے اس طرح بھی
 مروی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں کتنے دنوں
 میں قرآن ختم کیا کرو فرمایا ہر ماہ میں ختم کرو میں نے کہا مجھے
 زیادہ قوت ہے پچیس دنوں میں پڑھ لو میں نے کہا مجھ میں زیادہ
 قوت ہے کہا میں دن میں پڑھ لو، میں نے کہا مجھ میں اس سے
 زیادہ قوت ہے فرمایا پندرہ دنوں میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں
 نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے فرمایا سات دنوں میں
 پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو تین دن سے کم میں پڑھے گا اس
 نے اسے سمجھائیں۔“
 (8273 م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ:
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟
 قَالَ: ((أَقْرَأُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ)) قَالَ: قُلْتُ:
 إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:
 ((أَقْرَأُهُ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ)) قُلْتُ: إِنِّي
 أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((أَقْرَأُهُ
 فِي عَشْرِينَ)) قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى
 أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((أَقْرَأُهُ فِي خَمْسِ
 عَشْرَةَ)) قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ
 مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((أَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ)) قَالَ:
 قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:
 ((لَا يَفْقَهُهُ مَنْ يَفْسُرُوهُ فِي أَقَلِّ مِنْ
 ذَلَاثٍ)) (مسند احمد: 6516)

فوائد:..... ابوداؤد کی روایت کے مطابق نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے چالیس دنوں میں قرآن مجید کی
 تکمیل کرنے کا حکم دیا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر چالیس دنوں میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی
 چاہیے۔ جیسا کہ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں: ((وَكَلَّ سَجْبٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَمْ
 يَقْرَأِ الْقُرْآنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ)) ہم اس حدیث کی روشنی میں کسی آدمی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ چالیس دن گزر
 جائیں اور اس نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ (ترمذی)

امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ اور امام ابو عبید وغیرہ کا یہی خیال ہے کہ تین دنوں سے پہلے قرآن مجید کی تکمیل نہیں
 کرنی چاہیے، لیکن کئی سلف صالحین سے اس سے کم مدت میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنا ثابت ہے۔ امام نووی نے
 کہا: راجح بات یہ ہے کہ اس میں شخصیات کا اعتبار کیا جائے گا، جو آدمی قرآن مجید کو سمجھتا ہو اور دورانِ تلاوت اس پر

غور و فکر کرتا ہو، اسی طرح جو آدمی حصول علم اور دین کے دوسرے اہم امور اور مسلمانوں کی عام مصلحتوں میں مصروف ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اتنی تلاوت کر لیا کرے، جس میں غور و فکر اور تدبیر برقرار ہے اور اس کے کام میں بھی حرج نہ ہو، لیکن جس آدمی کے ایسے مشاغل نہ ہوں، اس کو حسب امکان کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، بس ایک چیز کا خیال رکھے کہ اتنی زیادہ تلاوت نہ کرے کہ اکتا جائے۔ بہر حال ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تین دنوں سے کم مدت میں قرآن مجید کی تکمیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بڑی رغبت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، وہ ہر رات کو قرآن مجید مکمل کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ نے ان کے دنوں کی حد مقرر کی تو انھوں نے آپ ﷺ سے اصرار کے ساتھ مزید دن کم کرنے کی درخواست بھی کی تھی، اس کے باوجود آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ ”جو آدمی اس کتاب کو تین دنوں سے کم مدت میں پڑھ لے گا، وہ اس کو نہیں سمجھے گا۔“ جہاں اس حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کے لیے مدت کا تعین کر دیا ہے، وہاں تین ایام سے کم ختم کرنے کی وجہ سے اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تلاوت قرآن سے مقصود قرآن فہمی ہے۔ لیکن عصر حاضر میں بالخصوص عجموں میں فہم قرآن کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ہر بندہ خود بھی بغیر سوچے سمجھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور اپنی اولاد کو اسی انداز کا عادی بنا رہا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید ایسے سنہری قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے، جن کی روشنی میں زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے اور قوانین کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا نہیں جاتا، بلکہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو تین ایام سے کم مدت میں ختم کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ قاری بغیر سمجھے تلاوت کرتا جائے گا، لیکن افسوس کہ ہم تین نہیں، تیس یا تین سو دنوں میں بھی ختم کر لیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔

(۸۳۷۴)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِإِنِّ لَهْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا يَفْرَأُ الْمُصْحَفَ بِالنَّهَارِ وَيَبْتَئُ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَا تَتَّقِمُ أَنَّ ابْنَكَ يَظْلُ ذَاكِرًا وَيَبْتَئُ سَالِمًا)) (مسند احمد: ۶۶۱۴)

(۸۳۷۵)۔ عَنِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((افْرُوا الْقُرْآنَ مَا اتَّخَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِنْ اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا)) (مسند احمد: ۱۹۰۲۲)

روک کر کھڑے ہو جاؤ۔“

(۸۳۷۴) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لہیعة، وحیی بن عبد اللہ المعافری (انظر: ۶۶۱۴)

(۸۳۷۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۶۱، ۷۳۶۴، ومسلم: ۲۶۶۷ (انظر: ۱۸۸۱۶)

فوائد: یعنی جب تک دل قرآن مجید کی طرف متوجہ رہے اور کلی طور پر اس کی قراءت سے متفق رہے۔

قرآن مجید کی تلاوت نیک لوگوں کا مشغلہ ہے، اس باب میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی حد مقرر کی گئی ہے، بہر حال کم از کم تیس چالیس دنوں میں ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تین ایام میں، تلاوت کرتے وقت پورے شوق اور رغبت سے الفاظ پر توجہ کرنی چاہیے، اکتاہٹ اور بوریت کی صورت میں تلاوت بند کر لینی چاہیے۔

بَابُ نَزْوِلِ السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قرآن مجید کی تلاوت پر سکینت اور فرشتوں کے نزول کا بیان

(۸۳۷۶)۔ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَتَنْظُرُ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ عَشِيَتْهُ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((اِقْرَأْ فَلَانُ! فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ...)) (مسند احمد: ۱۸۶۶۶)

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، جس گھر میں وہ تلاوت کر رہا تھا، اس میں اس کی سواری بھی بندھی ہوئی تھی، وہ سواری بدکننا شروع ہو گئی، اس نے دیکھا کہ ایک بادل اس پر چھا رہا ہے، جب یہ بات نبی کریم ﷺ کو بتلائی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”او فلاں! تو پڑھتا رہتا، یہ سکینت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہو رہی تھی۔“

فوائد: امام نووی نے کہا: سکینت کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، راجح معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی

خلوق ہے اور اس میں اطمینان اور رحمت پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔

(۸۳۷۷)۔ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةٌ يَقْرَأُ فِي وَرَبْدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ أَسِيدٌ: فَحَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَهُ فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اپنے باڑے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، (وہ چپ ہو گئے)، پھر جب انہوں نے قراءت شروع کی تو وہ بھر بدکنے لگا، پس جب بھی پڑھنے لگتے تو وہ بدکنے لگ جاتا، سیدنا اسید کہتے ہیں مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو کچل دے گا، پس میں بیٹے کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل کی مانند سائبان تھا، جس میں چراغ روشن تھے، جو فضا میں

(۸۳۷۶) تخريج: أخرجه البخاري: ۳۶۱۴، ومسلم: ۷۹۵ (انظر: ۱۸۴۷۴)

(۸۳۷۷) تخريج: أخرجه مسلم: ۷۹۶، وعلقه البخاري: ۵۰۱۸ بصيغة الجزم (انظر: ۱۱۷۶۶) كتاب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چڑھتا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں گزشتہ رات کے آخر میں اپنے بازے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، پھر آگے ساری بات بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابن حضیر! تو پڑھتا رہتا۔“ میں نے کہا: جی میں نے پڑھا، لیکن گھوڑا پھر بدکنے لگا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”اے ابن حضیر! تو پڑھتا رہتا۔“ میں نے کہا: میں پڑھتا تو پھر گھوڑا بدکتا، رسول اللہ ﷺ نے پھر فرمایا: ”اے ابن حضیر! تو پڑھتا رہتا۔“ جی میں نے پڑھا، لیکن میرا بیٹا یحییٰ قریب پڑا تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اسے کچل دے گا، پھر میں نے سامان کی مانند چیز دیکھی، جس میں چراغ جگمگا رہے ہیں اور وہ فضا میں بلند ہو رہی ہے، پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ فرشتے تھے، تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم قراءت صبح تک جاری رکھتے تو لوگ انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے۔“

فوائد:..... سیدنا سید بن حضیر رضی اللہ عنہما بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کی فضیلت کا بیان

وَذَكَرَ مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ

مکمل قرآن مجید حفظ کر لینے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بیان

(۸۳۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أَنْزَلَ، فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ-)) (مسند احمد: ۳۵)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح تروتازہ پڑھے، جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ ام عبد کے بیٹے (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کی قراءت کے مطابق پڑھے۔“

۸۳۷۹)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((غَضًّا أَوْ رَطْبًا)) (مسند احمد: ۳۶)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں ”غَضًّا أَوْ رَطْبًا“ کے الفاظ ہیں۔

۸۳۸۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَرِيضًا (كَذَا قَالَ) كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ)) (مسند احمد: ۹۷۵۳)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو قرآن مجید کو اس طرح تو تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ وہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کے مطابق پڑھے۔“

فوائد: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کو تازہ قرار دینے کی وجہ حدیث نمبر (۸۳۳۹) میں بیان کی گئی ہے۔

۸۳۸۱)۔ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَرَجُلٌ لَا أَرَأَى أُحِبُّهُ أَبًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((خُذُوا الْقُرْآنَ عَنْ أَرْبَعَةٍ، عَنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ قَبْدًا بِدَأْ بِهٖ، وَعَنْ مُعَاذٍ، وَعَنْ سَالِمٍ مَرَلَى أَبِي حُدَيْفَةَ،)) قَالَ يَغْلَى "أَحَدُ الرُّوَالَةِ": وَنَسِيتُ الرَّابِعَ۔ (مسند احمد: ۶۵۲۳)

مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہونے لگا، انھوں نے کہا: میں اس وقت سے اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث سنی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان چار افراد سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو: ابن ام عبد، معاذ، مولائے ابی حذیفہ سالم۔“ آپ ﷺ نے سب سے پہلے ابن ام عبد یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ یعنی راوی کہتے ہیں: میں چوتھے کا نام بھول گیا۔

فوائد: چوتھے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ اگلی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار پر غور کریں۔

۸۳۸۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اسْتَفْرِءْ وَالْقُرْآنَ مِنْ))

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ان چار افراد سے قرآن مجید سیکھو: عبداللہ بن مسعود،

(۸۳۷۹) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه الترمذی: ۱۶۶۹ (انظر: ۳۶)

(۸۳۸۰) تخریج: صحیح لغیرہ - أخرجه ابویعلی: ۶۱۰۶، والبخاری: ۲۶۸۲ (انظر: ۹۷۵۴)

(۸۳۸۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۷۶۰، ومسلم: ۲۴۶۴ (انظر: ۶۵۲۳)

(۸۳۸۲) تخریج: انظر الحدیث السابق

أَرْبَعَةً، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمِ
 مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبِي
 بِنِ كَعْبٍ.)) (مسند احمد: ۱۷۶۷)

مولائے ابی حذیفہ سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔“

فوائد: چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی منقبت کا بیان ہے کہ سب سے عظیم کلام کی تعلیم کے لیے

آپ ﷺ نے اپنے بیٹھار ساتھیوں میں صرف چار کا نام پیش کیا۔

(۸۳۸۳)۔ عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَمَعَ الْقُرْآنَ
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةً نَفَرٍ كُلُّهُمْ
 مِنَ الْأَنْصَارِ: أَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ
 جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ۔ (مسند

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے عہد
 مبارک میں چار افراد نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا تھا، یہ سارے
 کے سارے انصار میں سے تھے: ابی بن کعب، معاذ بن جبل،
 زید بن ثابت اور ابو زید۔

احمد: ۱۳۴۷۵)

فوائد: سیدنا ابو زید رضی اللہ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بچاؤں میں سے تھے۔

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَهُ الْقَارِئُ عِنْدَ ذِكْرِ آيَةِ عَذَابٍ أَوْ رَحْمَةٍ

وَعِنْدَ خْتِمِ بَعْضِ السُّورِ

عذاب والی آیت یا رحمت والی آیت اور بعض سورتوں کی تکمیل کے وقت

قاری کے لیے مستحب ذکر کا بیان

(۸۳۸۴)۔ عَنِ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ
 سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّذَ، وَإِذَا
 مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ۔
 سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ
 جب رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا
 سوال کرتے، جب عذاب کے ذکر پر مشتمل آیت کے پاس سے
 گزرتے تو پناہ مانگتے اور جب ایسی آیت سے گزرتے، جس میں
 اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی گئی ہوتی تو اس کی تسبیح بیان کرتے۔
 (مسند احمد: ۲۳۶۵۰)

فوائد: نبی کریم ﷺ اس قدر توجہ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے کہ حسب امکان آیات کے تقاضے بھی

پورے کرتے جاتے۔ اس موضوع پر صرف یہی حدیث صحیح ہے کہ رحمت، عذاب اور تسبیح والی آیات پر مطلوبہ ذکر کرنا
 چاہیے، مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور امام کی قراءت پر یہ دعائیں نہ کرے، کیونکہ قراءت کے وقت مقتدی کے
 لیے خاموش رہنے کا عام حکم ہے، ماسوائے سورۃ فاتحہ کے، امام اور منفرد کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔

(۸۳۸۳) تخريج: أخرجه البخاري: ۵۰۰۳، ومسلم: ۲۴۶۵ (انظر: ۱۳۴۴۱)

(۸۳۸۴) تخريج: أخرجه مسلم: ۷۷۲ (انظر: ۲۳۲۶۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی سورہٴ مرسلات پڑھے اور جب وہ اس آیت ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَكَ يُؤْمِنُونَ﴾ پر پہنچے تو کہے: آمَنَّا بِاللَّهِ (ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں)، جو آدمی سورہٴ تین کی تلاوت کرے تو وہ آخر میں کہے: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں)، اور جو آدمی جب یہ آیت ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ پڑھے، تو وہ کہے: بَلَىٰ (کیوں نہیں)۔ اسماعیل راوی نے کہا: میں نے کوشش کی کہ پتہ چلاؤں اس اعرابی نے اسے اچھی طرح یاد بھی کیا ہے یا نہیں، اس نے آگے سے کہا: سہیحہ! تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے اسے یاد نہیں کیا، میں نے ساٹھ حج کئے ہیں اور میں ہر سال والے اس اونٹ کو پہچان سکتا ہوں، جس پر میں نے حج کیا۔

(۸۳۸۵)۔ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ سَمِعَهُ مِنْ شَيْخٍ فَقَالَ مَرَّةً سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعْرَابِيٍّ، سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَرَأَ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَلَبَّغَ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾ فَلْيَقُلْ: بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ فَلْيَقُلْ: ((بَلَىٰ)) قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ هَلْ حَفِظَ وَكَانَ أَعْرَابِيًّا فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَظَنَنْتَ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً، مَا مِنْهَا سَنَةٌ إِلَّا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

(مسند احمد: ۷۳۸۵)

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ ذَٰلِكَ

قرآن مجید سننے کی فضیلت اور اس وقت رونے کا بیان

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: انھوں نے مجھ سے کہا: تم مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو، میں نے کہا: کیا میں نے تم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی اور تم نے ہمیں نہیں پڑھایا؟ انھوں نے کہا: ایک دن میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ نے مجھ سے کہا: ”تم مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ پر

(۸۳۸۶)۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي: إِقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ مِنْكَ تَعَلَّمْتُهُ وَأَنْتَ تُقَرِّئُنَا؟ فَقَالَ: إِنِّي آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ((اقْرَأْ عَلَيَّ مِنَ الْقُرْآنِ)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمِنْكَ تَعَلَّمْنَاهُ؟ قَالَ:

(۸۳۸۵) تخريج: اسنادہ ضعیف لجهالة الراوی عن ابی هريرة - أخرجه ابوداود: ۸۸۷، والترمذی:

۳۳۴۷ (انظر: ۷۳۹۱)

(۸۳۸۶) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۰۴۹، ۵۰۵۰، ۵۰۵۶، و مسلم: ۸۰۰ (انظر: ۳۵۵۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

((بَلَىٰ وَلَكِنَّیْ أُحِبُّ أَسْمَعُهُ مِنْ غَیْرِیْ۔))
(مسند احمد: ۳۵۵۰)

(۸۳۸۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ۔))
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ؟
وَأِنَّمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ، قَالَ: ((إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ
أَسْمَعَهُ مِنْ غَیْرِیْ۔)) قَالَ: فَافْتَتَحْتُ
سُورَةَ النِّسَاءِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغْتُ
﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَيْهِ
وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ (مسند احمد: ۴۱۱۸)

نازل نہیں ہوا اور ہم نے آپ سے نہیں سیکھا؟ آپ ﷺ فرمایا:
”جی کیوں نہیں، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔“
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی
کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”مجھے قرآن مجید کی تلاوت
سناؤ۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ پر کیسے
پڑھوں، جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے
فرمایا: ”میری خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے سنوں۔“
پس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، جب میں اس
آیت پر پہنچا ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (وہ کیفیت کیسی ہوگی
جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور اے پیغمبر تجھے ان
سب پر گواہ لائیں گے)، تو میں نے آپ ﷺ کی جانب
دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

فوائد: قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننا، اس پر تہذیب کرنا، سماع کے وقت رونا اور دوسرے سے قرآن مجید

کی تلاوت سنانے کا مطالبہ کرنا، یہ سب مستحب اور پسندیدہ امور ہیں۔

(۸۳۸۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً مَضَاعِفَةً، وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔)) (مسند احمد: ۸۴۷۵)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت غور سے سنے گا،
اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر لکھا جائے گا اور جو خود اس کی
تلاوت کرے گا، یہ اس کے لئے روز قیامت نور ہوگا۔“
بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَاسْتِدْكَارِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا كَذَا
قرآن مجید کی دیکھ بھال کرنے اور اس کو یاد رکھنے کا بیان اور اس سے ممانعت کہ بندہ یہ کہے
کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں

(۸۳۸۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

(۸۳۸۷) تخریج: انظر الحديث السابق

(۸۳۸۸) تخریج: اسنادہ ضعیف، عباس بن مسیرة لین الحديث، والحسن البصری لم یسمع من ابی ہریرة۔

أخرجه البيهقي في "الشعب": ۱۹۸۱ (انظر: ۸۴۹۴)

(۸۳۸۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۳۲، ومسلم: ۷۹۰ (انظر: ۳۹۶۰)

نے فرمایا: ”یہ بری بات ہے کہ آدمی یہ کہے: میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دی گئی ہے۔ قرآن کو یاد رکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بہ نسبت لوگوں کے سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔“

(دوسری سند) آپ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید کی نگہداشت رکھو، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بہ نسبت لوگوں کے سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔“ نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہا کرے: میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہا کرے کہ اس کو بھلا دیا گیا ہے۔“

((بِسْمِ اللَّهِ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ أَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نَسِيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهَا)) (مسند احمد: ۳۹۶۰)

((وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: ((تَعَاهِدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ)) وَرَبَّمَا قَالَ: ((الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقْلِهِ)) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نَسِيَ)) (مسند احمد: ۳۶۲۰)

فوائد: ”میں فلاں آیت بھول گیا۔“ اپنی طرف نسیان کی نسبت کرنے سے ممانعت اس لیے ہے کہ نسیان ان لوگوں کے زمرے میں شامل نہ ہو جائے، جن کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مذمت کی ہے: ﴿كَذَلِكَ اتَّخَذْنَا أَيْتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ ”جس طرح (دنیا میں) تیرے پاس ہمارے آیتیں آئیں، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج (قیامت کے دن) تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔“ چنانچہ ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ویسے بھی یہ بات انسان کی سستی اور غفلت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کو بھول جانا، یہ دراصل بندے کا فعل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب بندہ قرآن مجید کو دہرانے سے غفلت برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر اس کو قرآن مجید بھلا دیتا ہے۔

سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

((۸۳۹۰) - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ - (مسند احمد: ۱۹۷۷۵)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی سی ہے، اگر اس کا مالک اس کو باندھے رکھے تو اس کو

((۸۳۹۱) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْأَبْلِ الْمُعْقَلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا حَبَسَهَا،

(۸۳۸۹) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۳۹۰) تخریج: - أخرجه البخاری: ۵۰۳۳، ومسلم: ۷۹۱ (انظر: ۱۹۵۴۶)

(۸۳۹۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۳۱، ومسلم: ۷۸۹ (انظر: ۴۶۶۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَأَنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)) (مسند احمد: ٤٦٦٥) روکے رکھے گا اور اگر وہ اس کو کھول دے تو وہ بھاگ جائے گا۔
 (٨٣٩١م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهْ إِبِلٌ، فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عُقْلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ)) (مسند احمد: ٤٩٢٣) گے، یہی مثال صاحب قرآن کی ہے۔“

فوائد: معلوم ہوا کہ صاحب قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی منزل کا خیال رکھے اور باقاعدگی سے تلاوت کرتا رہے، تاکہ نسیان سے محفوظ رہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ نَسِيَ الْقُرْآنَ أَوْ بَعْضَهُ بَعْدَ حِفْظِهِ أَوْ تَرَ آيَ بَقَرَاءٍ تِهِ أَوْ تَاكَلَهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ

حفظ کر لینے کے بعد مکمل قرآن مجید کو یا بعض حصے کو بھلانے والے، یا اپنی قراءت کی وجہ سے ریا کاری کرنے والا، یا اس کے ذریعے کھانے والا، یا اس پر عمل نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید کا بیان

(٨٣٩٢)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ أَمِيرٍ عَشْرَةَ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوبًا، لَا يَفُكُّهُ مِنْ ذَلِكَ الْغُلُّ إِلَّا الْعَدْلُ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَنَسِيَهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْدَمٌ)) (مسند احمد: ٢٢٨٢٣)

سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دس افراد کا امیر اور مسؤل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہے (کی زنجیر) سے جکڑا ہوا ہوگا، اس قید سے آزاد کرانے والی چیز اس کا عدل و انصاف ہوگا، اور جو آدمی قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھلا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا (یا کوڑھ زدہ) ہوگا۔

(٨٣٩٣)۔ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

(٨٣٩٤)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(٨٣٩١م) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٨٣٩٢) تخریج: صحيح لغيره دون قوله: ”وما من احد تعلم القرآن.....“ وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوى عن سعد بن عبادة، ولجهالة عيسى بن فائد - أخرجه مختصرا ابوداود: ١٤٧٤ (انظر: ٢٢٤٥٦) (٨٣٩٣) تخریج:

(٨٣٩٤) تخریج: حسن لغيره - أخرجه ابن ماجه: ١٧١ (انظر: ٢٣١٢) كتاب وصفت في روشني ميمنه جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اللَّهُ ۞: ((لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)) (مسند احمد: ۲۳۱۲) نے فرمایا: ”میری امت میں سے کچھ لوگ قرآن مجید ضرور پڑھیں گے، لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔“

فوائد: تیر اتنی تیزی سے شکار کو زخمی کر کے نکل جاتا ہے کہ اس پر خون کے اثرات بھی نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بعض لوگ دعویٰ تو اسلام کا کریں گے، لیکن وہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اکثر محدثین اور شارحین کے نزدیک ایسے لوگوں سے مراد خوارج ہیں، جن کا ذکر اگلے ابواب میں آئے گا۔ لیکن اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جو تلاوت قرآن مجید میں بڑا شہرہ رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام کے تقاضوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور اکثر میں واضح طور پر ریا کاری کا بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔

(۸۳۹۵)۔ عَنِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الخَوْلَانِيِّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ نَ الْحُدْرِيَّ ۞ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۞ يَقُولُ: ((يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً ۞ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ عُثْيًا ۞)) ”پھر ان کے بعد ایسے نالائق جائیں ان کی جلد آئے جنھوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔“ پھر ان کے بعد نالایق ہوں گے، جو قرآن مجید تو پڑھیں گے، لیکن وہ ان کی ہنسی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن مجید کی تلاوت تین قسم کے لوگ کرتے ہیں: مومن، منافق اور فاجر۔“ بشیر راوی نے کہا: میں نے ولید سے پوچھا: یہ تین آدمی کون ہیں؟ انھوں نے کہا: منافق بھی دراصل قرآن مجید کا منکر ہوتا ہے، فاجر اس کے ذریعے کھاتا ہے اور مومن اس پر ایمان لاتا ہے۔“ (۱۱۳۶۰)

فوائد: ایسے ہی ہوا، جیسے آپ ﷺ نے فرمایا، ۶۰ھ کے بعد شر و فساد اور قتل و غارت گری بڑھ گئی اور مسلمانوں میں اختلاف زیادہ ہو گیا۔ جب ۶۰ھ کے اوائل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، اسی دن یزید برسر اقتدار آ گیا تھا۔ قرآن مجید کے تعلیم و تعلم سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ بار بار اپنے عزائم کا جائزہ لیں۔

(۸۳۹۵) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابن حبان: ۷۵۵، والحاكم: ۳۷۴ / ۲ (انظر: ۱۱۳۴۰)۔

(۸۳۹۶)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رِجْلَيْهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: ((وَأَنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا جَرِيئًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ)) (مسند احمد: ۱۱۵۷۰)

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تبوک والے سال لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، جبکہ آپ ﷺ نے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں بدترین وہ آدمی ہے جو فاجر ہو اور جرات مند ہو، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی کسی چیز کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔“

فوائد: ”وَلَا يَدْعُو“ کی بجائے سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایات کے الفاظ یہ ہیں: ”لَا يَرْعَوِي“ اور اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی روکی ہوئی چیز سے رکتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شرعی علوم کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے مختلف تفاسیر قرآن اور شرح احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان میں عمل کی کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کا صرف یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ ان کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ بھی عمل کریں۔

(۸۳۹۷)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى قَوْمٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ)) (مسند احمد: ۲۰۱۸۶)

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ لوگوں پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جب وہ فارغ ہوا تو اس نے لوگوں سے سوال کیا، انھوں نے یہ صورت حال دیکھ کر کہا: اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بیشک میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو قرآن مجید پڑھے، وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، پس عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، جو قرآن مجید تو پڑھیں گے، لیکن لوگوں سے اس کے ذریعے سوال کریں گے۔“

فوائد: اس حدیث کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۶۱۳۱) والا اور اس کی احادیث کی شرح۔

(۸۳۹۸)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْرَأُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا))

سیدنا عبد الرحمن بن شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید پڑھا کرو، نہ اس کو کھانے کا ذریعہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مالی کثیر جمع کرو، نہ اس کے

(۸۳۹۶) تخريج: حديث حسن - أخرجه النسائي: ۱۱/۶ (انظر: ۱۱۵۴۹)

(۸۳۹۷) تخريج: حسن لغيره - أخرجه الترمذي: ۲۹۱۷ (انظر: ۱۹۹۴۴)

(۸۳۹۸) تخريج: حديث صحيح - أخرجه الطبراني في "الوسط": ۲۵۹۵، والبخاري: ۲۳۲۰ (انظر:)

عَنْهُ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ)) (مسند احمد: ۱۵۶۲۰) معاملة میں سنگدل ہو جاؤ اور نہ اس میں غلو اور تشدد کرو۔“

فوائد:..... غلو میں نہ پڑو: الفاظ اور معنی کے اعتبار سے اس سے تجاوز نہ کرو، یعنی نہ اس کی قراءت میں زیادہ مشقت کرو اور نہ اس کی باطل تاویلیں کرو۔ سنگدل نہ ہو جاؤ: اس کی تلاوت سے دور نہ ہو جاؤ۔ ان دو جملوں کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کو سمجھو، اس کے معاملے میں افراط و تفریط سے بچو اور میانہ روی اختیار کرو۔

(۸۳۹۹)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ سَيِّدُنَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي نَزَعُوا عَنِّي)) فرمایا: ”میری امت کے اکثر منافق قراءت میں غلو سے بڑے ہیں۔“

فَرَّوْهَا)) (مسند احمد: ۱۷۵۰۱)

فوائد:..... ہم ذاتی مشاہدے کی بات کرنا چاہیں گے کہ زیادہ تر قاری حضرات مقاصد قرآن، احکام قرآن اور روح قرآن سے غافل ہوتے ہیں، تشریحات نبویہ اور اسلامی آداب سے محروم ہوتے ہیں، صرف اس بنا پر لہ لہے لہے سانسوں اور خوش الحانی کی مشق کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تلاوت سن کر لہ لہے لہے اور عیش عیش کر انھیں۔

قارئین کرام! اگر آپ اتفاق نہ کریں تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، سات آٹھ آیات پر مشتمل سورت ایک سانس میں تلاوت کرنا چاہی، سانس لہا کرنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا ہے، اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کبھی ٹانگ کو حرکت دیتا ہے، کبھی سر ہلاتا ہے، پیشانی کو ہاتھوں سے دبایا ہوا ہے، منہ کا عجیب ڈیزائن بن چکا ہے، آیات کے معانی سے بالکل غافل ہے، سامعین داد دینے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر چکے ہیں۔ کس نے یہ تکلف کرنے پر مجبور کیا؟ کیا محمد رسول اللہ ﷺ کا انداز تلاوت کافی نہیں ہے؟

کئی قراء کرام سے واسطہ پڑا، شعبہ حفظ کے کامیاب استاد ہوتے ہیں، لیکن نمازوں تک سے غافل اور اخلاقی جرائم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ سچ فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ اکثر قارئین میں نفاق ہوتا ہے، بظاہر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا بڑا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نزول قرآن کے مقصد سے غافل ہوتے ہیں۔

بہر حال نیک سیرت اور حسن کردار والے قاری حضرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم، فقہت فی الدین اور عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ خطبا کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو علم و عمل اور اصلاح و تقویٰ کی بھی تعلیم دیں، جو شریعت کا اصل مقصود ہے۔

(۸۴۰۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي نَزَعُوا عَنِّي)) فرمایا: ”میری امت کے اکثر منافق قراءت میں غلو سے بڑے ہیں۔“

حَدِيثُ بَيَانِ كَيْفَ يَكُونُ الْمُنَافِقُ مِمَّنْ نَزَعُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ)) (مسند احمد: ۶۶۳۳)



(۸۳۹۹) تخریج: حسن لغیرہ۔ أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۱۷ / ۸۴۱ (انظر: ۱۷۳۶۷)

(۸۴۰۰) تخریج: صحیح۔ أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۳ / ۲۲۸ (انظر: ۶۶۳۳)

أَبْوَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ وَأُورَادِهِ وَتَأْلِيفِهِ وَجَمْعِهِ

وَكِتَابَتِهِ فِي الْمَصَاحِفِ

قرآن مجید اور اوراد کی تحزیب کرنے اور مصاحف میں اس کی تالیف کرنے

جمع کرنے اور اس کو لکھنے کے ابواب

قرآن مجید کی تالیف کا بیان

بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ وَأُورَادِهِ

قرآن اور اوراد کے حزب مقرر کرنا

حزب: حزب مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اور مختلف اذکار کے مقرر کر کے روزانہ ایک حصے کو پڑھا جائے، جیسے روزانہ ایک پارہ یا کچھ رکوع تلاوت کرنے کا تعین کر لینا۔

اوراد سے مراد اذکار اور وظائف ہیں۔

(۸۴۰۱)۔ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ آتَوْا النَّبِيَّ ﷺ أَنْزَلْنَا أَسْلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ بَنِي مَالِكٍ، أَنْزَلْنَا فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بَيْتِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

سیدنا اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اس وفد میں موجود تھا، جو ثقیف میں سے بنو مالک قبیلہ سے نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا، آپ ﷺ نے ہمیں ایک خیمہ میں اتارا، جب آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتے جاتے تو ہمارے پاس سے گزرتے تھے، جب آپ ﷺ نماز عشاء سے فارغ ہوتے تو ہمارے پاس

(۸۴۰۱) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وعثمان بن عبد الله الثقفي،

قال ابن حجر: مقبول - أخرجه ابو داود: ۱۳۹۳، وابن ماجه: ۱۳۴۵ (انظر: ۱۹۰۲۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تشریف لاتے اور کافی دیر تک ہم سے باتیں کرتے، قریش اور اہل مکہ کی شکایات کا ذکر کرتے اور فرماتے: ”اب برابری نہیں رہی، وقت تبدیل ہو گیا ہے، مکہ میں ہم رل گئے تھے اور ناتواں تھے اور جب ہمیں مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب نکال دیا گیا تو جنگ کا ڈول ہمارے خلاف بھی بھرا گیا اور ہمارے حق میں بھی بھرا گیا (یعنی مقابلہ برابر رہا)۔“ ایک رات آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف نہ لائے، عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی، پھر جب تشریف لائے تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے لئے ہمارے پاس نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا قرآن کا حزب (رہ گیا تھا)، بس وہ مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے بھی ارادہ کیا کہ اس کی تکمیل کے بغیر نہیں نکلوں گا۔“ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ ﷺ کے صحابہ سے پوچھا: تم قرآن مجید کے کیسے حصے مقرر کرتے ہو اور اجزاء بناتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم اس طرح قرآن مجید کے حصے مقرر کرتے ہیں: تین سورتیں، پانچ سورتیں، سات سورتیں، نو سورتیں، گیارہ سورتیں، تیرہ سورتیں اور سورہ قاف سے آخر تک کا مفصل حصہ، اس طرح قرآن مجید کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

انصَرَفَ إِلَيْنَا وَلَا نَبْرَحُ حَتَّى يُحَدِّثَنَا وَيَسْتَكِي قُرَيْشًا وَيَسْتَكِي أَهْلَ مَكَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: ((لَا سِوَاءَ كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَدَلِّينَ وَمُسْتَضْعَفِينَ، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا)) نَمَكَّتْ عَنَّا لَيْلَةٌ لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمَكَّتْكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ((طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَفْضِيَهُ)) قَالَ: فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحْنَا، قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ تُحْزِبُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: نُحْزِبُهُ ثَلَاثَ سُورٍ، وَخَمْسَ سُورٍ، وَسَبْعَ سُورٍ، وَتِسْعَ سُورٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً، وَحِزْبَ الْمُفْصَلِ مِنْ قَافٍ حَتَّى يُخْتَمَ۔ (مسند احمد: ۱۹۲۳۰)

فوائد: سات حزب مقرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سات دنوں میں قرآن مجید کی

تلاوت مکمل کر لیتے تھے، ان سات احزاب کی تفصیل یہ ہے:

تین سورتیں: سورہ بقرہ سے سورہ نساء تک

پانچ سورتیں: سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک

سات سورتیں: سورہ یونس سے سورہ نحل تک

نو سورتیں: سورہ اسراء سے سورہ فرقان تک

گیارہ سورتیں: سورہ شعراء سے سورہ لیس تک

تیرہ سورتیں: سورہ صافات سے سورہ حجرات تک

اس کے بعد سورہ ق سے قرآن کے آخر تک کا حصہ مفصل کہتا ہے۔

قرآن مجید کی سات منزلوں کا تعین اسی ترتیب سے کیا گیا ہے، سات دنوں میں قرآن مجید کی تکمیل کے لیے یہ اچھی اور معتدل ترتیب ہے، مہینے میں ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کے تیس پارے بنائے گئے ہیں، تلاوت کرنے والا اس سے کم یا زیادہ کی مقدار کا تعین بھی کر سکتا ہے، بہر حال کم از کم چالیس دنوں میں ایک بار قرآن مجید کی تکمیل ہو جانی چاہیے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے لیے سب سے پہلے چالیس دنوں کا تعین کیا تھا۔ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن تلاوت اور اذکار و اوراد کی مقدار کا تعین کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ اگلے باب کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وَرْدِهِ مَتَى يَقْضِيهِ
جس سے وظیفہ رہ جائے اس کی قضا کب دے؟

(۸۴۰۲)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي: ابْنَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ) وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وَرْدِهِ (أَوْ قَالَ: مِنْ جُزْئِهِ) فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قرأَهُ مِنْ لَيْلَةٍ)) (مسند احمد: ۳۷۷)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: 'جس کا پابندی سے پڑھے جانے والا وظیفہ (رات کو) رہ جائے، لیکن اگر وہ اس کو نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان ادا کر لے تو وہ ایسے ہی ہوگا، جیسے رات کو پڑھا ہے۔'

فوائد:..... اگر کسی آدمی نے نماز کے علاوہ رات کو ذکر و تلاوت کی کوئی صورت معین کر رکھی ہو اور وہ عذر کی وجہ سے رہ جائے تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان اس کی ادا کی جاسکتی ہے، تاکہ اس کا تسلسل برقرار رہے، لیکن اگر عذر کی وجہ سے تہجد کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوگا، نہ کہ نماز فجر کے بعد، دونوں اعمال کا آخری وقت زوال ہی ہے۔

بَابُ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي الْأَكْتَابِ وَاللِّخَافِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عہد نبوی میں کندھوں کی ہڈیوں اور سفید پتھروں پر قرآن مجید کی کتابت کا بیان

(۸۴۰۳)۔ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ نَابِيتٍ: إِنِّي قَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا إِذْ أَوْحَى إِلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ سَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرُومِي، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: فِي مِثْلِ يَوْمِي كَرِيمٌ ﷺ كِيسًا فِي بَيْتِهِمْ، إِذَا كَانَتْ أَيْدِيهِمْ تَرْتِيلًا، وَأَجَانِكُكُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمًا إِذْ أَوْحَى إِلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ نَازِلٌ هُوَ لِي وَأَنْتُمْ تَرْتِيلُونَ، وَأَجَانِكُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمًا إِذْ أَوْحَى إِلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ نَازِلٌ هُوَ لِي وَأَنْتُمْ تَرْتِيلُونَ، وَأَجَانِكُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمًا إِذْ أَوْحَى إِلَيْهِ، قَالَ: وَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ

(۸۴۰۲) تخريج: أخرجه مسلم: ۷۴۷ (انظر: ۳۷۷)

(۸۴۰۳) تخريج: حديث صحيح - أخرجه ابوداود: ۲۵۰۷، ۳۹۷۵ (انظر: ۲۱۶۶۴)

جبکہ آپ ﷺ کی ران، میری ران پر تھی، اللہ کی قسم! نبی کریم ﷺ کی ران سے زیادہ بھاری چیز میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، پھر جب یہ کیفیت آپ ﷺ سے دور ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے زید! لکھو“ میں نے شانے کی ہڈی لی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ آیت لکھو ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ... أَجْرًا عَظِيمًا﴾“ جب سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی جو کہ نابینا آدمی تھے اور انھوں نے سنا کہ اس آیت میں تو مجاہدوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا، مثلاً نابینا وغیرہ؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! ابھی تک سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتے ہوئے جو سکون چھا جاتا تھا، وہ چھا گیا، آپ ﷺ کی ران میری ران پر تھی، میں نے اس سے اتنا ہی بوجھ محسوس کیا، جس طرح میں نے اس سے پہلے وحی کی حالت میں محسوس کیا تھا، پھر آپ ﷺ سے وحی کی کیفیت دور ہوئی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آیت پڑھو۔“ جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ساتھ لکھو: ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾“ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے یہ حصہ اس آیت کے ساتھ ملا دیا، گویا کہ اب بھی میں شانے میں اس آیت والی جگہ پر پھنسن کا نشان دیکھ رہا ہوں۔

وَوَقَعَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حِينَ غَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ، قَالَ زَيْدٌ: فَلَا وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ أَثْقَلَ مِن فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((اَكْتُبْ يَا زَيْدُ)) فَأَخَذْتُ كِتْفًا فَقَالَ: ((اَكْتُبْ) لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ) الْآيَةَ كُلَّهَا إِلَيَّ قَوْلِهِ: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَكَتَبْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي، فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَقَامَ حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ يَمُنُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ؟ قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ! مَا مَضَى كَلَامُهُ أَوْ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَضَى كَلَامَهُ، غَشِيَتْ النَّبِيَّ ﷺ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((اقْرَأْ)) فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ قَالَ زَيْدٌ: فَأَلْحَقْتُهَا، فَوَاللَّهِ! لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ كَانَ فِي الْكِتْفِ. (مسند احمد: 22004)

(22004)

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.....

”4-95 ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے، جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔“ (سورۃ نساء: ۹۵) جو آیت پہلے نازل ہوئی، اس میں مطلق طور پر مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی، پھر سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سوال پر جو حصہ نازل ہوا، اس میں معذور لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔

(۸۴۰۴)۔ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُمَّاسَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرَّقَاعِ إِذْ قَالَ: ((طُوبَى لِلشَّامِ)) قِيلَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ۲۱۹۴۳)

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے کپڑے کے ٹکڑوں میں قرآن مجید کی تالیف کر رہے تھے، اچانک آپ ﷺ نے فرمایا: ”شام کے علاقہ کے لئے خوشخبری ہو۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”رحمت کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلانے ہوئے ہیں۔“

فوائد: کاغذ کی قلت کی وجہ سے کپڑے پر قرآن مجید لکھا گیا۔

(۸۴۰۵)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرَّقَاعِ إِذْ قَالَ: ((طُوبَى لِلشَّامِ)) قِيلَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ۲۱۹۴۳)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے لئے کتابت کرتا تھا، اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی ہوئی تھی اور جو آدمی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تھا، وہ ہم میں بڑی قدر و منزلت والا سمجھا جاتا تھا، جب نبی کریم ﷺ نے اس آدمی کو ﴿عَفُورًا رَحِيمًا﴾ تو وہ ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ لکھتا، لیکن آپ ﷺ اس سے فرماتے: ”ایسے ایسے لکھ، چلو جیسے تیری مرضی لکھ۔“ پھر آپ ﷺ اس کو ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ لکھواتے، لیکن وہ کہتا: میں تو ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ لکھوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس طرح تو چاہتا ہے لکھ لے۔“ پھر ہوا یوں کہ وہ آدمی ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ فَيَقُولُ: ((اُكْتُبْ كَيْفَ كُنْتُ)) وَيَمْلِي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ يُمْلِي عَلَيْهِ ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فَيَقُولُ: ((اُكْتُبْ كَيْفَ كُنْتُ)) فَيَقُولُ: ((اُكْتُبْ كَيْفَ كُنْتُ))

(۸۴۰۴) تخريج: اسنادہ حسن - أخرجه الترمذی: ۳۹۵۴ (انظر: ۲۱۶۰۷)

(۸۴۰۵) تخريج: أخرجه البخاری: ۳۶۱۷، ومسلم: ۲۷۸۱ (انظر: ۱۲۲۱۵)

اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا اور ان کو کہنے لگا: میں محمد ﷺ سے زیادہ جاننے والا ہوں میں جو چاہتا تھا، لکھ لیتا تھا۔ پھر وہ مر گیا اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔“ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ وہ اس علاقے میں گیا، جس میں وہ آدمی مرا تھا، انھوں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کی میت باہر پھینکی ہوئی پڑی تھی، پس انھوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے، لوگوں نے کہا: ہم تو اس کو کئی بار دفن کر چکے ہیں، لیکن زمین اس کو قبول نہیں کرتی۔

فوائد: ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ کو الہام یا وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ آدمی کی نیت خبیث ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی کاروائی کرے گا، پھر ایسے ہی ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس نافرمانی اتنی ناپسند آئی کہ فرعون کی طرح اس کے وجود کو بھی باعث عبرت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کی خباثت کا احساس ڈال دیا، جس کی وجہ سے زمین نے بھی اس کو قبول نہ کیا، جبکہ زمین اس سے زیادہ بروں کو قبول کر لیتی ہے۔

(دوسری سند) سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمارے قبیلے بنو نجار کا ایک آدمی تھا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی تھی اور وہ نبی کریم ﷺ کا کاتب تھا، لیکن ہوا یوں کہ وہ (مرتد ہو کر) بھاگ گیا اور اہل کتاب سے جا ملا، انہوں نے اس کو بڑی شان دی اور کہا کہ یہ شخص تو محمد ﷺ کا کاتب تھا، سو انھیں بڑا تعجب ہوا (کہ محمد ﷺ کے خلاف بڑی دلیل مل گئی ہے)، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ تمام کر دیا (اور وہ مر گیا)، انہوں نے اسے دفن کرنے کے لئے گڑھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو دیکھا گیا کہ زمین نے تو اس کو باہر پھینک دیا ہے، انہوں نے دوبارہ گڑھا کھودا اور اس کو دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر دیکھا گیا کہ زمین نے اس کو پھر پھینک دیا، انہوں نے پھر گڑھا

سُئِتَ۔) فَارْتَدَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمُحَمَّدٍ إِنْ كُنْتُ لَا كُتُبُ مَا سُئِتُ، فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَقْبَلْهُ)) وَقَالَ أَنَسٌ: فَحَدَّثَنِي أَبُو طَلْحَةَ: أَنَّهُ أَتَى الْأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهُ مَبْنُودًا، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا شَأْنُ هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: قَدْ دَفَنَاهُ مِرَارًا فَلَمْ يَقْبَلْهُ الْأَرْضُ۔ (مسند احمد: ۱۲۲۳۹)

(۸۴۰۵م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ: كَانَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، قَدْ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَارْفَعُوهُ، وَقَالُوا: هَذَا كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأَعْجَبُوا بِهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ فَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا،

فَرَكُوهُ مَنبُودًا۔ (مسند احمد: ۱۳۳۵۷) کھودا اور اس کو دفن کیا، لیکن پھر وہی کچھ ہوا کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، پس انھوں نے اس کو ایسے ہی سطح زمین پر چھوڑ دیا۔

فوائد: نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں مختلف چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا، جیسے کاغذ، چمڑا، شانے کی ہڈی، کپڑا، کھجور کی شاخ، سفید پتھر، وغیرہ وغیرہ، البتہ ابھی تک قرآن مجید کی ایک جلد میں کتابی شکل وجود میں نہیں آئی تھی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْلِيفِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِهِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تالیف قرآن کا بیان

(۸۴۰۶)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَبَ بِأَهْلِ الْيَمَامَةِ مِنْ قُرَاءِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَاءِ فِي الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ لَا يُوعَى، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: وَكَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى سَرَحَ اللَّهُ بِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ فِيهِ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ لَا تَهْمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْمَعْهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ، لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلٍ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ،

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمامہ کی لڑائی میں حفاظ کی شہادت کے سانحہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، جب میں حاضر ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یمامہ میں حفاظ قرآن کی شہادتیں کثرت سے ہوئی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حفاظ قرآن کی شہادتوں کا یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو قرآن مجید کا بیشتر حصہ ضائع ہو جائے گا اور اس کو یاد نہیں رکھا جائے گا، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دے دیں، لیکن میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں وہ کام کیسے کروں، جو نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا، لیکن انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! یہ کام بہتر ہے، پھر یہ اس بارے میں مجھ سے تکرار کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے اور میں نے بھی اس رائے کو پسند کر لیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: اے زید! تم ایک عقلمند نوجوان اور قابل اعتماد آدمی ہو اور تم نبی کریم ﷺ کی وحی بھی لکھا کرتے تھے، لہذا یہ خدمت تم نے ہی سرانجام دینی ہے، سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اگر یہ

فَقُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (مسند احمد: ۷۶)

مجھے کسی پہاڑ کو سر پر اٹھانے کی تکلیف دیتے تو اس کا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ہوتا جو انہوں نے قرآن مجید جمع کرنے کی مجھ پر ذمہ داری ڈالی تھی، پس میں نے کہا: آپ لوگ وہ کام کس طرح کرو گے، جو نبی کریم ﷺ نے نہیں کیا، تاہم ان کی تکرار کے بعد میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔

فوائد: عہد نبوی میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا، جیسا کہ پچھلے باب سے ثابت ہو رہا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک جلد میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ خلافت صدیقی میں یمامہ کی لڑائی مدعی نبوت میلہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں سات سو سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے، ان میں اکثر قرآن کریم کے حفاظ و قراء تھے۔ اس روایت سے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی منقبت ثابت ہوتی ہے، مؤخر الذکر نے حفاظت قرآن کی رائے دی اور اول الذکر نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، بہر حال یہ دو ہستیاں اور ان کے معاونین ﴿وَأَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کا مصداق بنتی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أَبُو بَكْرٍ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ۔ قرآنی مصاحف کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ اجر پانے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، پیشک سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے قرآن مجید کو دو جلدوں کے اندر جمع کیا۔ (فضائل القرآن لابی عبید: ص ۱۵۶، المصاحف لابن ابی داؤد: ص ۱۱)

(گویا قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی رائے سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کی، سب سے پہلے یہ کام کرنے کا حکم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا اور عملی طور پر سب سے پہلے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کیا۔) (عبداللہ رفیق)

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے خوبصورت باتیں کرتے ہوئے کہا: فَجَمَعَ الصَّدِيقُ النَّخِيرَ وَكَفَّ الشُّرُورَ۔ پس جناب صدیق نے خیر کو جمع کر دیا اور شرور کو روک دیا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۵)

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کیا، لوگ لکھتے تھے اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہیں لکھواتے تھے، جب سورہ براءہ کی اس آیت تک پہنچے ﴿ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرْفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ”پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان

کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔“ تو انھوں نے گمان کیا کہ سورت کی آخری آیت ہے، لیکن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اس کے بعد بھی یہ دو آیتیں پڑھائی تھیں:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾..... ”بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس تمھی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔“ پھر انھوں نے کہا: قرآن کا یہ حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا تھا۔ پھر انھوں نے کہا: پس جس توحید کے ساتھ دین کو شروع کیا گیا تھا، اسی کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا، ان کی مراد یہ ”اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ تھی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾..... ”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اس کی طرف یہی وحی کی گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں ہی، پس تم میری عبادت کرو۔“ (مذکورہ روایت کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں لفظ یہ ہے ”يُوحِي إِلَيْهِ“ اس (ہر رسول) کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ جبکہ ہمارے ہاں معروف قراءت ”يُوحِي إِلَيْهِ“ ہے۔ ”ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے۔“ (عبداللہ رفیق)

[۱۲۷] فَظَنُّوْا اَنَّ هَذَا اٰخِرُ مَا اُنزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُمْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَأَنِي بَعْدَهَا اَيَّتَيْنِ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ﴾ اِلَى ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾ [۱۲۸-۱۲۹] ثُمَّ قَالَ: هَذَا اٰخِرُ مَا اُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَخْتِمَ بِمَا فُتِحَ بِهِ بِـ”اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا يُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ﴾ [الانبیاء: ۲۵]۔ (مسند احمد: ۲۱۵۴۶)

فوائد:..... حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی نے توحید سے

اپنے دین کا آغاز کیا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾..... ”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اس کی طرف یہی وحی کی گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں ہی، پس تم میری عبادت کرو۔“ (سورۃ انبیاء: ۲۵) اور اس حدیث کے مطابق سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ براءۃ کی درج ذیل آیت ہے: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾..... ”پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسا کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔“ (سورۃ توبہ: ۱۲۹) اور اس آیت میں بھی توحید کا ذکر ہے، گویا آپ ﷺ نے توحید سے آغاز کیا اور توحید پر ہی اختتام کیا۔

بَابُ كِتَابَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصَاحِفِ فِي خِلَافَتِهِ وَتَوَازُعِهَا فِي الْأَقْطَارِ وَحَمْلِ النَّاسِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ عَنْهَا وَحَرْقِ مَا يُخَالِفُهَا مِنَ الصُّحُفِ وَالْمَصَاحِفِ الْقَدِيمَةِ
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا اپنے زمانہ خلافت میں (ایک قراءت کے مطابق) مصاحف لکھوانا، پھر ان کو مختلف علاقوں میں تقسیم کرنا اور لوگوں کو اس پر پابند رہنے پر آمادہ کرنا اور اس کے مخالف قراءت والے اور قدیم مصاحف کو جلا دینے کا بیان

(۸۴۰۸)۔ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ فَقَدْتُ آيَةَ كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﷺ إِلَى تَبْدِيلِهَا ﷺ قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا الشَّهَادَتَيْنِ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقِيلَ يَوْمَ صَفَيْنَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (مسند احمد: ۲۱۹۹۱)

سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب مصاحف تحریر کیے گئے تو مجھے ایک آیت نہیں مل رہی تھی، جبکہ میں نبی کریم ﷺ سے وہ سنا کرتا تھا، بالآخر میں نے وہ آیت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پائی، وہ آیت یہ تھی: ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﷺ إِلَى تَبْدِيلِهَا ﷺ﴾۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کو دو شہادتوں والا کہا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا، امام زہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ صفین کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔

فوائد:..... آیت کو گم پانے کا یہ واقعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو دو آیتیں گم پائی تھیں، وہ سورۃ توبہ کی آخری تھیں۔

(۸۴۰۸)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةَ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمَصَاحِفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا: ﴿رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتٍ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ۔ (مسند احمد: ۲۱۹۸۲)

(دوسری سند) سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ہم مصحف لکھ رہے تھے تو میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہ پائی، جب کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے وہ سن رکھی تھی، وہ یہ آیت تھی: ﴿رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾..... جب میں نے وہ آیت تلاش کی تو اس کو سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پایا، پس میں اس کو مصحف میں اس کی سورت میں لکھ دیا۔

فوائد: حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سے ہے کہ انھوں نے لوگوں کو قرآن مجید کی ایک قراءت پر جمع کر دیا، تاکہ لوگوں میں اختلاف واقع نہ ہو، جبکہ ان سے پہلے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما حفاظت قرآن کا اہتمام کر چکے تھے، پس ائمہ اربعہ اور خلفائے اربعہ دین کے مصاحف پر متفق تھے۔

صحیح بخاری کی درج ذیل مفصل روایت سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أَنَّ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِزْمِينَةَ وَأَذْرَبِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُدَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ لِعُمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ فَنَسَخُوا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَابْتُكِبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفِ فِي الْمَصَاحِفِ، رَدَّ عُمَانُ الصُّحُفِ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَقْبَى بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةَ مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بِنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً أَفَاتَرُكُ مَا
 أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، (وَفِي
 رِوَايَةٍ) قَرَأَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعِينَ
 سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ لَهُ ذُؤَابَةٌ فِي
 الْكِتَابِ - (مسند احمد: ۳۹۲۹)

نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے ستر (۷۰) سورتیں سنی ہیں، کیا میں انہیں چھوڑ دوں۔ ایک روایت میں ہے: میں نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے اس وقت ستر (۷۰) سورتیں سن لی تھیں، جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھنے کے معاملے میں ابھی تک بچہ تھا۔

فوائد:..... جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرآن مجید کی صرف ایک قراءت کو برقرار رکھنے اور باقی قراءتوں کو جلا دینے کا حکم دیا تو سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے متفق نہ ہوئے، انھوں نے سیدنا زید کی بات اس وجہ سے کی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم جمع قرآن کے سلسلے میں زیادہ اعتماد ان پر کیا تھا، ایک روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔ ”ذُؤَابَةٌ“ کے معنی بالوں کی لٹ کے ہیں، عرب بچوں کے بالوں کے ایک دو لٹیں بنا دیتے تھے، اس سے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا بچپن ظاہر کرنا تھا۔ شقیق کہتے ہیں: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (جو آدمی خیانت کرے گا، وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو لائے گا۔) اور پھر انھوں نے کہا: عَلِيٌّ قَرَأَهُ مِنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَعْلَمَ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ -..... تم مجھے کس کی قراءت کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہو؟ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے چھتر ستر سورتیں پڑھی تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو میں اس کی طرف رخت سفر باندھوں گا۔ (صحیح مسلم: ۲۴۶۲)

حافظ ابن حجر نے (فتح الباری: ۹/۳۹) میں کہا: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خیانت کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا نسخہ چھپا لیا جائے تاکہ اس کو نکال کر ختم نہ کر دیا جائے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق نہیں تھے، یا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر انکار تو نہیں کرنا چاہتے تھے، البتہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس قراءت کو برقرار رکھیں، جس میں ان کی خاص خوبی پائی جاتی تھی، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا اور کسی وجہ تریج کے بغیر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قراءت کو ترجیح دی جا رہی ہے تو انھوں نے اسی قراءت پر استمرار کو پسند کیا اور ابن ابی داؤد نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا: ”بَابُ رِضَى بْنِ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا صَنَعَ عُسْمَانُ“ (سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کیے پر راضی ہو جانے کا بیان) لیکن پھر انھوں نے کوئی ایسی روایت نقل نہیں کی، جو اس سرخی کے موافق ہو۔ شیخ احمد شاکر نے کہا: جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اختلاف کے ڈر سے

لوگوں کو مصحف الامام پر متفق ہو جانے کا حکم دیا تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، جبکہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور انھوں نے خیانت والی مذکورہ بالا آیت کی تاویل کرنے میں خطا کی ہے، کیونکہ یہ آیت خیانت یا تقسیم سے قبل مال غنیمت سے کوئی چیز لے لینے کے بارے میں ہے (جو کہ قابلِ مذمت چیز ہے)۔

دراصل سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو سمجھتے تھے، ان کا مقصد اور تھا۔

عبدالرحمن بن عابس کہتے ہیں: ہمدان کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کا نام نہیں لیا، انھوں نے ہمیں بیان کیا کہ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا چاہا تو انھوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا اللہ کی قسم! میں امید رکھتا ہوں کہ تم مسلمانوں کے لشکروں میں سے سب سے بہترین ہو، تم دین، فقہ، علم اور قرآن پڑھ رہے ہو، یہ قرآن سات قراءتوں پر نازل ہوا، اللہ کی قسم! دو آدمی قرآن کے بارے میں سخت ترین جھگڑا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہ کرنا، جب کوئی کہے کہ اس نے مجھے یوں پڑھایا ہے تو اسے کہو کہ وہ بہتر کہتا ہے، جب کوئی دوسرا کہے کہ مجھے فلاں نے اس طرح پڑھایا ہے تو تم دونوں کو بہتر کہو، کیونکہ دونوں نے علیحدہ علیحدہ قراءتوں میں پڑھایا ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی جانب لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی سے کہے کہ اس نے جھوٹ بولا یا فسق و فجور کیا اور جب کسی نے سچ کہا تو اس سے کہو تو نے سچ کہا اور نیکی کی، یقیناً یہ قرآن نہ اختلاف پیدا کرتا ہے، نہ یہ بوسیدہ ہوتا ہے اور نہ یہ حقیر چیز ہے، چاہے کس قدر اس کا تکرار کیا جائے، جو اسے ایک قراءت پر پڑھے، اسے بے رغبتی کرتے ہوئے نہ چھوڑے اور جو اسے ان قراءتوں کے مطابق پڑھے، جن کی نبی کریم ﷺ

(۸۴۱۰)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا قَالَ: لَمَّا أَرَادَ بِعَدْلِهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ فِيكُمْ مِنْ أَفْضَلِ مَا أَصْبَحَ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الدِّينِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَيَّ -حُرُوفٍ، وَاللَّهِ! إِنْ كَانَ الرَّجُلَانِ لَخْتَصِمَانِ أَشَدَّ مَا اخْتَصَمَا فِي شَيْءٍ قَطُّ، فَإِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: هَذَا أَقْرَأَنِي قَالَ: أَحْسَنْتَ، وَإِذَا قَالَ الْآخَرُ: قَالَ: كَيْلَا كُما مُحْسِنٌ، فَأَقْرَأْنَا إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَالْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَاعْتَبِرُوا ذَلِكَ بِقَوْلِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ كَذِبٌ وَفَجْرٌ وَيَقُولُهُ إِذَا صَدَّقَهُ صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يُسْتَشَنُّ وَلَا يَتَفَعُّ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ، فَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى حَرْفٍ فَلَا يَدْعُهُ رَغْبَةً عَنْهُ، وَمَنْ قَرَأَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ

نے تعلیم دی ہے، تو وہ انہیں بھی بے رغبتی کی وجہ سے نہ چھوڑے جو ایک آیت کا انکار کرے، گا، گویا اس نے اس کی تمام آیتوں کا انکار کیا، اسی طرح ان قراءتوں کا معاملہ ہے، قراءت کا اختلاف اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی نے کہا: اِعْجَلْ، وَحَىٰ هَلَا۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے علم ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر نازل کیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ اس کا علم رکھتا ہے تو میں اسے ضرور تلاش کروں گا تا کہ اپنے علم میں اضافہ کر سکوں۔ عن قریب ایسے لوگ ہوں گے جو نمازوں کو ان کے وقت سے فوت کریں گے، لیکن تم نماز بروقت ادا کر لینا اور اگر تاخیر کرنیوالوں کے ساتھ موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھا لینا، یہ تمہاری نفل ہوگی، نبی کریم ﷺ ہر رمضان میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے، جس سال آپ فوت ہوئے میں نے آپ پر دو مرتبہ قرآن پڑھا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے اچھا کیا ہے اور میں نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے ستر (۷۰) سورتیں سنی ہیں۔

الَّتِي عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا يَدَعُهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَجْحَدُ بِآيَةٍ مِنْهُ يَجْحَدُ بِهِ كُلَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ: اِعْجَلْ، وَحَىٰ هَلَا، وَاللَّهِ! لَوْ أَعْلَمَ رَجُلًا أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنِّي لَطَلَبْتُهُ حَتَّىٰ أَزِدَّادَ عِلْمِهِ إِلَىٰ عِلْمِي إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِيُوفِّيَهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَارِضُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإِنِّي عَرَضْتُ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ، فَأَنْبَأَنِي أَنِّي مُخْسِنٌ، وَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعِينَ سُورَةً۔ (مسند احمد: ۳۸۴۵)

فوائد:..... یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں بیان شدہ درج ذیل تین امور شواہد کی بنا پر صحیح ہیں:

(۱) سچائی کا نیکی اور جنت کی طرف لے جانا اور جھوٹ کا برائی اور پھر جہنم کی طرف لے جانا۔

(۲) لوگوں کا نماز تاخیر سے ادا کرنا اور دوسرے لوگوں کو ایسے میں نماز کی خاص تعلیم دینا۔

(۳) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ ﷺ سے ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کرنا۔

لفلفہ بھٹی کہتے ہیں: میں بھی ان گھبرانے والوں میں سے تھا، جو قرآن کے بارے میں گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے، سو ہم سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ہم میں سے ایک آدمی نے کہا: ہم صرف ملاقات کے لئے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں اس خبر نے بہت خوفزدہ کیا ہے کہ (قریش کی زبان

۸۴۱۱)۔ عَنِ فُلْفُلَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: فَرِعْتُ فِيمَنْ فَرَعَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَصَاحِفِ قَدْ خَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا لَم نَأْتِكَ زَائِرِينَ وَلَكِنْ جِئْنَاكَ حِينَ رَاعَنَا هَذَا الْحَبْرُ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَىٰ

(۸۴۱۱) تخريج: اسنادہ ضعیف، عثمان بن حسان العامری، ذکرة ابن حبان فی "الثقات"، و ذکرہ البخاری فی "التاریخ الکبیر"، و ابن ابی حاتم فی "الجرح والتعدیل" ولم یذکرا فیہ جرحا ولا تعدیلا۔ أخرجه ابن ابی داود فی "المصاحف": ص ۱۸، و الطحاوی فی "شرح مشکل الآثار": ۳۰۹۴ (انظر: ۴۲۵۲)

نَبِيكُمْ ﷺ مِنْ سَبْعَةِ ابْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ
 اَحْرُفٍ اَوْ قَالَ: حُرُوفٍ، وَاِنَّ الْكِتَابَ قَبْلَهُ
 كَانَ يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَاَحَدٍ عَلَى حَرْفٍ
 وَاَحَدٍ۔ (مسند احمد: ۴۲۵۲)

میں قرآن پڑھا جائے اور دوسرے نسخے جلا دیئے گئے ہیں۔
 انہوں نے کہا: تمہارے نبی پر قرآن مجید سات قراءتوں
 میں نازل ہوا ہے، جبکہ آپ ﷺ سے پہلے والی کتابیں ایک
 ہی قراءت پر نازل ہوتی تھیں۔

فوائد:..... قرآن مجید کی مختلف قراءات کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا حل یہ
 تجویز کیا کہ قریش کی قراءت کو باقی رکھا جائے اور باقی قراءتوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے، یہ خلیفہ رسول کا ایک مستحسن
 فیصلہ تھا، صحابہ کرام نے ان سے اتفاق کیا، لیکن سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ان سے مختلف رہی اور وہ اس فیصلے
 سے متفق نہ ہوئے۔



أَبْوَابُ الْقِرَاءَاتِ وَجَوَازِ اِخْتِلَافِهَا وَالنَّهْيِ عَنِ الْمِرَاءِ فِيهَا
 قراءات، ان میں اختلاف کا جواز اور ان کے بارے میں جھگڑنے سے
 ممانعت کے ابواب

تنبیہ:..... قرآن مجید کی مختلف قراءات کی تفصیل اور حقیقت کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۳۳۵) کا باب۔

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ عَامًّا وَاجْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ

قراءتوں کے بارے میں عام روایات اور اس مسئلہ میں صحابہ کے اختلاف کا بیان

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ پینتیس آیتیں ہیں اور کسی نے چھتیس آیتوں کی رائے دی، پس ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس چلے گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ سے سرگوشی کرتے ہوئے پایا، ہم نے کہا: قراءت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، یہ سنتے ہی نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ تم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کتاب کو ایسے پڑھو، جیسے تم کو تعلیم دی گئی ہے۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مسجد میں تھا، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ایسی قراءت

(۸۴۱۲)۔ عَنْ زُرِّبِنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: تَمَارَيْنَا فِي سُورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْنَا: خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً، سِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْنَا عَلِيًّا ﷺ يَتَجَنَّبُ، فَقُلْنَا: إِنَّا اِخْتَلَفْنَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيُّ ﷺ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَأُوا وَكَمَا عَلَّمْتُمْ۔ (مسند احمد: ۸۳۲)

(۸۴۱۳)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَرَأَ قِرَاءَةً

(۸۴۱۲) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابن حبان: ۷۴۶، والبخاری: ۴۴۹ (انظر: ۸۳۲)

(۸۴۱۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۲۰ (انظر: ۲۱۱۷۹)

کی، جس کا میں نے انکار کیا، اتنے میں ایک اور آدمی داخل ہوا تو اس نے پہلے والے فرد کی قراءت کے خلاف قراءت کی، ہم اٹھے اور نبی کریم ﷺ کے پاس چلے گئے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس آدمی نے جو قراءت کی ہے، میں اسے بھی نہیں جانتا، پھر یہ دوسرا داخل ہوا ہے، اس نے اس کے خلاف قراءت کی ہے، اس کو بھی میں نہیں جانتا، نبی کریم ﷺ نے ان دونوں سے کہا: ”پڑھو۔“ جب انہوں نے تلاوت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دونوں نے درست پڑھا ہے۔“ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ نے دونوں کو درست قرار دیا تو یہ بات مجھ پر بہت گراں گزری، جب نبی کریم ﷺ نے دیکھا کہ گرانی مجھ پر غالب آگئی ہے، تو آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، تو مجھے اتنا پسینہ آیا کہ میں بھگ گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابی! میرے رب تعالیٰ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ قرآن مجید کو ایک قراءت پر پڑھوں، میں نے درخواست کی کہ میری امت پر آسانی کرو، پس اللہ تعالیٰ دو قراءتوں پر پڑھنے کا پیغام بھیجا، میں نے پھر گزارش کی کہ میری امت پر آسانی کرو، پس اللہ تعالیٰ نے سات قراءتوں پر قرآن کی تلاوت کرنے کا پیغام بھیجا، نیز جتنی دفعہ آپ نے مطالبہ کیا، اتنے مجھ سے سوال کر سکتے ہو، میں نے کہا: اے اللہ! میری امت کو بخش دو، اے اللہ! میری امت کو بخش دو، تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے موخر کر دی ہے جس دن مخلوق میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔“

فوائد: مراد یہ ہے کہ لوگ آپ ﷺ سے گزارش کریں گے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں کہ وہ اپنی مخلوق کا حساب و کتاب شروع کرے، اس کو شفاعتِ عظمیٰ کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں احادیث نمبر (۱۳۰۹۷) (۱۳۱۰۳) اور ان کے فوائد۔

أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَائَةِ صَاحِبِهِ، فَقُمْنَا جَمِيعًا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ هَذَا فَقَرَأَ قِرَاءَةً غَيْرَ قِرَائَةِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: ((افْرَأَا-)) فَقَرَأَا قَالَ: ((أَصَبْتُمَا)) فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي قَالَ كَبُرَ عَلَيَّ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، نَلَمَّا رَأَى الَّذِي غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي سَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَقًا، فَقَالَ: ((يَا أَبُي! إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ اِقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَردَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَ عَلَى أُمَّتِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ اِقْرَأْهُ نَسْلِي حَرْفَيْنِ، فَردَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوَ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ اِقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُ بِهَا، قَالَ: ((قُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّتِي، وَأَخْرَجْتُ الثَّلَاثَةَ لِيَوْمٍ يَرْعَبُ إِلَيَّ فِيهِ الْخَلْقُ حَتَّىٰ يُبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ))

(مسند احمد: ۲۱۴۹۸)

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا: تجھے کس نے یہ آیت پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا: لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انداز میں پڑھائی ہے، پس وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ آیت اس طرح ہے، پھر اس نے اس کی تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسی طرح نازل ہوئی ہے۔“ دوسرے نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس طرح بھی نازل ہوئی ہے۔“ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ قرآن مجید سات قراء توں پر نازل ہوا ہے، اس میں سے جس کے مطابق بھی پڑھو، درست ہے، اس قرآن میں جھگڑا مت کرو، کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر یا کفر کی علامت ہے۔“

سیدنا ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو آدمیوں کا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہوا، پھر اسی طرح کی روایت ذکر کی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قرآن مجید سات قراء توں پر نازل ہوا، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، جو تمہیں علم ہو جائے، اس پر عمل کرو اور جس کا علم نہ سکے، اس کو اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو۔“

(۸۴۱۴)۔ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أقرأَ كَهَذَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَقَدْ أقرأَ نَبِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ غَيْرَ هَذَا، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آيَةٌ كَذَا وَكَذَا تُمْ قَرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَكَذَا أَنْزَلْتُ)) فَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَرَأَهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((هَكَذَا أَنْزَلْتُ)) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَأَيُّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَحْسَنْتُمْ، وَلَا تَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ أَوْ آيَةُ الْكُفْرِ)) (مسند احمد: ۱۷۹۷۵)

(۸۴۱۵)۔ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ۔ (مسند احمد: ۱۷۶۸۳)

(۸۴۱۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((نُزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)) (مسند احمد: ۷۹۷۶)

(۸۴۱۴) تخريج: حديث صحيح (انظر: ۱۷۸۲۱)

(۸۴۱۵) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین (انظر: ۱۷۵۴۲)

(۸۴۱۶) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین - أخرجه النسائي في "الكبرى": ۸۰۹۳، وابويعلی:

۶۰۱۶، وابن حبان: ۷۴ (انظر: ۷۹۸۹)

(۱۶ ۸۴م)۔ (وَعَسَهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْزَلَ الْقُرْآنَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ عَلَيْنَا حَكِيمًا عَفُورًا رَحِيمًا)) (مسند احمد:)

(دوسری سند) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرآن حکیم سات قراءات پر نازل ہوا، اسی لیے ”عَلَيْنَا حَكِيمًا“ کے بجائے ”عَفُورًا رَحِيمًا“ پڑھا جا سکتا ہے۔“

فوائد: علامہ سندھی نے کہا: اس حدیث کے دوسرے حصے کا معنی یہ ہے کہ ”عَلَيْنَا حَكِيمًا“ کی جگہ پر ”عَفُورًا رَحِيمًا“ یا اس کے برعکس پڑھنا جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ طبری اور ابن عبد البر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا وَلَا حَرَجَ، وَلَكِنْ لَا تَخْتَمُوا ذِكْرَ رَحْمَةِ بَعْدَابٍ، وَلَا ذِكْرَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ)) ”بیشک یہ قرآن سات قسم کی لغات پر نازل ہوا، پس تم کسی بھی لغت میں اس کی تلاوت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، البتہ اتنا خیال رکھو کہ رحمت کے ذکر کو عذاب کے ذکر کے ساتھ اور عذاب کے ذکر کو رحمت کے ذکر کے ساتھ ختم نہ کرو۔“

(۱۷ ۸۴)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا، مَا أَحِبُّ أَنْ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، أَ قَبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشِيخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَّرْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةَ إِذْ ذَكَرُوا آيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ بِرَمِيهِمْ بِالْتَرَابِ، وَيَقُولُ: ((مَهْلًا يَا قَوْمِ! هَذَا أَهْلَكَتِ الْأُمَّمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرَبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ بِكَذِّبٍ بَعْضُهُ بِبَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص علیہ السلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے اور میرے بھائی کے مابین ایک مجلس ہوئی، اس میں بیٹھنا میرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تفصیل یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی آئے اور بزرگ صحابہ کی ایک جماعت کو پایا کہ وہ آپ ﷺ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان میں تفریق ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ایک کونے میں بیٹھ گئے، انہوں نے ایک آیت کا ذکر کیا اور پھر اس میں جھگڑنا کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بند ہو گئیں، اتنے میں نبی کریم ﷺ ان کے پاس آئے، جبکہ آپ ﷺ غصہ کی حالت میں تھے اور آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا، آپ ﷺ نے ان صحابہ پر مٹی پھینکی اور فرمایا: ”لوگو! رک جاؤ، تم میں سے پہلے والی امتیں اسی اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب کے بعض حصے کو بعض سے لکرایا، بیشک

(۱۶ ۸۴) تخريج: اسنادہ حسن - أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ۳۱۰۱ (انظر: ۸۳۹۰)

(۱۷ ۸۴) تخريج: صحيح (انظر: ۶۷۰۲)

عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَأَعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جِهَلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ۔)) (مسند احمد: ۶۷۰۲)

قرآن مجید اس طرح نازل نہیں ہوا کہ اس کا بعض بعض کی تکذیب کر رہا ہو، بلکہ اس کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے، پس جس حصے کا تمہیں علم ہو جائے، اس پر عمل کرو اور جس حصے کا علم نہ ہو سکے، اس کو اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو۔“

فوائد: قرآن مجید میں ممنوعہ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ درج ذیل بحث پر توجہ کریں: کتنی قابل غور بات ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس مجلس کو ختم کر دینے کا حکم دیا ہے، جس میں اختلاف قرآن پر بحث شروع ہونے لگے، سیدنا جناب بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اَفْرَوْا الْقُرْآنَ مَا اِتْلَفْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَاِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فَفَوِّمُوا عَنْهُ.)) ”قرآن مجید اس وقت تک پڑھا کرو، جب تک تمہارے دل اس (کے معانی) پر متفق رہیں، جب تم میں (اس کے معانی سمجھنے میں) اختلاف پڑ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔“ (بخاری، مسلم) یعنی اس مجلس میں بیٹھنا ہی منع ہے، جو قرآن مجید میں اختلاف کرنے پر مشتمل ہو۔ لیکن اس کتاب میں جھگڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟ شارح ابوداؤد علامہ عظیم آبادی نے کہا: قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک کرنا، یا اس موضوع پر غور و خوض کرنا کہ یہ کتاب محدث ہے یا قدیم، یا متشابہ آیات میں مجادلانہ انداز میں بحث مباحثہ کرنا۔ ان سب امور کا نتیجہ انکار اور کفر کی صورت میں نکلتا ہے۔ یا قرآن مجید کی سات قراءات پر مناظرہ کرنا اور کسی ایک قراءت کو حق تسلیم کر لینا اور دوسری کو باطل یا تقدیر والی آیات پر غیر ضروری بحث کرنا یا ان آیات کو موضوع بحث بنا کر مضامین قرآن میں نکلوا پیدا کرنا، جن کے معانی میں ظاہری طور پر تضاد پایا جاتا ہے۔ (عون المعبود: ۴۶۰۳ کے تحت، مفہوم پیش کیا گیا)

امام البانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابن عبد البر نے سیدنا نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ دو افراد ایک آیت کے بارے میں مجادلانہ گفتگو کریں، نتیجتاً ایک اس کا انکار کر دے، یا اس کو رد کرے یا اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے۔ ایسا جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (صحیحہ: ۳۴۴۷)

ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے کہا: جھگڑنے سے مراد ایک دوسرے کا رد کرنا ہے، مثلاً ایک آدمی ایک آیت سے ایک استدلال پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی کسی دوسری آیت سے اس کے الٹ استدلال کر کے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ ایسی آیات میں جمع تطبیق کی کوئی صورت پیدا کرے، تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے، اگر وہ مختلف آیات میں توافق نہ دے سکے تو اس کو اپنی سمجھ کی کوتاہی سمجھے اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (سورہ نساء: ۵۹) پھر انھوں نے ایک مثال دی: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ”کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“ جبکہ دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۹۷) ”تجھے جو بھلائی ملتی

ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔“

تناقض:..... پہلی آیت میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا اور دوسری آیت میں برائی کو بندے کی طرف منسوب کیا گیا۔ (اگر دوسری آیات، احادیث اور اجماع امت کو دیکھا جائے تو سب سے بہترین جمع و تطبیق یہ ہے کہ برائی بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی ہے، لیکن یہ برائی نفس کے گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی یہ نفس کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سورہ شوری: ۳۰) ”تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو (اللہ) معاف ہی فرما دیتا ہے۔“ (لیکن اگر تقدیر کا منکر اس بات پر ڈٹ جائے کہ برائی کا خالق انسان خود ہے اور اس قسم کی آیات کو انکارِ تقدیر پر بطور دلیل پیش کرے، تو یہی مجادلہ ہوگا، جس سے منع کیا گیا۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱/ ۴۹۳، مفہوم لکھا گیا، بریکٹ والا پیرا گراف راقم الحروف کی طرف سے لکھا گیا)

اگر کوئی مسلمان بعض آیات کو نہ سمجھ پا رہا ہو تو وہ درج ذیل حدیث کو مد نظر رکھے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو سنا، وہ قرآن میں اختلاف کر رہے تھے اور ایک دوسرے کا رد کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا: ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكَلِّمُوا إِلَى عَالِمِهِ۔)) ”تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو اس کے دوسرے حصے سے ٹکراتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس طرح نازل ہوئی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، پس تم اس کے بعض حصے کی وجہ سے اس کے بعض حصے کو نہ جھٹلاؤ۔ جتنا تم جان لو وہ بیان کرو، اور جو نہ جان سکو اس کو اس کے عالم کی طرف سپرد کر دو۔“ (احمد: ۶۷۴۱، ابن ماجہ)



بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مُفَصَّلًا وَاجْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ

مفصل قراءات اور اس میں صحابہ کے اختلاف کا بیان

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ

سورہ مائدہ میں قراءتوں کے اختلاف کا بیان

(۸۴۱۸)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَهَا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ نَصَبَ النَّفْسَ وَرَفَعَ الْعَيْنَ۔ (مسند احمد: ۱۳۲۸۲)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ آپ ﷺ نے ”النفس“ کے آخر پر زبر پڑھی اور ”العين“ کے آخر پر پیش۔

فوائد: متواتر قراءت میں ”العين“ پر بھی نصب ہے۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ هُودٍ

سورہ ہود کی قراءت کا بیان

(۸۴۱۹)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾۔ (مسند احمد: ۲۸۱۲۱)

سیدہ اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو یوں تلاوت کرتے ہوئے سنا: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ اور ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾۔

(۸۴۱۸) تخريج: اسنادہ ضعيف، ابو على بن زيد، جهله ابو حاتم، وذكره ابن حبان في ”الثقات“ - أخرجه ابوداود: ۳۹۷۶، ۳۹۷۷، والترمذی: ۲۹۲۹ (انظر: ۱۳۲۴۹)

(۸۴۱۹) تخريج: الشطر الاول محتمل للتحسين بشاهده، وهذا اسناد ضعيف - أخرجه ابوداود:

۳۹۸۲، والترمذی: ۳۲۳۷ (انظر: ۲۷۵۶۹)

فوائد: دونوں آیات کی متواتر قراءت یوں ہے: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ ﴿قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ سَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ سورة مریم کی قراءات کا بیان

(۸۴۲۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَفِظْتُ اسْتَنْتَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا؟ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ أَوْ ﴿عُسِيًّا﴾۔ (مسند احمد: ۲۲۴۶)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے تمام سنتیں یاد کی ہیں، البتہ مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ ﷺ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قراءت کرتے تھے یا نہیں، نیز میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ ﷺ ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ والی آیت میں لفظ ﴿عِتِيًّا﴾ پڑھتے تھے یا ﴿عُسِيًّا﴾ (دونوں الفاظ کے معانی بڑھاپے اور عمر رسیدگی کے ہیں)

فوائد: قرآن مجید کی متواتر قراءت یوں ہے: ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ سورة فرقان کی قراءت کا بیان

(۸۴۲۱)۔ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهَيْشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَيْدْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَنَزَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرُؤُهَا؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہشام بن حکیم بن حزام کے پاس سے گزرا جو سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، یہ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کی بات ہے، جب میں نے ان کی قراءتوں کو غور سے سنی تو سمجھا کہ وہ ایسی قراءتوں پر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جو نبی کریم ﷺ نے مجھے نہیں پڑھائی، قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان کی طرف لپک پڑتا، لیکن میں نے انتظار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیرا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو پکڑ لیا اور کہا: تم کو کس نے یہ سورت پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا: نبی کریم ﷺ نے مجھے پڑھائی ہے، میں نے

(۸۴۲۰) تخريج: اسنادہ صحيح على شرط البخارى - أخرجه ابوداود: ۸۰۹ (انظر: ۲۲۴۶)

(۸۴۲۱) تخريج: أخرجه البخارى: ۴۹۹۲، ۶۹۳۶، و مسلم: ۸۱۸ (انظر: ۲۹۶)

کہا: تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر میں ان کو کھینچ کر نبی کریم ﷺ کے پاس لے گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ان سے سورہ فرقان سنی ہے، یہ ان قراءتوں کے مطابق پڑھتے ہیں، جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”انہیں چھوڑ دو، اے عمر! اے ہشام پڑھو۔“ انہوں نے آپ پر وہی قراءت کی، جو میں نے سنی تھی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر! تم پڑھو۔“ پس میں نے وہی قراءت پڑھی، جو آپ ﷺ نے مجھے پڑھائی تھی، وہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسی طرح نازل ہوئی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل ہوا ہے، جو بھی میسر آئے اس کے مطابق پڑھ لو۔“

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ! إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَأُهَا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُفَرِّقْهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرْسَلَهُ يَا عُمَرُ! اقْرَأْ يَا هِشَامُ.)) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُكَذَا أَنْزِلْتَ.)) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْرَأْ يَا عُمَرُ!)) فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((هُكَذَا أَنْزِلْتَ.)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأْ وَامْنُ مَا تَيَسَّرَ.)) (مسند احمد: ۲۹۶)

سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس کے آخر میں ہے: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر! قرآن مجید سارے کا سارا درست ہے، جب تک کہ عذاب کی جگہ مغفرت کا اور مغفرت کی جگہ عذاب کا لفظ نہ بولا جائے۔“

(۸۴۲۲)۔ وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَنَحْوِهِ وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((يَا عُمَرُ! إِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ صَوَابٌ مَا لَمْ يُجْعَلْ عَذَابٌ مَغْفِرَةٌ أَوْ مَغْفِرَةٌ عَذَابًا.)) (مسند احمد: ۱۶۴۷۹)

فوائد: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حق کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے، اس لیے جب انہیں یہ گمان ہوا کہ یہ آدمی

قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کر رہا تو انہوں نے اس پر سختی کی۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الرُّومِ سورہ روم کی قرآات کا بیان

(۸۴۲۳)۔ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ لَيْكِن نَهَوْا نِيَّابَنِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾، پھر کہا: میں نے نبی کریم ﷺ پر اسی طرح قرآات کی تھی، جس طرح تم نے مجھ پر کی ہے، تو آپ ﷺ نے مجھے اسی طرح ٹوکا تھا، جس طرح میں نے تجھے ٹوکا ہے۔

(۸۴۲۳)۔ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ لَيْكِن نَهَوْا نِيَّابَنِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾، پھر کہا: میں نے نبی کریم ﷺ پر اسی طرح قرآات کی تھی، جس طرح تم نے مجھ پر کی ہے، تو آپ ﷺ نے مجھے اسی طرح ٹوکا تھا، جس طرح میں نے تجھے ٹوکا ہے۔

فوائد: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، وہ متواتر ہیں۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الزُّمَرِ سورہ زمر کی قرآات کا بیان

(۸۴۲۴)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (مسند احمد: ۲۸۱۵۸)

(۸۴۲۴)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي أَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (مسند احمد: ۲۸۱۵۸)

فوائد: اس آیت کی متواتر قرآات یوں ہے: ﴿قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ یعنی ”وَلَا يُبَالِي“ کے الفاظ اس قرآات میں نہیں ہیں اور اُنہ کی جگہ اِنہم کے نذر کی جگہ کسرہ ہے۔

(۸۴۲۳) تخريج: اسنادہ ضعيف لعطية بن سعد العوفي - أخرجه ابوداود: ۳۹۷۸، والترمذی: ۲۹۳۶ (انظر: ۵۲۲۷)

(۸۴۲۴) تخريج: اسنادہ ضعيف (انظر: ۲۷۶۰۶)

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْأَحْقَافِ

سورہ احقاف کی قراءات کا بیان

(۸۴۲۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿حَم﴾ الثَّلَاثِينَ يَعْنِي الْأَحْقَافَ فَقَرَأَ حَرْفًا، وَقَرَأَ رَجُلٌ آخَرَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْهُ صَاحِبُهُ، وَقَرَأْتُ آخَرًا فَلَمْ يَقْرَأْهَا صَاحِبِي، فَاَنْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَنَا فَقَالَ: ((لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ))، ثُمَّ قَالَ: ((انظروا أقرأكم رجلاً فخذوا بقرآته)) (مسند احمد: ۳۸۰۳)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ سورہ احقاف کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے ایک قراءت پڑھی، جبکہ ایک دوسرے آدمی نے دوسری قراءت پڑھی جو اس نے نہیں پڑھی تھی اور پھر میں نے ایسی قراءت پڑھی جو ان دونوں نے نہیں پڑھی تھی، سو ہم نبی کریم ﷺ کے پاس چلے گئے اور آپ ﷺ کو ساری بات بتلائی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اختلاف میں نہ پڑو، بیشک تم سے پہلے والے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم جائزہ لے لو، جو آدمی تم میں زیادہ پڑھا ہوا، اس کی قراءت سے پڑھ لیا کرو۔“

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

سورہ محمد کی قراءت کا بیان

(۸۴۲۶)۔ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ: نَهَيْكَ بْنُ سِنَانٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ آيَةً تَجِدُهَا أَوْ الْفَاءِ ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُلُّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذِهِ، قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفْصَلَ فِي رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذَا الشُّعْرَانِ مِنْ أَحْسَنِ الصَّلَاةِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقْوَامٌ لَا يُجَاوِزُ

شقیق بن عبداللہ کہتے ہیں: بنو بجیلہ قبیلے کا ایک آدمی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کو نہیک بن سنان کہا جاتا تھا، اس نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! اس آیت کو آپ کس طرح پڑھتے ہیں، یا، کے ساتھ یا الف کے ساتھ ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: اس کے علاوہ تو نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا: میں دو رکعت نماز میں مفصل سورتیں پڑھتا ہوں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو، بہترین نماز وہ ہے، جس میں رکوع و سجود اچھے انداز میں کئے جائیں، کچھ لوگ قرآن تو پڑھیں گے، مگر وہ ان کی ہنسیوں کی ہڈیوں

(۸۴۲۵) تخریج: اسنادہ حسن (انظر: ۳۸۰۳)

(۸۴۲۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۹۶، ومسلم: ۸۲۲ (انظر: ۳۶۰۷)

سے نیچے نہیں اترے گا، جب آدمی قرآن پڑھتا اور وہ اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو تب قرآن فائدہ دیتا ہے، میں ان آپس میں ملتی جلتی سورتوں کو پہچانتا ہوں، نبی کریم ﷺ جن میں سے دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے، اتنے میں علقمہ آئے اور وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلے گئے، ہم نے علقمہ سے کہا: ان سے ان ملتی جلتی سورتوں کے بارے میں دریافت کرو، جن میں سے نبی کریم ﷺ دو دو سورتیں پڑھا کرتے تھے، پس علقمہ ان کے پاس گئے اور پھر ہمارے پاس آ کر کہا: مفصل کی ابتدائی میں سورتیں، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تالیف قرآن کے مطابق تھا۔

تَرَاقِبِهِمْ، وَلِكِنَّهُ إِذَا قَرَأَهُ فَرَسَخَ فِي الْقَلْبِ نَفْعَ إِنِّي لَا عَرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: عَشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفْصَلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ (يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ)۔ (مسند احمد: ۳۶۰۷)

فوائد: ”آسین“ میں دو لغتیں ہیں: ”آسین“ اور ”آسین“۔ یاء کے ساتھ اس لفظ کی کوئی قراءت نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس آدمی کا سوال صحیح نہ ہو، اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک سوال کی طرف لگا دیا۔ ان میں سورتوں کی تفصیل یہ ہے: علقمہ اور اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أُنْسَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفْصَلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ أَهَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ وَنَثْرًا كَثِيرًا الدَّقْلَ لِجَنِّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ النَّجْمِ وَالرَّحْمَنِ فِي رَكْعَةٍ وَأَقْتَرَبَتْ وَأَحَاقَةَ فِي رَكْعَةٍ وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَإِذَا وَقَعَتْ وَتُونَ فِي رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمَلَ فِي رَكْعَةٍ وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَالذُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ۔ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ۔..... ایک آدمی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: میں مفصل سورتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، انھوں نے کہا: کیا تم شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو؟ یا سوکھی ردی کھجوروں کی طرح بکھیرتے ہو؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ یکساں قسم کی دو دو سورتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، سورہ نجم اور سورہ رحمن ایک رکعت میں، سورہ قمر اور سورہ حاقہ ایک رکعت میں، سورہ طور اور سورہ زاریات ایک رکعت میں، سورہ واقعہ اور سورہ قلم ایک رکعت میں، سورہ معارج اور سورہ نازعات ایک رکعت میں، سورہ مطففين اور سورہ عبس ایک رکعت میں، سورہ مدثر اور سورہ مزمل ایک رکعت میں، سورہ دہر اور سورہ قیامہ ایک رکعت میں، سورہ نبا اور سورہ مرسلات ایک رکعت میں اور سورہ دخان اور سورہ تکویر ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ امام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوداؤد نے کہا: یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تالیف تھی۔

(ابوداؤد: ۱۳۹۶، لکن قال الالبانی: صحیح دون سرد السور)
 (۸۴۲۶م)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ زِرِّ أَنْ
 رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: كَيْفَ تَعْرِفُ هَذَا
 الْحَرْفَ مَاءً غَيْرِ يَاسِينَ أَمْ آسِينَ؟ فَقَالَ: كُلُّ
 الْقُرْآنِ قَدْ قَرَأْتُ؟ قَالَ: إِنِّي لَا أَقْرَأُ الْمَفْصَلَ
 أَجْمَعَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ: أَهَذَا
 الشُّعْرُ لَا أَبَا لَكَ، قَدْ عَلِمْتُ قَرَائِنَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ قَرِيبَتَيْنِ قَرِيبَتَيْنِ مِنْ
 أَوَّلِ الْمَفْصَلِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَفْصَلِ ابْنِ
 مَسْعُودٍ الرَّحْمَنِ۔ (مسند احمد: ۳۹۱۰)
 (دوسری سند) زر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے
 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کا اس قراءت کے بارے
 میں کیا خیال ہے "ماء غیر آسین" ہے یا "یاسین"؟ آگے
 سے انھوں نے کہا: کیا تو نے اس کے علاوہ سارا قرآن مجید
 پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا: میں تمام مفصل سورتیں ایک رکعت
 میں پڑھتا ہوں، انھوں نے کہا: کیا شعروں کی طرح جلدی
 جلدی، تیرا باپ نہ رہے، میں ان آپس میں ملتی جلتی سورتوں کو
 جانتا ہوں، جن کو آپ ﷺ دو دو سورتیں کر کے پڑھتے تھے،
 آپ ﷺ مفصل کی ابتداء سے شروع کرتے تھے۔ سیدنا
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں پہلی مفصل سورت رحمن تھی۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

سورہ ذاریات کی قراءت کا بیان

(۸۴۲۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
 أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي أَنَا الرَّزَاقُ
 ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾۔ (مسند احمد: ۳۷۷۰)
 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ
 نے مجھے پڑھایا ﴿إِنِّي أَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾۔

فوائد: قرآن مجید کی متواتر قراءت یوں ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْقَمَرِ

سورہ قمر کی قراءت کا بیان

(۸۴۲۸)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: أَقْرَأَنِي
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا
 سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی
 کریم ﷺ نے مجھے یوں پڑھایا: ﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ ایک آدمی نے کہا: اے ابو

(۸۴۲۶م) تخریج: صحیح، وانظر الحديث بالطريق الاول

(۸۴۲۷) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه ابوداؤد: ۳۹۹۳، والترمذی: ۲۹۴۰ (انظر: ۳۷۷۰)

(۸۴۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۳۴۵، ومسلم: ۸۲۳ (انظر: ۳۷۵۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَبْدَ الرَّحْمَنِ! مُدَكِّرٍ أَوْ مُدَكَّرٍ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُدَكِّرٍ. (مسند احمد: ۳۷۵۵)

عبدالرحمن! ”مُدَكِّرٍ“ ہے یا ”مُدَكَّرٍ“؟ انہوں نے کہا، مجھے نبی کریم ﷺ نے ”مُدَكِّرٍ“ پڑھایا تھا۔

فوائد: متواتر قراءت ”مُدَكِّرٍ“ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ سورة طلاق کی قراءت کا بیان

(۸۴۲۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ (مسند احمد: ۵۲۶۹)

سیدنا عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾

فوائد: متواتر قراءت یوں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ اللَّيْلِ سورة لیل کی قراءت کا بیان

(۸۴۳۰)۔ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا صَالِحًا، قَالَ: فَحَاءَ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ يَفْرَأَ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ: وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا زَالَ هُوَ لَاءَ حَتَّى شَكَّ كُونِي، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوَسَادِ، وَصَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى

علقمہ کہتے ہیں: میں شام گیا، مسجد دمشق میں داخل ہوا، اس میں دو رکعت نماز ادا کی اور یہ دعا کی: اے اللہ! مجھے نیک ہم نشین مہیا فرما، پھر میں سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا: تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا: کوفہ والوں میں سے۔ انہوں نے کہا: تم نے ابن ام عبد یعنی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ یہ سورت کیسے پڑھتے ہیں: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ میں نے کہا: وہ اس طرح پڑھتے ہیں: ﴿وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى﴾، انہوں نے کہا: میں نے بھی نبی کریم ﷺ سے سنا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے شک میں ڈال دیا، یہ چاہتے ہیں کہ میں ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْأُنْثَى﴾ پڑھوں، لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ پھر انہوں نے کہا: کیا تمہارے اندر یہ تین افراد نہیں ہیں: صاحب الوساد، رازدان، جس کے سوا سے کوئی نہیں جانتا اور اور جن کو

(۸۴۲۹) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۴۷۱ (انظر: ۵۲۶۹)

(۸۴۳۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۶۲۷۸، ومسلم: ۸۲۴ (انظر: ۲۷۵۳۸)

شیطان سے محفوظ کر دیا گیا۔ صاحب الوساد ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، رازدان سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں اور جن کو شیطان سے محفوظ کیا گیا، وہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ایک روایت میں ہے): سیدنا ابورداء رضی اللہ عنہ نے علقمہ سے کہا: کیا تم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کے مطابق پڑھتے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، سیدنا ابورداء رضی اللہ عنہ نے کہا: سورہ لیل پڑھو، انھوں نے یوں پڑھا: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى﴾۔ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا، پھر وہ مسکرا پڑھے۔

لِسَانَ النَّبِيِّ ﷺ، صَاحِبُ الْوَسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَصَاحِبُ السَّرِّ حَذِيفَةُ، وَالَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارٌ، (وَفِي لَفْظٍ) إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ لِعَلْقَمَةَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَيَّ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأْ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ قُلْتُ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى﴾ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا، قَالَ: أَحْسِبُ، قَالَ: فَضَحِكَ۔

(مسند احمد: ۲۸۰۸۸)

فوائد: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ کے صاحب الوساد تھے، اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْعِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّىٰ أَنْهَاكَ۔))..... رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”میری طرف سے تیرے لیے اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے اور تو میرے وجود کو دیکھ لے، الا یہ کہ میں تجھے منع کر دوں۔“ (صحیح مسلم)

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے رازدان تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مخفی امور، علامات قیامت اور احوال آخرت کے بارے میں آپ ﷺ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے یہ صحابی تھے۔

جس صحابی کو شیطان سے محفوظ کر دیا گیا تھا، وہ سیدنا عمار بن یاسر تھے، جب ابوخیثمہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث بیان کرنے کا مطالبہ کیا تو انھوں نے اس سے پوچھا: تو کن لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا: اہل کوفہ سے، اس پر سیدنا ابو ہریرہ نے کہا: تَسَأَلْنِي وَفِيكُمْ عُلَمَاءُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُجَارُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ۔..... تو مجھ سے سوال کرتا ہے، جبکہ تم میں علمائے اصحاب رسول اور شیطان سے محفوظ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ابن عساکر)



أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ نَزْوُلِ الْقُرْآنِ

نزول قرآن کی کیفیت کے ابواب

بَابُ وَقْتِ نَزْوُلِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَخَوْفِ الصَّحَابَةِ مِنْ نَزْوُلِ الْقُرْآنِ فِيهِمْ

قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں کے نزول کے وقت کا بیان اور صحابہ کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے

(۸۴۳۱)۔ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أُنزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَتْ التَّوْرَةُ لَيْسَتْ مَضِينٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ لِارْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ)) (مسند احمد: ۱۷۱۰۹)

سیدنا وائیلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رات کو، تورات رمضان کی چھٹی رات کو، انجیل رمضان کی تیرہ تاریخ کو اور قرآن مجید رمضان کی چوبیس تاریخ کو نازل ہوا۔“

(۸۴۳۲)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْإِنْسَاطِ إِلَى نِسَاءِ نَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَنْزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں اپنی بیویوں سے زیادہ باتیں کرنے اور زیادہ کھل کر ہنسنے سے گریز کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں قرآن مجید نازل ہو

(۸۴۳۱) تخريج: حديث صحيح، تفرد به عمران القطان، وهو ممن لا يحتمل تفرده - أخرجه الطبراني

في "الكبير": ۱۸۵ / ۲۲، والبيهقي: ۱۸۸ / ۹ (انظر: ۱۶۹۸۴)

(۸۴۳۲) تخريج: أخرجه البخاري: ۵۱۸۷ (انظر: ۵۲۸۴)

تکَلَّمْنَا۔ (مسند احمد: ۵۲۸۴) جائے، جب نبی کریم ﷺ نے وفات پائی تو تب ہم کھل کر بات کرنے لگے۔

فوائد: بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھریلو مسائل کی وجہ سے قرآن مجید کے بعض حصے نازل ہوئے، اس لیے دوسرے صحابہ محتاط ہو گئے۔

بَابُ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ

قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والے حصے کا بیان

(۸۴۳۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بَدَىٰ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبَّ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَأْتِي غَارَ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُذُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ لِحَدِيثَةٍ فَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ فِجَاهُ الْحَقِّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ قَالَ: فَرَجَعَ بِهَا تَرَجُّفٌ

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کی ابتداء نیند میں سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی، آپ ﷺ جو خواب بھی دیکھتے، وہ صبح کے پھٹنے کی طرح پورا ہو جاتا، پھر آپ ﷺ خلوت کو پسند کرنے لگے اور غار حرا میں جا کر چند راتیں عبادت کرتے اور ان دنوں کا توشہ لے جاتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹتے اور اتنے دنوں کے لیے پھر زاد لے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن اچانک آپ ﷺ کے پاس حق آ گیا اور آپ ﷺ غار حرا میں ہی تھے، فرشتہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: پڑھئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں پڑھنے والا نہیں ہوں، چنانچہ اس نے مجھے پکڑ کر اس قدر دبا یا کہ مجھے مشقت محسوس ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا: پڑھو، میں نے کہا: میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس نے پھر مجھے پکڑ لیا اور دبا یا، حتیٰ کہ مجھے مشقت محسوس ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا: پڑھیں، میں نے کہا: میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس نے مجھے پکڑ کر تیسری دفعہ دبا یا اور مجھے مشقت محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ پھر آپ ﷺ گھر کو لوٹے، جبکہ آپ ﷺ کے کندھوں کا

(۸۴۳۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۵۶، ۶۹۸۲، ومسلم: ۱۶۰، وقوله: ”حتى حزن رسول الله ﷺ

فيما بلغنا حزنا، الخ-“ انما هو من بلاغات الزهري (انظر: ۲۵۹۵۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گوشت کانپ رہا تھا، آپ ﷺ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا: ”مجھے کپڑا اوڑھاؤ۔“ پس انھوں نے کپڑا اوڑھا دیا، یہاں تک آپ ﷺ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”خدیجہ! مجھے کیا ہو گیا؟“ پھر آپ ﷺ نے سیدہ کو سارا واقعہ سنا دیا اور فرمایا: ”میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں۔“ لیکن سیدہ نے کہا: ہرگز نہیں، آپ خوش رہیں، پس اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور امور حق میں بدد کرتے ہیں، پھر سیدہ آپ ﷺ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچے کا بیٹا تھا، جاہلیت میں عیسائیت کو اختیار کر چکا تھا، چونکہ یہ عربی زبان لکھ سکتا تھا، اس لیے انجیل کو عربی زبان میں لکھتا تھا، یہ بزرگ آدمی تھا اور اب نابینا ہو چکا تھا، سیدہ نے اس سے کہا: اے میرے چچے کے بیٹے! اپنے بھتیجے کی بات سنو، ورقہ نے کہا: بھتیجے! تو کیا دیکھ رہا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ساری تفصیل بیان کی، ورقہ نے کہا: یہ تو وہی ناموس ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، کاش میں اس وقت مضبوط ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟“ ورقہ نے کہا: جی ہاں، جو چیز آپ لائے ہیں، جو آدمی بھی ایسی لے کر آیا ہے، اس سے دشمنی کی گئی ہے اور اگر آپ کے اُس وقت نے مجھے پالیا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا، لیکن جلد ہی ورقہ وفات پا گیا اور وحی رک گئی، اب آپ ﷺ غمگین تھے، بلکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ﷺ کا غم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ ﷺ نے کئی بار چاہا کہ پہاڑوں کے چوٹیوں سے گر پڑیں، جب کبھی

بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: زَمَلُونِي، فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ: يَا خَدِيجَةُ! مَا لِي؟ فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ لَهُ: كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ! لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنْصَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنِ عَمِّ! اسْمِعْ مِنِّي ابْنَ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنِ أَخِي مَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَأْتِيَنِي فِيهَا جَدْعًا كَوْنًا حَيًّا حِينَ يَخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوْ مُخْرِجِي هُمْ؟)) فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يَدْرِكْنِي يَوْمًا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشُبْ وَرَقَةُ أَنْ نُوْفِيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيَ فِتْرَةً حَتَّى حَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَّغْنَا حَزَنًا عَدَا مِنْهُ مَا رَأَى

آپ ﷺ پہاڑ کی چوٹی پر چڑتے تاکہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں تو جبریل علیہ السلام سامنے آتے اور کہتے: اے محمد! بیشک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اس سے آپ ﷺ کا دل پر سکون ہو جاتا اور نفس مطمئن ہو جاتا، پس آپ ﷺ لوٹ آتے، جب پھر مدت طول پکڑتی اور وحی رکی رہتی تو آپ ﷺ پھر اسی طرح کرتے اور جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تو جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے لیے ظاہر ہوتا اور پہلے والی بات دوہراتا۔

كَيْ يَنْزِلَ مِنْ رُؤُوسِ سَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لَكَی يُنْقَى نَفْسُهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيُسْكِنُ ذَلِكَ جَأَشَهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ وَقْتَرُ الْوَحْيِ عَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ. (مسند

احمد: ۲۶۴۸۶)

نوٹ:..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سورہ علق کی درج ذیل ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ صبح کے پھٹنے سے مراد یہ ہے وہ خواب آپ ﷺ کو بیداری میں واضح طور پر پورا ہوتا ہوا نظر آتا، خوابوں کا سلسلہ فرشتے اور وحی کے لیے تمہید ہوتا ہے، اس سلسلے کی وجہ سے بشری قوتیں وحی کا بار برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ کے مکارم اور خصائل کا ذکر کر کے آپ ﷺ کو تسلی دینا، اس سے معلوم ہوا کہ مکارم اخلاق اور خصائل خیرہ برے انجام سے سلامتی کا سبب ہوتے ہیں۔ وحی کا نزول نبی کریم ﷺ کو انسانیت میں سب سے بڑا منصب عطا کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ ﷺ کے کندھوں کے گوشت کا کاٹنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ کے مطالبے پر آپ ﷺ کو کپڑا اورھا دینا، پھر آپ ﷺ کا فرمانا کہ ”خدیجہ! مجھے کیا ہو گیا؟ میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں۔“ پھر جب کچھ دیر تک وحی رکی رہی تو آپ ﷺ کا حدیث کے آخری حصے میں بیان کی گئی کیفیت میں مبتلا ہو جانا۔ ان امور میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے احادیث مبارکہ یا ان کے ثقہ راویوں پر اعتراض کیا جاسکے، اسی قسم کی کیفیتوں کو ہلکا کرنے کے لیے آپ ﷺ کو غار حراء میں جانے کی توفیق بخشی گئی اور آپ ﷺ کے لیے خوابوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ دراصل ابتداء میں باریت کو برداشت کرنا بشری قوتوں کے لیے خاصا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بعد میں تو آپ ﷺ جبریل علیہ السلام کی تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے، جبکہ یہ ہمارا اندازہ ہے، حقیقت میں انبیاء و رسل ہی بہتر جانتے ہیں کہ وصولی نبوت کا بوجھ کیسا ہوتا ہے، سخت سردی میں نزول وحی کے وقت آپ ﷺ کی پیشانی مبارک سے پسینہ نکلنے لگتا تھا، جبکہ آپ ﷺ نے خود فرمایا کہ جب وحی گھنٹی کی آواز میں آتی ہے تو اس وقت آپ ﷺ کو بڑی سختی اور شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے اس شدت کی کیفیت کا سوال نہیں کیا، دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ

تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑے، جبکہ چند لمحے پہلے وہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اصرار کر رہے تھے۔ آخر میں آپ ﷺ کا جو اضطراب بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب کم و بیش تین سالوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا رہا تو آپ ﷺ کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہ آپ ﷺ سے کوئی ایسا فعل یا سبب سرزد ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو سزا مل رہی ہو، یا یہ کیفیت اس غم کی وجہ سے تھی، جو وحی کی تاخیر کی وجہ سے آپ ﷺ پر طاری ہو گیا، جبکہ آپ ﷺ کو یہ اطلاع تو نہیں دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو بندوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ غور کریں کہ نبی کریم ﷺ کے مقابلے میں ورقہ بن نوفل کی حیثیت کیا تھی لیکن وہ آپ ﷺ کو تسلی دلا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ کے جو احساسات بیان کیے گئے ہیں، ان کو آپ ﷺ کا طبعی تقاضا سمجھا جائے، جب آپ ﷺ نے باریت اٹھایا اور اپنے منصب تک پوری رسائی حاصل کر لی تو پھر آپ ﷺ اس قابل ہو گئے کہ وحی کی مختلف مجلسوں میں پورا قرآن مجید وصول کر سکیں، قرآن مجید کے علاوہ وحی کی دوسری اقسام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغامات موصول کر سکیں، جنت و جہنم کے مناظر دیکھ سکیں، اسراء و معراج کی صورت میں آسمانوں کی سیر کر سکیں، جہنم میں پتھر گرنے اور آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز سن سکیں، قبروں میں عذاب میں مبتلا لوگوں کے عذاب کی کیفیت دیکھ سکیں، کثرت عبادت میں اپنی جسمانی غذا کو محسوس کر سکیں، علیٰ ہذا القیاس۔ واللہ اعلم بالصواب

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے غار حراء میں ایک ماہ تک مجاورت اختیار کی، جب میں نے یہ مدت پوری کی اور وہاں سے اتر کر وادی کی ہموار جگہ پر آیا تو مجھے آواز دی گئی، میں نے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اتنے میں پھر مجھے آواز دی گئی، میں نے پھر اسی طرح دیکھا، لیکن کسی کو نہ دیکھ سکا، پھر مجھے آواز دی گئی، پس اب کی بار جب میں نے سر اٹھایا تو وہ فرشتہ فضا میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک روایت میں ہے: وہ آسمان اور زمین کے مابین تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے مجھ پر شدید کچکی طاری ہو گئی، میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا: مجھے کبل اوڑھاؤ، پس انھوں نے مجھے کبل اوڑھا دیا اور مجھ پر پانی ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ﴾

(۸۴۳۴)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاوَزْتُ بِحِرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلَتْ فَاسْتَبَطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَتَوَدَيْتُ فَنظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَأِ أَحَدًا، ثُمَّ تَوَدَيْتُ فَنظَرْتُ فَلَمْ أَرَأِ أَحَدًا، ثُمَّ تَوَدَيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فإِذَا هُوَ قَاعِدٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) فَأَخَذْتَنِي وَجَفَّةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثْرُونِي، دَثْرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَيَّا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ

فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿۸﴾ (مسند احمد: ۱۴۳۳۸)

والے، کھڑا ہو جا، پس ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔“

فوائد: جمہور اہل علم کے نزدیک پہلی وحی ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ والی آیات ہی ہیں، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے مراد دوسری وحی ہے، جو تفرہ وحی کے بعد نازل ہوئی تھی، اس حدیث کے درج ذیل سیاق پر غور کریں، حافظ ابن کثیر نے اسی حدیث کے سیاق کو محفوظ قرار دیا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی وحی آئی تھی:

(۸۴۳۴)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((ثُمَّ فَرَّ الْوَحْيُ عَنِّي فِتْرَةَ فَبَيْنَا أَنَا أَنَامُ شَيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصْرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نِسِي بِحِجْرَاءِ، الْآنَ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زُمَّلُونِي زُمَّلُونِي زُمَّلُونِي فَرُمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾))، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: الرَّجْزُ الْأَوْتَانُ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَتَابَعِ. (مسند احمد: ۱۴۵۳۷)

(دوسری سند) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پھر وحی رک گئی، پس ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، جب میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا، اب وہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، میں اس کے خوف سے کپکپانے لگا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھکا، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا: ”مجھے کبل اوڑھاؤ، مجھے کبل اوڑھاؤ، مجھے کبل اوڑھاؤ۔“ پس انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی، پس اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کیں: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ ”اے کبل اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا، پس ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر اور پلیدی کو چھوڑ دے۔“ ابوسلمہ نے کہا: پلیدی سے مراد بت ہیں، اس کے بعد وحی پے در پے اور کثرت سے نازل ہونے لگی۔

بَابُ نَزْوِلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ قرآن مجید کے سات قراءتوں میں نازل ہونے کا مطلب

تنبیہ: سات قراءتوں سے کیا مراد ہے؟

اگرچہ امت کی مصلحت و منفعت کی خاطر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی قراءت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ان قراءت کی حقیقت کیا تھی، درج بحث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:

پوری بحث: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”سَبْعَةُ أَحْرَفٍ“ کی تشریح میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں اور ان پر وارد ہونے والے اعتراضات و اشکالات کی تردید بھی ہے، پھر ترجیح دیتے ہوئے امام ابن قتیبہ اور امام ابو الفضل رازی کے اقوال نقل کیے ہیں اور کہا کہ امام رازی نے امام ابن قتیبہ ہی کی بات کو مزید نکھار کر پیش کیا ہے، ہم طوالت کے ڈر سے صرف راجح قول کا ذکر کرتے ہیں، جسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، امام ابن قتیبہ اور امام رازی کے نزدیک حدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قراءت کا اختلاف ہے اور سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں اگرچہ سات سے زائد ہیں، لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ سات اقسام میں منحصر ہیں:

(۱) اسماء کا اختلاف: جس میں واحد، ثنئیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے، مثلاً: ایک قراءت میں ہے: ﴿تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾ اور دوسری میں ہے: ﴿تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾۔

(۲) افعال کا اختلاف کہ کسی قراءت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور کسی میں امر، جیسے ایک قراءت کے مطابق ﴿رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾ اور دوسری میں ﴿رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾ ہے۔ (مثال میں ایک قراءت میں باب مفاعلہ ہے اور دوسری میں تفعیل ہے)

(۳) وجوہ اعراب میں اختلاف: جس میں حرکات و سکنات مختلف قراءتوں میں مختلف ہوں، مثلاً: ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ﴾ اور ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ﴾ اور ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ دوسری قراءت میں ہے: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ﴾۔

(۴) الفاظ کی کمی بیش میں اختلاف: ایک قراءت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو، مثلاً: ایک قراءت میں ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ہے اور دوسری میں ﴿وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى﴾ ہے، یعنی مؤخر الذکر میں لفظ ﴿وَمَا خَلَقَ﴾ نہیں ہے۔

(۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف: ایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں مؤخر ہو، مثلاً: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ اور دوسری میں ہے: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ﴾۔

(۶) بدلیت کا اختلاف: ایک قراءت میں ایک لفظ اور دوسری میں اس کی جگہ دوسرا لفظ ہو، مثلاً: ﴿نُنشِرُهَا﴾ اور ﴿نَنْشُرُهَا﴾، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ اور ﴿فَتَثَبَّتُوا﴾۔

(۷) لہجوں کا اختلاف: جس میں تفخیم، ترقیق، امالہ، قصر، مد، ہمزہ، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلاف شامل ہیں۔

امام مالک اور قاضی باقلانی بھی اس سے متفق ہیں، واللہ اعلم، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری: ۳۴/۹۔

امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس حدیث اور اس کے شواہد سے معلوم ہوا کہ ”سبعة احرف“ سے مراد سات لغات

ہیں، جن کی مدد سے ایک لفظ یا ایک کلمہ کو سات لغات میں بیان کیا جاسکتا ہے، ان لغات میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں اور معانی

متحد۔ امام طبری نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اس کی کافی و شافی وضاحت کی ہے اور یہ بھی ثابت کیا کہ (سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ

کے عہد میں) پوری امت ایک لغت پر متحد ہو گئی اور باقی چھ کو ترک کر دیا اور ایسا کرنے سے قرآن مجید کے کسی حصہ میں

کوئی نسخ یا نقصان نہیں ہوا۔ آج قرآن مجید قراءت کے جس انداز پر مشتمل ہے، یہ وہی ہے جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے

لوگوں کو جمع کیا تھا، بہر حال انھوں نے بڑا عمدہ، پائیدار اور مفید کلام کی ہے، اس کا مراجعہ کرنا چاہئے۔ (صحیح: ۲۵۸۱)

اس بحث کو ذہن نشین کر کے درج ذیل احادیث کا مطالعہ کریں۔

سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا: اے محمد!

قرآن مجید ایک قراءت کے مطابق پڑھو۔ ایک روایت میں

ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جبریل اور میکائیل میرے

پاس آئے، جبریل نے مجھ سے کہا: قرآن مجید کو ایک قراءت

پر پڑھو، لیکن میکائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: زیادہ گنجائش کا

سوال کریں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ گنجائش کی درخواست

کی، تو جبریل نے کہا: دو قراءتوں پر پڑھ لو، لیکن میکائیل نے

پھر کہا: اور زیادہ مطالبہ کرو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید گنجائش کا

مطالبہ کیا، یہاں تک کہ سات قراءت تک پہنچ گئے، اور پھر

انھوں نے کہا: ہر قراءت شانی اور کافی ہے، جبکہ تم عذاب

والی آیت کو رحمت والی آیت کے ساتھ اور رحمت والی آیت کو

عذاب والی آیت کے ساتھ ختم نہ کر، یہ قراءت کا معاملہ ایسا ہی

ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں: تَعَالَىٰ أَوْ أَقْبَلَ ، هَلُمَّ أَوْ إِذْهَبْ

اور أَسْرِعْ اور اِعْجَلْ۔

(۸۴۳۵)۔ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ

السَّلَامَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ

حَرْفٍ (وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنَا نَبِيُّ

جِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: اقْرَأِ

الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفٍ) قَالَ مِيكَائِيْلُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ: اسْتَزِدَّهُ فَاسْتَزَادَهُ، قَالَ: اقْرَأْهُ عَلَىٰ

حَرْفَيْنِ، قَالَ مِيكَائِيْلُ: اسْتَزِدَّهُ فَاسْتَزَادَهُ

حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ، قَالَ: كُلُّ شَافٍ

كَافٍ مَا لَمْ تَخْتَمْ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةً

رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ نَحْوَ قَوْلِكَ تَعَالَىٰ وَأَقْبَلَ

وَهَلُمَّ وَأَذْهَبْ وَأَسْرِعْ وَاعْجَلْ۔ (مسند

احمد: ۲۰۷۸۸)

(۸۴۳۵) تخریج: صحیح لغیرہ دون قولہ فی آخرہ ”نحو قولک: تعال، واقبل، وهلم..... الخ“، وهذا

اسناد ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان (انظر: ۲۰۵۱۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے، جس قراءت کے مطابق بھی پڑھو گے، تو درست پڑھو گے، اس میں جھگڑا مت کرو، کیونکہ قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔“

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ایک آیت پڑھی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی آیت پڑھی، لیکن ان کی آیت میری آیت سے مختلف تھی، پس میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: کیا آپ نے مجھے فلاں فلاں آیت اس طرح نہیں پڑھائی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں۔“ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ نے مجھے یہ ایسے ایسے نہیں پڑھائی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دونوں نے درست پڑھا ہے۔“ میں (ابی) نے کہا: دونوں کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ”اے ابی! مجھے قرآن پڑھایا گیا اور کہا گیا کہ ایک یاد قراءتوں پر؟ جو فرشتہ میرے ساتھ تھا، اس نے کہا: دو قراءتوں پر، میں نے کہا: دو قراءتوں پر۔ لیکن اس نے پھر کہا: دو قراءتوں پر یا تین پر؟ جو فرشتہ میرے پاس تھا، اس نے کہا: تین قراءتوں پر، میں نے کہا: تین قراءتوں پر، حتیٰ کہ سات قراءتوں تک پہنچ گئے، ہر ایک تسلی بخش اور کفایت کرنے والی ہے، اگر تم کہو عَقُورًا رَاحِمًا، یا کہو سَمِيعًا عَلِيمًا، یا کہو عَلِيمًا سَمِيعًا، پس اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہے نا۔“ ایک روایت میں ہے: جب آپ ﷺ نے میرے سینے پر مارا اور فرمایا: ”اے اللہ! ابی سے شک دور کر دے۔“ ابی کہتے ہیں:

(۸۴۳۶)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ، فَلَا تَمَارَوْا فِيهِ فَإِنَّ الْجَمَاءَ فِيهِ كُفْرٌ.)) (مسند احمد: ۱۷۹۷۲)

(۸۴۳۷)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ آيَةَ وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ خِلَافَهَا (جَاءَ فِي رِوَايَةٍ وَقَرَأَ رَجُلٌ خِلَافَهَا) فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقَرِّئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: ((بَلَى.))، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ تُقَرِّئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: ((بَلَى، كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمَلٌ.)) قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ، انْضَرْبَ صَدْرِي فَقَالَ: ((يَا أَبِي بِنِ كَعْبٍ! إِنِّي أَقْرَأْتُ الْقُرْآنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِيَ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِيَ: عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ: عَقُورًا رَاحِمًا أَوْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللَّهُ كَذَلِكَ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ.)) (زَادَ فِي رِوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَضَرْبَ فِي صَدْرِي)؛ ثُمَّ قَالَ:

(۸۴۳۶) تخريج: اسنادہ صحیح (انظر: ۱۷۸۱۹)

(۸۴۳۷) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین - أخرجه ابوداود: ۱۴۷۷ (انظر: ۲۱۱۴۹)

میں پسینہ سے شرابور ہو گیا اور میرا پیٹ خوف سے بھر ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ابی! دو فرشتے میرے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا: ایک قراءت پر قرآن پڑھو، دوسرے نے کہا: زیادہ کر دو، میں نے بھی کہا: زیادہ کر دو، اس نے کہا چار قراءتوں پر پڑھ لو، دوسرے نے کہا: اور زیادہ کر دو، میں نے بھی کہا: میرے لئے اور اضافہ کرو، اس نے کہا: پانچ قراءتوں پر پڑھ لو، دوسرے نے کہا: ”اور زیادہ کر دو۔ میں نے بھی کہا: اور زیادہ کر دو۔ چھ قراءتوں پر پڑھ لو، دوسرے نے کہا: اور اضافہ کر دو، اس نے کہا: سات قراءتوں پر پڑھ لو۔“

((اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَن أَبِي الشَّكِّ))،
فَفِضْتُ عَرَقًا وَامْتَلَأَ جَوْفِي فَرَقًا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَبِي إِنَّ مَلَكَيْنِ
أَتَيْانِي، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْرَأْ عَلَي حَرْفٍ،
فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأْ
عَلَي حَرْفَيْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، فَقُلْتُ:
زِدْنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَي ثَلَاثَةِ، فَقَالَ الْآخَرُ:
زِدْهُ، فَقُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأْ عَلَي أَرْبَعَةِ
أَحْرُفٍ، قَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي،
قَالَ: اقْرَأْ عَلَي خَمْسَةِ أَحْرُفٍ، قَالَ الْآخَرُ:
زِدْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي، قَالَ: اقْرَأْ عَلَي سِتَّةِ،
قَالَ الْآخَرُ: زِدْهُ، قَالَ: اقْرَأْ عَلَي سَبْعَةِ
أَحْرُفٍ:)) (مسند احمد: ٢١٤٦٧)

فوائد: یہ دو فرشتے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”میں اجار المرء جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام سے ملا اور میں نے
کہا: اے جبریل! میں اتنی امت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا
گیا ہوں، جس میں مرد، عورتیں، غلام، لونڈیاں اور انتہائی
بوڑھے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی تحریر نہیں پڑھی،
انہوں نے کہا: قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔“

(٨٤٣٨)۔ عَنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((لَقِيتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَحْجَارِ
الْمِرَاءِ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! إِنِّي أُرْسِلْتُ
إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ، الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالغُلَامُ
وَالجَارِيَةُ وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْرَأُ
كِتَابًا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَي سَبْعَةِ
أَحْرُفٍ:)) (مسند احمد: ٢٣٧٩٠)

فوائد: اسی ایسے شخص کو کہتے ہیں، جو روایتی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔

(٨٤٣٨)۔ (وَعَنهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: (دوسری سند) نبی کریم ﷺ اجار المرء مقام پر جبریل علیہ السلام
سے ملے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ کی امت سات

(٨٤٣٨) تخريج: صحيح لغيره - أخرج البزار: ٢٩٠٨ (انظر: ٢٣٣٨٩)

(٨٤٣٨) اسنادہ ضعيف، ابراهيم بن مهاجر ليس بذاك القوي، ولم يتابع عليه بهذا اللفظ (انظر: ٢٣٢٧٣)

قراءتوں میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، جس کسی نے ایک قراءت پڑھ لی ہے، تو وہ اپنے علم کے مطابق پڑھتا رہے اور اس سے رک نہ جائے۔ ابن مہدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: جبریل علیہ السلام نے کہا: بیشک آپ کی امت میں کمزور لوگ بھی ہیں، لہذا جو ایک قراءت پر پڑھ لے، وہ اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے دوسری قراءت کی طرف نہ جائے۔“

أَحْجَارِ الْمَرَّاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ يَفْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَمَنْ قَرَأَ مِنْهُمْ عَلَى حَرْفٍ فَلْيَقْرَأْ كَمَا عَلِمَ وَلَا يَرْجِعْ عَنْهُ، قَالَ أَبِي: وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِكَ الضَّعِيفَ فَمَنْ قَرَأَ عَلَى حَرْفٍ فَلَا يَتَحَوَّنُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ رَغْبَةً عَنْهُ. (مسند احمد: ۲۳۶۶۲)

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے جبریل علیہ السلام کی اعجاز المرء کے پاس ملاقات ہوئی، آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے کہا: ”مجھے اسی امت کی طرف بھیجا گیا ہے، اس میں بہت بوڑھے خواتین و حضرات اور غلام بھی ہیں، انہوں نے کہا: چلو، آپ ان کو حکم دیں کہ وہ قرآن مجید کو سات قراءتوں پر تلاوت کر لیں۔“

(۸۴۳۹)۔ عَنْ أَبِي قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلُ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمَرَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجَبْرِيلَ ﷺ: ((إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيئِينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْعَاسِي وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ وَالْغَلَامُ، قَالَ: فَمَرُّهُمْ فَلْيَقْرَأْ وَالْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ.)) (مسند احمد: ۲۱۵۲۳)

سیدنا سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید سات قراءتوں کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔“

سیدنا ام ایوب رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”قرآن مجید سات قراءتوں میں نازل ہوا ہے، تم ان میں سے جو بھی پڑھو گی، وہ تجھے کفایت کرے گی۔“

(۸۴۴۰)۔ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ.)) (مسند احمد: ۲۰۴۴۱)

(۸۴۴۱)۔ عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ أَيُّهَا قَرَأَتْ أَجْزَأُكَ.)) (مسند احمد: ۲۸۱۷۵)

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے

(۸۴۴۲)۔ عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ قَالَ:

(۸۴۳۹) تخريج: صحيح - أخرجه الترمذی: ۲۹۴۴ (انظر: ۲۱۲۰۴)

(۸۴۴۰) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ۲۰۱۷۹)

(۸۴۴۱) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه الحميدى: ۳۴۰، وابن ابى شيبة: ۱۰ / ۵۱۵ (انظر: ۲۷۶۲۳)

(۸۴۴۲) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم - أخرجه ابن حبان: ۷۴۲، والطبرانى فى "الوسط":

۵۲۴۶ (انظر: ۲۱۰۹۱)

فَرَمَا: "قرآن مجید سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ.)) (مسند احمد: ۲۱۴۰۷)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک قراءت پڑھائی، میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ قراءتیں زیادہ کی جائیں اور وہ زیادہ کرتے، یہاں تک کہ معاملہ سات قراءتوں تک پہنچ گیا۔" امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ قراءتوں کا یہ اختلاف حقیقت میں ایک ہی معاملے کے باریمیں ہے، اس سے حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "قرآن مجید سات قراءتوں پر اتارا گیا ہے، جیسے عَلِيمًا حَكِيمًا کی بجائے عَفُورًا رَجِيمًا پڑھنا۔" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا عَفُورًا رَجِيمًا.))، وَفِي رِوَايَةٍ: ((عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَفُورٌ رَجِيمٌ.)) (مسند احمد: ۸۳۷۲)

ایک روایت میں ہیں: عَلِيمٌ حَكِيمٌ کی بجائے عَفُورٌ رَجِيمٌ پڑھنا۔

بَابُ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ وَأَيَاتِهِ

اس کا بیان کہ قرآن کی سورتوں اور آیات میں سے کون سا حصہ آخر میں نازل ہوا

سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کامل سورت جو آخر میں نبی کریم ﷺ پر نازل ہوئی وہ سورہ براءت ہے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سورہ نساء کی آخری آیت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ...﴾ ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَامِلَةٌ بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ إِلَى آخِرِهَا. (مسند احمد: ۱۸۸۴۱)

(۸۴۴۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۱۹، ۴۹۹۱، ومسلم: ۸۱۹ (انظر: ۲۳۷۵)

(۸۴۴۴) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه الطحاوی فی "شرح مشکل الآثار": ۳۱۰۱ (انظر: ۸۳۹۰)

(۸۴۴۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۳۶۴، ۶۷۴۴، ومسلم: ۱۶۱۸ (انظر: ۱۸۶۳۸)

سیدنا جبریل بن نفیر کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: یہ نازل ہونے والی آخری سورت ہے، لہذا اس میں جو حلال پاؤ، اسے حلال سمجھو اور جس چیز کو اس میں حرام پاؤ، اسے حرام سمجھو۔ پھر میں نے ان سے نبی کریم ﷺ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا: آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔

سعید بن مسیب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت سود والی ہے، لیکن ہوا یوں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ ﷺ نے ابھی تک اس کی تفسیر نہیں کی تھی، پس سود کو بھی چھوڑ دو اور جس چیز میں سود کا شبہ ہو، اس کو بھی چھوڑ دو۔

فوائد: قرآن کے آخر میں نازل ہونے والے حصے کے بارے میں مزید روایات: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں سورہ توبہ کی آیت ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ نازل ہوئی، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۶۲۸)، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: آخر سورہ نزلت ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ سب سے آخر میں سورہ نصر نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم: ۵۳۳۹)

یہ کل چار پانچ روایات ہیں، ان میں جمع تطبیق کی صورت کیا ہے؟ جبکہ حافظ سیوطی نے "الاتقان فی علوم القرآن" میں اس قسم کے کئی آثار ذکر کرنے کے بعد کہا: ان اقوال کے ساتھ ساتھ اس آیت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ کا مسہ بھی اشکال والا ہے، کیونکہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں نازل ہوئی، اس کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ اس سے پہلے تمام فرائض اور احکام کی تکمیل ہو چکی تھی، حالانکہ یہ بھی ثابت ہے کہ سود، قرض اور کلالہ والی آیت اس کے بعد نازل ہوئیں۔ قاضی ابوبکر نے "الاتنصار" میں کہا: یہ اقوال ہیں، مرفوع احادیث نہیں ہیں، ہر صحابی نے اجتہاد اور ظن

(۸۴۴۶) تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه مسلم: ۱۲۳۳ بلفظ: فَقُلْتُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ۔ فی حدیث طویل (انظر: ۲۵۵۴۷)

(۸۴۴۷) تخریج: حسن۔ أخرجه ابن ماجه: ۲۲۷۶ (انظر: ۲۴۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غالب کی روشنی میں بات کی ہے (کہ فلاں سورت یا آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی)۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان اقوال کے قائلین کے مقاصد مختلف ہوں، مثلاً فلاں مضمون سے متعلقہ سب سے آخری آیت یہ ہے، سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت فلاں ہے، آیت فلاں ہے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ مُعَارَضَةِ جِبْرِيلَ وَالنَّبِيِّ ﷺ لِلْقُرْآنِ

نبی کریم ﷺ اور سیدنا جبریل کا قرآن مجید کا دور کرنے کا بیان

(۸۴۴۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ ﷺ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَغْرِضُ فِيهَا مَا يَغْرِضُ، أَصْبَحَ وَهُوَ أَوْجُودٌ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي هَلَكَ بَعْدَهُ عَرَضَ عَلَيْهِ عَرَضَتَيْنِ۔ (مسند احمد: ۲۰۴۲)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہر ماہ رمضان میں نبی کریم ﷺ قرآن مجید کو جبریل علیہ السلام پر پیش کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ اس رات کے بعد صبح کرتے تو آپ ﷺ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے، آپ سے جس چیز کا سوال کیا جاتا، آپ ﷺ عطا کر دیتے، جب رمضان کا وہ مہینہ آ گیا، جس کے بعد آپ ﷺ وفات پا گئے تھے، اس مہینے میں دوبار قرآن مجید پیش کیا تھا۔

فوائد: رمضان، قرآن مجید کا دور اور جبریل علیہ السلام سے ملاقات، ان امور کی برکت سے آپ ﷺ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وفات والے سال دوبار دور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ناخ و منسوخ اور ہر قسم کی تبدیلی کا اچھی طرح پتہ چلے اور آپ ﷺ کے حفظ میں مزید جلاء آجائے، اس لیے آپ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: أَسْرَّ إِلَيَّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِي۔ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے رازدارانہ انداز میں بات کی کہ جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال دوبار دور کیا ہے، میرا یہی خیال ہے کہ میری وفات کا وقت آچکا ہے۔ (صحیح بخاری: ۳۳۵۳)

(۸۴۴۹)۔ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ: أَيُّ الْقُرْآنَتَيْنِ كَانَتْ أَحْخِيرًا قِرَاءَتُهُ عَبْدَ اللَّهِ أَوْ قِرَاءَتُهُ زَيْدًا؟ قَالَ: قُلْنَا قِرَاءَتُهُ زَيْدًا، قَالَ: لَا إِلَّا ۚ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: دو قراءتوں میں سے آخری قراءت کونسی تھی، سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی؟ مجاہد کہتے ہیں: ہم نے کہا: سیدنا زید رضی اللہ عنہ والی آخری ہے، انہوں

(۸۴۴۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۶، ۳۲۲۰، ۳۵۵۴، ومسلم: ۲۳۰۸ (انظر: ۲۰۴۲)

(۸۴۴۹) تخریج: صحیح - أخرجه البزار: ۲۶۸۳، والحاكم: ۲/۲۳۰ (انظر: ۲۴۹۴)

① بعض نسخوں میں "إلا" نہیں ہے اور ترجمہ اسی لحاظ سے کیا گیا ہے۔

نے کہا: نہیں، نبی کریم ﷺ جبریل علیہ السلام پر ہر سال قرآن مجید پیش کرتے تھے، لیکن جس سال آپ ﷺ فوت ہوئے، آپ ﷺ نے ان پر قرآن مجید دو بار پیش کیا اور آخری قرات سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔

بِعَرَضِ الْقُرْآنِ عَلَى جِبْرَائِيلَ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرْضُهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ نِزَاءً عَبْدُ اللَّهِ. (مسند احمد: ۲۴۹۴)

فوائد: اس میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت کا بھی بیان ہے، کیونکہ ان کی قراءت اس آخری دور اور پیشی کے مطابق تھی۔

(دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تم دو قراءتوں میں سے کونسی قرات پہلی شمار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ والی قراءت؟ انہوں نے کہا: بلکہ یہ آخری ہے، ہر سال نبی کریم ﷺ پر ایک بار قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا۔ جس سال آپ ﷺ نے وفات پائی، اس سال دو بار پیش کیا گیا، سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس پیشی کے وقت حاضر تھے، سو انہوں نے جان لیا کہ قرآن مجید کا کونسا حصہ منسوخ ہوا اور کونسا تبدیل ہوا ہے۔

(۸۴۴۹م)۔ (وَمِنْ طَرِيقِي ثَانٍ) عَنْ أَبِي لُبَيْبَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ نَعْدُونَ أَوْلَّ؟ قَالُوا: قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَا بَلْ هِيَ الْآخِرَةُ كَانَ يُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بَدَّلَ. (مسند احمد: ۳۴۲۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر سال نبی کریم ﷺ پر قرآن مجید پیش کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ ﷺ نے وفات پائی، اس سال انہوں نے دو بار پیش کیا تھا۔

(۸۴۵۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ (يَعْنِي: جِبْرِيْلُ) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرْضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ۔

(مسند احمد: ۹۱۷۹)

بَابُ جَوَازِ نَسْخِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَالِدَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ

قرآن مجید کے نسخ کا بیان

نسخ: لغوی معنی: الإزالة والنقل (زائل کرنا، نقل کرنا)

اصطلاحی تعریف: نسخ حکم شرعی متقدم بدلیل شرعی متأخر عنہ۔

(۸۴۴۹م) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین - أخرجه ابن ابی شیبہ: ۵۵۹ / ۱۰، وابویعلی:

۲۵۶۲، والنسائی فی "الکبری": ۷۹۹۴ (انظر: ۳۴۲۲)

(۸۴۵۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۹۸ (انظر: ۹۱۹۰)

بعد والی شرعی دلیل کی وجہ سے پہلے والے شرعی حکم کو ختم کر دینا۔
قرآن و حدیث میں کئی مسائل میں نسخ کی کئی صورتیں موجود ہیں۔

(۸۴۵۱)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلِيُّ أَفْضَانَا، وَأَبِيٌّ أَقْرُونَا، وَإِنَّا لَنَدْعُ كَثِيرًا مِنْ لَحْنِ أَبِي، وَأَبِيٌّ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذْتُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) فَلَا أَدْعُهُ لِنُشْيءٍ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ نُنسِهَا﴾ (مسند احمد: ۲۱۴۰۰)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ قضا و عدالت کے ماہر ہیں اور سیدنا ابی بنی اللہ ہم میں سے سب سے زیادہ قراءت کے ماہر ہیں، لیکن ہم ان کی قراءت کی کئی آیات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں (کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں)، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ آیات سنی ہیں، سو میں ان کو کسی چیز کی بنا پر نہیں چھوڑوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ نُنسِهَا﴾..... ”جو آیت ہم منسوخ کریں یا ترک کر دیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔“

فوائد: بعض آیات منسوخ ہو چکی تھیں، لیکن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے نسخ کے قائل نہیں تھے، ممکن ہے کہ ان کو نسخ پر دلالت کرنے والی احادیث نہ ملی ہوں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حق میں ایک آیت بھی پیش کر دی کہ قرآن مجید کا بعض حصہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں نسخ کی درج ذیل صورتیں ہیں: (۱)۔ قراءت کا منسوخ ہو جانا، لیکن حکم کا باقی رہنا، جیسے ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَبَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔“ (جب شیخ اور شیخہ یعنی شادی شدہ مرد و زن زنا کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی حکم ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والا ہے۔) (۲)۔ تلاوت کا باقی رہنا، لیکن حکم کا ختم ہو جانا، جیسے ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، مسکین کا فدیہ دینا) (۳)۔ قراءت اور حکم دونوں کا ختم ہو جانا، جیسے ”عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ“ (دس بار دودھ پینا حرام کرتا ہے)

پہلے دس دفعہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی تھی، پھر ان کو پانچ دفعہ دودھ پینے کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ (مسلم: ۱۳۵۲)

(۸۴۵۱)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: (دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں:

(۸۴۵۱) تخريج: أخرجه البخاری: ۴۴۸۱ (انظر: ۲۱۰۸۴)

(۸۴۵۱) تخريج: صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے خطاب کیا، جبکہ وہ منبر نبوی پر تشریف فرماتھے، انھوں نے کہا: سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ قضا و عدل کے ماہر ہیں اور سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ قراءت کے ماہر ہیں، لیکن ہم سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کردہ بعض آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، بیشک سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے یہ آیات سنی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے جو کچھ سنا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بعد بھی قرآن مجید کا بعض حصہ نازل ہوتا رہا (جس سے پہلے والا نازل شدہ بعض حصہ منسوخ ہوتا رہا)۔

خَطَبَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْضَانَا، وَأَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرُونَا، وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَيْثَا، وَإِنَّ أَبِيًّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْيَاءَ، وَأَبِي يَقُولُ: لَا أَدْعُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أَبِي كِتَابًا. (مسند احمد: ۲۱۴۰۲)

فوائد: سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ کے سماع کے بعد بھی قرآن مجید کا ایسا حصہ یا حکم نازل ہوا، جس نے ان کی سنی ہوئی

بیز کو منسوخ کر دیا تھا، لیکن ان کو اس کا علم نہیں تھا۔

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور قراءت کرتے کرتے ایک آیت چھوڑ دی، جب میں آیا تو نماز کا کچھ مجھ سے چھوٹ گیا تھا، بہر حال جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلاں آیت منسوخ ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ میں بھول گیا ہوں۔“

(۸۴۵۲)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْفَجْرَ وَتَرَكَ آيَةً، فَجَاءَ أَبِي وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَوْ أُنْسِيَتْهَا؟ قَالَ: ((لَا بَلْ أُنْسِيَتْهَا.)) (مسند احمد: ۲۱۴۵۸)

فوائد: اس باب سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ ہو گئیں تھیں، بعض صحابہ کو ان کے نسخ کا

علم نہیں تھا، لیکن ہمیشہ علم کو عدم علم پر مقدم سمجھا جاتا ہے، یعنی جس کو زائد چیز کا علم ہے، اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔

بَابُ ذِكْرِ آيَاتِ كَانَتْ فِي الْقُرْآنِ وَنُسِخَتْ

ان آیات کا ذکر، جو قرآن مجید میں موجود تھیں، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئیں

(۸۴۵۳)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَمْ تَقْرَأُ وَنَ سَيَدُنَا ابِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي يَقُولُ: لَا أَدْعُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أَبِي كِتَابًا. (مسند احمد: ۲۱۴۵۸)

(۸۴۵۲) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه ابن خزيمة: ۱۶۴۷ (انظر: ۲۱۱۴۰)

(۸۴۵۳) تخریج: اسنادہ ضعیف، لصف یزید بن ابی زیاد الکوفی، وعاصم بن بهدلة، وان كان

صدوقا، تقع له اوهام بسبب سوء حفظه (انظر: ۲۱۲۰۶)

سورہ احزاب کی کتنی آیات شمار کرتے ہو؟ میں (زر بن حبیش) نے کہا: کوئی چھتر ستر آیات، انہوں نے کہا: میں نے اس سورت کو نبی کریم ﷺ کے پاس پڑھا تھا، یہ سورہ بقرہ جتنی تھی یا اس سے بھی لمبی تھی اور اس میں رجم والی آیت بھی تھی۔

(دوسری سند) زر کہتے ہیں: سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا: تم سورہ احزاب کی کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: تہتر آیتیں، انہوں نے کہا: بس، میں نے اس سورت کو دیکھا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، ہم نے اس میں یہ آیت بھی پڑھی تھی: ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت (یعنی شادی شدہ مرد اور عورت) زنا کریں تو انہیں رجم کر دو، یہ قطعی حکم ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والا ہے۔)

کثیر بن صلت کہتے ہیں: سیدنا ابن عاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مصحف لکھتے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا تھا، آپ ﷺ یہ آیت بھی پڑھتے تھے: ”الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ“۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: یہ آیت مجھے لکھوا دیجئے، لیکن یوں محسوس ہوا کہ آپ ﷺ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب بوڑھا آدمی شادی شدہ نہ ہو تو اس کو زنا کی وجہ

سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ قَالَ: بِضْعًا وَسَبْعِينَ آيَةً، قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الْبَقْرَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ - (مسند احمد: ۲۱۵۲۵)

(۸۴۵۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ زُرِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً، فَقَالَ: قَطُّ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنِّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقْرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْتُ فِيهَا ((الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) - (مسند احمد: ۲۱۵۲۶)

(۸۴۵۴)۔ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبَانِ الْمَصَاحِفَ فَمَرُّوا عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَكْتَبْنِيهَا، قَالَ شُعْبَةُ: فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدًا، وَأَنَّ

(۸۴۵۳) اسنادہ ضعیف، عاصم بن بھدلہ، وان کان صدوقا، له اوھام بسبب سوء حفظه، فلا یحتم تفردہ بمثل هذا المتن۔ أخرجه الحاكم: ۴/ ۳۵۹، والطیالسی: ۵۴۰، وابن حبان: ۴۴۲۸ (انظر: ۲۱۲۰۷) (۸۴۵۴): رجال ثقات۔ أخرجه الدارمی: ۲۳۲۳، والنسائی فی "الکبری": ۷۱۴۵، والحاکم: ۴/ ۳۶۰ (انظر: ۲۱۵۹۶)

الشَّابُّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ رُجْمًا - (مسند) سے کوڑے مارے جاتے ہیں اور جب کوئی شادی شدہ نوجوان زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ (احمد: ۲۱۹۳۲)

فوائد: اس منسوخ آیت میں بوڑھے مرد اور عورت کا ذکر اتفاقاً کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر اس عمر کے

لوگ شادی شدہ ہی ہوتے ہیں، وگرنہ رجم کی سزا اس زانی کے لیے ہے، جو شادی شدہ ہو۔

(۸۴۵۵)۔ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ أَنْزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَعَاتُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَكَانَتْ فِي وَرْقَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ فِي بَيْتِي، فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَاعَلْنَا بِأَمْرِهِ، وَدَخَلَتْ دُوبِيَّةٌ لَنَا فَأَكَلَتْهَا. (مسند احمد: ۲۶۸۴۷)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رجم کی آیت اور بڑے آدمی کے لئے دس دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت کرنے والی آیت، یہ آیات میرے گھر میں چار پائی کے نیچے ایک کاغذ میں پڑی تھیں، جب نبی کریم ﷺ بیمار ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ہمارا ایک جانور اندر داخل ہوا اور وہ ورقہ کھا گیا۔

فوائد: رضاعت کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث درج ذیل ہے: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

کہتی ہیں: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. ”اس بارے میں جو قرآن میں نازل کیا گیا وہ دس بار مقرر شدہ دودھ پیتا تھا، جو حرام کر دیتا تھا، پھر ان کو پانچ بار دودھ پینے سے منسوخ کر دیا گیا، جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ان کو قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۶۳۴)

اب رضاعت کا حکم پانچ دفعہ دودھ پینے سے ہی ثابت ہوگا، البتہ ان الفاظ کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔

(۸۴۵۶)۔ عَنْ زُرَّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ))، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ.﴾

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کروں۔“ پھر آپ ﷺ نے مجھ پر سورہ بینہ کی تلاوت کی: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً. فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ.﴾

(۸۴۵۵) اسنادہ ضعیف لترفرد محمد بن اسحاق، وفي متنه نكارة - أخرجه ابن ماجه: ۱۹۴۴ (انظر: ۳۶۳۱۶)

(۸۴۵۶) تخريج: اسنادہ حسن - أخرجه الترمذی: ۳۷۹۳، ۳۸۹۸ (انظر: ۲۱۲۰۳)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفِيَّةُ - غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ - وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴿۱﴾ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتِ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ﴾ ﴿۲﴾ ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا.)) (مسند احمد: ۲۱۵۲۲)

غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ - وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ﴿۱﴾ شعبة راوی نے کہا: پھر آپ ﷺ نے اس کے بعد مزید آیات پڑھیں، پھر اس آیت کی تلاوت کی: ﴿لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ﴾ پھر سورت کے باقی حصے کے ذریعے اس کی تکمیل کی۔“

فوائد: اس سورت کی درج ذیل آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفِيَّةُ - غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ - وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ﴿۱﴾

(دوسری سند) سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن مجید کی تلاوت کروں۔“ پھر آپ ﷺ نے سورہ بینہ کی تلاوت کی اور اس میں یہ آیات بھی پڑھیں: ﴿وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَّالٍ فَأَعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ، عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفِيَّةُ غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ﴾ شعبة راوی کہتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے مزید آیات کی تلاوت کی اور پھر یہ آیت پڑھی: ﴿لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ﴾ پھر آگے سورت مکمل کر دی۔

(۸۴۵۶م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ))، قَالَ: فَقَرَأَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ قَالَ: فَقَرَأَ فِيهَا: ﴿وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَّالٍ فَأَعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأَعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ، عِنْدَ اللَّهِ الْخَنِيفِيَّةُ غَيْرِ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ﴾ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتِ بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَّالٍ لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ﴾، قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا. (مسند احمد: ۲۱۵۲۱)

(۸۴۵۶م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

فوائد: یہ تمام آیات منسوخ ہو چکی ہے۔

سیدنا ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس آتے تھے، جب آپ ﷺ پر کوئی حکم نازل ہوتا تو آپ ﷺ ہم کو بیان کرتے، ایک روز آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْرَآءَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٌ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ..... بیشک ہم نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے مال اتارا ہے، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی ہو، اگر اس کے لئے دو وادیاں ہوں، تو وہ پسند کرتا ہے کہ تیسری بھی ہو جائے، دراصل آدم کے بیٹے کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف توبہ کرتا ہے۔“

(۸۴۵۷)۔ عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْرَآءَ لَهُ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٌ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.)) (مسند احمد: ۲۲۲۵۱)

فوائد: یہ آیات بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے: ﴿لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْرَآءَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَأَبْتَعِيَ إِلَيْهِمَا آخَرَ. وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ﴾ اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے اور چاندی کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرے گا، آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔“

(۸۴۵۸)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْرَآءَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَأَبْتَعِيَ إِلَيْهِمَا آخَرَ. وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ﴾۔ (مسند احمد: ۱۹۴۹۵)

(۸۴۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف من اجل هشام بن سعد المدنی، يعتبر به فی المتابعات والشواهد - أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۳۳۰۰، والبيهقی فی "الشعب": ۱۰۲۷۷ (انظر: ۲۱۹۰۶)
(۸۴۵۸) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۵۰۳۲ (انظر: ۱۹۲۸۰)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سوال کیا، آپ کبھی تو اس کے سر کی جانب دیکھتے اور کبھی اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے کہ اس پر تنگدستی کی کوئی علامت بھی ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تیرا کتنا مال ہے؟ اس نے کہا: چالیس اونٹ ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا: ﴿لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ﴾ ”اگر آدم کے بیٹے کی سونے کی دو وادیاں ہوں، تو یہ تیسری تلاش کرتا ہے، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: جی سیدنا ابی بنی اللہ نے مجھے اسی طرح پڑھایا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے گزرے اور سیدنا ابی بنی اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا: یہ ابن عباس کیا کہتا ہے؟ انھوں نے جواباً کہا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایسے ہی یہ آیات پڑھائیں تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو پھر کیا میں ان کو برقرار رکھوں، پس پھر انھوں نے ان کو برقرار رکھا۔“

فوائد: ممکن ہے کہ پھر دوسرے صحابہ کی گواہی کی وجہ سے ان آیات کو قرآن مجید سے مٹا دیا گیا ہو۔

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اتنے غمگین کبھی نہیں ہوئے جتنے غمگین آپ قراء کے لشکر پر ہوئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿بَلِّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَا قَدْ رَضِينَا وَرَضِيَ عَنَّا﴾ ”ہماری قوم کو یہ پیغام دے دو کہ ہم اللہ پر راضی ہو گئے اور وہ

(۸۴۵۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى، هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ شَيْئًا؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَ نَبِيَّهَا أَبِي، قَالَ: فَمَرَرْنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى أَبِي، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أَبِي: هَكَذَا أَقْرَأَ نَبِيَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَفَأُثْبِتُهَا فَأُثْبِتَهَا۔ (مسند احمد: ۲۱۴۲۸)

(۸۴۶۰)۔ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْقُرَّاءَ، قَالَ سُفْيَانُ: نَزَلَ فِيهِمْ ﴿بَلِّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَا قَدْ رَضِينَا وَرَضِيَ عَنَّا﴾ قِيلَ لِسُفْيَانَ: فِيمَنْ نَزَلَتْ؟ قَالَ: فِي

اہلِ بَنِي مَعُونَةَ۔ (مسند احمد: ۱۲۱۱۱)

ہم سے راضی ہو گیا، کسی نے سفیان سے کہا: یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا: بَنِي مَعُونَةَ والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔“

(۸۴۶۰م)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ أَنَسٍ
 أَيضًا إِنَّا قَرَأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا ﴿بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا
 وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا﴾ ثُمَّ
 رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: ثُمَّ نُسِخَ۔
 (مسند احمد: ۱۲۰۸۷)

(دوسری سند) سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم قرآن مجید میں پڑھا کرتے تھے: ﴿بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا وَإِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا﴾..... ”ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کو مل گئے ہیں، پس وہ ہم سے راضی بھی ہو گیا ہے اور اس نے ہم کو راضی بھی کیا ہے۔“ پھر یہ آیات منسوخ ہو گئی تھیں۔

فوائد: یہ قراء صحابہ کی ایک جماعت تھی، جن کو سر یہ بَرِ مَعُونَةَ میں قتل کر دیا گیا تھا، ان کی تفصیل یہ ہے: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رِغْلٌ وَذَكْوَانٌ وَعُصَيْبَةٌ وَبَنُو لِحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدَا سَلَمُوا فَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ فِي زَمَانِهِمُ الْقُرَاءَ، كَانُوا يَحْتَضِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى إِذَا اتَوْا بَنِي مَعُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ فَفَقَتُواهُمْ، فَفَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ رِغْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيْبَةَ وَبَنِي لِحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِهِ قُرْآنًا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ إِنَّا قَرَأْنَا بِهِمْ قُرْآنًا: بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا۔ ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ أَوْ رُفِعَ۔ رِغْلٌ، ذَكْوَانٌ، عُصَيْبَةُ اور بنو لِحْيَانَ قبیلے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور یہ باور کرایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف آپ ﷺ سے مدد مانگی، آپ ﷺ نے انصار کے ستر آدمیوں کے ساتھ ان کی مدد کی، ہم اس زمانہ میں ان کو قراء کا نام دیتے تھے یہ دن کو لکڑیاں جمع کرتے اور رات کو نماز پڑھتے تھے، وہ قبیلوں والے ان کو لے کر چلے گئے، جب وہ جب بَرِ مَعُونَةَ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دھوکہ کیا اور ان (ستر صحابہ) کو قتل کر دیا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ قنوت کی، جس میں آپ ان قبائل رِغْلٌ، ذَكْوَانَ، عُصَيْبَةَ، اور بنو لِحْيَانَ پر بد دعا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے اس واقعہ کے بارے میں قرآن پڑھا، ابن جعفر کی روایت کے مطابق وہ یہ آیت تھی: ﴿بَلَّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا﴾ یعنی: ”ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کو جا ملے ہیں، پس وہ خود بھی ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہم کو بھی

راضی کر دیا ہے“ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ (صحیح بخاری: ۶۴۰۳، ۴۰۸۸، ۴۰۹۰، واللفظ لاحمد) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ بعض آیات کے منسوخ ہونے کی چند مثالیں تھیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعِيدٍ مَنْ جَادَلَ بِالْقُرْآنِ أَوْ تَأَوَّلَهُ أَوْ قَالَ فِيهِ بَرَاهِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ
قرآن مجید کے ساتھ جھگڑا کرنے یا اس کی تاویل کرنے یا بغیر علم کے اپنی رائے کے ساتھ اس کی تفسیر
کرنے والے کی وعید کا بیان

(۸۴۶۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۴۲۹)
”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے بغیر علم کے قرآن مجید کے بارے میں بات کی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔“

فوائد: علم سے مراد یقینی دلیل، ظن غالب، نقلی دلیل یا شریعت کے مطابق عقلی دلیل ہے۔

(۸۴۶۲)۔ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ)) [آل عمران: ۷] فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْذَرُوهُمْ۔ (مسند احمد: ۲۴۷۱۴)

”سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان آیات کی تلاوت کی: ”وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقول والے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم قرآن میں جھگڑنے والوں کو دیکھو تو وہی وہ فتنہ پرور لوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

ان سے بچو۔“

فوائد: آخری جملے میں جن لوگوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد مذکورہ بالا آیت میں مذکور یہ لوگ ہیں: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ ”پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے۔“ مسلمانوں کے چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں اور ان کی طرف توجہ نہ دھریں۔ مُحْكَمَاتٌ سے مراد وہ آیات ہیں جن میں

(۸۴۶۱) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف مؤمل و عبد الاعلیٰ۔ أخرجه الترمذی: ۲۹۵۰ (انظر: ۲۴۲۹)

(۸۴۶۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۵۴۷، ومسلم: ۲۶۶۵ (انظر: ۲۴۲۱۰)

اور امر و نواہی، احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا، اس کے برعکس مُتَشَابِهَات ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ہستی، قضا و قدر کے مسائل، جنت و دوزخ، ملائکہ وغیرہ، یعنی ماوراء عقل حقائق، جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں ایسی تاویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، قرآن نے عیسیٰ ﷺ کو عبد اللہ اور نبی کہا ہے، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں عیسیٰ ﷺ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں، وہ انہی مُتَشَابِهَات کو بنیاد بناتے ہیں، ان کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان حکمت پر عمل کرتا ہے اور مُتَشَابِهَات کے مفہوم کو بھی حکمت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اپنی امت پر کتاب اور دودھ کے بارے میں ڈر ہے۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے منافق بھی سیکھتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ایمانداروں سے جھگڑتے ہیں۔“ پھر کسی نے کہا: دودھ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ دودھ پینے کے لئے باہر وادیوں میں چلے جائیں گے اور جماعت سے خارج ہو جائیں گے اور جمعہ چھوڑ دیں گے۔“

(۸۴۶۳)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي لِكِتَابِ وَاللَّبَنِ)) قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا بَالُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: ((يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ نَسْمٌ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا)) فَقِيلَ: وَمَا بِالسَّبَنِ؟ قَالَ: ((أَنَاسٌ يُجِبُّونَ اللَّبْنَ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ، وَيَتْرَكُونَ الْجُمُعَاتِ)) (مسند احمد: ۱۷۴۵۱)

فوائد: دودھ کی تلاش میں دیہاتوں میں نکل جائیں گے، جس کا نتیجہ جماعت اور جمعہ کو چھوڑنے کی

صورت میں نکلے گا، مزید آگے دور روایات کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت کی ہلاکت کا باعث کتاب اور دودھ ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! کتاب اور دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے اور جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے اس کے علاوہ غلط تاویلیں کریں گے اور جانوروں کی

(۸۴۶۴)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنِ؟ قَالَ: ((يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُجِبُّونَ اللَّبْنَ فَيَدْعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمُعَاتِ))

وَيَبْدُونَ)) (مسند احمد: ۱۷۵۵۱)

دیکھ بھال میں مصروف ہو کر دیہاتوں میں چلے جائیں گے اور جماعت اور جمعہ چھوڑ دیں گے۔“

(۸۴۶۵)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ الْقُرْآنَ وَاللَّبْنَ، أَمَّا اللَّبْنُ فَيَبْتَعُونَ الرَّيْفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتْرَكُونَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَّا الْقُرْآنَ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمَنَافِقُونَ فَيَجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ)) (مسند احمد: ۱۷۵۵۷)

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت پر دو چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوں۔ قرآن مجید اور دودھ، لوگ ہریالی، سبزہ تلاش کریں گے خواہشات کی پیروی کریں گے نمازیں چھوڑ دیں گے اور قرآن مجید منافق قسم کے لوگ سیکھیں گے اور اس کو ذریعہ بنا کر ایمانداروں سے جھگڑیں گے۔“

فوائد: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابن عبدالبر نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا: ”باب فیمن تأول القرآن او تدبره وهو جاهل بالسنة“ (اس شخص کے بیان میں، جو قرآن کی تاویل کرتا ہے یا اس میں غور و خوض کرتا ہے، جبکہ وہ سنت سے جاہل ہے) پھر انھوں نے کہا: تمام اہل بدعت نے سنتوں سے اعراض کیا اور قرآن مجید کی وہ تاویل بیان کی، جو سنتوں میں پیش کی گئی تفسیر کے مخالف ہے، پس وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رسوائی سے پناہ چاہتے ہیں اور اس سے توفیق اور عصمت و سالمیت کا سوال کرتے ہیں۔ میں۔ (البانی) کہتا ہوں: ان بدعتیوں کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا منصب بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورہ نحل: ۴۴) ”اور ہم نے یہ ذکر (کتاب) آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔“ (صحیحہ: ۲۷۷۸)

کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج کل مخصوص فقہ کے دعویدار لوگ قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کر احادیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! جس ہستی پر یہ کتاب عظیم نازل ہوئی، جس شخصیت کو تشریح قرآن کا عہدہ سونپا گیا، اس کے فرمودات عالیہ کا قرآن سے ٹکراؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ احادیث نبویہ سے دوری، خواہش پرستی، مخصوص مسلک کی بے جا طرفداری اور اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ مزید اسی کتاب کے عنوان ”حدیث نبوی بھی حجت ہے“ کا مطالعہ کریں۔ رہا مسئلہ کہ دودھ کی وجہ سے ہلاکت کا، تو کیا یہ درست ہو گا کہ دودھ سے مراد صرف (۱) دودھ ہی لیا جائے یا (۲) اس کی تمام مصنوعات، یا یہ کہا جائے کہ (۳) دودھ کو بطور مثال ذکر کیا گیا، آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ لوگ ماکولات و مشروبات کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ اگر دودھ سے مراد لیا جائے، تو ممکن ہے کہ ماضی میں ایسے لوگ رہے ہوں جنھوں نے دودھ کی وجہ سے مساجد سے بیزاری کا اظہار کیا ہو یا پھر مستقبل میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جائے گا۔ اگر عصر حاضر کے لوگوں کے کردار پر

نگاہ ڈالی جائے تو تیسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ہوٹلوں، بالخصوص آبادی سے دور طعام گاہوں، آئس کریم مرکزوں اور کھیر گاہوں غرضیکہ زبان کے حقوق اور دولت کی نمائش میں پڑ کر نماز اور جمعہ سے غافل ہو کر رہ گئے ہیں، ہر ایک مالدار کو بڑے بڑے ہوٹلوں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کا علم ہے، جس کا وہ لحاظ بھی کرتا ہے، لیکن وہ جاہل ہوگا تو پانچ نمازوں کے اوقات سے، نطہ جمعہ کی ابتدا کے وقت سے اور ان گھڑیوں کے تقاضے پورے کرنے سے۔ مساجد کے قریب واقع ہوٹلوں میں دودھ سوڈے کے بہانے آدھی آدھی رات تک بیٹھیں رہیں گے، لیکن نمازِ عشا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جنگلوں کی طرف نکل جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چراگاہوں میں جا کر دودھ تلاش کیا جائے۔

(۸۶۶)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بَيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ فَأَنْقَطَعَتْ نَعْلُهُ فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلِيَّ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا قَاتَلَ) عَلِيَّ تَنْزِيلِهِ))، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو نَحْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: ((لَا وَلَكِنَّهُ خَاصِفٌ لِنَعْلِ)) قَالَ: فَجِئْنَا نُبْشِرُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ فُذِّ سَمِعَهُ۔ (مسند احمد: ۱۱۷۹۵)

”سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم بیٹھے نبی کریم ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں آپ ﷺ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی مرمت کے لئے پیچھے رک گئے، آپ ﷺ چلتے رہے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ چلتے رہے، پھر آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے بعض لوگ اس قرآن مجید کی تاویل و تفسیر کے مطابق لڑیں، جیسے میں لڑا ہوں۔“ ہم نے گردنیں اٹھا کر دیکھا کیونکہ ہمارے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نہیں، بلکہ یہ آدمی تو جوتا مرمت کرنے والا ہے۔“ پس ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنانے کے لیے ان کے پاس گئے، تو گویا اس نے آپ ﷺ کے الفاظ پہلے ہی سنے ہوئے تھے (اس لیے خوشی کا اظہار نہیں کیا)۔“

فوائد:..... سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائی کی، پھر اپنے دور خلافت میں آپ ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق خوارج سے لڑائی کی، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی حق پر تھے۔

(۸۶۶) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۲ / ۶۴، وابویعلی: ۱۰۸۶، وابن حبان: ۶۹۳۷ (انظر: ۱۱۷۷۳)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

قراءت سے پہلے تعوذ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کا بیان

(۸۴۶۷)۔ عَنِ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّدُنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز میں داخل ہوتے تو تین دفعہ اللہ اکبر، تین دفعہ لا الہ الا اللہ اور تین مرتبہ ”سبحان اللہ وبحمده“ پھر یہ پڑھتے: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔

(۸۴۶۷)۔ عَنِ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ) كَبَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔

(مسند احمد: ۲۲۵۳۲)

فوائد: سیدنا جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اس کے ”ہمز“، ”نفث“ اور ”نَفْخ“

سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہمز“ سے مراد جنون اور دیوانگی ہے، جو آدم کے بیٹے پر طاری ہو جاتی ہے، پھر اس جنون کی کیفیت ذکر کی، جس میں وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور اس کے ”نَفْخ“ سے مراد کبر اور ”نَفْث“

سے مراد شعر ہے۔“ ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۱۵۵۳)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی اس سے طویل حدیث بیان کی ہے، اس میں ہے: پھر آپ ﷺ پڑھتے: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ۔

(۸۴۶۹)۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِأَطْوَلٍ مِنْ هَذَا وَفِيهِ: ثُمَّ يَقُولُ: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ)) (مسند احمد: ۱۱۴۹۳)

سیدنا سلیمان بن مرد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دو آدمیوں کو سنا جو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک غضب ناک ہو گیا اور سخت غصہ میں آ گیا

(۸۴۷۰)۔ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلَيْنِ وَهُمَا يَتَقَاوَلَانِ، وَأَحَدُهُمَا قَدْ غَضِبَ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَهُوَ

(۸۴۶۷) حسن لغیره، وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوى له عن ابى امامة (انظر: ۲۲۱۷۷، ۲۲۱۷۹)۔

(۸۴۶۹) تخريج: صحيح، قاله الالبانى - أخرجه ابوداود: ۷۷۵ (انظر: ۱۱۴۷۳)

(۸۴۷۰) تخريج: أخرجه البخارى: ۶۰۴۸، ومسلم: ۲۶۱۰ (انظر: ۲۷۲۰۵)

نزل قرآن کی کیفیت کے ابواب ﴿﴾

بِقَوْلٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً
نَوَّالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ الشَّيْطَانُ..)) قَالَ: فَأَتَاهُ
الْجَلُّ فَقَالَ: ((قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ)) قَالَ: هَلْ تَرَى بَأْسًا، قَالَ: مَا زَادَهُ
مَنَى ذَلِكَ. (مسند احمد: ۲۷۷۴۷)

اور اپنے ساتھی کو برا بھلا کہنے لگا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہے گا تو اس کا شیطان
دور چلا جائے گا۔“ یہ سن کر ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا: تو
یہ کلمہ کہہ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لیکن اس
نے آگے سے کہا: کیا تو مجھے پاگل سمجھتا ہے۔

فوائد: صحیح بخاری میں ”هَلْ تَرَى بَأْسًا“ کی بجائے ”هَلْ تَرَى بِنِي جُنُونًا“ کے الفاظ ہیں۔ ممکن
ہے یہ آدمی اکھڑ مزاج بدوؤں سے ہو یا ابھی تک دین کی سمجھ بوجھ اور شریعتِ مطہرہ کے انوار و برکات سے فیضیاب نہ ہوا
؛ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی منافق ہو۔ معلوم ہوا کہ غصے کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ پڑھنا چاہیے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفَضْلِهَا

قرات سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان

(۸۴۷۱)۔ عَنْ أَبِي تَيْمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ
رِذِّفِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ رِذِّفِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ رِذْفُهُ (حَلْفَهُ عَلَى ظَهْرِ
الدَّبَابَةِ)، فَعَثَرَتْ بِهِ دَابَّتُهُ فَقَالَ: تَعَسَّ
الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: ((لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ يَتَعَاظَمُ
إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْجَبَلِ،
وَيَقُولُ: يَقْوَتِي صَرَغَتُهُ، وَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ
اللَّهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الدُّبَابِ..))
(مسند احمد: ۲۳۴۸۰)

ابو تیمرہ نجیمی سے مروی ہے، وہ نبی کریم ﷺ کے ردیف سے
بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ ﷺ کی سواری پر آپ ﷺ
کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اچانک جب آپ ﷺ کی سواری پھسلی
تو اس نے کہا: شیطان کا ستیا ناس ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
”یہ نہ کہو، اس طرح سے وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ
خوشی سے پھول کر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنی
قوت سے اسے گرا دیا ہے، لیکن جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ
چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔“

فوائد: معلوم ہوا کہ گرتے وقت، پھسلتے وقت، ٹھوکر لگتے وقت اور کوئی چوٹ لگتے وقت بسم اللہ پڑھنا
چاہیے اور ایسے موقع پر شیطان کو بددعا نہیں دینی چاہیے، مندرجہ حدیث کا موضوع بھی یہی ہے: رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ((لَوْ قُلْتَ: بِسْمِ اللّٰهِ لَطَارَتْ بِكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ..)) قَالَهُ لِيُطْلَحَ حِينَ
قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ: حَسَّ. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَنْسِ ﷺ، وَأَبْنِ شَهَابٍ مُرْسَلًا. ”اگر تو
”بسم اللہ“ کہتا، تو فرشتے تجھے لے کر اڑ جاتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے۔“ آپ ﷺ نے یہ بات سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو

اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب انھوں نے (ایک تکلیف کی وجہ سے) ”ہائے“ کہا تھا۔ یہ حدیث سیدنا جابر، سیدنا انس رضی اللہ عنہما اور ابن شہاب سے مرسل مروی ہے۔ (أوردہ السیوطی فی ”الجامع الكبير“ من رواية النسائی والطبرانی، صحیحہ: ۲۷۹۶)

معلوم ہوا کہ اچانک پہنچنے والی تکلیف پر ”ہائے ہائے، ہائے میری مائے، اوہو، او تیرا بھلا“ جیسے بے معنی الفاظ کی بجائے بسم اللہ کہنا چاہیے، مثلاً زخم لگنا، گر جانا، کسی حادثے سے بچنے کے لیے گاڑی کی فوراً بریک لگانا، وغیرہ۔

(۸۴۷۲)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَائَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْطَعُ قِرَائَتَهُ آيَةَ آيَةٍ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (یعنی آپ ﷺ ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے)۔ (مسند احمد: ۲۷۱۱۸)

”سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (یعنی آپ ﷺ ایک ایک آیت پر ٹھہرتے تھے)۔“

نوٹ: سورت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ درج ذیل بحث پر غور کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کی تلاوت کرتے اور ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھتے۔ (مستدرک حاکم: ۸۳۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اِذَا قَرَأْتُمْ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فَاقْرَؤُوا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إِحْدَاهَا.)) یعنی ”جب تم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ پڑھو تو ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ بھی پڑھو، یہ (سورۃ فاتحہ) ام القرآن، ام الكتاب ہے اور سبع مثانی (یعنی بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں) اور ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اس کی ایک آیت ہے۔“ (سلسلہ احادیث صحیحہ: ۱۱۸۳، بحوالہ دارقطنی: ۱۱۸، بیہقی: ۴۵/۲، دیلمی: ۷۰/۱/۱)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھائی، باواز بلند قراءت کی، اور سورۃ فاتحہ سے قبل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھی، لیکن (فاتحہ کے بعد والی) سورت کے ساتھ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ نہ پڑھی، جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو ہر طرف سے مہاجرین اور انصار (اعتراض کرنے کے لیے) بول اٹھے اور کہا: اے معاویہ! آپ نے نماز میں سے کچھ چوری کر لیا ہے (کہ دوسری سورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی) یا بھول گئے ہیں؟ (سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور) اس واقعہ کے بعد جب نماز پڑھائی تو فاتحہ کے بعد والی سورت کے ساتھ بھی ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھی اور جہدہ کے لیے گرتے وقت ”اللہ اکبر“ کہا۔ (مستدرک حاکم: ۸۵۱)

نعیم جمر کہتے ہیں: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَا شَبْهَكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (سنن نسائی: ۹۰۶، صحیح ابن حزمہ: ۲۵۱/۱، شرح معانی الآثار: ۱/۱۳۷)

یعنی: میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھی، انھوں نے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھی، پھر فاتحہ شریف کی تلاوت کی، جب وہ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تک پہنچے تو انھوں نے ”آمین“ کہی۔ اربوگوں نے بھی ”آمین“ کہی، جب وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اسی طرح جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ امام ترمذی نے کہا: سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم سمیت صحابہ کرام اور تابعین میں سے کئی اہل علم اور امام سفیان ثوری، امام عبد اللہ بن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ جمیعا کی یہ رائے کہ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کی تلاوت جہرا نہ کی جائے، بلکہ اس کو دل میں پڑھا جائے۔ (ترمذی: ۲۳۴ کے بعد)

نیز انھوں نے کہا: سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبد اللہ بن عمر، سیدنا عبد اللہ بن عباس اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سمیت بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین کا یہ مسلک ہے کہ (جہری نمازوں میں فاتحہ کے ساتھ) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کو بھی جہراً پڑھا جائے، امام شافعی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (ترمذی: ۲۳۵ کے بعد)

قارئین کرام! آپ اس موضوع سے متعلقہ درج بالا تمام روایات پر غور کریں، ان میں جمع و تطبیق کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ جن روایات میں ﴿بِسْمِ اللَّهِ...﴾ کی نئی کی گئی ہے، ان سے مراد جہر کی نئی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہم کا اکثر و بیشتر یہی معمول رہا، بسا اوقات آپ سے اس کو جہراً پڑھنا ثابت ہے، جن صحابہ کرام نے سختی سے اس آیت کو پڑھنے سے منع کیا، ان کے علم میں اس کو ثابت کرنے والی احادیث نہیں تھیں۔ آپ اس دعویٰ کو ناممکن یا محال نہ سمجھیں کیونکہ جو لوگ ﴿بِسْمِ اللَّهِ...﴾ کے جہر کو روایت اور عملاً ثابت کر رہے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام ہی ہیں۔ کئی دوسرے مسائل میں جمع و تطبیق کی یہ صورتیں موجود ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم رضی اللہ عنہم سے ایک موضوع سے متعلقہ جو کچھ ثابت ہے، اس کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی ناخ و منسوخ کی صورت پیدا ہو جائے۔



أَبْوَابُ التَّفْسِيرِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ وَفَضَائِلِ السُّورِ وَالْآيَاتِ

مُرْتَبًا ذَلِكَ عَلَى نِظَامِ السُّورِ

تفسیر، اسباب نزول اور سورتوں کی ترتیب کے مطابق سورتوں

اور آیتوں کے فضائل کے ابواب

بَابُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَمَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا
سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت کا بیان

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ نے پھر بلایا: ”اے ابی!“ انہوں نے توجہ تو کی، لیکن جواب نہ دے سکے، پھر انہوں نے تخفیف کے ساتھ نماز مکمل کی اور بعد میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے نبی! السلام علیک، آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر سلامتی ہو، اے ابی! جب میں نے تمہیں بلایا تو آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے یہ وحی نہیں سنی ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾..... ”اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے

(۸۴۷۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: ((يَا أَبُي!)) فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ ضَلَّى أَبُو فَخَقَفَ، ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! قَالَ: ((وَعَلَيْكَ)) قَالَ: ((مَا مَعَكَ أَيُّ أَبِي إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟)) قَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ((أَفَلَسْتَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ قَالَ: قَالَ: بَلَى أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ!

(۸۴۷۳) تخريج: حدیث صحیح - أخرجه الترمذی: ۲۸۷۵ (انظر: ۹۳۴۵)

رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، انھوں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں وہ سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل اور نہ قرآن مجید میں“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ضرور سکھائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں امید رکھتا ہوں تم اس دروازہ سے باہر نہ جاؤ گے کہ تم کو وہ سکھلا دوں گا۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، میں اس خوف سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں ختم ہونے سے پہلے آپ ﷺ دروازے پر پہنچ جائیں، پھر جب ہم دروازے کے قریب ہوئے تو میں نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول! وہ کونسی سورت ہے، جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟“ میں نے جواباً سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ تعالیٰ نے اس جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں۔ یہی وہ سات دہرائی جانے والی آیات ہیں اور یہی قرآن عظیم ہے۔“

لَا أَعُوذُ، قَالَ: ((أَتُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَكَ سُورَةَ، لَمْ تَنْزِلَ فِي التَّوْرَةِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا.)) قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي يُحَدِّثُنِي وَأَنَا تَبْطَأُ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ لِحَدِيثِ، فَلَمَّا أَنْ دَنَوْنَا مِنَ الْبَابِ قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! مَا السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي؟ قَالَ: ((فَكَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟)) قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي.)) زَادَ فِي رِوَايَةِ بَلْفِظُ: ((إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْبِئْسَ أُعْطِيتُ.)) (مسند احمد: 9334)

فوائد: سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی اطاعت کا ایک تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ ﷺ کے بلاوے کی آواز آجائے تو نماز کو ترک کر کے آپ ﷺ کی نداء پر لبیک کہنا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت سورہ فاتحہ کی کی جاتی ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اور بار بار اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا کیا کمال ہے کہ مجال ہے کوئی بوریٹ اور اکتاہٹ محسوس ہو۔ اس حدیث کے آخر میں اور اگلی احادیث میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تجھے بار بار دھرائی جانے

والی سات آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔“ (سورہ حجر: ۸۷)

آیات کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں: اے نبی! ہم نے جب قرآن مجید اور خاص طور پر سورہ فاتحہ جیسی لازوال دولت تجھے عنایت فرما رکھی ہے تو تجھے نہیں چاہئے کہ کافروں کے دنیوی مال و متاع اور ٹھاٹھ باٹھ کو لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھے، یہ تو سب فانی ہے اور صرف ان کی آزمائش کے لئے چند روزہ انہیں عطا ہوا ہے، ساتھ ہی تجھے ان کے ایمان نہ لانے پر صدے اور افسوس کی بھی چنداں ضرورت نہیں، ہاں تجھے چاہئے کہ نری، خوش خلقی، تواضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتا رہے۔

(۸۴۷۴)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
فِي أُمِّ الْقُرْآنِ: ((هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ
السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ))
(مسند احمد: ۹۷۸۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ام القرآن (یعنی سورہ فاتحہ) کے بارے میں فرمایا: ”یہی وہ سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور اسی سورت کو قرآن عظیم کہتے ہیں۔“

(دوسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں۔“
(۸۴۷۴)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ
الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي))
(مسند احمد: ۹۷۸۹)

(۸۴۷۵)۔ عَنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ:
كُنْتُ أَصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ،
فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟)) فَقَالَ: إِنِّي
كُنْتُ أَصَلِّي، قَالَ: ((أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ثُمَّ
قَالَ: أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ
قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟)) قَالَ:

”سیدنا ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا، لیکن میں تو نہ آسکا، حتیٰ کہ میں نے نماز مکمل کی اور پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟“ میں نے کہا: جی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾..... ”اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول

(۸۴۷۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۷۰۴ (انظر: ۹۷۸۸)

(۸۴۷۴) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۴۷۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۷۰۳ (انظر: ۱۵۷۳۰)

تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟“ پھر جب آپ ﷺ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ ﷺ کو یاد کرایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ سورۃ فاتحہ ہے، یہی وہ سات آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔“

”سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عبداللہ بن جابر! کیا میں تمہیں قرآن مجید کی بہترین سورت نہ بتا دوں؟“ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! ضرور بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”پڑھو ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...﴾، یہاں تک کہ اس کو پورا کر لو۔“

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی اور نہ انجیل میں، یہی بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں اور یہ سورت میں (اللہ) اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے، جو اس نے سوال کیا۔“

فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُهُ، فَقَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.)) (مسند احمد: ۱۵۸۲۱)

(۸۴۷۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْأَخْبِرْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ! بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((اقْرَأْ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حَتَّى تَخْتِمَهَا.)) (مسند احمد: ۱۷۷۴۰)

(۸۴۷۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَفْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.)) (مسند احمد: ۲۱۴۱۰)

فوائد:..... سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے مابین کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ درج ذیل حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ (وَفِي رِوَايَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ.)) قَالَ أَبُو السَّائِبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَغَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي، فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ! إِقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

(۸۴۷۶) تخریج: اسنادہ حسن فی المتابعات، ویشہد له ما قبلہ (انظر: ۱۷۵۹۷)

(۸۴۷۷) اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ أخرجه الترمذی: ۳۱۲۵، والنسائی: ۱۳۹ / ۲ (انظر: ۲۱۰۹۴)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اقْرَأْ وَ اَيَقُولُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ: حَمْدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ: أَفْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجَدَّنِي عَبْدِي، وَقَالَ: هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: أَسْبَدُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ يَقُولُ عَبْدِي: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.﴾..... ”جس نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔“ ابو السائب نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: بسا اوقات میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، (تو اس وقت میں فاتحہ کی تلاوت کیسے کروں)؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے میرے بازو کو دبایا اور کہا: اے فارسی! اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ تعالیٰ کہتا ہے: میں نے نماز (یعنی سورہ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کیلئے وہ ہے جو وہ سوال کرے۔“ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فاتحہ پڑھو، جب بندہ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثناء بیان کی، جب بندہ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے: یہ (اگلی آیت) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جب بندہ کہتا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے: میں اس (آیت کے دوسرے جملے کو) اپنے بندے کے لیے پاتا ہوں اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، جب بندہ کہتا ہے: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔“ (مسلم: ۳۹۵، واللفظ لاجم)

اس باب کی احادیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہی وہ عظیم سورت ہے، جس کو اس کے مضمون کی وجہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کیا گیا ہے۔

بَابُ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ﴾ کی تفسیر

(۸۴۷۸)۔ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، أَخْبَرَنِي ”عبداللہ بن شقیق سے مروی ہے، وہ کسی صحابی سے بیان کرتے
عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ ہیں کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا، جبکہ آپ ﷺ

وادی قمری میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے، بلقین کے ایک آدمی نے آپ ﷺ سے سوال کیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر غضب ہوا۔“ ساتھ آپ ﷺ نے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس آدمی نے کہا: اور یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی گمراہ ہیں۔“ آپ ﷺ کی مراد عیسائی لوگ تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا غلام شہید ہو گیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ ایک چادر کی خیانت کرنے کی وجہ سے اس کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔“

”سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے، وہ عیسائی ہیں۔“

النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ بَوَادِي الْقُرَى، وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ((هُؤُلَاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ))، وَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ، قَالَ: فَمَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: ((هُؤُلَاءِ الضَّالِّينَ))، يَعْنِي النَّصَارَى، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتَشْهِدْ مَوْلَاكَ، أَوْ قَالَ: غَلَامُكَ فُلَانٌ، فَقَالَ: ((بَلْ يُجْرُ إِلَى النَّارِ فِي عِبَانَةٍ غَلَاهَا)) (مسند احمد: ۲۱۰۱۶)

(۸۴۷۹)۔ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى)) (مسند احمد: ۱۹۶۰۰)

فوائد: یہودی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حق کو پہنچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، سو وہ غضبِ الہی کے مستحق ٹھہرے اور عیسائی وہ لوگ ہیں، جو جہالت کے سبب راہِ حق سے برگشتہ ہو گئے، ابن ابی حاتم نے کہا: مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ سے مراد یہودی اور ﴿الضَّالِّينَ﴾ سے مراد عیسائی ہیں۔ اس لیے صراطِ مستقیم کی خواہش رکھنے والوں کے ضروری ہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔

بَابُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سورۃ بقرہ کی تفسیر اور اس کے فضائل کا بیان

”سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن مجید پڑھو اور سیکھو، کیونکہ یہ روزِ قیامت پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا اور دو چمکدار سورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ روزِ قیامت دو

(۸۴۸۰)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((اقْرَأْ وَالْقُرْآنَ)) وَفِي رِوَايَةٍ: تَعَلَّمُوا فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اقْرَأْ وَالزُّهْرَاوِينَ الْبَقَرَةَ وَالْ

(۸۴۷۹) تخریج: صحیح بالشواہد (انظر: ۱۹۳۸۱)

(۸۴۸۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۰۴ (انظر: ۲۲۱۴۶)

بادلوں یا دوسایوں کی مانند ہوں گی یا یہ پر پھیلانے ہوئے پرندوں کی دوغولوں کی مانند ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، جادو گراس پر طاقت نہیں رکھ سکتے۔“

عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَاتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ يُحَاجَّانِ عَنْ أَهْلِهِمَا.))، ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَأْ وَابْقِرَةَ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ.)) (مسند احمد: ۲۲۴۹۸)

فوائد: جادو گروں کو ”بطلتہ“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے کے سارے افعال باطل ہوتے ہیں۔

سورۃ بقرہ پر طاقت نہ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ جادو گراس شخص پر اپنا عمل نہیں کر سکتا، جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا ہو۔

”سیدنا نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”روزِ قیامت قرآن مجید کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔“ نبی کریم ﷺ نے ان دو سورتوں کی تین مثالیں بیان کیں، جنہیں میں ابھی تک نہیں بھولا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”گویا کہ یہ دو سورتیں دو بادل ہوں گی، یا دو سائے یا دو اندھیرا نما (سائے)، جن میں روشنی ہوگی، گویا کہ یہ دو پر پھیلانے والے پرندوں کی دو جماعتوں کی مانند ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لئے دفاع کریں گی۔“

(۸۴۸۱)۔ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِيهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقَدَّمَهُمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ))، وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: ((كَأَنَّهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظَلَّتَانِ أَوْ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا)) (مسند احمد: ۱۷۷۸۷)

”سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”سورۃ بقرہ سیکھو، اس کی تعلیم حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، باطل پرست اس پر غالب نہیں آسکتے۔“ پھر آپ ﷺ کچھ دیر کے لیے

(۸۴۸۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ.))، قَالَ: ثُمَّ مَكَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:

(۸۴۸۱) تخريج: أخرجه مسلم: ۸۰۵ (انظر: ۱۷۶۳۷)

(۸۴۸۲) تخريج: أسناده حسن في المتابعات من اجل بشير بن المهاجر الغنوي، وحسنه الحافظ ابن كثير في ”تفسيره“، ولبعضه شواهد يصح بها. أخرجه البزار: ۲۳۰۲ (انظر: ۲۲۹۵۰)

نہر گئے اور پھر فرمایا: ”سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں چمکدار اور خوبصورت سورتیں ہیں، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کو اس طرح ڈھانپ لیں گی گویا کہ دو بادل ہوں یا دو سایہ دار چیزیں یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے دو غول ہوں اور یقیناً قرآن مجید قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کو اس وقت ملے گا، جب اس کی قبر پھٹے گی، وہ کمزور اور رنگت تبدیل شدہ آدمی کی مانند ہوگا اور بندے سے کہے گا: کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا: میں نہیں پہچانتا، قرآن پھر کہے گا: کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ یہ کہے گا: میں نہیں پہچانتا، وہ کہے گا: میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تجھے دوپہر کے وقت پیسا رکھا اور تجھے رات کو جگا تا رہا، آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے (یعنی ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے) اور آج تو ہر تجارت کے پیچھے ہو۔ (یعنی آج تجھے ہر تجارت سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوگا) پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں بیٹھکی دی جائیگی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و مافیہا (کی قیمت) ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے، پھر اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں ملے کرتا جا، وہ جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جائے گا، جب تک پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، تیز پڑھے یا آہستہ پڑھے۔“

”سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورۃ بقرہ قرآن مجید کی کوہان اور اس کی چوٹی ہے،

((تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالْأَمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ، يُظَلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا نَهَمَا بِمَامَتَانِ أَوْ غَيَاتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْفِي صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسَهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطِي الْمَلِكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لِهَمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ بِسْمِ كَسِينَا هَذِهِ؟ فَيَقَالُ: بِأَخِيذِ رَلِدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَأَضْعُدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَعُغْرِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودِ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذَا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا.)) (مسند احمد: ۲۳۳۳۸)

(۸۴۸۳)۔ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ

(۸۴۸۳) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة الرجل وابیه، وسمی فی روایة أبی عثمان، ولا يعرف أخرجه

التسانی فی ”عمل اليوم والليلة“: ۱۰۷۵، والطبرانی: ۵۱۱ / ۲۰ (انظر: ۲۰۳۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتَخْرَجَتْ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوُصِلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَيَسَّ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَفْرُوهُارَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَأْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ)) (مسند احمد: ۲۰۵۶۶)

اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی (۸۰) فرشتے نازل ہوئے اور اس کی آیت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ کو عرش الہی کے نیچے سے نکالا گیا اور پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ سورہ یسین، قرآن مجید کا دل ہے، جو بھی اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آخرت کے ثواب کے لئے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اپنے قریب المرگ لوگوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کیا کرو۔“

فوائد: درج ذیل حدیث سے ثابت ہوا کہ سورہ بقرہ واقعی قرآن مجید کی کوہان اور چوٹی ہے: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفاً اور مرفوعاً روایت کرتے ہیں: ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)) ”ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے اور جب شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں اس سورت کی تلاوت کی جارہی ہو۔“ (حاکم: ۱ / ۵۶۱، صحیحہ: ۵۸۸)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔“ (مسند احمد: ۷۸۰۸)

فوائد: اس حدیث کا مضمون درج ذیل مرفوع روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے: سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)) ”اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں شیطان نہیں گھستا۔“ (حاکم: ۱ / ۵۶۱، صحیحہ: ۱۵۲۱)

سورہ بقرہ حق ہے اور شیطان باطل ہے، جہاں حق کا ظہور اور آمد ہو، باطل وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔



التَّفْسِيرُ وَاسْبَابُ النُّزُولِ

تفسیر و اسباب نزول کا بیان

بَابُ ﴿ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ وَقِصَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
﴿ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ کی تفسیر اور ہاروت اور ماروت کا قصہ

(۸۴۸۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ آدَمَ ﷺ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ! ﴿ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ قَالَ إِنْ أَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ” کیا تو اس زمین میں اس بشر کو آباد کرنے والا ہے، جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ نے کہا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ لیکن فرشتوں نے کہا: ہم آدم کی اولاد کی بہ نسبت تیرے زیادہ مطہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا: اچھا پھر دو فرشتے لاؤ تا کہ ہم انہیں زمین پر اتاریں اور دیکھیں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں، پس انہیں زمین پر

(۸۴۸۵) تخریج: اسنادہ ضعیف ومتنه باطل، موسیٰ بن جبیر الانصاری المدني یخطیء و یخالف، وقال الحافظ: مستور، وزهیر بن محمد الخراسانی صدوق منکر الحدیث۔ والصحیح ان هذا الحدیث لا تصح نسبه الى النبی الکریم ﷺ وانما هو من قصص کعب الاحبار، نقله عن کتب بنی اسرائیل۔ أخرجه ابن

حیان: ۶۱۸۶، و البزار: ۲۹۳۸، والبیہقی: ۱۰ / ۴ (انظر: ۶۱۷۸)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اتارا گیا اور ان کے سامنے ایک حسین ترین عورت پیش کی گئی، یہ دونوں اس کے پاس آئے اور اس سے اس کے نفس کا یعنی بدکاری کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے کہا: اللہ کی قسم: نہیں، اس وقت تک تم قریب نہیں آ سکتے، جب تک تم اللہ تعالیٰ سے شرک والا کلمہ نہیں کہو گے، انہوں نے کہا: ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے۔ سو وہ چلی گئی اور پھر ایک بچہ لے کر دوبارہ آ گئی، انہوں نے پھر اس عورت سے بدکاری کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے کہا: جب تک تم اس بچے کو قتل نہیں کرتے، میرے قریب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم اسے تو قتل نہیں کر سکتے، وہ چلی گئی اور اگلی بار شراب کا پیالہ لے کر آئی، جب انہوں نے پھر اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی، یہاں تک کہ تم یہ شراب پی لو، جب انہوں نے شراب پی لی تو (نشے میں آ کر) اس عورت سے بدکاری بھی کر لی اور بچے کو قتل بھی کر دیا، جب ان کو ہوش آئی تو اس عورت نے کہا: اللہ کی قسم! ہر جس جس چیز کے انکاری تھی، تم نے نشہ کی حالت میں اس کا ارتکاب کر لیا ہے، (اس جرم کی پاداش میں) انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے ایک کو منتخب کرنے کا کہا گیا، انہوں نے دنیا کا عذاب اختیار کیا۔“

لَا، وَاللَّهِ! حَتَّى تَكَلِّمًا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْبِإِشْرَاكِ، فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا، وَاللَّهِ! حَتَّى تَقْتُلَا هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا قَالَتْ: لَا، وَاللَّهِ! حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلَا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ! مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَيْبَمْتُمَا عَلَيَّ إِلَّا قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخَيْرًا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا.)) (مسند احمد: 6178)

فوائد: یہ حدیث تو ضعیف ہے، البتہ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب! اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جوئی مخلوق میں متوقع ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجحہ جانتا ہوں جس بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور اتقیا بھی ہوں گے۔ ہاروت اور ماروت واقعی دو فرشتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر (102) میں ان کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بائبل میں ان پر جادو کا علم نازل کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء و رسل کے ہاتھوں پر

ظاہر شدہ معجزے، جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دو فرشتوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیائے کرام کو نعوذ باللہ جادو گر اور شعبہ باز سمجھنے لگے تھے، اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان ان فرشتوں کو نازل کیا گیا۔

بَابُ: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً﴾
﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ کی تفسیر

(۸۴۸۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾..... (سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ) لیکن وہ لوگ اس کے برعکس گھٹ کر داخل ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ ﴿وَقُولُوا حِطَّةً﴾ ((بَدَلُوا، فَقَالُوا: حِطَّةً فِي شَعْرَةٍ)) (مسند احمد: ۸۰۹۵)

عالم کو بدل دیا اور کہا: بالی میں گندم کا دانہ۔"

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَمَلَأُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾..... "اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے، تو ہم تمہیں تمہاری خطا میں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔" (سورہ بقرہ: ۵۸)

جب بنو اسرائیل میدان تہ میں چالیس سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی فتح عطا کی، جبکہ اس فتح کی تکمیل کے لیے سورج کو بھی روک دیا گیا تھا، اس وقت ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ کہ یا اللہ! ہمیں بخش دے، تاکہ فتح کے اظہار تشکر کا مظہر نظر آجائے، لیکن انھوں نے داخل ہوتے ہوئے تضحیک آمیز انداز اپنایا، یہ یہودیوں کی حکم عدولی کا حال تھا۔

بَابُ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ...﴾
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ...﴾ کی تفسیر

(۸۴۸۷)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلَتْ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: اے ابو القاسم! ﴿يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ،﴾ ہم آپ سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر

(۸۴۸۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۴۷۹، ومسلم: ۳۰۱۵ (انظر: ۸۱۱۰)

(۸۴۸۷) تخریج: صحیح، قاله الالبانی - أخرجه الترمذی: ۳۱۱۷ (انظر: ۲۴۸۳)

آپ ان کے جوابات دیں گے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ برحق نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، آپ نے ان سے اس طرح عہد لیا، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا ”ہم جو بات کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ سوال پیش کرو۔“ (۱) انہوں نے کہا: ہمیں نبی کی نشانی بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔“ (۲) انہوں نے کہا: یہ بتائیں کہ نر اور مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مردوزن کا آب جو ہر دونوں ملتے ہیں، جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے، تو نر پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا آب جو ہر غالب آتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے۔“ (۳) انہوں نے کہا: ہمیں بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا حرام قرار دیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انہیں عرق نساء کی بیماری تھی، انہیں صرف اونٹنیوں کا دوہ موافق آیا، تو صحت ہونے پر اونٹوں کا گوشت خود پر حرام قرار دے دیا۔“ انہوں نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں، (۴) اچھا یہ بتائیں کہ یہ ”رسد“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جس کے سپرد بادل ہیں یا اس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا ہنتر ہے، جس کے ساتھ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔“ انہوں نے کہا: یہ آواز کیا ہے جو سنی جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اسی ہنتر کی آواز ہے۔“ انہوں نے کہا: آپ نے سچ کہا ہے۔ (۵) انہوں نے کہا: ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو اس کے پاس بھلائی یعنی وحی لے کر آتا ہے، آپ بتائیں آپ کا فرشتہ ساتھی

فَإِن أَنْبَأْنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَيَّ بَيْنَهُ إِذْ قَالُوا: ﴿اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ قَالَ: ((هَاتُوا)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤْنِثُ الْمَرْأَةَ وَكَيْفَ تُذَكِّرُ؟ قَالَ: ((يَلْتَقِي الْمَاءُ إِنْ فَإِذَا عَلِمَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلِمَاءُ الْمَرْأَةِ آتَتْ))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: ((كَانَ يَشْتَكِي عِرْقَ النَّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْبَابَانَ كَذَا وَكَذَا)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَيْسَى: قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْبَابِلَ فَحَرَّمَ لِحُومَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: ((مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ، أَوْ فِي يَدِهِ مَخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ)) قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: ((صَوْتُهُ))، قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: ((جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)) قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ ذَاكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عِدُونًا. لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ

وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ (مسند احمد: ۲۴۸۳)

کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام ہیں۔“ اب کی بار انھوں نے کہا: جبریل، یہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ میکائیل کہتے جو کہ رحمت، نباتات اور بارش کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات بنتی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ”کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۹۷)

فوائد: جب یوسف رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو غلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھیجیں، تو اس وقت انھوں نے ان سے پکا عہد لیا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ”اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو گے کہ تم ہر صورت اسے میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ پھر جب انھوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، ضامن ہے۔“ (سورہ یوسف: ۶۶)

اس حدیث کی مزید وضاحت اگلی حدیث سے ہو رہی ہے۔

(۸۴۸۷)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) حَضَرَتْ عِصَابَةُ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! حَدِّثْنَا عَنْ خِلَالٍ نَسَأَ لَكَ عَنْهُمْ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَ: ((سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَكِنْ اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ، وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ

” (دوسری سند) یہودیوں کی ایک جماعت ایک دن اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے ابوالقاسم! ہمیں چند باتیں بتاؤ، انہیں صرف نبی جانتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو مرضی ہے پوچھو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کو مد نظر رکھنا اور اسے بھی مد نظر رکھنا جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ذمہ داری لی تھی کہ اگر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے درست جوابات دے دوں

تو پھر اسلام کے مطابق میری پیروی کرنا۔“ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اب جو مرضی سوال کرو۔“ انہوں نے کہا: ہمیں چار باتوں کے بارے میں بتاؤ، یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر کونسا کھانا حرام کیا تھا، آدمی کا آب جو ہر عورت کے آب جو ہر پر غالب آجائے تو مذکر کیسے بنتا ہے اور یہ انہی نبی نیند میں کیسے ہوتا ہے اور فرشتوں میں سے اس کا دوست کون ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا عہد و میثاق دیتا ہوں ہے کہ اگر میں نے تمہیں جواب دیدیے تو تم میری اتباع کرو گے۔“ انہوں نے آپ ﷺ کو ہر پختہ عہد دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم جانتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام سخت بیمار پڑ گئے تھے اور ان کی بیماری لمبی ہو گئی تھی، بالآخر انہوں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی تو وہ سب سے زیادہ محبوب مشروب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ﷺ ہانا حرام قرار دیں گے، اور انہیں سب سے زیادہ پیارا کھانا اونٹوں کا گوشت اور سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا؟“ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے اللہ! ان پر گواہ رہنا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، کیا تم جانتے ہو آدمی کا آب جو ہر سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد اور باریک ہوتا ہے، ان میں سے جو بھی غالب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے، اگر آدمی کا آب جو ہر عورت کے پانی پر غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مذکر بن جاتا ہے اور اگر عورت کا

السَّلَامُ عَلَى بَنِيهِ، لَمَّا حَدَّثْتُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتَتَابِعُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ-)) قَالُوا: فَذَلِكَ لَكَ، قَالَ: ((فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ-)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعٍ خِلَالَ نِسَاءِ لَكَ عَنْهُنَّ، أَخْبِرْنَا أَيَّ الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ، كَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّسِيُّ الْأُمِّيُّ فِي النَّوْمِ؟ وَمَنْ وَلِيَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ: ((فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، لَمَّا أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ لَتَتَابِعُنِي-)) قَالَ: فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، قَالَ: ((فَأَنْشُدْكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرِيضٌ مَرَضًا شَدِيدًا، وَطَالَ سَقَمُهُ، فَتَدْرَأُ لِلَّهِ نَذْرًا، لَمَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سَقَمِهِ لِيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْبَيْلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟)) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضٌ غَلِيظٌ، وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرٌ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ، إِنَّ عَلَا مَاءَ الرَّجُلِ عَلَى مَاءِ

آب جو ہر آدمی کے مادہ منویہ پر غالب آجائے تو مؤنث پیدا ہوتی ہے؟“ انہوں نے کہا: اللہ جانتا ہے یہی بات ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے اللہ! ان پر گواہ رہنا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم جانتے ہو اس امی نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا؟“ انہوں نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے اللہ! گواہ رہنا۔“ انہوں نے کہا: آپ بھی اب اسی طرح ہیں، ہمیں بتاؤ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ یہ بتانے کے بعد یا تو ہم آپ سے مل جائیں گے یا جدا ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا دوست جبریل علیہ السلام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا ہے، یہی جبریل علیہ السلام اس کے دوست رہے ہیں۔“ انہوں نے کہا: تب تو ہم آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے اور تصدیق کرتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں جبریل کی تصدیق میں کوئی چیز رکاوٹ ہے؟“ انہوں نے کہا: یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔“ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔۔۔۔۔ كِتَابِ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾..... ”کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔..... اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے۔“ پس اس وقت یہ

الْمَرَاةَ كَانَ ذَكَرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَإِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرَاةَ عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ كَانَ أُنْثَىٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ؟)) قَالُوا: اللّٰهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْشُدْكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟)) قَالُوا: اللّٰهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: ((اللّٰهُمَّ اشْهَدْ۔)) قَالُوا: وَأَنْتَ الْآنَ فَحَدِّثْنَا مَنْ وَلِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَعِنْدَهَا نُجَامِعُكَ أَوْ نَفَارِقُكَ، قَالَ: ((فَإِنَّ وَلِيَّيَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَمْ يَبْعَثْ لِلّٰهِ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ۔)) قَالُوا: فَعِنْدَهَا نَفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنْ مَلَائِكَةٍ لَتَابَعْنَاكَ وَصَدَقْنَاكَ، قَالَ: ((فَمَا بَمَنْعُكُمْ مِنْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟)) قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوَّنَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كِتَابِ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فَعِنْدَ ذَلِكَ ﴿بَاءٌ وَابِعَضِبَ عَلٰی نَعْصِبٍ﴾ الْآيَةَ۔ (مسند احمد: ۲۵۱۴)

لوگ ”دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے۔“

فوائد: یہ پوری آیات یوں ہیں: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدُوا عَهْدًا نَبْدًا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ﴿.....﴾

”کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انھوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔“ (سورہ بقرہ: ۹۷-۱۰۱)

یہ یہودیوں کی ہٹ دھرمی تھی، ان کے پاس پہلے والے چار سوالات کے جوابات کے انکار کی کوئی صورت نہیں تھی، سوا انھوں نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات گھڑ لی۔ ﴿بَاءٌ وَآيَاتٍ مَبِينَاتٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ ”دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد نے کہا: پہلا غضب تورات کو ضائع کرنے کی وجہ سے تھا اور دوسرا محمد ﷺ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ قتادہ نے کہا: پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے تھا اور دوسرا محمد ﷺ اور قرآن کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے تھا۔

بَابُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ کی تفسیر

(۸۴۸۸)۔ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾۔ (مسند احمد: ۵۴۴۷)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ آپ ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، سواری جدر چاہتی متوجہ ہو جاتی، اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ”جس طرف بھی تم پھرو، وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔“ (سورہ بقرہ: ۱۱۵)

فوائد: اس آیت کی مختلف شان نزول بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اس کے نزول کا سبب سفر

میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو، نماز پڑھی جاسکتی ہے، مزید دو اسباب نزول درج ذیل ہیں: ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رخ تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں کیں، ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔

بَابُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾
﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ کی تشریح

(۸۴۸۹)۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَا اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ نِسَاءً لَكِ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَدْرَتْهِنَّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاؤُهُ فِي الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى رَبُّهُ إِذْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ۔ قَالَ: فَنَزَلَتْ كَذَلِكَ۔ (مسند احمد: ۲۵۰)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اپنے رب سے تین کاموں میں موافقت کی ہے، میں نے کہا: اگر ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾..... ”تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی عورتوں پر نیک اور بد سب داخل ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے، پس پردہ والی آیت نازل ہوئی اور جب آپ ﷺ کی بیویاں غیرت کے معاملے میں آپ ﷺ کے پاس جمع ہوئیں تو میں نے کہا: ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ﷺ تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے آپ ﷺ کو بہتر عورتیں دے دے، تو اسی طرح آیت نازل ہوئی۔

فوائد: مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، جس پر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی حیران کن، عجیب اور یادگار منقبت ہے، اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد اس طرح دو رکعت ادا کرنے کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم، نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے۔ باقی آیات کی وضاحت ان کے مقام پر آئے گی۔

بَابُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
 ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۰)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ: ((عَدْلًا))
 ”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ میں ”وَسَطًا“ کا معنی عادل بیان کیا ہے۔“
 (مسند احمد: ۱۱۲۹۱)

فوائد: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾..... ”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔“
 ”وَسَطٌ“ کا لفظی معنی درمیان ہے، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والی امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔

(۸۴۹۱)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يُدْعَى نُوحٌ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَّغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ، قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ: قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قَالَ: النَّوَسُطُ الْعَدْلُ، قَالَ: ((فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ))، قَالَ: ((ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ)) (مسند احمد: ۱۱۳۰۳)

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”روز قیامت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا: کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے: جی ہاں، پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: کیا نوح علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے: ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا: اب کون آپ کے حق میں گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے: محمد ﷺ اور ان کی امت، یہی صورت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مصداق ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾..... ”ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے۔“
 ”وَسَطٌ“ کا معنی عادل ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس میرے امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور یہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے اور پھر میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔“

فوائد: سورہ حج میں امت مسلمہ کے اسی منصب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا:

(۸۴۹۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۳۳۹، ۴۴۸۷، ۷۳۴۹ (انظر: ۱۱۲۷۱)

(۸۴۹۱) تخریج: انظر الحديث السابق

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ”تا کہ رسولِ نم پر شہادت دینے

والا بنے اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔“ (سورہ حج: ۷۸)

بَابُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُوِّلَتْ
الْقِبْلَةُ، قَالَ أَنَسٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصْحَابَنَا
الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ
الْمَقْدِسِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾۔ (مسند احمد: ۲۷۷۵)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب قبلہ تبدیل
ہوا تو بعض لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے وہ
ساتھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور
پھر اسی حالت میں فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا
نہیں ہے۔“

فوائد: جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سولہ سترہ ماہ تک
بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، درآں حالیکہ آپ ﷺ کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر
کے نماز پڑھی جائے، بالآخر جب آپ ﷺ کی یہ خواہش پوری ہوئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ
اس سے پہلے والی نمازیں ضائع ہو جائیں گی یا ان کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ نمازیں ضائع نہیں
ہوں گی، کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھیں۔ اس آیت میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، جس
سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بَابُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ.....﴾
﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ.....﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۳)۔ عَنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَتَزَلَّتْ:
﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بیت المقدس
کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی:
﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”تحقیق
ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، ضرور

(۸۴۹۲) تخريج: صحيح لغيره۔ أخرجه ابو داود: ۴۶۸۰، والترمذی: ۲۹۶۴ (انظر: ۲۷۷۵)

(۸۴۹۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۵۲۷ (انظر: ۱۴۰۳۴)

ہم تمہیں اس قبلہ کی جانب پھیریں گے جسے تو پسند کرتا ہے، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔“ تو ایک آدمی بنو سلمہ کے پاس سے گزرا، جبکہ وہ لوگ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تھے اور ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی تھی، اس گزرنے والے نے آواز دی: خبردار! قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، خبردار! قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور اب کعبہ قبلہ ہے، تو وہ اسی حالت میں قبلہ کی طرف مڑ گئے۔“

فوائد: یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے، یعنی قباء والوں کو نماز فجر میں تھوہیل قبلہ کی خبر پہنچی تھی۔ نسخ کی سب سے پہلی مثال قبلہ کی تبدیلی ہے، بنو سلمہ کے اس باشندے کا نام سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخبار الاحاد قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں خبر دینے والا صرف ایک آدمی تھا، لیکن لوگوں نے اس کی بات پر اتنا اعتبار کیا کہ نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر دیا۔

”سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سولہ سترہ ماہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، پھر آپ ﷺ کو کعبہ کی جانب متوجہ کر دیا گیا اور آپ کی پسند بھی یہی قبلہ تھا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”تحقیق ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی جانب پھیریں گے جسے تو پسند کرتا ہے، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔“ ایک آدمی، جس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز عصر ادا کی تھی، انصاری قوم کے پاس سے گزرا، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، اس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ ﷺ کو کعبہ کی جانب منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، وہ لوگ اسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئے، جبکہ وہ رکوع کی حالت تھے۔“

بَنِي سَلِيمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً، فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ۔ (مسند احمد: ۱۴۰۷۹)

(۸۴۹۴)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الْآيَةَ، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ۔ (مسند احمد: ۱۸۹۱۴)

فوائد: یہ قبیلہ بنو حارثہ تھی، اسی مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ تمام احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز کے وقت اترا، آپ ﷺ نے کعبے کی طرف اولین نماز، ظہر کی پڑھی، آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں نے یہ اطلاع دوسری مساجد میں پہنچائی، مسجد قبلتین میں یہ اطلاع اسی دن نماز عصر کے وقت پہنچی اور مسجد قباء والوں کو دوسرے دن نماز فجر میں تحویل قبلہ کی خبر معلوم ہوئی۔

تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز کے وقت اترا: اس بارے اختلاف ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم کس مسجد میں نازل ہوا تھا۔ بعض مسجد نبوی بتاتے اور دیگر اہل علم بنی سلمہ کی مسجد ذکر کرتے ہیں۔ دوسری رائے درست ہے۔ نبی کریم ﷺ بنی سلمہ کے محلہ میں گئے تھے وہاں نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا، آپ ﷺ نے نماز کے دوران حکم کی تعمیل کی اور یہ ظہر کی نماز تھی، اسی مناسبت سے مسجد بنی سلمہ کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ بنی حارثہ محلے میں نماز عصر کے دوران یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی عین نماز کے دوران قبلہ تبدیل کیا۔ مسجد قباء میں فجر کی نماز کے دوران اطلاع پہنچی تو انہوں نے بھی اسی حالت میں قبلہ تبدیل کیا۔ اس کی تفصیل دیکھیں مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد از ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی ص ۵۳، فتح الباری: ج ۱ ص ۵۰۳۔ (عبداللہ رفیق)

بَابُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۵)۔ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قَالَ: فَقُلْتُ: فَوَاللَّهِ! مَا عَلَيَّ أَحَدٌ -جُنَاحَ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِسْمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَيَّ مَا أَوْلَتْهَا كَانَتْ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ، الَّتِي كَسَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ لَهَا تَحَرَّجَ أَنْ

”عروہ سے مروی ہے، انھوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے“ (سورہ بقرہ: ۱۵۸) میں نے کہا: اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا طواف نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیدہ نے کہا: اے بھانجے! یہ تو نے درست نہیں سمجھا، اگر یہ مطلب ہوتا جو تو بیان کر رہا ہے تو پھر قرآن کے الفاظ اس طرح ہوتے: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ”پس اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ

کرے۔“ اصل واقعہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انصاری لوگ منات بت کے لئے احرام باندھتے تھے اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ مثل مل مقام میں تھا اور جو اس بت کے لئے احرام باندھتا تھا، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج سمجھتا تھا، جب انہوں نے اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے پوچھا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم جاہلیت میں صفا و مروہ کی سعی میں حرج محسوس کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾..... ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔“ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: نبی کریم ﷺ نے ان کی سعی کو مشروع قرار دیا ہے، لہذا کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف چھوڑے۔“

”سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ کے بارے میں کہا: جو انصاری لوگ دور جاہلیت میں منات کے لیے احرام باندھتے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت کا نام منات تھا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم صفا اور مروہ کے درمیان منات کی تعظیم کے لئے سعی کیا کرتے تھے، کیا اب ان کی سعی کرنے میں ہم پر کوئی حرج تو نہیں ہے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾..... ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں

يَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نَحْرُجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوْفَ بِهِمَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوْفَ بِهِمَا. (مسند احمد: ۲۵۶۲۵)

(۸۴۹۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ يُهْلُ لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنَاةٌ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطُوفَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ

(۸۴۹۶)۔ تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه الطحاوی فی "شرح مشکل الآثار": ۳۹۳۷، وعلقه البخاری:

بہمًا﴾۔ (مسند احمد: ۲۵۸۱۲) میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے“

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۴۳۹۰)

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۷)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُحْبِلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحْبِلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَمَاذَا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (الْحَدِيثُ) قَالَ: وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ يَزِيدُ: فَصَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ قَالَ: فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مَسْكِينًا فَاجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ فِيهِ الْآيَةَ الْأُخْرَى: ﴿شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (إِلَى قَوْلِهِ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فَأَتَتْ اللَّهُ

”سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین مراحل میں نماز کی فرضیت اور تین مراحل میں ہی روزے کی فرضیت ہوئی، نماز کے مراحل یہ ہیں: جب نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ﷺ سترہ ماہ تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، (کتاب الصلاة میں مکمل حدیث گزر چکی ہے) روزے کے مراحل یہ ہیں: جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ﷺ ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے، یزید راوی کہتا ہے: ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت تک کل سترہ ماہ کے دوران آپ ﷺ ہر ماہ میں تین روزے رکھتے رہے، نیز آپ ﷺ نے دس محرم کا روزہ بھی رکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے اور یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (اے ایمان والو! تم پر اسی طرح روزے فرض کئے گئے ہیں، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے، تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔) نیز فرمایا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ (اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ روزہ کی بجائے) ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا کھلا دیا کریں۔)

ان آیات پر عمل کرتے ہوئے جو آدمی چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جو کوئی روزہ نہ رکھنا چاہتا وہ بطورِ فردیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور یہی چیز اس کی طرف سے کافی ہو جاتی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، جس میں لوگوں کو ہدایت کے لئے اور ہدایت کے واضح دلائل بیان کرنے کے لئے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے، اب تم میں سے جو آدمی اس مہینہ کو پائے وہ روزے رکھے۔) اس طرح اللہ تعالیٰ نے مقیم اور تندرست آدمی پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیئے، البتہ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دے دی اور روزہ کی طاقت نہ رکھنے والے عمر رسیدہ آدمی کے لیے روزے کا یہ حکم برقرار رکھا کہ وہ بطورِ فردیہ مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، یہ دو حالتیں ہو گئیں، تیسری حالت یہ تھی کہ لوگ رات کو سونے سے پہلے تک کھا پی سکتے تھے اور بیویوں سے ہم بستری کر سکتے تھے، لیکن جب نیند آ جاتی تو اس کے بعد یہ سب کچھ ان کے لئے ممنوع قرار پاتا تھا، ایک دن یوں ہوا کہ ایک صرمہ نامی انصاری صحابی روزے کی حالت میں سارا دن کام کرتا رہا، جب شام ہوئی تو اپنے گھر پہنچا اور عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ کھائے پئے بغیر سو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس طرح اس کا روزہ بھی شروع ہو چکا تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے اسے دیکھا کہ وہ کافی نڈھال ہو چکا تھا تو آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ: ”بہت نڈھال دکھائی دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کل سارا دن کام کرتا رہا، جب گھر آیا تو ابھی لیٹا ہی تھا کہ سو گیا (اور اس طرح

صِيَامَهُ عَلَى الْمَقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمَسَافِرِ وَتَبَتِ الْإِطْعَامَ لِلْكَافِرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَهَذَا نَحْوُ حَالِ الْآنَ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَأْتُونَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَنَامُوا فَإِذَا نَامُوا اِمْتَنَعُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ صِرْمَةٌ، ظَلَّ يَعْمَلُ صَائِمًا حَتَّى أَمْسَى فَجَاءَ إِلَى أَهْلِهِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ فَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى أَصْبَحَ فَأَصْبَحَ صَائِمًا، قَالَ: فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ جَهَدَ جَهْدًا شَدِيدًا، قَالَ: ((مَالِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي عَمِلْتُ أَمْسٍ فَجِئْتُ حِينَ جِئْتُ فَالْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ وَأَصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَ مَا نَامَ، وَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ) ثُمَّ آتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ- ﴿

(مسند احمد: ۲۲۷۵)

میرے حق میں کھانا پینا حرام ہو گیا اور) جب صبح ہوئی تو میں نے تو روزے کی حالت میں ہی ہونا تھا۔ اُدھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا بھی ایک معاملہ تھا کہ انھوں نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی یا لونڈی سے ہم بستری کر لی تھی اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر ساری بات بتلا دی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفْقُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُؤُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔“

فوائد:..... مسلمانوں پر جو روزے فرض ہیں، ان کی موجودہ صورتحال یہ ہے: سال کے بارہ مہینوں میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، روزے کا دوران یہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے، روزہ نہ رکھ سکنے والا مستقل مریض اور کمزور بزرگ ایک روزہ ترک کرنے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، مسافر اور شفا کی امید رکھنے والے مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اس سفر اور بیماری کے دوران روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں قضائی دے دیں۔

لیکن روزوں کو درج بالا صورت دینے سے پہلے بالترتیب درج ذیل مراحل سے گزرا گیا:

- (۱) ہر ماہ میں تین روزے رکھنا اور یوم عاشوراء (یعنی دس محرم) کا روزہ رکھنا، انیس مہینوں تک یہ عمل جاری رہا۔
- (۲) رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے، لیکن یہ اختیار دیا گیا کہ جو چاہتا ہے، روزے رکھ لے اور جو چاہتا ہے

ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔

(۳) مقیم اور صحت مند آدمی پر رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے، مریض اور مسافر کو مخصوص رخصت دی گئی،

..... یعنی روزوں کی موجودہ صورت۔

بیچ میں ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ شروع میں سحری کی رخصت نہیں تھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد افطاری سے لے کر رات کو سونے سے پہلے تک کھانے پینے اور جماعت کی اجازت ہوتی تھی، جونہی کسی کی آنکھ لگ جاتی، اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کھانے پینے اور جماعت کی اجازت دے دی۔

بَابُ: ﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾
﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۸)۔ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُنْمِسَ، وَإِنْ فَلَانَا الْأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْتَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ وَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَبِيَّةٌ لَكَ فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارَ عُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ: ﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ فَنَامَ فَذَكَرَهُ۔ (مسند احمد: ۱۸۸۱۲)

”سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جب کوئی آدمی روزے دار ہوتا اور افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطاری کرنے سے پہلے سو جاتا تو وہ نہ اس رات کو کچھ کھا سکتا اور نہ اگلے دن کو، یہاں تک کہ اگلے دن کی شام ہو جاتی، ایک انصاری یعنی سیدنا صرمہ بن قیس روزے دار تھے، جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا: کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا: جی نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لئے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں، اتنی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی، جب بیوی نے واپس آ کر دیکھا تو وہ کہنے لگی: ہائے ناکامی ہو تیرے لیے (اب کیا بنے گا)، پس اس نے اسی حالت میں صبح کی اور جب نصف دن گزر گیا تو وہ بیہوش ہو گیا، جب رسول اللہ ﷺ کو یہ ساری صورتحال بتلائی گئی تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿.....
 ”تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال
 کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے
 لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت
 کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو
 اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے
 لکھا ہے اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے
 سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے“ (سورہ بقرہ: ۱۸۷)

فوائد: ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا اور اگر
 کوئی اس سے بھی پہلے سو جاتا تو اس پر نیند آتے ہی کھانا پینا اور جماع حرام ہو جاتا، اس میں صحابہ کو کافی ساری مشقت
 ہوئی، جس سے یہ رخصت کی آیتیں نازل ہوئیں اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک کھانے پینے کی سہولت مل گئی، اس
 مرح آسانی کے احکام مل گئے۔

بَابُ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ

مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿
 ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ
 مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ کی تفسیر

(۸۴۹۹)۔ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ
 حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ
 مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ۱۸۷] قَالَ:
 عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسْوَدٌ
 وَالْآخَرُ أَبْيَضٌ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ
 وَسَادِي، قَالَ: ثُمَّ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلَا
 تَبَيَّنُ لِي الْأَسْوَدُ مِنَ الْأَبْيَضِ، وَلَا
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ
 ”سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت
 نازل ہوئی: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾..... ”اور کھاؤ
 اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا
 فجر کا خوب ظاہر ہو جائے“ (سورہ بقرہ: ۱۸۷) تو میں عدی نے
 دو دھاگے لئے، ان میں سے ایک سیاہ تھا اور دوسرا سفید، میں
 نے انہیں اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا، پھر میں نے انہیں دیکھنا
 شروع کر دیا، لیکن میرے لئے نہ تو سیاہ دھاگا ظاہر ہوتا تھا اور
 نہ ہی سفید دھاگا، جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم ﷺ کے

عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَلَذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذَا لَعَرِيضُ، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ.)) (مسند احمد: ۱۹۵۸۷)

پاس گیا اور میں نے جو کچھ کیا تھا، وہ آپ ﷺ کو بتایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس سے یہ مراد تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی۔“

نوٹ: سفید دھاگے سے مراد فجر صادق ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تشریحات نبویہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی دیگر مثالیں بھی موجود ہیں، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۵۹۷)

(۸۵۰۰)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، قَالَ: ((صَلِّ كَذَا وَكَذَا، وَصُمْ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَكُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ.))، فَأَخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ وَأَبْيَضَ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا، فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ، وَقَالَ: ((يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ.)) (مسند احمد: ۱۹۵۹۳)

”سیدنا عدی بن ہشام سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھے نماز اور روزہ کی تعلیم دی اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھو اور روزہ رکھو، جب سورج غروب ہو جائے تو پھر کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگہ ظاہر ہو جائے اور تیس دن روزے رکھو، الا یہ کہ چاند پہلے نظر آجائے۔“ میں نے سیاہ اور سفید بالوں سے دو دھاگے لیے اور ان کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہ میرے لیے ظاہر نہیں ہوئے، جب میں نے اس بات کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا: ”اے ابن حاتم! اس سے دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔“

بَابُ: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ...﴾
﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۰۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ، إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَأَمْسَى فَنَامَ

”سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (شروع شروع میں) جب لوگ رمضان میں روزہ رکھتے اور آدمی شام ہو جانے یعنی غروب آفتاب کے بعد سو جاتا تو اس پر کھانا اور پینا

(۸۵۰۰) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه الترمذی: ۲۹۷۰، ۲۹۷۱ (انظر: ۱۹۳۷۵)

(۸۵۰۱) تخریج: اسنادہ حسن (انظر: ۱۵۷۹۵)

اور بیویاں حرام ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ دوسرے دن افطار کرتا۔ ایک رات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ جاگتے رہے اور (دیر سے) اپنے گھر کو لوٹے، جب وہ پہنچے تو بیوی کو دیکھا کہ وہ سو گئی ہے، جب انھوں نے اس سے صحبت کرنا چاہی تو اس نے کہا: میں تو سو گئی تھی (لہذا اب صحبت جائز نہیں رہی)، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو نہیں سوئی تھی، پھر انھوں نے حق زوجیت ادا کر لیا، ادھر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس گئے اور آپ ﷺ کو اپنے فعل سے مطلع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾“

حَرَمٌ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّىٰ بُفِطِرَ مِنَ الْعَدِّ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِنِ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ سَهَرَ عِنْدَهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَرَادَهَا نِقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، قَالَ: مَا نِمْتِ ثُمَّ أَرَقَ بِهَا، وَصَنَعَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ مِثْلَ ذَلِكَ، فَعَدَا عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: ۱۸۷]۔ (مسند احمد: ۱۵۸۸)

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿اجْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِيقُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾..... ”تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں محتلف ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ وہ بچ جائیں۔“ (سورۃ بقرہ: ۱۸۷)

سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾..... جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورے رمضان میں اپنی بیویوں کے قریب تک نہیں جاتے تھے، لیکن کچھ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ”اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم

اپنی نفسوں سے خیانت کرتے ہو، اس لیے اس نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تم کو معاف کر دیا۔“ (صحیح بخاری: ۴۱۳۸)

یقیناً یہ مشکل عمل تھا کہ افطاری کے بعد عشاء کی نماز سے یا اس سے پہلے نیند آ جانے سے لے کر دوسرے دن غروب آفتاب تک روزے کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے، بہر حال صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اس پر عمل کیا، جب چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان پابندیوں کے معاملے میں سستی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ساری رات کھانے پینے وغیرہ کی رخصت دے دی اور سحری کے کھانے کی گنجائش پیدا کر دی۔

بَابُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ...﴾
 ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۰۲)۔ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
 عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، وَنَحْنُ
 مُخْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرْنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ
 لِي وَفَرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُ تَسَاقُطُ عَلَيَّ
 وَجَهِي، فَمَرَبَيْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
 ((أَبُوذَيْبِكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ،
 فَأَمَرَهُ أَنْ يَخْلُقَ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:
 ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ
 رَأْسِهِ فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ﴾
 [البقرة: ۱۹۶]۔ (مسند احمد: ۱۸۲۸۰)

”سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر احرام کی حالت میں تھے، مشرکین مکہ نے ہمیں آگے جانے سے روک دیا، میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، نبی کریم ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے مجھے سر منڈانے کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ﴾ (تم میں سے جو آدمی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، تو وہ بال منڈوالے اور روزوں کا، یا صدقہ کا یا قربانی کا فدیہ دے)“

(۸۵۰۲)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ مَعْقِلِ الْمَزْنِيِّ قَالَ: فَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ
 بْنِ عُجْرَةَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (وَفِي لَفْظٍ:
 يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ) فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
 ﴿فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ﴾

”(دوسری سند) عبد اللہ بن معقل مزنی کہتے ہیں: میں کوفہ کی مسجد میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے اس آیت ﴿فَعِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٍ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۹۶) کی بابت پوچھا، انہوں نے کہا: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، میرے سر میں جوئیں

(۸۵۰۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۸۱۴، ۱۸۱۶، ۴۵۱۷، ۶۷۰۸، و مسلم: ۱۲۰۱ (انظر: ۱۸۱۰۱)

(۸۵۰۲) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھیں، جب مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تو جو میں میرے چہرے پر گر رہی تھیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا خیال یہ تو نہیں تھا کہ تجھے اس قدر تکلیف اور مشقت ہوگی، کیا تم بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟“ میں نے کہا: جی نہیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَفِذْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۹۶) (روزوں یا صدقہ یا قربانی کی صورت میں فدیہ دینا ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تین دنوں کے روزے ہیں یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور ہر مسکین کے لیے نصف صاع کھانا ہے۔“ یہ آیت خاص طور پر میرے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔“

قَالَ: فَقَالَ كَعْبٌ: نَزَلَتْ فِيَّ، كَأَنَّ بِي أَدَى مِنْ رَأْسِي فَحَمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجِهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَفِذْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ، نِصْفَ صَاعٍ طَعَامٍ لِكُلِّ مَسْكِينٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ كَحُكْمِ عَامَّةٍ۔ (مسند احمد: ۱۸۲۸۹)

فوائد: عمرہ کے موقع پر سعی کے بعد اور حج کے موقع پر (۱۰) ذوالحجہ کو حجامت کروائی جاتی ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے وقت سے پہلے سر کی تقصیر یا تخلیق کروانا پڑ جائے، تو ایسا کروایا جاسکتا ہے، لیکن فدیہ ادا کرنا پڑے گا، مزید دیکھیں عدیث نمبر (۳۲۷۲)۔

بَاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ کی تفسیر

”ابو امامہ تمہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ انھوں نے کہا: کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں جاتے، کیا جمروں کو نکلتیاں نہیں مارتے اور کیا اپنے سر نہیں منڈواتے؟ ہم نے کہا: جی کیوں نہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے یہی سوال کیا، جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے، آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا

(۸۵۰۳۱)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَكْرِي، فَهَلْ لَنَا مِنْ حَجٍّ؟ قَالَ: أَلَيْسَ تَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَتَأْتُونَ الْمُعْرَفَ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ، وَتَحْلِقُونَ رُءُوسَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَنِي، فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ﷺ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَنْتُمْ

حُجَّاجُ-)) (مسند احمد: ۶۴۳۴) فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴿..... ”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو“ نبی کریم ﷺ نے اس آدمی کو بلایا اور فرمایا: ”تم حج کرنے والے ہی ہو۔“

فوائد: ”فضلاً“ سے مراد رزق ہے، یعنی سفر حج میں ادائیگی حج کے علاوہ تجارت کرنا بھی درست ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عکاظ، بجنہ اور ذوالحجاز نامی بازار تھے، اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے، تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں۔

بَابُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۰۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا إِنَّمَا قَالَ: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ، صَلَّى رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أُمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، خَلَطَ فِي قِرَاءَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آيَةَ أَغْلَظَ مِنْهَا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ وَكَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُفِيقٌ، ثُمَّ

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب تین مرحلوں میں حرام کی گئی، جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جو اکی کھاتے تھے، جب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾..... ”تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو۔“ (سورہ بقرہ: ۲۱۹) لوگوں نے کہا: ابھی تک یہ ہم پر حرام نہیں کئے گئے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان میں بڑا گناہ ہے، اس لئے

أَنْزَلَتْ آيَةً أَغْلَطُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ فَقَالُوا: انْتَهَيْنَا يَا نَسَا فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَاسٌ نَتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ نَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَجَسًا وَمِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ لَشَرَكُوا مَا كَمَا تَرَكْتُمْ)) (مسند احمد:

(۸۶۰۵)

انہوں نے شراب نوشی جاری رکھی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، یہ مغرب کی نماز تھی، اس نے قراءت کو غلط ملط کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس سے ذرا سخت حکم نازل کر دیا اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾..... ”اے ایماندارو! جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو، جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔“ پھر بھی لوگوں نے شراب نوشی جاری رکھی، لیکن اس انداز سے پیتے تھے کہ نماز تک ہوش میں آجاتے تھے، بالآخر اس کے بارے میں سخت ترین ممانعت کا حکم نازل ہوا، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“ (سورہ مائدہ: ۹۰) تب لوگوں نے کہا: اب ہم باز آگئے ہیں، پھر کچھ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں یا طبعی موت فوت ہوئے ہیں، جبکہ وہ شراب پیتے تھے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے اور اب اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پلید اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرمایا: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾..... ”ان لوگوں پر جو

ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انھوں نے نیکی کی اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورہ مائدہ: ۹۳) پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ ان کی زندگی میں حرام ہوتے تو وہ بھی انہیں اسی طرح چھوڑ دیتے، جس طرح تم نے چھوڑ دی۔“

فوائد: درج ذیل حدیث کو درج بالا حدیث میں مذکورہ آیات کی روشنی میں سمجھیں۔

”ابو میسرہ کہتے ہیں: جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے میرے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح اور تسلی بخش حکم بیان فرما، پس سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ ”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو ان میں بڑا گناہ ہے۔“ سیدنا عمر کو بلایا گیا اور پھر یہ آیت پڑھی گئی، لیکن انھوں نے کہا: اے میرے اللہ! ہمارے لئے شراب کے بارے میں واضح اور تسلی بخش حکم نازل فرما۔ پس سورہ نساء والی آیت نازل ہوئی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ ”اے ایماندارو! جب نشہ میں مت ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو۔“ پھر نبی کریم ﷺ کا مؤذن جب نماز کے لیے اقامت کہنے لگتا تو وہ یہ آواز دیتا کہ کوئی نشہ والا آدمی نماز کے قریب نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور یہ آیت ان پر پڑھی گئی۔ لیکن اب کی بار بھی انھوں نے کہا: اے میرے اللہ! شراب کے بارے میں واضح اور تسلی

(۸۵۰۵)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ قَالَ: فَدَعَىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَىٰ أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانٌ، فَدَعَىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتٌ شَافِيَا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدَعَىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّهِنُونَ﴾ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: انْتَهَيْنَا

(۸۵۰۵) تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابوداود: ۳۶۷۰، والترمذی: ۳۰۴۹، والنسائی: ۲۸۶ / ۸

(انظر: ۳۷۸)

بخش حکم فرما۔ بالآخر جب سورہ مائدہ والی آیت نازل ہوئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی اور جب پڑھنے والا ان الفاظ ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ پر پہنچا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے: اے ہمارے رب! ہم باز آگئے، ہم باز آگئے۔

انتہیناً۔ (مسند احمد: ۳۷۸)

فوائد: اس طرح مختلف مراحل میں شراب کو حرام کیا گیا، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ شراب کو ترک کرنے پر

آمادہ ہو جائیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ تھا کہ شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا جائے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا کر دیا، شراب کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۶۷۷۰)

جوا: جو اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے، جن میں اشیاء کی تقسیم کا دار و مدار حقوق، خدمات اور عقلی

فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ لائبریری میں فلاں شخص کا نام نکل آیا، اس لیے ہزار ہا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہو اور وہ اس ایک شخص کے جیب میں ڈال دیا جائے اور باقی سب کو محروم کر دیا جائے۔

بَابُ: ﴿وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ﴾
﴿وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ”یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقہ سے جو بہتر ہو۔“ تو لوگوں نے یتیموں کے مال علیحدہ کر دیئے، جب علیحدہ کئے تو ان کا کھانا خراب ہونے لگا اور گوشت بدبودار ہونے لگا، جب نبی کریم ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ”اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔“ اس حکم کے بعد صحابہ نے ان سے کھانا ملا لیا۔“

(۸۵۰۶)۔ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ يَتِيمٍ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ عَزَلُوا أَمْوَالَ يَتِيمَانِي حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ يَتِنُّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ۔ (مسند احمد: ۳۰۰۰)

فوائد: پہلی آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فکر پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انھوں نے یتیم کا حساب

کتاب ہی علیحدہ کر دیا، یہ عدل و انصاف تو تھا ہی سہی، لیکن اس میں یتیم کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ الگ سے کھانا پکانا

اور پھر بچی ہوئی چیز کا خراب ہو جانا، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے نئے حکم کے ذریعے صحابہ کرام کی رہنمائی کی کہ قیموں کو اپنے ساتھ ملا لو، البتہ اخراجات کا حساب ٹھیک ٹھیک اور عدل و انصاف کے ساتھ رکھو۔ ان آیات سے ان مختلف افراد کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کا کھانا پینا مشترک ہو، کسی کے دل میں مشترک مال کے بارے میں کوئی ایسا عنصر نہ پایا جائے، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے متاثر ہوں۔

بَابُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ...﴾
 ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورت حیض والی ہوتی تو یہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے اور نہ ان کے ساتھ اکٹھے گھروں میں رہتے تھے، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾..... ”اور وہ تمھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمھیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔“ (سورہ بقرہ: ۲۲۲) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم ماسوائے جماع کے ہر چیز کر سکتے ہو۔“ جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا: یہ آدمی تو ہر وقت یہی ارادہ رکھتا ہے کہ ہر معاملہ میں ہماری مخالفت کرے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول!

(۸۵۰۷)۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يَجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ حَتَّىٰ فَرَعَ مِنَ النَّبَايَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)) فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حَضِيرٍ وَعَبَادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُودَ قَالَتْ: كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَحَرَجَا، فَاسْتَفْبَلْتَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كَانَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ لَا يَمْدَحُ أَوْ يُثْنِي عَلَى شَيْءٍ مِنْ

حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَوَدَتِهِ).
(مسند احمد: ۱۲۳۷۹)

یہودیوں نے آپ کے فرمان کے مقابلے میں یہ کہا ہے۔ کیا ہم اس حالت میں جماع بھی نہ کر لیا کریں (تاکہ یہودیوں کی اور زیادہ مخالفت ہو)؟ یہ سن کر نبی کریم ﷺ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ آپ ﷺ ان دو صحابہ پر غصہ میں آگئے ہیں، وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلے گئے، بعد میں جب نبی کریم ﷺ کے پاس دودھ کا تحفہ لایا گیا، تو آپ ﷺ نے ان کو پیغام بھیجا اور ان کو یہ دودھ پلا دیا، اس سے انھوں نے پہچان لیا کہ آپ ﷺ ان سے ناراض نہیں ہیں۔“

فوائد: حیض کے دوران بیوی سے جماع کرنا حرام ہے، چونکہ سیدنا اسید اور سیدنا عباد بن جحش کی بات کا

اُنھار اسی معصیت پر تھا، اس لیے آپ ﷺ نے غصے کا اظہار کیا۔

بَابُ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾
﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ کی تفسیر

”عبدالرحمن بن سابط کہتے ہیں: میں سیدنا حفصہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا: میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن حیاء مانع ہے۔ انہوں نے کہا: بھیجے شرم مت کیجئے، میں نے کہا، عورتوں کے ساتھ ان کی دبر کی طرف سے جماع کرنے کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بیان کیا کہ انصاری لوگ جماع کے دوران عورتوں کو اوندھے منہ نہیں لٹاتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ عورت کو اوندھا کر کے جماع کیا جائے تو اس سے بھیگا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور انہوں نے انصاری عورتوں سے شادیاں کیں اور ان کو اوندھا کر کے جماع کرنا چاہا تو آگے سے ایک انصاری عورت نے اپنے خاوند کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا: تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، جب تک کہ میں نبی کریم ﷺ سے اس بارے میں پوچھ نہ

(۸۵۰۸)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ أَمْرٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي يَا ابْنَ أُخِي، قَالَ: عَنْ إِيْتَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا لَا يُجْبُونَ النِّسَاءَ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ جَبِيْ امْرَأَتِهِ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ، نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبَوْهُنَّ فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا، فَقَالَتْ لِرِزْوَجِهَا: لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا،

لوں۔ پس وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا: بیٹھ جاؤ، نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری تک ادھر ہی ٹھہرو، جب آپ ﷺ تشریف لائے تو انصاری عورت آپ سے پوچھنے سے شرمائی اور باہر نکل گئی، جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس انصاری خاتون کو بلاؤ۔“ پس جب اس کو بلایا گیا تو آپ ﷺ نے اس پر یہ آیت تلاوت کی: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِثْمٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۳)..... ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھٹیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔“ لیکن سوراخ ایک ہی استعمال کرنا چاہیے۔“

فوائد:..... اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حق زوجیت کے لیے جو محل مقرر کیا ہے، خاوند کو صرف اسی کو استعمال کرنے کا حق ہے، لٹانے کی کیفیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ چت لٹا کر مباشرت کی جائے یا پیٹ کے بل یا کروٹ پر، اس سے اولاد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ضروری یہ ہے کہ ہر صورت میں عورت کی مباشرت والی جگہ ہی استعمال ہو۔

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو انصاری خواتین سے شادیاں کیں، اب یہ مسئلہ پیدا ہوا مہاجر بیویوں کو اوندھا کر کے جماع کرتے تھے، جبکہ انصار اوندھا نہیں کرتے تھے، جب ایک مہاجر نے اپنی بیوی کو اوندھا کر کے جماع کرنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا: جب تک میں نبی کریم ﷺ سے پوچھ نہیں لیتی، ایسا نہیں کرنے دوں گی، پس وہ آئی، لیکن یہ مسئلہ پوچھنے سے شرمائی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا

فَقَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَحْيَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ، فَحَدَّثَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أُدْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ)) فَدُعِيَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِثْمٌ﴾ (مسند احمد: ۲۷۱۳۶)

(۸۵۰۹)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجْبُونَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجْبِي، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: فَأَتَتْهُ فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَتَزَلَّتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شِثْمٌ﴾ وَقَالَ: ((لَا إِلَّا

فِي صَمَامٍ وَاحِدٍ)) (مسند احمد: ۲۷۲۳۳)
 حَرَّكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ)) (سورہ بقرہ: ۲۲۳)..... ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”جماع نہ کرو، مگر ایک ہی سوراخ میں (جو مباشرت کے لیے ہے)۔“

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصاری لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۳)..... ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ۔“ لیکن سوراخ ایک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جب وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور اس بارے میں آپ ﷺ سے سوال کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم ہر کیفیت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہو، بشرطیکہ مباشرت والی شرمگاہ ہی استعمال کی جائے۔“

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول! میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: میں نے گزشتہ رات کو اپنی بیوی سے پھپھلی طرف سے اگلی شرمگاہ میں جماع کر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ﷺ کی جانب یہ آیت وحی کی: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ﴾..... ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔“ لیکن سوراخ ایک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ (سورہ بقرہ: ۲۲۳) پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اگلی طرف سے آ،

(۸۵۱۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْزَلَتْ هَذِهِ لآيَةٍ: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ﴾ فِي أَنَاثِ بْنِ الْأَنْصَارِ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أْتِيهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ)) (مسند احمد: ۲۴۱۴)

(۸۵۱۱)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ، قَالَ: ((وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ؟)) قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ رَسُولِي هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ﴾ ((أَقْبِلْ وَأَذِيزْ وَاتَّقِ الدُّبْرَ وَالْحَيْضَةَ)) (مسند احمد: ۲۷۰۳)

(۸۵۱۰) تخریج: حسن لغیرہ (انظر: ۲۴۱۴)

(۸۵۱۱) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه الترمذی: ۲۹۸۰ (انظر: ۲۷۰۳)

یا پچھلی طرف سے، بہر حال دبر اور حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بچ۔“

فوائد: دبر سے مراد غیر فطری جماع ہے، یعنی بیوی کو پشت سے استعمال کرنا، ایسا کرنا حرام ہے۔

بَابُ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ کی تفسیر

(۸۵۱۲)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْحَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا، قَالَ: فَتَزَلَّتْ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ۔ (مسند احمد: ۲۱۹۳۱)

”سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ظہر کی نماز دو پہر کے وقت پڑھاتے تھے اور یہی نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب سے زیادہ سخت تھی، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر افضل نماز کی۔“ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: کیونکہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں اور دو نمازیں اس کے بعد ہیں۔“

فوائد: ”صلاة وسطی“ کے معانی افضل نماز کے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ”الصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ سے مراد نماز ظہر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ نماز ظہر ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ“ کے عام حکم میں داخل ہو، بہر حال سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس سے مراد نماز ظہر ہے، لیکن دوسری مرفوع روایات میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اس باب میں درج ذیل آیت کا بکثرت استعمال ہوگا، اس لیے اس کو ترجمہ سمیت ذہن نشین کر لیں: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾..... ”نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔“ (سورہ بقرہ: ۲۳۸)

(۸۵۱۳)۔ عَنِ الزَّبْرِقَانَ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ مَرَّ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ عُلَامِينَ لَهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: هِيَ الْعَصْرُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ فَسَأَلَاهُ،

”زبرقان سے مروی ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قریش کے ایک گروہ کے قریب سے گزرے، وہ ایک جگہ پر جمع تھے، انہوں نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے پاس دو غلام بھیجے، انہوں نے ان سے وسطی نماز کے بارے دریافت کیا، انہوں نے جواباً کہا: یہ عصر کی نماز ہے، لیکن ان میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے

(۸۵۱۲) تخریج: اسنادہ صحیح أخرجه ابو داود: ۴۱۱ (انظر: ۲۱۵۹۵)

(۸۵۱۳) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، الزبرقان لم يدرك القصة التي رواها۔ أخرجه ابن ماجه: ۷۹۵

(انظر: ۲۱۷۹۲)

اور کہا کہ یہ نماز ظہر ہے، پھر وہ دونوں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے بھی کہا یہ نماز ظہر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا کرتے تھے، آپ ﷺ کی اقتدا میں نمازیوں کی ایک دو صفیں ہوتی تھیں، کوئی قیلولہ کر رہا ہوتا اور کوئی تجارت میں مصروف ہوتا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْوُسْطٰی وَقُومُوا لِیْلَہٗ قٰنِتِیْنَ﴾..... ”نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں گے یا پھر میں ان کے گھر جلا دوں گا۔“

”سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب یہ آیت اترتی ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْعَصْرِ﴾ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، ہم نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں اس کی تلاوت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل کر دی: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْوُسْطٰی﴾۔ شقیق راوی کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا نام ازہر تھا، اس نے سیدنا براء سے دریافت کیا: نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی اور کس طرح منسوخ ہوئی، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔“

فوائد: اس روایت کے الفاظ ”لَمْ یَنْسَخْهَا اللّٰهُ، فَأَنْزَلَ“ کے بجائے صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ، فَأَنْزَلَ“ (پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل کی) یعنی پہلے نازل ہونے والی آیت میں ”وَصَلٰةِ الْعَصْرِ“ کے الفاظ تھے اور اس کے بعد نازل ہونے والی آیت میں ”وَالصَّلٰةِ الْوُسْطٰی“ کے الفاظ تھے۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے سائل کے سامنے دونوں آیات پیش کر کے معاملہ اس کے فہم پر چھوڑ دیا، ”وَصَلٰةِ الْعَصْرِ“

فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى اَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَسْأَلَاهُ، فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ، اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْحَجِيرِ، وَلَا يَكُوْنُ وِرَاثُهُ اِلَّا الصَّفَّ وَالصَّفَّانِ مِنَ النَّاسِ فِي قَانِلَتِهِمْ وَفِي تَجَارِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْوُسْطٰی وَقُومُوا لِیْلَہٗ قٰنِتِیْنَ﴾ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((لَيْسَتْہِمْنَّ رِجَالٌ اَوْ اُلْحَرَقْنَ بُوْتَهُمْ))

(مسند احمد: ۲۲۱۳۵)

(۸۵۱۴)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْعَصْرِ﴾ فَقَرَأْنَاهَا عَلٰی عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ نَقْرَأَهَا لَمْ يَنْسَخْهَا اللّٰهُ، فَأَنْزَلَ: ﴿حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰةِ الْوُسْطٰی﴾ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَانَ مَعَ شَقِيْقٍ يُقَالُ لَهُ اَزْهَرُ، وَهِيَ صَلٰةُ الْعَصْرِ، قَالَ: قَدْ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

(اسند احمد: ۱۸۸۷۶)

کی جگہ پر ”وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ کے الفاظ نازل کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نمازِ عصر ہی ہے۔

(۸۵۱۵)۔ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ آيَةَ فَادْنِي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغْتَهَا أَذْنَتَهَا فَأَمَلْتُ عَلَيَّ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ﴾ ثُمَّ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ (مسند احمد: ۲۵۹۶۴)

”مولائے عائشہ ابو یونس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لئے ایک مصحف لکھوں، اور کہا کہ جب میں اس آیت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ پر پہنچوں تو مجھے بتانا، پس جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے انہیں بتایا، انہوں نے اس آیت کی یوں املاء کروائی: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ﴾ پھر انہوں نے کہا: میں نے یہ آیت اس طرح نبی کریم ﷺ سے سنی تھی۔“

فوائد: ”وَصَلَاةِ الْعَصْرِ“ کے الفاظ دراصل ”وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ کے الفاظ کی تفسیر ہیں۔ راجح قول کے مطابق ”الصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ سے مراد نمازِ عصر ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۱۱۳۳)

(۸۵۱۶)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَكَلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ﴾ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ۔ (مسند احمد: ۱۹۴۹۳)

”سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی، نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں نماز کے دوران اپنی ضرورت کی بات کر سکتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ﴾..... ”اور اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔“ پس ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔“

فوائد: ”قَائِتِينَ“ کے دو معانی ہیں: اطاعت گزار، خاموش ہو کر۔ شروع شروع میں نماز میں خارجی کلام کرنا جائز تھا، بعد میں مذکورہ بالا اور اس موضوع سے متعلقہ دیگر احادیث کے ذریعے نماز میں کلام کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اس مسئلہ میں اس بات پر تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر کلام کرنے والی کی نماز باطل ہوگی، بشرطیکہ اسے اس مسئلہ کا علم ہو، البتہ اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو بھول کر یا جہالت کی بنا پر نماز میں کلام کرتا ہے، راجح مسلک یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز متاثر نہیں ہوگی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے۔ اس مسلک کے دلائل درج ذیل ہیں: (۱) سیدنا معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس کے مطابق آپ ﷺ نے جہالت کی

(۸۵۱۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۶۲۹ (انظر: ۲۵۴۵۰)

(۸۵۱۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲۰۰، ۴۵۳۴، و مسلم: ۵۳۹ (انظر: ۱۹۲۷۸)

وجہ سے کلام کرنے والے کو اس مسئلہ کی تعلیم دی اور اسے نماز دوہرانے کا حکم نہیں دیا، جبکہ اس وقوعہ سے پہلے نماز میں کلام کرنے کی حرمت کا حکم آچکا تھا۔ دیکھیں حدیث نمبر (۱۸۸۷)

(۲) ذوالیدین کے قصے پر مشتمل حدیث، جس کے مطابق آپ ﷺ نے بھول کر ظہر یا عصر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، لیکن اس کے باوجود مزید صرف دو رکعتیں ہی ادا کیں۔ اگر بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی تو آپ ﷺ پہلی دو رکعتوں کو باطل قرار دے کر از سر نو چار رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ واقعہ سات سن ہجری کے بعد پیش آیا، جبکہ دوسن ہجری سے پہلے نماز میں کلام کرنا حرام ہو چکا تھا، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۱۹۸۹)

(۳) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ...)) آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول چوک اور جس پر اس کو مجبور کر دیا جائے، کا گناہ اٹھا دیا ہے۔“ (ابن ماجہ: ۲۰۴۳)

لیکن امام ابوحنیفہ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، انھوں نے اپنے حق میں وہ عام دلائل پیش کیے ہیں، جن کا تذکرہ اس باب میں ہوا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب ان دلائل کے بیان کے بعد والے واقعات میں بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام کی گئی اور نماز پر بطلان کا حکم نہیں لگایا گیا تو ان خاص احادیث کی روشنی میں مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار رمضان میں بھول کر کھاپی لیتا ہے تو اہل الحدیث کی طرح احتیاط کے ہاں بھی اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، حالانکہ نماز میں کلام کرنے کی طرح فرضی روزے کی حالت میں کھانا پینا بھی حرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں بھول کر یا جہالت کی وجہ سے کلام ہو جائے تو نماز متاثر نہیں ہوگی، وگرنہ باطل ہو جائے گی۔

(۸۵۱۷)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ”سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قَالَ: ((كُلُّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُذَكِّرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ...)) (مسند احمد: ۱۱۷۳۴) ہے، اس سے مراد اطاعت ہے۔“

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

آیۃ الکرسی کے فضیلت کا بیان

(۸۵۱۸)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ”سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((فِي هَذَيْنِ)) نے فرمایا: ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے ۱۰ اَللَّهُ لَا

(۸۵۱۷) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۱۷۱۱)

(۸۵۱۸) تخریج: حسن، قاله الالبانی - أخرجه ابو داود: ۱۴۹۶، والترمذی: ۳۴۷۸، وابن ماجه:

۳۸۵۵ (انظر: ۲۷۶۱۱)

الَّتَيْنِ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ إِنَّ فِيهِمَا اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ)) (مسند احمد: ۲۸۱۶۳)

فوائد: اللہ پاک کے اسم اعظم کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۵۶۲۸) اور اس سے پہلے والی احادیث اور ان کے فوائد۔

”ابو سلیل سے مروی ہے کہ ایک صحابی لوگوں کو احادیث بیان کرتا، یہاں تک کہ جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو احادیث سنانے لگا، ایک حدیث یہ تھی: نبی کریم ﷺ نے پوچھا: ”قرآن مجید میں کونسی آیت سب سے عظمت والی ہے؟“ ایک آدمی نے جواب دیا اور کہا: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ یعنی آیۃ الکرسی، یہ جواب سن کر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا، اس نے کہا: میں نے اپنے سینے میں آپ ﷺ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، یا اس صحابی نے یوں کہا: پس آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اپنے کندھوں کے مابین اس کی ٹھنڈک محسوس کی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو منذر! تجھے یہ علم مبارک ہو، یہ واقعی علم ہے۔“

(۸۵۱۹)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّلِيلِ: قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ النَّاسَ حَتَّى يُكْثَرَ عَلَيْهِ، فَيُضْعَدُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ؟)) قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ، قَالَ: فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيِي، أَوْ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيِي فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَيْ، قَالَ: ((يَهْنِكُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ)) (مسند احمد: ۲۰۸۶۴)

فوائد: یہ صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ اگلی حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ سے سوال کیا: ”اللہ کی کتاب میں کونسی آیت سے سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟“ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوال کئی بار دہرایا، بالآخر میں نے کہا: وہ آیۃ الکرسی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو منذر! تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اس ذات کی قسم جس

(۸۵۲۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ ((أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟)) قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَدَهَا مَرَارًا، ثُمَّ قَالَ أَبِي: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: ((لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانَ وَسَفْتَيْنِ

(۸۵۱۹) تخريج: حديث صحيح - أخرجه مسلم: ۸۱۰ من حديث أبي، وهو الحديث الآتي (انظر: ۲۰۵۸۸)

(۸۵۲۰) تخريج: أخرجه مسلم: ۸۱۰ (انظر: ۲۱۲۷۸)

تَقْدُسُ الْمَلِكِ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ -))
 (مسند احمد: ۲۱۶۰۲)

کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔“

فوائد: اس حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

”سیدنا ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں چبوترے پر تھا، ایک جن بھوت آتا اور (مال وغیرہ) لے جاتا۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کی شکایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو جب اسے دیکھے تو کہنا۔ بسم اللہ! تو اللہ کے رسول کی بات قبول کر۔“ جب وہ آیا تو میں نے اس سے یہی بات کہی اور اس کو پکڑ لیا، اس نے کہا: اب نہیں لوٹوں گا۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ نے پوچھا: ”قیدی کا کیا بنا۔“ میں نے کہا: جی میں نے اسے پکڑ لیا تھا، جب اس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پھر لوٹے گا۔“ جب وہ پھر آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور دو تین مرتبہ پکڑ کر چھوڑ دیا، وہ ہر دفعہ یہی کہتا تھا کہ وہ نہیں لوٹے گا اور میں جب نبی کریم ﷺ کے پاس جاتا تو آپ ﷺ فرماتے: ”قیدی نے کیا کیا؟“ میں نے کہا: جی میں اسے پکڑتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں لوٹے گا، سو میں اسے چھوڑ دیتا تھا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”دیکھنا، وہ لوٹے گا۔“ وہ تو واقعی آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اب کی بار اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز تیرے قریب نہیں آئے گی، وہ آیۃ الکرسی ہے، جب میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور یہ بات بتلائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ جھوٹا تو بہت ہے، لیکن تجھ سے اس نے سچ بولا ہے۔“

(۸۵۲۱)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَهْوَةٍ لَهُ فَكَانَتِ الْعُورُ تَجِيءُ، فَتَأْخُذُ فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -)) قَالَ: فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: فَأَخَذَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي لَا أَعُودُ فَأَرْسَلَهَا، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ؟)) قَالَ: أَخَذْتُهَا، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي لَا أَعُودُ فَأَرْسَلْتُهَا، فَقَالَ: ((إِنَّهَا عَائِدَةٌ -)) فَأَخَذْتُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا أَعُودُ وَيَجِيءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ: ((مَا فَعَلَ أُسَيْرُكَ؟)) فَيَقُولُ: أَخَذْتُهَا، فَيَقُولُ: لَا أَعُودُ، فَيَقُولُ: ((إِنَّهَا عَائِدَةٌ -)) فَأَخَذَهَا فَقَالَتْ: أَرْسَلْنِي وَأَعْلَمُكَ شَيْئًا تَقُولُ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْءٌ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ -)) (مسند احمد: ۲۳۹۹۰)

فوائد: یہ آنے والا شیطان تھا، جنوں اور شیطانوں کی ایک جنس کو "عُول" کہتے ہیں، اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے، یہ جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم ہے، جو مشرکین عرب کے عقیدے کے مطابق جنگوں میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے تھے، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ تھا۔ مشرکین کے بقول یہ مسافروں کو راہ سے بے راہ کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔

فوائد: آیۃ الکرسی اور اس کا ترجمہ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ "اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگھ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔" (سورۃ بقرہ: ۲۵۵)

آیۃ الکرسی عظیم ترین آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنا تعارف پیش کیا ہے، اس سورت کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور مختلف مواقع پر اس کو تلاوت کرنا مسنون ہے، مثلاً صبح و شام، رات کو سوتے وقت، ہر فرضی نماز کے بعد، وغیرہ۔

بَابُ: ﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾
﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ کی تفسیر

(۸۵۲۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ رضی اللہ عنہ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ لِي بِسُلْطَانٍ عَلَيْهِمْ﴾ (مسند احمد: ۸۳۱۱)

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بہ نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، جب انھوں نے کہا: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ لِي بِسُلْطَانٍ عَلَيْهِمْ﴾" اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں اور لیکن اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے۔"

فوائد:..... امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ باب ثبت کیا ہے: ”باب زیادة طمأنينة القلب بتظاھر الأدلة فیہ“ (ظاہر دلائل کی وجہ سے دل کے اطمینان کے زیادہ ہونے کا بیان) پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا: شک کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے، سب سے بہترین اور صحیح ترین جواب وہ ہے جو امام شافعی کے شاگرد امام ابو ابراہیم مزنی اور دوسرے کئی اہل علم نے دیا ہے، ان کے جواب کا مفہوم یہ ہے: مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں شک کرنا محال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں: اگر انبیائے کرام کو شک ہو سکتا ہوتا میں شک کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مستحق ہوتا، پس تم جان لو کہ میں نے شک نہیں کیا، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شک نہیں کیا۔ (شرح مسلم للنووی)

یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد مضبوط بنیادوں پر قائم تھے، ان کا مقصد علم الیقین سے عین الیقین کی طرف منتقل ہونا تھا۔

بَابُ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْا...﴾
﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْا...﴾ کی تفسیر (۸۵۲۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَسَوْا عَلَى الرُّكْبِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُنْطِيقُ لَصَلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْجِهَادِ وَالصَّدَقَةِ، وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ هَذِهِ آيَةٌ وَلَا نُطِيقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾..... ”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت گراں گزری، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں اس آیت میں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے، جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، (ہم ان اعمال کو سرانجام دے سکتے ہیں)، لیکن

اب آپ پر جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کی ہم میں طاقت نہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم بھی وہی بات دہرانا چاہتے ہو، جس طرح تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے، جب لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور ان کی زبانیں اس حکم کے سامنے پست ہوئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ عفاان نے کہا: ابو منذر سلام نے ”يُفَرِّقُ“ پڑھا ہے، ﴿وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ جب صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے حکم کو اس فرمان کے ساتھ منسوخ کر دیا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ نفس کے حق میں وہ خیر ہے، جو وہ کمائے اور اسی پر وہ شکر ہے، جس کا وہ ارتکاب کرے۔ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ اللہ تعالیٰ نے کہا: ہاں ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ اللہ تعالیٰ نے کہا: ہاں ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے کہا: ہاں، ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا أَقْرَبَ بِهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا لُسَيْتُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿وَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ قَالَ عَفَاانُ: قَرَأَهَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ يُفَرِّقُ ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ فَصَارَ لَهُ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ وَعَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَتْ مِنْ شَرٍّ، فَسَرَ الْعِلَاءُ هَذَا ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قَالَ: نَعَمْ، ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (مسند احمد: 9333)

فوائد: صحابہ کرام اس حدیث مبارکہ کی ابتداء میں مذکورہ آیت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ

انہوں نے یہ سمجھا کہ دل میں جو خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے بارے میں محاسبہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: ”اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا“ لیکن آپ ﷺ نے ان کو تلقین کی کہ بس وہ تسلیم کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی کبیل پیدا کرے گا۔ ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ میں رسول سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ یہ آپ ﷺ کی امت کا امتیاز ہے کہ اس نے سب انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، اس امت کا رویہ یہود و نصاریٰ کی طرح نہیں، جو کسی پر ایمان لائے اور کسی کے ساتھ کفر کیا۔ آخری دو مکمل آیات اور ان کا ترجمہ درج ذیل ہیں: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾..... ”رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انھوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب! اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کے لیے ہے جو اس نے (نیکی) کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے (گناہ) کمایا، اے ہمارے رب! ہم سے مواخذہ نہ را اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب! اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال، جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر: الا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“

(۸۵۲۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا))، فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾..... ”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔“ تو صحابہ کے دلوں میں ایک خیال گھس گیا اور وہ غمگین ہو گئے، لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یا ہم نے

تسلیم کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور اتنے میں یہ آیات نازل کر دیں: ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَغُفِرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا نَحْمِلُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ): أَدَمُ هَذَا هُوَ أَبُو يَحْيَى بْنُ آدَمَ - (مسند احمد: ٢٠٧٠)

فوائد:..... سابقہ حدیث کے فوائد میں ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”مجاہد کہتے ہیں: میں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس داخل ہوا اور کہا: اے ابو عباس! میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، انھوں نے یہ آیت پڑھی اور رو پڑے، انھوں نے کہا: کون سی آیت؟ میں نے کہا: یہ آیت ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ...﴾..... ”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ہم تو ہلاک ہو گئے ہیں، اگر ہماری

(٨٥٢٥)۔ عَنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَبَكَى ، قَالَ: آيَةُ آيَةٍ قُلْتُ: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ أَنْزَلَتْ غَمَّتْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَمًّا شَدِيدًا ، وَعَاظَتْهُمْ غَيْظًا شَدِيدًا ، يَعْنِي وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْنَا إِنْ كُنَّا نُوَاخِذُ بِمَا تَكَلَّمْنَا وَبِمَا نَعْمَلُ ، فَأَمَّا قُلُوبُنَا فَلَيْسَتْ بِأَيْدِينَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُولُوا سَمِعْنَا

باتوں اور اعمال کی وجہ سے ہمارا مواخذہ کیا جائے (تو یہ تو ٹھیک ہے)، اب ہمارے دل تو ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آگے سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم کہو: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔“ پھر اس آیت نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ پس نفس کے خیالات کو معاف کر دیا گیا اور اعمال کا مواخذہ کیا گیا۔

فوائد: ان آیات کا مضمون درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ)) ”بیشک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان امور سے تجاوز کیا ہے، جو نفسوں میں خیال آتے ہیں، جب تک وہ اس کے مطابق کلام نہ کریں یا عمل نہ کریں۔“ (صحیح مسلم: ۱۸۱)

”امیہ سے مروی ہے کہ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان آیات کے بارے میں سوال کیا: ﴿إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ اور ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (جو کوئی برا عمل کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا) سیدہ رضی اللہ عنہا نے کہا: جب سے میں نے ان کے متعلق نبی کریم ﷺ سے پوچھا تھا، اس وقت سے اب تک کسی نے مجھ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ ﷺ نے مجھے فرمایا تھا: ”اے عائشہ! یہ اللہ تعالیٰ بندے کا مواخذہ کرتے رہتے ہیں، ان عوارض کے ذریعے جو بندے کو لاحق ہوتے رہتے ہیں، مثلاً: بخار ہو گیا، مصیبت آگئی، کانٹا چبھ گیا، یہاں تک کہ وہ سامان، جو بندہ اپنی آستیں میں رکھتا ہے، پھر اس کو گم پانے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، اتنے

وَاطْعَنَا)) قَالَ: فَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ إِلَى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ فَتَجَوَّزَ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَأَخَذُوا بِأَلَا عَمَالٍ - (مسند احمد: ۳۰۷۰)

(۸۵۲۶)۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهُمَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! هَذِهِ مُتَابَعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعَبْدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَى وَالنَّكْبَةِ وَالشُّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ، فَيَقْدُهَا فَيَفْرَعُ لَهَا، فَيَجِدُهَا فِي ضَيْبِهِ، حَتَّى إِنْ الْمُؤْمِنَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التَّبَرُّ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكَبِيرِ)) (مسند احمد: ۲۶۳۵۹)

(۸۵۲۶) تخریج: اسنادہ ضعیف بہذہ السیاقۃ لضعف علی بن زید بن جدعان، ولجہالۃ امیہ بنت عبد اللہ - أخرجه الترمذی: ۲۹۹۱ (انظر: ۲۵۸۳۵)

میں اسی اپنی پہلو یا بغل میں پا لیتا ہے، (بیماریوں اور پریشانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے) یہاں تک کہ مومن اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے، جس طرح سونے کی سرخ ڈلی صاف ہو کر مٹھی سے نکلتی ہے۔“

فوائد: اس باب میں سورہ بقرہ کی آخری تین آیات کا ذکر ہے، آیات کا مفہوم احادیث سے ہی واضح ہو رہا ہے، ضرورت کے مطابق مزید وضاحت بھی کر دی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ خَوَاتِمِ الْبَقَرَةِ سورہ بقرہ کی آخری آیات کے فضائل

(۸۵۲۷)۔ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْقَفِيِّ عَامٍ فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَاتِنَ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَيَقْرَبَهَا الشَّيْطَانُ))، قَالَ عَفَّانُ: فَلَا تُقْرَبَنَّ۔ (مسند احمد: ۱۸۶۰۴)

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک دستاویز تحریر فرمائی، اس سے دو آیتیں اتاریں اور ان کے ذریعے سورہ بقرہ کو مکمل کیا، جس گھر میں تین راتیں یہ دو آیتیں پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔“

فوائد: یہ آیات ﴿وَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ﴾ ہیں، پچھلے باب میں گزر چکی ہیں۔

(۸۵۲۸)۔ عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ الْآيَاتِينَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ)) (مسند احمد: ۱۷۲۲۴) کفایت کریں گی۔“

”سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا تو یہ اسے کفایت کریں گی۔“

فوائد: یہ آیات قیام اللیل سے یا شیطان سے یا آفات سے کفایت کریں گی، ممکن ہے کہ ان سب چیزوں

سے کفایت کرنا مقصود ہو۔

(۸۵۲۹)۔ عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيرِ: ((اَقْرُؤُوا))

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منبر پر براجمان ہو کر فرمایا: ”سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں

(۸۵۲۷) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه الترمذی: ۲۸۸۲ (انظر: ۱۴/۱۸۴)

(۸۵۲۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۰۰۹، ومسلم: ۸۰۷ (انظر: ۹۶/۱۷۰)

(۸۵۲۹) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه ابویعلی: ۱۷۳۵، والطبرانی فی ”الکبیر“: ۱۷/۷۸۰ (انظر: ۴۵/۱۷۴)

پڑھا کرو، کیونکہ میرے رب نے مجھے عرش کے نیچے سے یہ عطاء کی ہیں۔“

هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ
لَبَقْرَةَ ، فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُنَّ أَوْ
أَعْطَانِيهِنَّ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ.)) (مسند

احمد: ۱۷۵۸۲)

” (دوسری سند) سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”سورہ بقرہ کی آخری دو
آیتیں پڑھا کر، یہ مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں۔“

(۸۵۲۹۱م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِقْرَأِ الْآيَتَيْنِ مِنْ
آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ ، فَإِنِّي أُعْطِيْتُهُمَا مِنْ
تَحْتِ الْعَرْشِ.)) (مسند احمد: ۱۷۴۵۷)

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانے والے گھر
سے عطا کی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی
گئیں۔“

(۸۵۳۰)۔ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((أُعْطِيْتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقْرَةِ
مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُنَّ
نَبِيٌّ قَبْلِي.)) (مسند احمد: ۲۱۶۷۲)

مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَبَيَانَ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ
سورہ آل عمران کی تفسیر اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا بیان

”سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ
نے فرمایا: ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے: ﴿اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ اور ﴿الْمَلِكُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾

(۸۵۳۱)۔ عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((فِي هَذَيْنِ
الآيَتَيْنِ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾
وَ﴿الْمَلِكُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾ إِنَّ
فِيهِمَا اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ.)) (مسند احمد:

۲۸۱۰۳)

فوائد:..... اللہ پاک کے اسم اعظم کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۵۶۲۸) اور اس سے پہلے والی احادیث اور ان

کے فوائد۔

(۸۵۲۹۱م) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۵۳۰) تخریج: صحيح لغيره - أخرجه الحاكم: ۱ / ۵۶۲ (انظر: ۲۱۳۴۵)

(۸۵۳۱) تخریج: حسن ، قاله الالباني - أخرجه ابوداود: ۱۴۹۶ ، والترمذی: ۳۴۷۸ ، وابن ماجه: ۳۸۵۵

(انظر: ۲۷۶۱۱)

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ...﴾
 ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ...﴾ کی تفسیر

سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان آیات کی تلاوت کی: ”وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقول والے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم قرآن میں جھڑنے والوں کو دیکھو تو وہی وہ فتنہ پرور لوگ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بچو۔

(۸۵۳۲)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) [آل عمران: ۷] فَإِذَا رَأَى يَتَّبِعُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْذَرُوهُمْ۔ (مسند احمد: ۲۴۷۱۴)

فوائد:..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۶۲)

”سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾..... ”پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔“ کے بارے میں فرمایا کہ ”یہ خوارج ہیں۔“ اسی طرح ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾..... ”اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ“ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے مراد بھی خارجی ہیں۔

(۸۵۳۳)۔ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ قَالَ: ((هُمْ الْخَوَارِجُ)) وَفِي قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ قَالَ: ((هُمْ الْخَوَارِجُ)) (مسند احمد: ۲۲۶۱۴)

(۸۵۳۲) (تخریج: أخرجه البخاری: ۴۵۴۷، و مسلم: ۲۶۶۵ (انظر: ۲۴۷۱۰)

(۸۵۳۳) (تخریج: اسنادہ ضعیف، ابو غالب البصری مختلف فیہ، وهو ممن يعتبر به فی المتابعات والشواهد، وفی رفعه نکارۃ، لکنہ ثابت موقوفاً عن ابی امامۃ۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۸۰۴۶ (انظر: ۲۲۲۵۹)

بَابُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾
﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۳۴)۔ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَقْرَأُ هَذِهِ آيَةَ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَأَنَّهُ وَأَوْلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ۱۸] وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ. ((مسند احمد: ۱۴۲۱))

”سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ عرفات میں یہ آیت پڑھ رہے تھے: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَأَنَّهُ وَأَوْلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾..... ”اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے رب! میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔“

فوائد:..... یہ روایت کی سند تو ضعیف ہے، البتہ آیت سے اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔

بَابُ: ﴿إِنِّي أَعْيَضُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
﴿إِنِّي أَعْيَضُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کی تفسیر

(۸۵۳۵)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنُ مَرْيَمَ وَآمَةَ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفَرَأَيْتَ وَإِنْ شِئْتُمْ ﴿إِنِّي أَعْيَضُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾. ((مسند احمد: ۷۱۸۲))

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، وہ شیطان کے اس چوکے کی وجہ سے چنچتا ہے، ما سوائے ابن مریم اور اس کی ماں کے۔“ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کا یہ حصہ پڑھ لو: ﴿إِنِّي أَعْيَضُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ”بیشک میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے۔“

فوائد:..... شیطان یہ چوکا لگا کر بچے پر اپنے تسلط کا آغاز کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں

(۸۵۳۴) تخریج: اسنادہ ضعیف، فیہ ثلاثہ مجاہیل: جبیر بن عمرو القرشی، وابو سعد الانصاری،

وابو یحییٰ مولیٰ آل الزبیر۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۵۰ (انظر: ۱۴۲۱)

(۸۵۳۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۴۳۱، ومسلم: ۲۳۶۶ (انظر: ۷۱۸۲)

کی اس سے حفاظت کی، یہ ان کی ماں کی دعا کی برکت تھی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مزید دیکھیں:
حدیث نمبر (۱۳۲۵۱)

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ کی تفسیر

(۸۵۳۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ)) فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ كَانَ وَاللَّهِ ذَلِكَ، كَانَ بَنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَاكَ بَيْنَهُ؟)) قُلْتُ: لَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((أَحْلِفْ!)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَنْ يَحْلِفُ فَذَهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ۔ (مسند احمد: ۳۵۹۷)

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ مسلمان کا مال ہتھیالے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا، اشعث بن قیس کہتے ہیں: اللہ کی قسم! یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین کا جھگڑا ہوا، اس نے میرے خلاف انکار کر دیا اور دعویٰ کیا یہ زمین میری ہے۔ میں نے اس مقدمہ کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟“ میں نے کہا: جی نہیں، پھر آپ ﷺ نے یہودی سے فرمایا: ”تو قسم اٹھا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ قسم اٹھا کر میرا مال لے جائے گا۔ پس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾..... ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (سورہ آل

عمران: ۷۷)

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی مسلمان کا حق ناجائز طریقہ سے مارتا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“ اتنے میں سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا بیان کیا ہے؟ لوگوں نے ان کی بیان کی ہوئی بات بیان کی۔ سیدنا اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، مجھے اپنے ایک چچا زاد سے کنوئیں کا مقدمہ پیش آیا، کنواں میرا تھا، لیکن اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا، ادھر نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اشعث تمہارے پاس دلیل ہے کہ یہ کنواں تمہارا ہے، ورنہ آپ کا مد مقابل قسم اٹھا لے گا؟“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس کی قسم کو کیا کروں، اگر آپ نے اس کی قسم کی روشنی میں فیصلہ کیا تو وہ تو کنواں لے جائے گا کیونکہ میرا مد مقابل فاجر آدمی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیالے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾..... ”بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۷۷)

(۸۵۳۷)۔ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ))، قَالَ: فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَدَّثَنَا، قَالَ: فَيَ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ، خَاصَمْتُ ابْنَ عَمِّ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ كَانَتْ لِي فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَيْتُكَ أَتَهَا بِشْرُكَ وَإِلَّا فِيمِئْتَهُ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي بِبَيْمِينِهِ وَإِنْ تَجَعَلَهَا بِبَيْمِينِهِ تَذْهَبُ بِشْرِي، إِنْ خَضِمِي امْرُؤٌ فَاجِرٌ۔ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ)) قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آيَةَ] آل عمران: ۷۷]۔ (مسند احمد: ۲۲۱۹۱)

” (دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور اس کے ذریعے مال کا حق دار بن گیا، جبکہ وہ اس میں فاجر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں طے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا، یہ آیت اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾..... ” بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے ورد ناک عذاب ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۷۷) جب سیدنا اشعث رضی اللہ عنہ آئے تو وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، ایک آدمی نے میرے ایک کنوئیں کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کا ہے، پس ہم دونوں جھگڑالے کر نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”دو گواہ ہیں؟“ وگرنہ اس کی قسم معتبر ہوگی۔ میں نے کہا: اس کی قسم تو فاجر کی قسم ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو جھوٹی قسم اٹھائے اور مال تھمائیے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں طے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“

فوائد:..... ان روایات سے اس آیت کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔

(۸۵۳۷م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، وَإِنَّ تَصَدِّقَهَا لَفِي الْقُرْآنِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: فَخَرَجَ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَقْرُؤُهَا قَالَ: فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ، إِنَّ رَجُلًا ادَّعَى رَكِيًّا لِي فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) فَقُلْتُ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ حَلَفَ فَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ)) (مسند احمد: ۲۲۱۸۴)

باب ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ کی تفسیر

(۸۵۳۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران: ۸۶]، فَبَعَثَ بِهَا قَرْمَهُ فَرَجَعَ تَائِبًا، فَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ مِنْهُ وَخَلَّى عَنْهُ۔ (مسند احمد: ۲۲۱۸)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی مرتد ہوا اور مشرکوں کے ساتھ مل گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾..... ”اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور (اس کے بعد کہ) انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آچکیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (سورہ آل عمران: ۸۶)۔ جب اس کی قوم نے اس تک یہ آیت پہنچائی تو وہ تائب ہو کر واپس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ چیز قبول کر لی اور اس کو آزاد چھوڑ دیا۔“

فوائد: مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن اگر کوئی مرتد مسلمانوں کے قبضے میں آنے سے پہلے اسے زور شرف باسلام نہ جائے گا تو اس کا اسلام قبول ہوگا اور اس کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا﴾ کی تفسیر

(۸۵۳۹)۔ عَنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”روز قیامت کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے زمین بھر سونا دے دیا جائے تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کا فدیہ

(۸۵۳۸) تخریج: صحیح - أخرجه بنحوه النسائي: ۷/ ۱۰۷ (انظر: ۲۲۱۸)

(۸۵۳۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۵۳۸، و مسلم: ۲۸۰۵ (انظر: ۱۳۲۸۸)

دے دے گا؟ وہ کہے گا: جی ہاں، اے میرے پروردگار! تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: (دنیا میں) تجھ سے اس سے آسان تر مطالبہ کیا گیا تھا (لیکن تو نے اس کو بھی پورا نہ کیا)۔“ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ﴾ [آل عمران: ۹۱]۔ (مسند احمد: ۱۳۳۲۱)

حالت میں مر گئے، اگر یہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔“

فوائد: قارئین سے گزارش ہے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھیں، وقت کی قدر کریں اور شرعی احکام کے مطابق شب و روز گزاریں، یہی اس زندگی اور اس جہاں کا راز ہے۔

باب: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾
﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ کی تفسیر

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ ”تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، تا آنکہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو“ اور ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ۲۴۵] قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَحَائِطِي الَّذِي كَانَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ! لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنَهَا، قَالَ: ((اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ.)) (مسند احمد: ۱۲۱۶۸)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ﴾ ”تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، تا آنکہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو“ اور ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ”کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔“ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا فلاں فلاں جگہ والا باغ (مجھے سب سے زیادہ پسند ہے)، اگر ہمت ہوتی تو میں اس کو غنمی طور پر ہی صدقہ کرنا، کسی کو پتانہ چلنے دینا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اسے اپنے رشتہ دار فقراء میں تقسیم کر دو۔“

فوائد: اس روایت کی مفصل شکل درج ذیل ہے: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طِيبٌ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا

جواب دے سکتا ہے، پھر انہوں نے جو سوال کئے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا: یعقوب علیہ السلام نے تورات اترنے سے پہلے کونسا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمہیں اس اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تھے، ان کی بیماری لمبی ہو گئی، بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے نذرمانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دی تو وہ سب سے زیادہ محبوب مشروب اور سب سے زیادہ پیارا کھانا خود پر حرام کر دیں گے؟ جبکہ انہیں سب سے زیادہ پیارا کھانا اونٹ کا گوشت تھا اور سب سے زیادہ پسند مشروب اونٹنیوں کا دودھ تھا، انہوں نے اس چیز کو حرام کر دیا۔“ یہودیوں نے کہا اللہ کی قسم! درست ہے۔

حَدَّثَنَا عَنْ خِلَالٍ نَسَأَ لَكَ عَنْهُمْ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، فَكَانَ فِيمَا سَأَلُوهُ أَى الطَّعَامِ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ، قَالَ: ((فَأَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ يَعْقُوبَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَ مَرَضًا شَدِيدًا، فَطَالَ سَقَمُهُ فَذَرَّ لِلَّهِ نَذْرًا لَيْسَ شَفَاءَهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ لِيُحْرَمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ الْبَانُهَا))، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ۔ (مسند احمد: ۲۴۷۱)

فوائد: یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر (۸۳۸۷، ۸۳۸۷م) میں گزر چکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ”کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے اپنے آپ پر حرام کر لی، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے، کہہ دے تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو، اگر تم سچے ہو۔“ (سورہ آل عمران: ۹۳)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا: یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ کے نام پر ترک کر دیتے تھے اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کر دیا کریں۔

بَابُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ کی تفسیر

(۸۵۴۲)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

(۸۵۴۲) تخریج: اسنادہ ضعیف، عبد الاعلیٰ بن عامر الثعلبی ضعیف، ثم هو منقطع ایضا، ابو البختری

سعید بن فیروز لم یسمع علیا۔ أخرجه ابن ماجه: ۲۸۸۴، والترمذی: ۸۵۱۴، ۳۰۵۵ (انظر: ۹۰۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿﴾ [آل عمران: 97] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: ((لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ.)) فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [المائدة: 101]۔ (مسند احمد: 905)

سَبِيلًا ﴿﴾..... ”لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے جو اس کی طرف راستہ کی طاقت رکھتا ہے۔“ تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا: کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔“ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ﴾ وَأَن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے اور چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

فوائد:..... یہ اصول فقہ کا ایک مسلمہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطلق حکم، محکوم بہ کے تکرار پر لالت نہیں کرتا، یعنی جب شریعت میں کسی قید کے بغیر کوئی حکم دیا جائے اور بندہ اس پر ایک دفعہ عمل کر لے، تو وہ اس حکم سے بری الذمہ ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ اس حکم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی مثال اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر حج کو فرض قرار دیا، اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ حج کر لے گا تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا، لیکن جب صحابہ نے اس قانون پر اکتفا نہ کیا اور مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ ﷺ کو ناگوار گزارا اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے سوالات سے منع کر دیا۔

حدیث نمبر (۴۰۶۴) میں حج کی فرضیت بیان ہو چکی ہے۔

بَابُ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...﴾ الخ ﴿﴾
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...﴾ الخ ﴿﴾ کی تفسیر

(۸۵۴۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

(۸۵۴۳) تسخیر: ج: اسنادہ حسن۔ أخرجه الحاكم: ۲/ ۲۹۴، وابن ابی شیبہ: ۱۲/ ۱۵۵، والطبرانی:

۱۲۳۰۳ (انظر: ۲۹۲۶)

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ (مسند احمد: ۲۹۲۶)

فرمان: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾..... ”تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو۔“ سے مراد وہ لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔“

فوائد:..... علامہ سندھی نے کہا: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب تمام صحابہ کو نہیں کیا جا رہا، بلکہ مہاجرین کو کیا جا رہا ہے، چہ جائیکہ ساری امت کو اس کا مخاطب سمجھ لیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب مخاطب کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ ساری امت کو شامل نہیں ہے، دوسری وجہ یہ بھی کہ مہاجرین ہی ہیں، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال آپ ﷺ کی امت سب سے بہترین اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾..... ”تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ (سورہ آل عمران: ۱۱۰)

(۸۵۴۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) بِنَحْوِهِ (دوسری سند) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح کی روایت ہے، وَفِيهِ: قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ هَاجَرُوا (البتہ اس میں ہے: اس سے مراد نبی کریم ﷺ کے صحابہ ہیں مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ (مسند احمد: ۲۹۸۷) جنہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔“

بَابُ: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ کی تفسیر

(۸۵۴۴)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَذْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهُ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ)) قَالَ: وَأَنْزَلَ هُوَ لِآيَاتٍ: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ حَتَّى بَلَغَ

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز عشاء کو مؤخر کیا، پھر مسجد میں تشریف لائے، جبکہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! اس وقت ان ادیان والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، ماسوائے تمہارے۔“ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ

(۸۵۴۳) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۵۴۴) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه البزار: ۳۷۵، وابن حبان: ۱۵۳۰، والطبرانی في ”الكبير“:

۱۰۲۰۹ (انظر: ۳۷۶۰)

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ۱۱۳ - ۱۱۵] (مسند احمد: ۳۷۶۰)

یَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. ﴿..... وہ سب برابر نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۱۱۳-۱۱۵)

فوائد:..... حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اہل کتاب اور اصحاب محمد برابر نہیں،..... پھر مسند احمد کی یہی حدیث ذکر کی..... اور پھر کہا: لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء مثلاً سیدنا عبد اللہ بن سلام، سیدنا اسد بن عبید، سیدنا ثعلبہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ لوگ ان اہل کتاب میں شامل نہیں تھے، جن کی مذمت پہلے گزر چکی ہے، بلکہ یہ باایمان جماعت اللہ کے حکم پر قائم اور شریعت محمدیہ کی تابع تھی، استقامت و یقین اس میں تھا، یہ پاکباز لوگ راتوں کے وقت تہجد کی نماز میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیتے تھے، اور ان کی مخالفت کرنے سے روکتے تھے اور نیک کاموں میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں خطاب عطا فرمایا ہے کہ یہ صالح لوگ ہیں اور سورت کے آخر میں فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ﴾..... ”بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، تمہاری طرف اتارے جانے والے کلام پر اور خود ان کی طرف اتارے جانے والے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“ (آل عمران: ۱۹۹) اور یہاں بھی فرمایا کہ ان کے یہ نیک اعمال ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ پورا پورا بدلہ ملے گا، تمام پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، وہ کسی کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرے گا۔ وہاں ان بے دین لوگوں کو اللہ کے ہاں نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، یہ تو جہنمی ہیں۔

بَابُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... الخ﴾ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ... الخ﴾ کی تفسیر

(۸۵۴۵)۔ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ...))، قَالَ: فَتَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلْيَنْهَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۲۸] قَالَ: فَتَيَّبَ عَلَيْهِمْ كُلَّهُمْ۔ (مسند احمد: ۵۶۷۴)

”سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یوں بددعا کی: ”اے اللہ! حارث بن ہشام پر لعنت کر، اے اللہ! سہیل بن عمرو پر لعنت کر، اے اللہ! صفوان بن امیہ پر لعنت کر۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلْيَنْهَهُمْ ظَالِمُونَ﴾..... ”تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے، یا انھیں عذاب دے، کیوں کہ بلاشبہ وہ ظالم ہیں۔“ پس ان سب افراد کی توبہ قبول کر لی گئی۔“

فوائد:..... نبی کریم ﷺ نے صفر (۴) سن ہجری میں ستر قراء صحابہ کو بڑے معونہ والوں کی طرف بھیجا، تاکہ یہ ان کو قرآن مجید اور علم شرعی کی تعلیم دیں، ان کے امیر سیدنا منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، لیکن عامر بن طفیل نے ان قراء کو قتل کر دیا، آپ ﷺ کو ان کا بڑا دکھ ہوا اور آپ ﷺ نے ایک ماہ قنوت نازلہ کی اور ان قبائل پر بددعا، بالآخر یہ آیت نازل ہو۔ تعین کے ساتھ صرف اس آدمی پر لعنت کی جاسکتی ہے، جس کا وحی کے ذریعے جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو، مثلاً ابو جہل پر لعنت ہو، ابولہب پر لعنت۔ وگرنہ کسی کافر اور مسلمان پر تعین کے ساتھ لعنت نہیں کی جاسکتی، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا کافر اپنی زندگی میں مشرف باسلام ہو جائے، ہاں مطلق طور ایسے کہنا درست ہے کہ کافروں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، اس سے مراد وہ افراد ہوں گے، جنہوں نے کفر اور جھوٹ کی حالت میں ہی مرنا ہوگا۔

(۸۵۴۶)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُسِرَتْ رِجْلُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَجَّ فِي جَبْهَتِهِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا))

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد والے دن نبی کریم ﷺ کے سامنے والے دانت توڑ دیے گئے اور آپ کی پیشانی مبارک زخمی کی گئی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ انور پر خون بہہ پڑا، اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ قوم

(۸۵۴۵) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه الترمذی: ۳۰۰۴، والنسائی: ۲/ ۲۰۳، وعلقه البخاری عقب الروایة رقم: ۴۵۵۹ (انظر: ۵۶۷۴)

(۸۵۴۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۹۱، وعلقه البخاری فی ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾ فی المغازی (انظر: ۱۱۹۵۶)

کیسے کامیاب ہوگی، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، جبکہ نبی ان کو ان کے رب کی طرف بلا رہا تھا۔“ پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾..... ”تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے، یا انہیں عذاب دے، کیوں کہ بلاشبہ وہ ظالم ہیں۔“

بِسَبِيهِمْ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ-))
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۲۸]۔ (مسند احمد: ۱۱۹۷۸)

فوائد:..... ان دو احادیث میں الگ الگ واقعات بیان کیے گئے ہیں، پہلے غزوہ احد اور اس کے بعد بڑھ معونہ کا واقعہ پیش آیا، لیکن دونوں میں ایک ہی آیت کے نزول کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جمع و تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ جب آپ ﷺ نے غزوہ احد کے بعد نماز میں مذکورہ لوگوں پر بددعا کی تو دونوں واقعات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہاں اصول تفسیر کا یہ قانون پیش کرنا زیادہ بہتر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ایک آیت سے مختلف مسائل استنباط کرتے ہیں تو وہ لفظ ”فَنَزَلَتْ“ استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔

بَابُ: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾
﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ کی تفسیر

”سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن نبی کریم ﷺ نے پچاس تیز اندازوں پر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور ان سے فرمایا: ”اگر تم دیکھو کہ دشمن نے ہمیں مار دیا ہے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔“ لیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو کہنے لگے: تم بھی غنیمتیں جمع کرو، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ”تم لوگوں نے اسی درے پر رہنا ہے۔“؟ (لیکن وہ نہ مانے) اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾..... ”اور جو نبی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار

(۸۵۴۷)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ الرُّمْلَةَ، وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَالَ: ((إِنْ رَأَيْتُمْ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الطَّيْرَ تَحْطِفُنَا فَلَا تَبْرَحُوا))، فَلَمَّا رَأَوْا الْغَنَائِمَ قَالُوا: عَلَيْكُمُ الْغَنَائِمُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَبْرَحُوا)) قَالَ: غَيْرُهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا آرَأَكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ۱۵۲] يَقُولُ: عَصَيْتُمُ الرُّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا آرَأَكُمْ الْغَنَائِمَ وَهَزِيمَةَ الْعَدُوِّ۔ (مسند احمد: ۱۸۸۰۱)

تھے (یعنی مالِ غنیمت اور دشمن کی شکست) تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے“ راوی کہتا ہے: تم غمنوں اور دشمنوں کی شکست دیکھنے کے بعد اپنے رسول کی نافرمانی کر دی۔“

فوائد:..... غزوہ احد میں آپ ﷺ نے ایک درّے پر پچاس تیرا انداز صحابہ کو تعینات کیا، یہ نبی کریم ﷺ کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن یہ دستہ حکم عدولی کر بیٹھا اور لشکرِ اسلام کی فتح، شکست میں تبدیل ہو گئی، سبقت یہ ملتا ہے کہ کسی حالت میں محمد رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہر حال میں آپ ﷺ کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ پوری آیت یوں ہے: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا آرَاكُمْ مَا تَحِبُّونَ مِّنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾..... ”اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور اس کے بعد کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (یعنی مالِ غنیمت اور دشمن کی شکست) تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔“

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوْلَانَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِي هَذَا﴾
﴿أَوْلَانَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِي هَذَا﴾ کی تفسیر

اس باب سے متعلقہ کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی، یہ پوری آیت یوں ہے:

﴿أَوْلَانَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾..... ”اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آپڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریقِ مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی! ان سے کہو، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۱۶۵)

یہاں جس مصیبت کا بیان ہو رہا ہے یہ احد کی مصیبت ہے، جس میں ستر صحابہ شہید ہوئے تھے تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آگئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، تم نے رسول اللہ ﷺ کے تاکید حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ دیا۔ اس چیز کا تفصیلی ذکر ”کتاب السیرة النبویة“ میں آئے گا۔

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾
 ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ کی تفسیر

(۸۵۴۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ لَيْسِرٍ خَضِرٍ، تَرْدُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ إِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي بِلَلِ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ وَحُسْنَ مُنْقَلَبِهِمْ، قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا، لِيَتَلَّ يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكَلُوا عَنِ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [آل عمران: ۱۶۹]۔ (مسند احمد: ۲۳۸۸)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روہیں سبز پرندوں میں ڈال دیں، وہ جنت کی نہروں پر جاتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش الہی کے سائے میں سونے کی قدیلوں میں جگہ پکڑتے ہیں، جب انہوں نے کھانے پینے کی یہ عمدگی اور اپنے ٹھکانے کی خوبصورتی دیکھی تو انہوں نے کہا: کاش ہمارے دنیا والے بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا ہے، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے روگردانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہارا یہ پیغام تمہاری طرف سے تمہارے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾..... ”اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔“

فوائد:..... شہداء کی جس زندگی کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بدعتی لوگ ایسی آیات کے ذریعے شہداء اور اولیا کی وہ زندگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تصور انہوں نے بزم خود قائم کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے منقطع ایک نئے عالم میں داخل ہو جاتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اس عالم کا اس دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس عالم میں نیکیوں اور برائیوں کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ شہداء کی مثال اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔

بَابُ: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾
 ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ کی تفسیر

”حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے دربان رافع سے کہا: اے رافع! تم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے کہو: اگر ہم میں سے ہر کوئی اس چیز پر خوش ہو، جو اس کو دی گئی ہے اور یہ پسند کرے کہ ایسے کام پر بھی اس کی تعریف کی جائے، جو اس نے کیا نہ ہو، تو پھر تو ہم سب کو عذاب ہوگا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُخْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾.....“ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔“ اور اس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھی: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾.....“ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان (کاموں) پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان (کاموں) پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔“ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: نبی کریم ﷺ نے ان اہل کتاب سے ایک سوال کیا، انہوں نے اس کو چھپایا اور غلط بتایا اور تمنا یہ کی کہ نبی کریم ﷺ ان کی

(۸۵۴۹)۔ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: أَذْهَبَ يَا رَافِعُ لِسَوَابِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: لَيْتَنِي كَانَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مَنَّا فَرِحَ بِمَا أُوتِيَتْ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، لِنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ؟ وَهَذِهِ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ﴾ هَذِهِ الْآيَةُ وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ۱۸۷-۱۸۸] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَخَرَجُوا، قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوا بِمَا آتَوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ۔ (مسند احمد: ۲۷۱۲)

اس بناء پر تعریف بھی کریں کہ آپ ﷺ نے ان سے جو کچھ پوچھا ہے، انہوں نے وہ بتا دیا اور یہ یہودی اس صحیح بات کو چھپا لینے پر بہت خوش تھے کہ انھوں نے اصل بات بھی چھپالی ہے اور نبی کریم ﷺ کو جواب بھی دے دیا ہے۔“

فوائد:..... یہ آیات اگرچہ یہودیوں کے بارے میں ہیں، لیکن ان کا حکم عام ہے اور ہر وہ شخص ان کا مصداق ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ خیر و بھلائی والے اُن امور کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے، جو اس نے کیے نہ ہوں، اسی طرح اس کو علم و صلاح کی طرف منسوب کیا جائے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، آجکل کئی ظاہر پرست اس چیز کے خواہش مند نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے بڑے القاب استعمال کیے جائیں۔ نَسَأُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَالْعَاقِبَةَ۔

مَا جَاءَ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ

سورہ نساء کی تفسیر

بَابُ آيَةِ الْمِيرَاثِ

وراثت کی آیت کا بیان

(۸۵۵۰)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحَدِ شَهِيدَا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: ((يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ)) فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمَّهُمَا، فَقَالَ: ((أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ بْنِ الثَّلَثِينِ وَأُمَّهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)) (مسند احمد: ۱۴۸۵۸)

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی دو بیٹیاں لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! یہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں ہیں، ان کا باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکا ہے اور ان کے چچے نے ان کا سارا مال سمیٹ لیا ہے، ظاہر ہے اگر ان بیٹیوں کے پاس مال نہ ہوا تو ان کی شادی نہیں ہو گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔“ پس میراث والی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے ان بچیوں کے چچے کو بلایا اور اس سے فرمایا: ”سعد کی بیٹیوں کو دو تہائی اور ان کی ماں کو آٹھواں حصے دو، پھر جو کچھ بچ جائے (وہ بطور عصبہ) تیرا ہے۔“

فوائد:..... جب میت کی دو یا زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی ملتا ہے، جب خاوند کی اولاد ہو تو اس کی بیوی کو

آٹھواں حصہ ملتا ہے، چچا عصبہ ہے، اس لیے دو قسم کے اصحاب الفروض سے جو کچھ بچے گا، وہ بچا کو ملے گا۔ علم میراث ایک مکمل اور پیچیدہ فن ہے، سورہ نساء کے اوائل اور اواخر میں اس سے متعلقہ آیات موجود ہیں۔ حدیث نمبر (۶۳۳۷) سے پہلے ”کِتَابُ الْفَرَائِضِ“ میں اس علم سے متعلقہ بعض مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔

بَابُ: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ...﴾ ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.....“ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں، ان پر اپنے میں سے چار مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھالے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔“ (سورہ نساء: ۱۵) پس نبی کریم ﷺ نے خواتین کے ساتھ اسی طرح کیا، پھر ایک دفعہ آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آپ ﷺ کے گرد جمع تھے، جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ﷺ ہم سے رخ پھیر لیا کرتے تھے، اب کی بار بھی آپ ﷺ نے ہم سے رخ پھیر لیا اور آپ ﷺ کے رخ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ ﷺ کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ ﷺ سے وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے حکم وصول کرو۔“ ہم نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں

(۸۵۵۱)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ [النِّسَاءِ: ۱۵]، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَنِمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَعْرَضَ عَنَّا وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَكَرَبَ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رُفِعَ عَنْهُ الْوَحْيُ، قَالَ: ((خُذُوا عَنِّي)) قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ))، قَالَ الْحَسَنُ: فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْحَدِيثِ هُوَ أَمْ لَا، قَالَ: ((فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمَا وَجِدَا فِي لِحَافٍ لَا يَشْهَدُونَ عَلَيَّ جَمَاعٍ خَالَطَهَا بِهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَجُرَّتْ رُءُوسُهُمَا)) (مسند احمد: ۲۳۱۶۱)

(۸۵۵۱) تخريج: حدیث صحیح دون قولہ: ”فان شہدوا..... الخ“، وهذا الاسناد منقطع، فان الحسن البصری لم یسمع من عبادۃ بن الصامت۔ أخرجه مسلم: ۱۶۹۰ بلفظ ”خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ“ (انظر: ۲۲۷۸۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ راستہ بتایا ہے کہ جب کنوارا، کنواری کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور جب شادی شدہ، شادی شدہ سے زنا کا ارتکاب کرتے تو سو کوڑے اور پھر رجم۔“ حسن راوی کہتے ہیں: میں یہ نہ جان سکا کہ یہ اگلا حصہ حدیث کا حصہ ہے یا نہیں ہے: اگر لوگ گواہی دیں کہ یہ مرد اور عورت ایک لحاف میں پائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جماع کی گواہی نہ دیں تو انہیں سو کوڑے مارے جائیں گے اور ان کے سر موٹہ دیئے جائیں گے۔“

فوائد: حدود کے نازل ہونے سے پہلے زانی عورت کی سزا یہ تھی کہ اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی مختلف سزائیں نازل کر دیں۔ حدیث نمبر (۶۶۸۲) اور اس کے بعد والی احادیث میں زنا کی حدود کی تفصیل گزر چکی ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شادی شدہ زانیوں کو رجم سے پہلے سو سو کوڑے لگائے جائیں گے۔

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾
وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فُضِّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
وَقَوْلِهِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ...﴾

ان آیات کی تفسیر کا بیان

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نے بنو اوطاس قبیلہ کی خواتین لوٹریوں کے طور پر حاصل کیں، جبکہ ان کے خاوند موجود تھے (یعنی وہ پہلے شادی شدہ تھیں اور ان کے خاوند زندہ تھے)، اس لیے ہم نے ان سے جماع کو ناپسند کیا، کیونکہ ان کے خاوند موجود ہیں، پھر جب ہم نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾..... ”اور خاوند والی عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لوٹریاں) جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔“ تو ملک یمین کی وجہ سے ہم نے ان سے صحبت کی۔

(۸۵۵۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصْبَنَّا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَفَرْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ۲۴] قَالَ: فَاسْتَحَلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ۔ (مسند احمد: ۱۱۷۱۴)

فوائد: یعنی ایسی لوٹدیاں مسلمانوں کے لیے حلال ہوں گی، ان کے خاوندوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، البتہ استبرائے رحم کا یقین حاصل کرنے کے لیے ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا۔

(۸۵۵۳)۔ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَغْزُو الرَّجَالُ وَلَا نَغْزُو وَلَا نَنْصِفُ الْمِيرَاثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ۳۲]۔ (مسند احمد: ۲۷۲۷۲)

”مجاہد کہتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم عورتیں جہاد میں شرکت نہیں کرتیں اور ہماری وراثت کا حصہ بھی مردوں سے آدھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.....

”اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، جو انھوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے، جو انھوں نے محنت سے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

فوائد: اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہئے اور مرد و زن کو جن جن صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، ان کو بروئے کار لانا چاہیے، جو نعمتیں اور اہلیتیں محض اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوں اور بن مانگے ملی ہوں، ان کے بارے میں تمنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مثلاً مرد کو بحیثیت مرد برتری دینا، جیسے جہاد، گواہی، میراث میں حصہ، نگہداشت، ولایت و ذمہ داری، اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس جیسے عارضوں میں مبتلا کر کے اس کے مقام کو مزید کم کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہی درست ہے، سو اس پر ہر ایک کو راضی ہونا چاہیے، بہر حال اچھے اور برے اعمال کی راہ کھلی ہے، جو چاہے آگے بڑھ سکتا ہے۔

(۸۵۵۴)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فَلَمَّا بَلَغَتْ هَذِهِ آيَةَ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ آیت پر پہنچا: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ پر سورہ نساء تلاوت کی، جب میں اس آیت پر پہنچا: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾

(۸۵۵۳) تخريج: اسنادہ ضعيف، فيه انقطاع بين مجاهد وام سلمة - أخرجه الترمذی: ۳۰۲۲ (انظر: ۲۶۷۳۶)

(۸۵۵۴) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۰۵۰، ومسلم: ۸۰۰ (انظر: ۳۵۵۱)

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا ﴿۱﴾ ”وہ کیفیت کیسی ہو گی، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ لائیں گے۔“ اس سے نبی کریم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔“

[النساء: ۴۱] قَالَ: فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ. (مسند احمد: ۳۵۵۱)

فوائد: ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انھوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا تصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم ﷺ گواہی دیں گے کہ یا اللہ! یہ سب سچ کہہ رہے ہیں۔ نیز دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۹۱)۔

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۵۵۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فِي عِبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَّافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ نِ السَّهْمِيِّ ذُبِعَتْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّرِيَّةِ. (مسند احمد: ۳۱۲۴)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن حذافہ سہمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ”اے ایماندارو! تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔“

فوائد: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ آیت ذکر کرنے سے مقصود ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا“ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم ایسے والے ہیں، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“ (سورہ نساء: ۵۹)

سہمی کا واقعہ کیا ہے؟ ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۳۹۳۲)

”وَأُولَى الْأَمْرِ“ (صاحب امر) سے مراد امراء، حکام اور خلفاء ہیں، جن کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، اس وقت تک ان کی اطاعت ضروری ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى

المَرْءُ الْمُسْلِمُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔))
..... ”مسلمان آدمی پر (امیر کی اطاعت) ان چیزوں میں واجب ہے، جو اس کو پسند ہوں یا ناپسند، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان حرہ کے ایک نالے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، اس نالے سے کھجوروں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری رضی اللہ عنہ نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا: میری کھجوروں کے لئے پانی چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، انصاری وہ مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے زبیر! تم پہلے سیراب کر کے پانی کو اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دیا کرو۔“ لیکن اس فیصلے سے انصاری کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا: یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لئے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے زبیر! اب اتنی دیر پانی روک کر رکھنا کہ دیوار تک پہنچ جائے، پھر آگے چھوڑنا۔“ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں ہی نازل ہوئی تھی: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾..... ”سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور

(۸۵۵۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلزُّبَيْرِ: سَرِّحِ الْمَاءَ، فَأَبَى فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ ارْسِلْ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ إِلَى الْجُدْرِ)) قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْبِسُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.....﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (مسند احمد:

(۱۶۲۱۵)

فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“ (سورہ نساء: ۶۵)

فوائد: اس آیت میں واضح طور پر مومن کی تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ہمیں بھی ہر حال میں رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ انصاری بدری صحابی تھے، منافق نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی پیشگی معافی کا اعلان کر دیا تھا، بس غصے میں آگئے اور شیطان کے ورغلانے پر یہ الفاظ کہہ دیئے، جبکہ نبی کریم ﷺ نے بھی ان کے حق میں سختی نہیں کی۔ مذکورہ بالا دو احادیث سے معلوم ہوا کہ قدرتی پانی کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے، جس کی زمین اس کے سب سے زیادہ قریب ہوگی، لیکن جب وہ ضرورت پوری کر لے گا تو اس کو پانی روک لینے کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا، وہ اپنے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا، پھر وہ اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے ہمسائے کے لیے پانی چھوڑ دے گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

بَابُ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾
﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ کی تفسیر

(۸۵۵۷)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ، اتَّوَارَسُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمُوا وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ حُمَاهَا فَأَرْكَسُوا فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا لَهُمْ: مَا لَكُمْ رَجَعْتُمْ؟ قَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَاجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: أَمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوءَةٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَافَقُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَنَافِقُوا هُمْ مُسْلِمُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾. [النساء: ۸۸]۔ (مسند احمد: ۱۶۶۷)

”سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عرب کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن جب وہ مدینہ کی وبا یعنی بخار میں مبتلا ہوئے تو ان کو پلٹا دیا گیا اور وہ مدینہ سے نکل گئے، ان کو آگے سے صحابہ کرام کا ایک گروہ ملا اور اس نے ان سے پوچھا: کیا ہوا ہے تم کو، واپس جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا: ہمیں مدینہ کی وبا لگ گئی ہے اور اس شہر کی آب و فضا موافق نہ آنے کی وجہ سے پیٹ میں بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمانوں نے کہا: کیا تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ اب بعض مسلمانوں نے کہا: وہ منافق ہو گئے ہیں اور بعض نے کہا: وہ منافق نہیں ہوئے، بلکہ مسلمان ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾..... ”پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی

وجہ سے الٹا کر دیا جو انھوں نے کمایا۔“

فوائد:..... اس آیت کا صحیح شان نزول درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

(۸۵۵۸)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَحَدٍ، فَرَجَعَ أَنَسُ خَرَجُوا مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَقَتَيْنِ، فِرْقَةٌ تَقُولُ بِقِتْلَتِهِمْ، وَفِرْقَةٌ تَقُولُ: لَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ [النساء: ۸۸] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهَا طَيْبَةٌ وَإِنَّهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِئَةِ)) (مسند احمد: ۲۱۹۳۵)

”سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ احد کی طرف نکلے تو آپ ﷺ کے ساتھ (نکلنے والے منافق راستے سے) واپس لوٹ آئے، ان کی وجہ سے صحابہ کرام کے دو فریق بن گئے، ایک فریق کا خیال تھا کہ ہم لوگ ان منافقوں سے لڑیں، جبکہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ان سے نہیں لڑنا چاہیے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ [النساء: ۸۸] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهَا طَيْبَةٌ وَإِنَّهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِئَةِ)) (مسند احمد: ۲۱۹۳۵)

گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے، الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ طیبہ ہے، یہ گناہوں کی ایسی صفائی کرتا ہے، جیسے آگ چاندی کی میل پکیل کو ختم کر دیتی ہے۔“

بَابُ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.....﴾ [الخ]

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.....﴾ [الخ] کی تفسیر

(۸۵۵۹)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ۹۳] قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلْتُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَأَمَّنَّ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: اس بارے میں بتائیں ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے (اس کی کیا سزا ہے)؟ انہوں نے کہا: ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ۹۳] قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلْتُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ، مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا نَزَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَأَمَّنَّ

(۸۵۵۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۸۸۴، ومسلم: ۲۷۷۶ (انظر: ۲۱۵۹۹)

(۸۵۵۹) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه ابن ماجه: ۲۶۲۱، والنسائی: ۵۸ / ۷، وأخرجه بنحوه

الترمذی: ۳۰۲۹ (انظر: ۲۱۴۲)

میں اتری ہے، کسی آیت نے اس کو منسوخ نہیں کیا، نبی کریم ﷺ کی وفات تک یہی حکم باقی رہا، اس کے بعد اس بارے میں نبی کریم ﷺ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس آدمی نے کہا: اگر وہ توبہ کر لے، ایمان مضبوط کر لے اور نیک عمل کرے اور ہدایت یافتہ ہو جائے تو؟ انھوں نے کہا: اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی، جبکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اس کی ماں اسے گم پائے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، وہ مقتول روزِ قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس نے دائیں یا بائیں ہاتھ سے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا اور اسے سر سے بھی پکڑ رکھا ہوگا، اس وقت مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ اس کو عرش کے سامنے لے آئے گا اور کہے گا: اے میرے رب! اپنے اس بندے سے پوچھو اس نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا۔“

فوائد: یہ نظریہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا تھا کہ ایسے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن باقی اہل علم نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ توبہ سے قاتل کا گناہ زائل ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے تو کفر و شرک جیسے جرائم معاف ہو جاتے ہیں، ان سے ہلکے درجے کے گناہ معاف کیوں نہیں ہوں گے، دیکھیں حدیث (۶۳۴۰) والا باب اور اس میں مندرج احادیث کی تشریحات۔

بَابُ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بنو سلیم کے ایک آدمی کے پاس سے گزری، اس کے پاس بکریاں تھیں، اس نے ان صحابہ کرام کو سلام کہا، لیکن صحابہ نے کہا: یہ صرف تم سے پناہ لینے کے لیے سلام کہہ رہا ہے، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پر قبضہ کر لیا، جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس ان بکریوں کو

(۸۵۶۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ مَعَهُ غَنَمٌ لَهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَفَتَلَوْهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا

لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ [النساء: ۹۴]۔ (مسند احمد: ۲۹۸۷)

لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾..... ”اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ

کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔“

فوائد:..... پوری آیت یہ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو، پورا باخبر ہے۔“

(۸۵۶۱)۔ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ إِضْمٍ، فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رَبِيعٍ وَمُحَلَّمُ بْنُ جَثَامَةَ بْنِ قَيْسٍ، فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضْمٍ مَرَّ بِنَا عَامِرُ الْأَشْجَعِيُّ عَلَىٰ قَعُودِهِ لَمْ يَتَّبِعْ وَوَطِبَ مِنْ لَبِنٍ، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَمْسَكْنَا عَنْهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بْنُ جَثَامَةَ، فَقَتَلَهُ بِسَيْفٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَخَذَ بَعِيرَهُ وَمَتَبِعَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، نَزَلَ فِيْنَا الْقُرْآنُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ

”سیدنا عبداللہ بن ابی حذرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اِضْمِ پہاڑ یا مقام کی جانب بھیجا، پس میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں نکلا، سیدنا ابوقتادہ حارث بن ربیع اور سیدنا محلم بن جثامہ رضی اللہ عنہما بھی اس لشکر میں شامل تھے، پس ہم نکل پڑے اور جب اِضْمِ کی ہموار جگہ پر پہنچے تو ہمارے پاس سے عامر اشجعی گزرا، یہ نوجوان اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ساتھ کچھ سامان بھی اور دودھ اور گھی کا مشکیزہ بھی تھا، اس نے ہمیں سلام کہا، سو ہم نے اس پر حملہ نہ کیا، لیکن محلم بن جثامہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے پاس جو آلہ تھا، اس نے اس کے ذریعے اس کو قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کر لیا، جب ہم نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو ہم نے آپ ﷺ کو یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے بارے میں یہ قرآن نازل ہوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ

(۸۵۶۱) تخریج: اسنادہ محتمل للتحسين - أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۴ / ۵۴۷، والبیہقی فی ”دلائل

النبوۃ“: ۴ / ۳۰۵ (انظر: ۲۳۸۸۱)

السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ سے اس سے جو تم کرتے ہو، پورا باخبر ہے۔“

لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿النساء: ٩٤﴾- (مسند احمد: ٢٤٣٧٨)

فوائد: جو آدمی بظاہر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں ہے، مزید دیکھیں حدیث نمبر

(٣٩٨٠) والے باب کی احادیث۔

بَابُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ... الخ﴾ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ... الخ﴾ کی تفسیر

”سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر سکیت (نزل وحی کے وقت کی ایک کیفیت) طاری ہوگئی، ادھر آپ ﷺ کی ران میری ران پر تھی، میں نے آپ ﷺ کی ران کے وزن سے زیادہ کسی چیز کا وزن محسوس نہیں کیا، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لکھو“ پس میں نے شانے کی ایک ہڈی پر لکھا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.....

(٨٥٦٢)۔ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَخِذِي، فَمَا وَجَدْتُ ثِقَلًا شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَاخِذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: ((اَكْتُبْ)) فَكَتَبْتُ فِي كَتِفِ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [النساء: ٩٥]، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ يَمُنُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟

(٨٥٦٢) تخريج: حدیث صحیح - أخرجه ابو داود: ٢٥٠٧، ٣٩٧٥ (انظر: ٢١٦٦٤)

اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے مجاہدین کی یہ فضیلت سن کر سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا تھے، کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا کیا حال ہوگا، جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا؟ جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو پھر آپ ﷺ پر نزول وحی کی مخصوص کیفیت طاری ہوگئی اور آپ ﷺ کی ران میری ران پر تھی اور اس پر دوسری مرتبہ میں بھی میں نے آپ ﷺ کی ران کا اتنا ہی وزن محسوس کیا جتنا کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا تھا، کچھ دیر کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے زید! آیت پڑھو۔“ پس میں نے پڑھی: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، آپ ﷺ نے فرمایا: ”﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ بھی لکھو۔“ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس جملہ کو الگ نازل فرمایا، اس کے بعد میں نے اس کو اس کی اپنی جگہ پر لگا دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس وقت بھی ہڈی کے شکاف کے پاس اس مقام کو دیکھ رہا ہوں، جہاں میں نے اس کو لکھا تھا۔“

”ابو اسحق سے مروی ہے کہ انھوں نے سیدنا براء کو اس آیت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ﷺ نے سیدنا زید کو حکم دیا، پس وہ آئے اور انھوں نے

فَلَمَّا قَضَىٰ كَلَامَهُ غَشِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فِخْذَهُ عَلَىٰ فِخْذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ سُرِّيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((افْرَأَا يَا زَيْدُ!)) فَقَرَأْتُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ الْآيَةَ كُلَّهَا قَالَ زَيْدٌ: فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ وَحَدَّهَا فَأَلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَيْفٍ۔ (مسند احمد: ۲۲۰۰۴)

(۸۵۶۳)۔ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

شانے کی ہڈی پر اس آیت کو لکھ لیا، جب سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اپنے نابینا پن کا ذکر کیا تو یہ آیت یوں نازل ہوئی: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَبِ﴾۔

”(دوسری سند) سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ تو سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو نابینا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اتنے میں یہ الفاظ نازل ہو گئے: ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَبِ﴾، ایک روایت میں ہے: ابھی تک آپ اسی جگہ پر تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”شانے کی ہڈی اور دوات یا تختی اور دوات میرے پاس لاؤ۔“

زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكَتَبَهَا، قَالَ: فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَتَرَكْتُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَبِ﴾ [النساء: ۹۵]۔ (مسند احمد: ۱۸۶۷۷)

(۸۵۶۳م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أَتَاهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنْ ضَرِبُ الْبَصْرِ؟ قَالَ: فَتَرَكْتُ ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَبِ﴾ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ) قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اِثْنُونِي بِالْكَفِّ وَالذَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالذَّوَاةِ)) (مسند احمد: ۱۸۷۰۲، ۱۸۷۵۵)

فوائد:..... آخری دو احادیث کو اس باب کی پہلی حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں۔

باب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ کی تفسیر

”یعنی بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ”اگر کفار کے فتنے سے تم ڈرو تو نماز کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے“، جبکہ اب تو لوگ امن میں ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا: جس چیز سے تجھے تعجب ہوا ہے، مجھے بھی اس پر تعجب ہوا تھا، لیکن جب میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ خیرات (اور رخصت) ہے، جو اللہ نے تم پر صدقہ کی ہے، سو تم اس کی یہ رخصت قبول کرو۔“

(۸۵۶۴)۔ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ جِئْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَقَدْ أَمِنَ السَّاسُ؟ فَقَالَ لِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)) (مسند احمد: ۱۷۴)

(۸۵۶۳م) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۵۶۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۶۸۶ (انظر: ۱۷۴)

فوائد: معلوم ہوا کہ آیت میں قصر نماز کے لیے خوف کی شرط اتفاقی طور پر لگائی گئی ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر خوف نہ ہو تو پوری نماز پڑھی جائے گی، قصر نماز کی اصل قید اور شرط سفر ہے۔ اس موضوع سے متعلقہ تفصیلی احکام کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۲۳۳۵) کا باب۔

بَابُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾
﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ کی تفسیر

(۸۵۶۵)۔ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غُرَّتَهُمْ، قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَنْبَأَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ قَالَ: فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذُوا السَّلَاحَ، قَالَ: فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفِّينَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوْلَاءُ إِلَى مَصَافِّ هَوْلَاءُ وَجَاءَ هَوْلَاءُ إِلَى مَصَافِّ هَوْلَاءُ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا

”سیدنا ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عسفان کے مقام پر تھے، مشرکین ہمارے مد مقابل آگئے، ان کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، وہ لوگ ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، وہ لوگ آپس میں کہنے لگے: یہ مسلمان نماز میں مشغول تھے، کاش کہ ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ پھر انہوں نے کہا: ابھی کچھ دیر بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت ہونے والا ہے، وہ ان کو اپنی جانوں اور اولادوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی وقت ظہر اور عصر کے درمیان جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ فَلَتَقَمَّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ ”جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔“ (النساء: ۱۰۲) جب عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ صحابہ کرام اسلحہ لے کر کھڑے ہوں، ہم نے آپ کے پیچھے دو صفیں بنالیں، جب آپ ﷺ

نے رکوع کیا تو ہم سب نے رکوع کیا اور جب آپ رکوع سے اٹھے تو ہم بھی اٹھ گئے۔ جب آپ ﷺ نے سجدہ کیا تو صرف آپ کے پیچھے والی پہلی صف والوں نے سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرہ دیتے رہے۔ جب وہ لوگ سجدے کر کے کھڑے ہوئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کر اپنی اپنی جگہ سجدہ کیا، پھر (دوسری رکعت کے شروع میں) اگلی صف والے پیچھے اور پچھلی صف والے آگئے۔ پھر اسی طرح سب نمازیوں نے آپ ﷺ کے ساتھ رکوع کیا اور رکوع سے سراٹھایا، پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو پہلی صف والوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف والے کھڑے ہو کر پہرہ دیتے رہے، جب آپ اور پہلی صف والے لوگ سجدہ کر کے بیٹھ گئے تو دوسری صف والوں نے بیٹھ کر سجدہ کر لیا (اور سب تشہد میں بیٹھ گئے، پھر) سب نے مل کر سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس انداز میں دو دفعہ نماز پڑھائی، ایک دفعہ عسفان میں اور دوسری دفعہ بنو سلیم کے علاقہ میں۔“

فوائد: کتنی حیران کن بات ہے کہ دشمنان اسلام کا نظریہ یہ تھا کہ عصر کی نماز مسلمانوں کو ان کی جانوں اور اولادوں سے بھی عزیز ہے اور وہ کبھی بھی اس کو ترک نہیں کریں گے، کاش عصر حاضر کے مسلمان بھی ان حقائق کو سمجھ جاتے۔ یہ پوری آیت بچھلی حدیث کی شرح میں گزر چکی ہے۔ جب دشمن یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ عصر کی نماز میں مصروف مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کر دینا ہے، اس وقت بھی آپ ﷺ نے نماز سے غفلت کو گوارا نہ کیا، لیکن ہم مسلم معاشرہ میں رہتے ہوئے بانوے ترانوے فیصد لوگ بے نمازی ہیں۔ راجح قول کے مطابق عسفان مقام پر پہلی دفعہ آپ ﷺ نے نماز خوف اس طریقے کے مطابق ادا کی تھی، یہ چھ یا سات بن جبری کا واقعہ تھا۔ نماز خوف کی مختلف صورتوں کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۲۹۴۷) کا باب۔

بَابُ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا﴾
﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا﴾ کی تفسیر

(۸۵۶۶)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ﴾ ”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

(۸۵۶۱) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه (انظر:)

مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا ۖ قَالَ: مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جَنِيَّةٍ۔ (مسند احمد: ۲۱۵۵۱)

فرمان ﴿أَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا﴾ (وہ مشرک نہیں پکارتے مگر انا (کو) میں ”إِنَّا“ سے مراد یہ ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جینی ہوتی ہے۔“

فوائد: آیت کے لفظ ”إِنَّا“ کے معانی کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے، درج ذیل چار اقوال ہیں: (۱) اصوات (مردے)، یہ رائے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور امام حسن بصری کی ہے، بلکہ امام حسن نے کہا: ہر وہ چیز جس میں روح نہ ہو، جیسے پتھر اور لکڑی، وہ ”انساٹ“ ہے۔ (۲) بت، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور مجاہد کا قول ہے۔ (۳) لات، عزی، مناة، یہ ساری خواتین تھیں، یہ ابو مالک، ابن زید اور سدی کا قول ہے۔ (۴) فرشتے، مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کیا کرتے تھے۔ العیاذ باللہ۔ ”إِنَّا“ سے شیطان مراد لینے والوں نے درج ذیل توجیہات پیش کی ہیں: (۱) بت کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ (۲) یہ ابلیس ہے، اس کی عبادت کی صورت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ (۳) یہ وہ بت ہیں، جن کی عرب لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے مؤنث نام رکھتے تھے، جیسے لات، عزی، نائلہ، مناة وغیرہ۔

بَابُ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۵۶۷)۔ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَجْزِيهِ﴾ [النساء: ۱۲۳]

”سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اب اس آیت کے نزول کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آدمی نیکی اور راست روی سے متصف ہو: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَجْزِيهِ﴾..... ”دین نہ تمہاری آرزوئیں ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔“ ہم جو برا عمل بھی کرتے ہیں، اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کیا تم عملگین نہیں ہوتے؟ کیا تم شدت اور تنگی میں مبتلا نہیں ہوتے؟“ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، ہوتے ہیں، احمد: ۶۸)

(۸۵۶۷) تخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده - أخرجه ابويعلى: ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، وابن حبان: ۲۹۱۰ (انظر: ۶۸)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی وہ چیز ہے، جو تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔“ ایک روایت میں ہے: ”یہ اسی کے عوض میں ہے۔“

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾..... ”جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔“ تو یہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کی شکایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میانہ روی اختیار کرو اور راہِ صواب پر چلتے رہو، مسلمان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، وہ اس کے لیے کفارہ بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبت جو اسے لاحق ہوتی ہے اور وہ کاٹنا جو اس کو چھتا ہے۔“

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾..... ”جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی۔“ اور پھر کہا: اگر ہمیں ہر برے عمل کا بدلہ ملا تو ہم تو مارے جائیں گے، جب یہ بات نبی کریم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! (بدلہ تو ہر برے عمل کا ملتا ہے) لیکن ایمانداروں کو دنیا میں تکلیف دینے والی جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ ان کے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے۔“

فوائد:..... ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یا اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

(۸۵۶۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ۱۲۳] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَبْلُغَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فِكْلُ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، وَالشُّوْكَةَ يُشَاكَبُهَا.)) (مسند احمد: ۷۳۸۰)

(۸۵۶۹)۔ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ۱۲۳] قَالَ: إِنَّا لَنُجْزَى بِكُلِّ عَمَلِنَا هَلَكْنَا إِذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((نَعَمْ، يُجْزَى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا فِي مُصِيبَةٍ فِي جَسَدِهِ فِيمَا يُؤْذِيهِ.)) (مسند احمد: ۲۴۸۷۲)

(۸۵۶۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۷۴ (انظر: ۷۳۸۶)

(۸۵۶۹) تخریج: صحیح لغيره۔ أخرجه ابو یعلی: ۴۶۷۵، وابن جبان: ۲۹۲۳ (انظر: ۲۴۳۶۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بَابُ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ کی تفسیر

(۸۵۷۰)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ۱۲۵] قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا يَعْنِي مُحَمَّدًا ﷺ. (مسند احمد: ۳۷۴۹)

”معمرنے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔“ کو سامنے رکھ کر روایت کی کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی یعنی محمد ﷺ کو خلیل بنایا ہے۔“

فوائد:..... چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بہت زیادہ مطیع اور فرمانبردار تھے، ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی عظیم مثالوں سے بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی قربانیوں کی قدر کی اور ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔

(۸۵۷۱)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). (مسند احمد: ۳۸۹۲)

”سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔“

فوائد:..... نبی کریم ﷺ کے بے مثال فضائل اور مناقب میں ایک فضیلت و منقبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ! یاد رہے کہ ”خلیل“ اس محبت کو کہتے ہیں، جو اپنے دل میں اپنے محبوب سے اتنی زیادہ چگی اور گہری محبت رکھتا ہو کہ مزید اس کے دل میں کسی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی ہو۔ ایسی محبت کو ”خلت“ کہتے ہیں اور محبت کا یہ انداز صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔

بَابُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلُوبُ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلُوبُ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ کی تفسیر

(۸۵۷۲)۔ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ، وَقَدْ أُغْمِيَ

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں بیمار ہو گیا اور نبی کریم ﷺ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میری تیمارداری کے لئے تشریف لائے، میں بیہوش تھا، سو آپ

(۸۵۷۰) تخریج: صحیح لغیرہ (انظر: ۳۷۴۹)

(۸۵۷۱) تخریج: صحیح لغیرہ (انظر: ۳۸۹۲)

(۸۵۷۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۶۵۱، ۶۷۲، و مسلم: ۱۶۱۶ (انظر: ۱۴۲۹۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَلَىٰ فَلَمْ أَكَلِّمَهُ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّهُ عَلَىٰ فَأَقْفَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ؟ قَالَ: فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَخَوَاتٌ، ﴿إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ﴾

سے کوئی بات نہ کر سکا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور مجھ پر پانی ڈالا، اس سے مجھے ہوش آ گیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کا کیا کروں، جبکہ میری بہنیں وارث ہیں؟ پس میراث سے متعلقہ یہ آیت نازل ہوئی ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾..... ”لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔“ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی، صرف بہنیں تھیں، ﴿إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ﴾..... ”اگر مرد فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو۔“

[النساء: ۱۷۶]۔ (مسند احمد: ۱۴۳۴۹)

فوائد:..... پوری آیت یوں ہے: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾..... ”وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی مر جائے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا اور وہ (خود) اس (بہن) کا وارث ہوگا، اگر اس (بہن) کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ دو (بہنیں) ہوں تو ان کے لیے اس میں سے دو تہائی ہوگا جو اس نے چھوڑا اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“ اس آیت میں کلالہ کے معنی اور علاقائی بھائیوں کا ذکر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر (۱۲) میں کلالہ کے اخلاقی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔

(۸۵۷۲م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَجَعٌ لَا أَعْقِلُ، قَالَ: فَتَوَضَّأْتُمْ صَبَّ عَلَى، أَوْ قَالَ: صَبُّوا عَلَيْهِ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: أَنَّهُ لَا يَرِثُنِي إِلَّا كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ قَالَ: فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْفَرَضِ۔ (مسند احمد: ۱۴۲۳۵)

” (دوسری سند) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے، جبکہ مجھے تکلیف تھی اور میں بیہوش تھا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور مجھ پر پانی ڈالا، یا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس پر پانی ڈال دو۔“ پس میں ہوش میں آ گیا، میں نے کہا: میرا وارث صرف کلالہ ہیں، ایسی صورت میں میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پس وراثت والی آیت نازل ہوئی۔“

فوائد:..... کلالہ سے مراد وہ میت ہے، جس کے والدین ہوں نہ اولاد۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے، اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف یعنی کناروں سے گھیر لے، کلالہ کو بھی کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے، لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے، جیسے بہن بھائی وغیرہ۔ سورہ نساء میں دو مقامات پر کلالہ کا ذکر ہے، آیت نمبر (۱۳) اور آیت نمبر (۱۷۶) میں، اول الذکر آیت موسم سرما میں اور آخر الذکر موسم گرما میں نازل ہوئی تھی۔

(۸۵۷۳)۔ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْضَحَ فِي وَجْهِ، فَأَقْفُتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِي لَأَخَوَاتِي بِالثَّلْثَيْنِ، قَالَ: ((أَحْسِنُ..)) قُلْتُ: بِالشَّطْرِ، قَالَ: ((أَحْسِنُ..)) قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيْتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فَيَسِّنُ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلْثَيْنِ..))، فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ فِي: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ۱۷۶]۔ (مسند احمد: ۱۵۰۶۲)

”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں بیمار پڑ گیا، جبکہ میری سات بہنیں تھیں، رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور میرے چہرے پر پانی چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اپنی بہنوں کے لئے اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”زیادہ کرو۔“ میں نے کہا: نصف مال کی وصیت کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور زیادہ کرو۔“ پھر آپ ﷺ میرے پاس سے تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے اور فرمایا: ”اے جابر! میرا خیال ہے کہ تم اس تکلیف کی وجہ سے فوت ہونے والے نہیں ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے تیری بہنوں کا حصہ واضح کر دیا ہے اور ان کو دو تہائی دیا ہے۔“ سیدنا جابر کہا کرتے تھے: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾۔

فوائد:..... ظاہری طور پر حدیث میں اشکال ہے کہ دو تہائی مال وصیت پر نبی کریم ﷺ نے کہا: ”احسن“ زیادہ کر۔ تو جابر نے کہا نصف وصیت کر دیتا ہوں، ظاہر ہے کہ نصف دو تہائی سے کم ہے، اسی طرح اگلی بات ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ”لا خواتی“ میں لام، علی کے معنی میں ہے مطلب ہے کہ بہنوں پر اور ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے ہوئے دو تہائی وصیت کروں اور باقی بہنوں کو دوں تو آپ نے فرمایا: بہنوں کو زیادہ دے پھر نصف کے بعد بھی فرمایا: بہنوں کو اور زیادہ دے۔ پھر آیت میراث نازل ہونے پر واضح ہو گیا کہ ایک سے زائد بہنوں کو دو تہائی حصہ ملے گا۔ (دیکھیں بلوغ الامانی) (عبداللہ رفیق)

(۸۵۷۴)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلَامَةِ، فَقَالَ: ((تَكْسِفُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)) (مسند احمد: ۱۸۷۹۰) نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔“

سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے کلامہ کے بارے میں دریافت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تجھے گرمیوں میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔“

فوائد: سورہ نساء کی آیت نمبر (۱۷۶) موسم گرما میں نازل ہوئی تھی، اس میں کلامہ کے معنی اور علاقائی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر (۱۲) میں کلامہ کے اخپائی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، اگر دونوں مقامات کو غور کے ساتھ پڑھا جائے تو کلامہ سے متعلقہ مسائل سمجھ آ جاتے ہیں۔ کلامہ کے مزید احکام جاننے کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۶۳۸۳)

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

سورة مائدہ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سورة مائدہ کی فضیلت کا بیان

(۸۵۷۵)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَتَزَلَ عَنْهَا۔ (مسند احمد: ۶۶۴۳)

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ مائدہ کا نبی کریم ﷺ پر نزول ہوا تو آپ ﷺ اپنی سواری پر سوار تھے، سواری میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کیفیت میں آپ ﷺ کو اٹھا سکے، اس لیے آپ ﷺ اس سے اتر آئے۔“

فوائد: نزول وحی کے وقت آپ ﷺ پر بوجھ پڑتا تھا، احادیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا﴾ ”یقیناً ہم ضرور تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔“ (سورہ مزمل: ۵)

(۸۵۷۶)۔ عَنِ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: اِنْتِي ”سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں

(۸۵۷۴) تخریج: صحیح، قالہ الالبانی۔ أخرجه ابوداود: ۲۸۸۹، والترمذی: ۳۰۴۲ (انظر: ۱۸۵۸۹)

(۸۵۷۵) تخریج: حسن لغیرہ (انظر: ۶۶۴۳)

(۸۵۷۶) تخریج: حسن لغیرہ۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۴ / ۴۴۸ (انظر: ۲۷۵۷۵)

نے نبی کریم ﷺ کی عشاء اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے تھی کہ آپ پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اس وحی کے بوجھ سے قریب تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جاتا۔“

حمیر بن نفیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: یہ آخری سورت ہے، جو نازل ہوئی، اس لیے اس میں جو چیز حلال پاؤ، اس کو حلال سمجھو اور جو چیز اس میں حرام پاؤ، اسے حرام سمجھو۔ پھر جب میں نے سیدہ سے نبی کریم ﷺ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: آپ ﷺ کے اخلاق قرآن تھا۔

لَا خِذَّةَ بِرَمَامِ الْعَضْبَاءِ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَائِدَةَ كُلُّهَا، فَكَادَتْ مِنْ نُقْلِهَا تَدُقُّ بِعَضُدِ النَّاقَةِ۔ (مسند احمد: ۲۸۱۲۷)

(۸۵۷۷)۔ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحْلَوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّمُوهُ، وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: الْقُرْآنُ۔ (مسند احمد: ۲۶۰۶۳)

فوائد: سب سے آخر میں قرآن مجید کی کون سی سورت یا آیت نازل ہوئی؟ دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۳۵) والا باب۔

بَابُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ کی تفسیر

”طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! تم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم نے (تعظیم کرتے ہوئے) اس دن کو عید بنا لینا تھا، انہوں نے کہا: وہ کونسی آیت ہے؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾..... ”آج میں نے تمہارے لیے

(۸۵۷۸)۔ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعَشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَتَّخِذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ۳]

(۸۵۷۷) تخريج: اسنادہ صحیح - أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۱۳۸، والحاكم: ۳۱۱ / ۲، والبيهقي: ۱۷۲ / ۷، وأخرجه مسلم: ۱۲۳۳ بلفظ: فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ۔ فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ (انظر: ۲۵۵۴۷)

(۸۵۷۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۴۵، ومسلم: ۳۰۱۷ (انظر: ۱۸۸)

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ
الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، وَالسَّاعَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ
الْجُمُعَةِ. (مسند احمد: ۱۸۸)

تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔“
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں وہ دن جانتا ہوں، جس
میں یہ آیت رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس گھڑی
کا بھی علم ہے، جس میں یہ نازل ہوئی تھی، جمعہ کا دن تھا اور
عرفہ کی شام تھی۔“

فوائد: یہ سوال کرنے والے کعب احبار رضی اللہ عنہ تھے، مشہور قول کے مطابق یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں
مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ان کے ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: فَإِنَّهَا
نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَفِي يَوْمِ عَرَفَةَ..... یہ آیت تو دو عیدوں کے دن میں نازل ہوئی، جمعہ
کا دن بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا۔ (ترمذی) چونکہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، نہ کہ عقلی اختراعات و
ایجادات و تصورات پر، اس دین میں خوشی اور غمی کے معیارات مقرر ہیں، نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت، نبوت و
رسالت کا آغاز، اسراء و معراج، ہجرت مدینہ، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ خندق، فتح مکہ، دین کی تکمیل، جلیل القدر صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کا قبولیت اسلام، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امت مسلمہ کے لیے بڑی بڑی خوشیوں کے دن ہیں، لیکن ان
خوشیوں کا معیار نبی مہربان کا مبارک وجود ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی رہنمائی کے بغیر کسی مناسبت سے کسی دن کو تقسیم
الاقرار وے کر اس کو خوشیاں منانا شروع کر دینا یہودیانہ روش ہے، عصر حاضر میں سالگرہ اور وطنی عید جیسے امور محض اغیار
کی نقالی ہیں۔

بَابُ آيَةِ التَّيْمَمِ تَيْمَمٍ كَابِيَان

(۸۵۷۹)۔ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ
وَلَادَةَ فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِجَالًا
فِي طَلَبِهَا فَوَجَدُوهَا، فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَشَكُّوا
ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
التَّيْمَمَ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ: جَزَاكَ
اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ! مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انھوں نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا
سے ایک ہار بطور استعارہ لیا تھا، لیکن وہ گم ہو گیا، رسول
اللہ ﷺ کچھ افراد کو اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، ان کو
وہ مل گیا، لیکن نماز نے ان کو اس حال میں پالیا کہ ان کے
ساتھ پانی نہیں تھا، پس انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور
نبی کریم ﷺ کی طرف یہ شکایت کی، پس اللہ تعالیٰ نے تيمم
کی رخصت نازل کر دی، سیدنا اسید بن حضير رضی اللہ عنہ نے سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جب بھی

تمہارا کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے، جس کو تم ناپسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی بنا دیتا ہے۔“

”(دوسری سند) عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب ہم بیداء یا ذات کحیش جگہ پر پہنچے تو میرا ایک ہارگم ہو گیا نبی کریم ﷺ اس کی تلاش کے لئے ٹھہر گئے لوگ بھی ٹھہر گئے نہ وہ پانی پر تھے اور نہ ہی ان کے پاس پانی تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے جبکہ نبی کریم ﷺ اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے سو رہے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے تو نے نبی کریم ﷺ کو روک رکھا ہے اور لوگوں کو بھی نہ وہ پانی کے پاس ہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے۔ کہا مجھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہت سرزنش کی اور جو چاہا کہا اور میری کونکھ میں مارنا شروع ہوئے۔ مجھے حرکت میں یہ چیز رکاوٹ تھی کہ نبی کریم ﷺ میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے صبح تک لوگوں کے پاس پانی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی لوگوں نے تیمم کیا سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر کی اولاد! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں تم ہمیشہ باعث برکت ثابت ہوئے ہو۔ تو بعد میں ہم نے اونٹ اٹھایا جس پر میں تھی تو ہمارا اس کے نیچے سے مل گیا۔“

تَكَرَّهِيْنَهُ اِلَّا جَعَلَ اللهُ لِكَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا۔ (مسند احمد: ۲۴۸۰۳)

(۸۵۷۹م)۔ (وَمِنْ طَرِيْقِيْ ثَانٍ) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِنَا حَتَّى اِذَا كُنَّا بِاَلْيَدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَبِيْشِ، اَنْقَطَعَ عِقْدِيْ، فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى النَّمَاسِيْهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَاتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالُوْا: اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَضْعَ رَاسَهُ عَلٰى فِخْذِيْ، فَقَالَ: حَبَسَتْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ، وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُوْلَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ، وَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحْرِكِ اِلَّا مَكَانَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلٰى فِخْذِيْ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى اَصْبَحَ النَّاسُ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ، فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اٰيَةَ التِّيْمَمِ فَتِيْمَمُوْا، فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيْرِ: مَا هِيَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اَلَّ اَبِيْ بَكْرٍ! قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ۔

(مسند احمد: ۲۵۹۶۹)

فوائد: تیمم والی آیت سے مراد درج ذیل آیت ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو) اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو، یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔“ حدیث نمبر (۹۸۱) اور اس سے بعد والی احادیث میں تیمم کی مفصل باتیں گزر چکی ہے۔

باب: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾
 ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۸۰۱)۔ عَنِ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ عُنْكَلٍ وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَأَتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ أَهْلُ ضَرْعٍ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رَيْفٍ، وَشَكَّوْا حُمَى الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ الْبَانِيهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا فَكَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، فَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقُوا الدَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَتَى بِهِمْ فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتَرَكُوا بِسَاحِيَةِ الْحَرَّةِ، يَقْتَضُمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنک اور عینہ قبیلہ کے کچھ افراد نے اسلام قبول کیا اور وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا کہ وہ مویشیوں والے لوگ ہیں، بھیتی باڑی والے نہیں ہیں، نیز انہوں نے مدینہ کے بخار کی بھی شکایت کی، نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے اونٹوں کا حکم دیا اور ان سے فرمایا کہ وہ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیئیں، ایسے ہی ہوا اور وہ مدینہ سے باہر حرہ کی ایک طرف چلے گئے، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، رسول اللہ ﷺ کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ جب نبی کریم ﷺ کو اس بات کا پتہ چلا، تو آپ ﷺ نے ان کے تعاقب میں بندے بھیجے، جو ان کو پکڑ کر لے آئے، آپ ﷺ نے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور حرہ کی ایک جانب

(۸۵۸۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۵۰۱، ۴۱۹۲، ۵۷۲۷، ومسلم: ۱۶۷۱ (انظر: ۱۲۶۶۸)

انہیں پھینک دیا، وہ پتھروں کو منہ میں کاٹے تھے اور اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ کہتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾..... ”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“ (سورۃ مائدہ: ۳۳)

مَاتُوا، قَالَ قَتَاةٌ: قَبَلْنَا أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِيهِمْ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ۳۳]۔ (مسند احمد: ۱۲۶۹۷)

فوائد:..... مُحَارِبٌ بِلُغْوِيٍّ مَعْنَى: لڑائی کرنے والا: اصطلاحی تعریف: جو لوگوں کو قتل ہونے یا مال چھین جانے کے ڈر سے گھبراہٹ میں ڈال رکھے، خواہ وہ شہر میں ہو یا اس سے باہر اور ایسا کرنے والا مسلمان ہو یا کافر۔ اس کو محاربہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مظالم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، سلب و نہب، اغوا اور آبروریزی کرنا وغیرہ۔ محاربہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۶۸۰۰)

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
 إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ کی تفسیر
 تنبیہ: اگلی تینوں احادیث کا مطالعہ کرنے سے پہلے ورج ذیل آیات پڑھیں اور ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہایت اہم موضوع ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَبَّحُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوا وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلصَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. وَلِيُحْكَمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ﴿المائدة: ٤١ - ٤٧﴾

”اے رسول! تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے مونہوں سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بیچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کے لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے حرام کو، پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر، یا ان سے منہ پھیر لے اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ تجھے کیسے منصف بنائیں گے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرماں بردار

تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے، پھر جو اس (قصاص) کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں، جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔“

”سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک یہودی کو گزرا گیا، جس کا چہرہ کالا کیا گیا تھا اور اسے کوڑے لگائے گئے تھے، آپ ﷺ نے ان کو بلایا اور فرمایا: ”کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی حد پاتے ہو؟“ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے فرمایا: ”میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو؟“ اس نے کہا: اللہ کی قسم! نہیں، اور اگر آپ نے مجھے یہ واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں آپ کو نہ بتلاتا، ہم اپنی کتاب میں زنا کی حد رجم ہی پاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اونچے طبقے والے لوگوں میں زنا عام ہو گیا تھا، تو جب ہم کسی اونچے آدمی کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور جب ہم کسی کمزور کو پکڑتے تو اس پر یہی حد قائم کر دیتے، پھر ہم نے اجلاس کیا اور یہ قانون پاس کیا کہ ہم ایسی حد تجویز کر لیں

(۸۵۸۱)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُّحَمَّمٍ مَّجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: ((أَتَشُدُّكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟)) فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ! وَلَوْ لَا أَنَّكَ أَتَشَدُّتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّخْمِيمِ

جو ہم بلند مرتبہ اور کم مرتبہ دونوں قسم کے لوگوں پر نافذ کر سکیں، پس ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ کوڑے مار دیئے جائیں اور منہ کالا کر دیا جائے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں تیرا وہ بندہ ہوں، جس نے سب سے پہلے تیرے حکم کو زندہ کیا ہے، جبکہ یہودیوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾..... ”اے رسول! تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو تیرے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کی جگہوں کے بعد پھیر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔“ یہ یہودی آپس میں کہتے ہیں: تم محمد (ﷺ) کے پاس جاؤ، اگر وہ تمہیں یہ فتویٰ دیں کہ زانی کا منہ کالا کرو اور اسے کوڑے لگاؤ تو پھر ان کی بات مان لینا اور اگر وہ رجم کا فتویٰ دیں تو پھر بچ کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے اور ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ اور ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

وَالجَلِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلَ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ)) قَالَ: فَأَمْرَبِهِ فَرَجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قَالَ فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥] قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ - (مسند

احمد: ١٨٧٢٤)

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿﴾ یہ دو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں۔“

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ، وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا، وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾..... ”پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر، یا ان سے منہ پھیر لے اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے تو ہرگز تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور اگر تو فیصلہ کرے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ تفصیل یہ ہے کہ جب بنو نضیر، بنو قریظہ کا بندہ قتل کر دیتے تو وہ نصف دیت دیتے اور جب بنو قریظہ، بنو نضیر میں سے کسی کو قتل کر دیتے تو یہ پوری دیت دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے معاملے میں ان کے مابین برابری کر دی۔“

فوائد:..... بنو قریظہ اور بنو نضیر، دونوں یہودی قبیلے تھے، لیکن بنو نضیر کو زیادہ شرف و منزلت والا سمجھا جاتا تھا، اس

لیے متول کے معاملے میں اس قدر فرق پایا جاتا تھا۔

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ”اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں“ اور ”وہ لوگ ظالم ہیں“ اور ”وہ لوگ فاسق ہیں“ انھوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ آیات یہودیوں کے دو گروہوں کے بارے میں نازل کیں، ان میں سے ایک نے دور جاہلیت میں دوسرے کو زیر کر لیا تھا، حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے اور اس بات پر صلح کر لی کہ عزیزہ قبیلے نے ذلیلہ قبیلے کا جو آدمی

(۸۵۸۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ، وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا، وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ۴۲] قَالَ: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا قَتِيلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا إِلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ قَتِيلًا أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَسَوَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمُ الدِّيَةَ۔ (مسند احمد: ۳۴۳۴)

(۸۵۸۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وَ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللّٰهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا

(۸۵۸۲) تخریج: حدیث حسن - أخرجه ابو داود: ۳۵۹۱، والنسائی: ۸ / ۱۹ (انظر: ۳۴۳۴)

(۸۵۸۳) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابو داود: ۳۵۷۶ (انظر: ۲۲۱۲)

قتل کیا، اس کی دیت پچاس وسق ہوگی اور ذلیلہ نے عزیزہ کا جو آدمی قتل کیا اس کی دیت سو (۱۰۰) وسق ہوگی، وہ اسی معاہدے پر برقرار تھے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے، آپ ﷺ کے آنے سے وہ دونوں قبیلے بے وقعت ہو گئے، حالانکہ ابھی تک آپ ان پر غالب نہیں آئے تھے اور نہ آپ نے ان کی موافقت کی تھی اور ان کے ساتھ صلح و صفائی کا زمانہ تھا۔ ادھر ذلیلہ نے عزیزہ کا بندہ قتل کر دیا، عزیزہ نے ذلیلہ کی طرف پیغام بھیجا کہ سو وسق ادا کرو۔ ذلیلہ والوں نے کہا: جن قبائل کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو اور شہر ایک ہو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی دیت دوسرے کی بہ نسبت نصف ہو؟ ہم تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے تمہیں (سو وسق) دیتے رہے، اب جبکہ محمد ﷺ آچکے ہیں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ ان کے مابین جنگ کے شعلے بھڑکنے والے ہی تھے کہ وہ آپس میں رسول اللہ ﷺ پر بحیثیت فیصل راضی ہو گئے۔ عزیزہ کے دروہاء آپس میں کہنے لگے: اللہ کی قسم! محمد ﷺ تمہارے حق میں دو گنا کا فیصلہ نہیں کرے گا، ذلیلہ والے ہیں بھی سچے کہ وہ ہمارے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی وجہ سے دو گناہ دیتے رہے، اب محمد ﷺ کے پاس کسی آدمی کو بطور جاسوس بھیجو جو تمہیں اس کے فیصلے سے آگاہ کر سکے، اگر وہ تمہارے ارادے کے مطابق فیصلہ کر دے تو تم اسے حاکم تسلیم کر لینا اور اگر اس نے ایسے نہ کیا تو محتاط رہنا اور اسے فیصل تسلیم نہ کرنا۔ سو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ منافق لوگوں کو بطور جاسوس بھیجا، جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کی تمام سازشوں اور ارادوں سے آگاہ کر دیا اور یہ آیات نازل فرمائیں: ”اے رسول! آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ

وَاصْطَلَحُوا عَلٰی اَنْ كُلُّ قَبِيْلَةٍ قَتَلَتْهُ
(الْعَزِيْزَةُ) مِنَ الدَّلِيْلَةِ فِدِيَّتُهُ حَمْسُوْنَ
وَسَقًا، وَكُلُّ قَبِيْلَةٍ قَتَلَتْهُ (الدَّلِيْلَةُ) مِنْ
(الْعَزِيْزَةِ) فِدِيَّتُهُ مِئَةٌ وَسَقِي، فَكَانُوا عَلٰی
ذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِيْنَةَ، فَذَلَّتِ
الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
وَيَوْمَئِذٍ لَّمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوْطِّنْهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ
فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ (الدَّلِيْلَةُ) مِنْ
(الْعَزِيْزَةِ) قَبِيْلًا فَاَرْسَلَتِ (الْعَزِيْزَةُ) اِلٰى
(الدَّلِيْلَةِ) اَنْ اِنْعَثُوا اِلَيْنَا بِمِئَةِ وَسَقِي،
فَقَالَتِ (الدَّلِيْلَةُ) وَهَلْ كَانَ هٰذَا فِي حَيِّينِ
قَطُّ دِيْنُهُمَا وَاِحَدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاِحَدٌ،
وَبَلَدُهُمَا وَاِحَدٌ، دِيَةٌ بَعْضُهُمْ نِصْفُ دِيَةِ
بَعْضٍ؟ اِنَّا اِنَّمَا اَعْطَيْنَاكُمْ هٰذَا ضِيْمًا مِنْكُمْ
لَنَا، وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَاَمَّا اِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا
نُعْطِيْكُمْ ذٰلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهِيْجُ
بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اٰرْتَضَوْا عَلٰى اَنْ يَجْعَلُوْا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ
(الْعَزِيْزَةُ) فَقَالَتْ: وَاللّٰهِ مَا مُحَمَّدٌ
بِمُعْطِيْكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيْهِمْ مِنْكُمْ،
وَلَقَدْ صَدَقُوْا، مَا اَعْطَوْنَا هٰذَا اِلَّا ضِيْمًا
مِّنَّا، وَقَهْرًا اَلَيْهِمْ، فَدَسُّوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ
مَنْ يُخْبِرُكُمْ رَايَهُ، اِنْ اَعْطَاكُمْ
مَا تَرِيْدُوْنَ حَكَمْتُوْهُ، وَاِنْ لَّمْ يُعْطِكُمْ
جَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحْكَمُوْهُ، فَدَسُّوْا اِلٰى رَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ لِيُخْبِرُوْا اَلَيْهِمْ

ان میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے لیکن حقیقت میں ان کے دل با ایمان نہیں..... اور جو اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔“ (سورہ مائدہ: ۴۱۔ ۴۴) پھر کہا: اللہ کی قسم! یہ آیتیں انہی دونوں کے بارے میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہی لوگ تھے۔“

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلَّهُ وَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿يَأْيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِي يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: فِيهِمَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ، وَإِيَاهُمَا عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ۔ (مسند احمد: ۲۲۱۲)

فوائد:..... اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں نبی کریم ﷺ کو آخری اور حتمی فیصلہ تسلیم کیا جائے اور آپ ﷺ کے فیصلے کو بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کیا جائے۔ امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث میں مذکورہ آیات پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: یہودیوں نے نبی کریم ﷺ کے فیصلے کے بارے میں کہا: اگر وہ نبی تم کو تمہارے ارادے کے مطابق دے دے تو اس کو حاکم تسلیم کر لینا اور اگر کچھ نہ دے تو بیچ جانا اور اسے حاکم تسلیم نہ کرنا۔ قرآن مجید میں بھی ان کے اس قبیح اصول کا ذکر موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا فَاحْذَرُوا﴾ (سورہ مائدہ: ۴۱) یعنی: ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ چیز دی گئی تو لے لینا اور نہ دی گئی تو بیچ جانا۔“ درج ذیل تین آیات ان یہودیوں اور ان کے اس فیصلے کے بارے میں نازل ہوئیں:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کافر ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں۔“

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷)

یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں۔“

اگر یہ آیات یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی روشنی میں ان مسلم حکمرانوں اور قاضیوں کو کافر اور غیر مسلم نہیں قرار دیا جاسکتا، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ملکی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں جو مذکورہ انداز میں فیصلہ کرنے میں یہودیوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی وجہ سے یہودیوں سے مختلف ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو کہا تھا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کیا گیا تو وہ اللہ کے رسول کو سرے سے حاکم ہی تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ مسلم حکمرانوں کا معاملہ ان کے

برعکس ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کو حقیقی حاکم تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیصلہ کرتے وقت آپ ﷺ کے احکام سے پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اعتقادی اور (۲) عملی۔ اعتقادی کفر کا محل دل اور عملی کفر کا محل ظاہری اعضاء ہیں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کفر یہ عمل کرتا ہے اور اس کا دل اس کے اس فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اعتقادی کفر کہلائے گا، ایسے کافر کی بخشش نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کا دل شرعی احکام کی روشنی میں اس کے کفر یہ عمل کی مخالفت کر رہا ہو اور اسے غلط سمجھ رہا ہو تو یہ عملی کفر کہلائے گا، ایسا مجرم مسلم ہی تصور ہوگا، اس کا یہ بد عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، اس نے چاہا تو بخش دے گا اور چاہا تو سزا دے گا۔ جن احادیث میں مسلمانوں کی بعض معصیوں کو کفر کہا گیا ہے، اس سے مراد عملی کفر ہے، مثلاً: (۱) نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا کفر ہے۔ (۲) قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ (۳) مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ (۴) اپنے نسب سے براءت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور ایسا نہ کرنا کفر ہے۔ (۶) میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ علاوہ ازیں اس موضوع پر دلالت کرنے والی بہت سی احادیث ہیں، اس مقام پر ان کا احاطہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان برائیوں اور معصیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوتا ہے، یعنی وہ وہ عمل کرتا ہے، جو عام طور پر کافر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی برائی کو حلال اور جائز سمجھ کا اس کا ارتکاب کرتا ہے اور سرے سے اسے نافرمانی ہی تصور نہیں کرتا تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ عقائد میں کفار کی طرح ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین ”کفر دون کفر“ کی اصطلاح استعمال کرتے رہے، ترجمان القرآن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ قاعدہ منقول ہے، پھر بعض تابعین نے ان سے نقل کیا۔ اس اصطلاح کا یہی تقاضا ہے کہ ہر عملی کفر کو اعتقادی کفر نہیں کہا جا سکتا اور یہ کہ عملی کفر کی مختلف اقسام ہیں، کسی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم۔ عصر حاضر میں بھی بعض لوگ اس نازک مسئلہ میں گمراہ ہو گئے ہیں، انھوں نے خارجیوں کا روپ دھار لیا ہے، جو بعض گناہوں کی وجہ سے صوم و صلاۃ کے پابند مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں متقدمین کے بعض اقوال ذکر کر دیئے جائیں، شاید وہ ان لوگوں کے لیے مشعل ہدایت ثابت ہوں۔

(۱) ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر (۱۰/۳۵۵/۱۲۰۵۳) میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ اس آیت کا مصداق بننے والا کافر تو ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر لازم نہیں آتا۔ (۲) ایک روایت کے مطابق اسی آیت کے بارے میں انھوں نے کہا: اس آیت سے مراد وہ کفر نہیں، جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسا کہ خوارج کا خیال ہے، بلکہ یہ آیت ”کفر دون کفر“ کی اصطلاح کا مصداق ہے۔ (متدرک حاکم: ۲/۳۱۳)۔ (۳) ابن جریر کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل

کردہ احکام کا انکار کیا، اس نے (اعتقادی) کفر کیا اور جس نے ان احکام کو برحق تسلیم کیا، لیکن ان کی روشنی میں فیصلہ نہ کیا تو وہ ظالم اور فاسق ٹھہرے گا۔ (۴) ابن جریر (۱۲۰۲۶، ۱۲۰۲۵) دو سندوں کے ساتھ عمران بن حدیر سے بیان کرتے ہیں کہ بنو عمرو کے کچھ لوگ ابوجہل کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ ان تین آیات کو حق سمجھتے ہیں: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴) یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کافر ہیں۔“ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۵) یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ ظالم ہیں۔“ ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۷) یعنی: ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وہ فاسق ہیں۔“ ابوجہل: جی ہاں۔ بنو عمرو: ابوجہل! تو کیا ہمارے حکم ان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ ابوجہل: ہمارے حکمرانوں کا دین اسلام ہے، وہ اسی کے قائل ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دیدہ دانستہ طور پر دین کے بعض امور کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، نہ کہ کافر۔ بنو عمرو: اللہ کی قسم! جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسے ہرگز نہیں ہے۔ تم ان سے ڈر رہے ہو۔ (یہ لوگ کافر ہیں)۔ ابوجہل: اگر تم لوگ کوئی حرج محسوس کیے بغیر ایسا کہنا چاہتے ہو تو کہو، بہر حال میری رائے یہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جو مشرک تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴) میں کفر سے کیا مراد ہے؟ ابن جریر نے اپنی تفسیر (۱۰/۳۲۶-۳۵۷) میں علمائے کرام کے پانچ اقوال بیان کیے ہیں اور یوں کہتے ہوئے بات ختم کی ہے: میرے نزدیک ان میں سے راجح ترین قول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے والی اور بعد والی آیات میں ان ہی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ لیے جائیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عام بات کی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہ کافر ٹھہرے گا، آپ لوگ اس کو بعض لوگوں کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ اس آیت میں عام الفاظ ان لوگوں کے بارے میں ہی استعمال ہی کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والے تھے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہوئے ان کو ترک کرے گا، وہ کافر کہلائے گا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے۔ خلاصہ قول یہ ہے کہ یہ آیت احکام الہی کا انکار کرنے والے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، پس جو آدمی ان کی طرح کا انکار کرے گا، وہ ان کی طرح کا ہی اعتقادی کافر کہلائے گا اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ان کو حق تسلیم کرتا ہے، لیکن فیصلہ کرتے وقت ان احکام سے پہلو تہی کر جاتا ہے تو اس کا کفر عملی ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا، جیسا سیدنا ابن عباس کی رائے بیان کی جا چکی ہے۔ حافظ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے (کتاب الایمان: باب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الخروج من الايمان بالمعاصي ص: ۸۴-۹۷ بتحقیقی) میں اس مضمون پر شاندار بحث کی ہے، خواہشمند افراد خود مطالعہ کر لیں۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (۲۵۴/۷) نے کہا: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت میں مذکورہ کفر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انھوں نے کہا: یہ ایسا کفر ہے، جس کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے ایمان کے مختلف مراتب ہیں، اسی طرح کفر کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ کسی مسلمان کو اس وقت تک کافر نہیں قرار دیا جاسکتا، جب تک وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر لے، جس کی بنا پر بالاتفاق ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہو۔ شیخ الاسلام (۳۱۲/۷) نے مزید کہا: جس طرح سلف صالحین کا خیال ہے کہ ایک آدمی میں ایمان اور نفاق دونوں صفات ہو سکتی ہے، اسی طرح کسی آدمی میں ایمان اور کفر دونوں کا وجود ممکن ہے، لیکن یاد رہے کہ جس کفر سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، وہ مسلمان کو ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے تلامذہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۴) میں مذکورہ کفر کے بارے میں کہا کہ اس سے کوئی بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک وقت میں دو سبب جمع ہو گئے ہوں اور اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہوں، شیخ احمد شاکر نے کہا: یہی متعین اور صحیح بات ہے، یہ ضروری نہیں کہ آیات کا نزول صرف ایک واقعہ کے پیش نظر ہو، ممکن ہے کہ دو یا زیادہ واقعات کے بعد قرآن مجید نازل ہوا ہو اور اس میں ان سبب کا فیصلہ کیا گیا ہو، پس بعض صحابہ کوئی سبب بیان کر دیتے ہیں اور بعض کوئی، جبکہ یہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں۔

بَابُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...﴾
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۸۴)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَهَا: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ۴۵] ”ہم نے ان پر فرض کیا کہ قصاص میں جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی۔“ نفس پر زبر پڑھی اور العین پر پیش پڑھی۔“

فوائد: متواتر قراءت یوں ہے: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ﴾ حدیث نمبر (۶۵۳۵) وابعاد میں قصاص کے مسائل گزر چکے ہیں۔

(۸۵۸۴) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابو علی بن یزید جہلہ ابو حاتم، و ذکرہ ابن حبان فی ”الثقات“ أخرجه ابو داود: ۳۹۷۶، ۳۹۷۷، والترمذی: ۲۹۲۹ (انظر: ۱۳۲۴۹)

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے کھانا تیار کیا اور ساتھیوں کو دعوت دی، انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی اور نشہ میں مست ہو گئے، یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہم بھی ان کے پاس جمع تھے، انہوں نے آپس میں فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا، انصار نے کہا: انصار بہتر ہیں، مہاجرین نے کہا کہ مہاجر بہتر ہیں، ایک آدمی نے اونٹ کے جڑے کی ہڈی اٹھائی اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ناک کو پھاڑ دیا، اس طرح ان کی ناک پھاڑی ہوئی تھی، پھر یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیرسرا سرگندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔“

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

(۸۵۸۵)۔ عَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَاتَّشَبَوْا مِنَ الْخَمْرِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحْرَمَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ، فَتَفَاخَرُوا وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: الْأَنْصَارُ خَيْرٌ، وَقَالَتِ الْمُهَاجِرُونَ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ، فَأَهْوَى لَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِي جَزُورٍ فَفَزَرَ أَنْفَهُ فَكَانَ أَنْفُ سَعْدِ مَفْزُورًا، فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ۹۰-۹۱]۔
 (مسند احمد: ۱۵۶۷)

(۸۵۸۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ

(۸۵۸۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۴۸ (انظر: ۱۵۶۷)

(۸۵۸۶) تخریج: صحيح لغيره - أخرجه الترمذی: ۳۰۵۲ (انظر: ۲۰۸۸)

ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا، جو اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ شراب پیتے تھے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾..... ”ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جب کہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انھوں نے نیک کی اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورہ مائدہ: ۹۳) ایک روایت میں ہے: کسی نے کہا: سیدنا سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جبکہ ان کے پیٹ میں شراب تھی (یعنی وہ اس وقت پیتے تھے) پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتار دیا: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾۔“

بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرِبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ قُتِلَ سَهِيلُ بْنُ بِيضَاءَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ [المائدة: ۹۳]۔ (مسند احمد: ۲۰۸۸)

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۸۵۰۳)

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ...﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾..... ”لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے جو اس کی طرف راستہ کی طاقت رکھتا ہے۔“ تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر کہا: کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو

(۸۵۸۷)۔ عَنِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ۹۷] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: ((لَا، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

(۸۵۸۷) تخریج: اسنادہ ضعیف، عبد الاعلیٰ بن عامر الثعلبی ضعیف، ثم هو منقطع ایضاً، ابو

البختری سعید بن فیروز لم یسمع علیاً أخرجه ابن ماجه: ۲۸۸۴، والترمذی: ۸۱۴، ۳۰۵۵ (انظر: ۹۰۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاتا۔“ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
[المائدة: ۱۰۱]۔ (مسند احمد: ۹۰۵)

فوائد:..... یہ اصول فقہ کا ایک مسلمہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مطلق حکم، محکوم بہ کے تکرار پر دلالت نہیں کرتا، یعنی جب شریعت میں کسی قید کے بغیر کوئی حکم دیا جائے اور بندہ اس پر ایک دفعہ عمل کر لے، تو وہ اس حکم سے بری الذمہ ہو جائے گا اور اس سے دوبارہ اس حکم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی مثال اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر حج کو فرض قرار دیا، اس اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ حج کر لے گا تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا، لیکن جب صحابہ نے اس قانون پر اکتفا نہ کیا اور مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ ﷺ کو ناگوار گزرا اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے سوالات سے منع کر دیا۔ حدیث نمبر (۴۰۶۳) میں حج کی فرضیت بیان ہو چکی ہے۔

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا باپ فلاں ہے۔“ پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب

(۸۵۸۸)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: ((أَبُوكَ فَلَانَ)) فَتَزَلَّتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ [المائدة: ۱۰۱] إِلَى تَمَامِ الْآيَةِ۔ (مسند احمد: ۱۳۱۷۹)

قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“

فوائد:..... سوال کی دو اقسام ہیں: (۱) وہ سوال جو ان امور دین سے متعلقہ ہو جو عام ضرورت ہونے کی وجہ سے توضیح طلب ہوتے ہیں، ایسا سوال کرنا جائز ہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرے صحابہ کا شراب کے بارے میں سوال کرتے رہنا، یہاں تک اسے حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے حرام قرار دیا جائے۔ اسی طرح ظالم امراء کی اطاعت کرنے، کلامہ، جوا، حیض، شکار اور حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرنا، کیونکہ یہ ضروریات ہیں، سوال کی اسی قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾..... ”پس تم اہل علم سے سوال کرو، اگر تم خود نہیں جانتے۔“ (سورہ نحل: ۴۳)

(۲) وہ سوال جو محض تکلف اور تعنت کی بنا پر کیا جائے، مثلاً دور نبوی میں ایسی چیز کی حلت و حرمت کے بارے میں کریدنا شروع کر دینا، جس کو صحابہ آپ ﷺ کے سامنے استعمال کر رہے ہوں اور اس میں کوئی مفیدت بھی نہ پائی جاتی ہو، ایسی چیز کے بارے میں پوچھنا جو ابھی واقع نہ ہوئی ہو یا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً: عذاب قبر جیسے غیبی امور کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا، اسی طرح قیامت کے بارے میں، روح کی حقیقت اور اس امت کی مدت کے بارے میں سوال کرنا یا کوئی ایسا سوال کرنا جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس اور دیگر احادیث میں ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ جو سوالات محض تکلف کی بناء پر کیے جاتے ہیں، ان کی واضح ترین مثال موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قوم کا مطالبہ ہے، جب موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم سن کر اگر وہ کوئی گائے بھی ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہو جاتی، لیکن انھوں نے سب سے پہلے تو کہا: اے موسیٰ! ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔ پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا علم ہو گیا تو انھوں نے پہلا سوال یہ تھا: اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے، جب وہ بیان کر دی گئی تو ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، جب رنگ کی وضاحت کر دی گئی تو وہ پھر کہنے لگے کہ اس گائے کی مزید ماہیت بیان ہونی چاہیے، اس قسم کی گائیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح جب نبو اسرائیل نے مین بیچ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا، اس لیے دین میں تعنت اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

حلال و حرام کے بارے میں شریعت نے بڑا آسان اور سادہ قانون پیش کیا ہے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسِي شَيْئًا.)) ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾..... ”اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی کتاب میں حلال کیا، وہ حلال ہیں۔ جن چیزوں

کو حرام کیا، وہ حرام ہیں اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی، وہ معاف ہیں۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولتا۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔“

(مسند بزار)

ایک اہم سوال: حلال و حرام کا فیصلہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر سوال کرنے والا مجرم کیوں ہے؟ جواب: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا: بلا شک و شبہ تقدیر میں حلال و حرام کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے آدمی کے سوال کی وجہ سے حرام ہونے والی چیز پہلے بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کو مجرم ٹھہرانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے محض تکلف اور تعنت کی بنا پر سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مراد گناہ ہے۔

(تلخیص از فتح الباری: ۱۳ / ۳۳۳)

مزید وضاحت کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۲۶۴) والا باب۔

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۵۸۹)۔ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا عَامِرٍ! أَلَا غَبَرْتَ)) فَتَلَا هَذِهِ آيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ۱۰۵] فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((أَيْنَ ذَهَبْتُمْ؟ إِنَّمَا هِيَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)) (مسند احمد: ۱۷۲۹۷)

”سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک آدمی اوٹاس کی جنگ میں شہید ہو گیا، نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اے ابو عامر! تو نے اس برائی کو کیوں نہیں بدلا (یعنی اس سے روکا کیوں نہیں)؟“ آگے سے اس نے یہ آیت پڑھی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾..... ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جب تم ہدایت پا چکے۔“ یہ سن کر نبی کریم ﷺ کو غصہ آ گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کہاں چلے گئے ہو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایماندارو! جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو گمراہ ہونے والے کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔“

(۸۵۸۹) تخریج: اسنادہ ضعیف لا نقطاعه، حدیث علی بن مدرک عن الصحابة منقطع۔ أخرجه الطبرانی

فی ”الکبیر“: ۲۲ / ۷۹۹ (انظر: ۱۷۱۶۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۸۵۹۰)۔ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَفَرُّوْنَ وَهَذِهِ آيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ۱۰۵] وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، أَوْ شَكَّ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ))، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ۔

”قیس سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾... اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جب تم ہدایت پا چکے۔“ جبکہ ہم نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بسب ”لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے تبدیل نہیں کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا کر دے۔“ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے مختلف چیز ہے۔“

(مسند احمد: ۱)

فوائد:..... مسند احمد کی حدیث نمبر (۱۶) میں آیت کے مطابق یہ الفاظ ہیں: وَأَنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا۔ (تم اس آیت کو اس کے غیر محل پر چسپاں کر رہے ہو)۔ دراصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس آیت کا غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا: اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کریں اور اپنی طاقت کے مطابق نیکیوں میں مشغول رہیں، جب وہ خود ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے تو رے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، خواہ وہ رشتے دار اور قریبی ہوں، خواہ اجنبی اور دور کے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عامل ہو جائے، برائیوں سے بچ جائے تو اس پر گنہگار لوگوں کے گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ مقاتل سے مروی ہے کہ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ ملتا ہے، بروں کو سزا اور اچھوں کو جزا، اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھی بات کا حکم نہ دیا جائے اور بری باتوں سے منع نہ لیا جائے۔

بَابُ: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ...﴾
﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۱)۔ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ: ”بحرہ بنت دجاجہ سے مروی ہے کہ وہ عمرہ کے لئے گئی، جب آئنا انطلقت مُعْتَمِرَةً فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبْدَةِ راستے میں ربذہ مقام پر پہنچی، تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث

(۸۵۹۰) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه ابوداود: ۴۳۳۸ (انظر: ۱)

(۸۵۹۱) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه النسائی: ۱۷۷ / ۲، وابن ماجہ: ۱۳۵۰ (انظر: ۲۱۴۹۵)

بیان کرتے ہوئے سنا: انہوں نے کہا: ایک رات عشاء کی نماز میں نبی کریم ﷺ نے قیام کیا اور لوگوں کو یہ نماز پڑھائی، جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے ہٹ کر نماز پڑھنے لگے، جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو آپ ﷺ اپنے گھر چلے گئے: پھر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ جگہ لوگوں سے خالی ہو گئی ہے تو آپ اپنی جگہ پر پھر لوٹ آئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے مجھے دائیں جانب کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، پس میں آپ ﷺ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا، اتنے میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ آگے اور وہ ہم دونوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ نے ان کو بائیں جانب کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، سو وہ آپ ﷺ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے، ہم تینوں اس انداز پر نماز پڑھتے رہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید میں سے حسب منشا تلاوت کرتا رہا، آپ ﷺ نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کے ساتھ قیام کیا، صبح کی نماز تک اسے ہی دہراتے رہے، جب آپ ﷺ نماز فجر سے فارغ ہو گئے تو میں (ابوذر) نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اشارہ کیا کہ وہ آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے گزشتہ رات کے عمل کی بابت پوچھیں، آپ ﷺ کا کیا مقصد تھا کہ ایک آیت ہی دوہراتے رہے، لیکن انہوں نے کہا: میں تو آپ ﷺ سے نہیں پوچھوں گا، الایہ کہ آپ مجھ سے گفتگو کریں، پھر میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات گزار دی، جبکہ سارا قرآن مجید آپ کو یاد ہے، اگر ہم سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس سے تو ناراض ہو جاتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے

فَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلَّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَمُتُّ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ فَمُتُّ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثِنَا، يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مَنَّا بِنَفْسِهِ وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْلُو، فَقَامَ بآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعَدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ سَلَّهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَبْدِيهِ لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَيْبَى أُمَّتٍ وَأُمِّي قُمْتُ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَغْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: ((دَعَوْتُ لِأُمَّتِي)) قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتُ أَوْ مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلَعَهُ تَرَكَوا الصَّلَاةَ)) قَالَ: أَقَلَّا أَبَشَّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((بَلَى)) فَأَنْطَلَقْتُ مُعْنِقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةِ بَحَجْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ تَبَعْتَ إِلَى النَّاسِ بِهَذَا نَكَلْنَا عَنِ الْعِبَادَةِ، فَنَادَى أَنْ ارْجِعْ فَرَجَعَ

وَتِلْكَ الْآيَةُ: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ۱۱۸] - (مسند احمد: ۲۱۸۲۷)

اپنی امت کے لئے دعا کی ہے۔“ میں نے کہا: تو پھر آپ کو اس دعا کا کیا جواب دیا گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس کا ایسا جواب دیا گیا ہے کہ اگر زیادہ تر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اس پر تکیہ کر کے نماز بھی چھوڑ دیں گے۔“ میں نے کہا: کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، ضرور دو۔“ میں تیز چلا اور ابھی تک ایک پتھر کی پھینک پر تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ابوذر کو لوگوں کی طرف بھیج دیا ہے کہ وہ ان کو خوشخبری دیں، اس سے یہ لوگ عبادت میں سست روی اختیار کریں گے، پس آپ ﷺ نے مجھے آواز دی کہ ابوذر واپس آ جاؤ، سو میں واپس آ گیا۔ وہ آیت یہ تھی: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.....

فوائد: دراصل آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے روزِ قیامت اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کا مطالبہ کیا

تھا، جیسا کہ درج ذیل حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے: سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ فَرَّأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا، قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا)) رسول اللہ ﷺ نے ایک رات کو نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کے ساتھ رکوع و سجود کا سلسلہ جاری رکھا، وہ آیت یہ تھی: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، جب صبح ہوئی تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اسی کے ساتھ رکوع و سجود کرتے رہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کا سوال کیا، پس اللہ تعالیٰ نے میرا مطالبہ پورا کر دیا، اب ان شاء اللہ ہر وہ آدمی اس سفارش کا مصداق بنے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔“ (مسند احمد: ۱۴۹/۵)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی، سبحان اللہ! کبھی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! ان کا ہر معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو جو چاہتا

ہے، کرگزرتا ہے، تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے، جبکہ تو ہر ایک سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔
دراصل اس آیت کے ساتھ عیسیٰؑ بروز قیامت جواب دیں گے، اس آیت کے درج ذیل سیاق و سباق سے اس کے صحیح مفہوم کا ادراک ہوتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ائتِ لِلنَّاسِ لِنَاسٍ اتَّخَذُوا نُبِيَّ وَأُمِّيَ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۶-۱۱۸) ”اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انھیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انھیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔“

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

سورة الانعام

بَابُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ...﴾
﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ...﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ بَسْرِ السُّلَمِيِّينَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مَنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيَضْرِبُهَا بِالسُّوْطِ، وَيَكْفَحُهَا

”عبید اللہ بن زیاد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بسر کے دو بیٹوں کے پاس گیا اور ان سے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اس بارے میں بتائیں کہ آدمی اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، کوزے کے ساتھ اسے مارتا ہے، اس کی لگام کھینچتا ہے، کیا تم نے اس

بِاللَّجَامِ، هَلْ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَا: لَا، مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] فَقَالَا: هَذِهِ أُخْتُنَا وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَّا، وَقَدْ أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ ﷺ - (مسند احمد: ١٧٨٣٧)

کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا: جی نہیں، ہم نے اس بارے آپ ﷺ سے کچھ نہیں سنا، اچانک گھر کے اندر سے ایک خاتون نے آواز دی اور کہا: اے سوال کرنے والے! بیشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا، جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح اتمیں ہیں۔“ ان دو بھائیوں نے کہا: یہ ہماری بہن ہے، ہم سے بڑی ہے، اس نے نبی کریم ﷺ کو پایا ہے۔

نوائد: ﴿إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ اس جملے سے ثابت ہوا کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسری مخلوقات کو اذیت دے۔ اس مماثلت سے کیا مراد ہے؟ چند ایک وجوہات درج ذیل ہیں۔ حیوانات کا بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا۔ بندوں کی طرح ان کا آپس میں مانوس ہونا، خاص طور پر ہم جنسوں کا۔ روزی تلاش کرنا اور ہلاکت گاہوں سے بچنا۔ پیدا ہونے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بندوں کی طرح ایک مدبر کا محتاج ہونا۔ اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کو روزی دیتا ہے، ایسے ہی ان کو روزی عطا کرتا ہے۔

بَابُ: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ... إِلَىٰ قَوْلِهِ...﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿﴾

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ... إِلَىٰ قَوْلِهِ...﴾

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿﴾ کی تفسیر

(٨٥٩٣)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ خَبَابٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَعَمَّارٌ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! أَرْضِينَا بِهِؤُلَاءِ فَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ... إِلَىٰ قَوْلِهِ... وَاللَّهُ

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزری، جبکہ آپ ﷺ کے پاس سیدنا خباب، سیدنا صہیب، سیدنا بلال اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہم موجود تھے، ان قریشیوں نے کہا: اے محمد! کیا آپ ان فقراء پر راضی ہو گئے ہیں (اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا ہوا ہے)، اس پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿[الأنعام: ۵۱-۵۸]﴾ ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ...﴾
 (مسند احمد: ۳۹۸۵) إلى قوله... وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ.﴿

فوائد:..... اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب و نسب، حسن و جمال، مال و دولت اور دولت و سطوت کی کوئی اہمیت نہیں، اُس کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہے، اگر وہ سیدنا خباب اور سیدنا صحیبؓ جیسے معاشرے کے کم اہمیت افراد میں ہوں گے، تو وہی اللہ کے محبوب ہوں گے۔

یہ سورۃ انعام کی درج ذیل آیتیں ہیں: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَتِنَا فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ.﴾ (الأنعام: ۵۱-۵۸)

’اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف (لے جا کر) اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، لیکن تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ کہہ دے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہہ دے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہہ

دے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔“

بَابُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾
 ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۴)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الأنعام: ۶۵] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ وَنَمَّ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ)) (مسند احمد: ۱۴۶۶)

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾..... ”کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار یہ ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک اس کی تاویل پوری نہیں ہوئی (یعنی اس کی مصداق صورت سامنے نہیں آئی)۔“

(۸۵۹۵)۔ عَنِ عُمَرَ وَسَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)) فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَمِنَ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعُوذُ بِوَجْهِكَ)) فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَوْ يَلْسَنُكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ﴾

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾..... ”کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں تیری چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔“ جب یہ حصہ نازل ہوا: ﴿أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾..... ”یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے“ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(۸۵۹۴) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابی بکر بن ابی مریم، ولانقطاعه، فان رواية راشد بن سعد عن سعد بن ابی وقاص مرسله - أخرجه الترمذی: ۳۰۶۶ (انظر: ۱۴۶۶)
 (۸۵۹۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۳۱۳ (انظر: ۱۴۳۱۶)

”اے اللہ! میں تیرے چہرے کی پناہ طلب کرتا ہوں۔“ اور جب یہ حصہ نازل ہوا: ﴿أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾..... ”یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر ستم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی (کا مزہ) چکھائے۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ زیادہ ہلکا اور زیادہ آسان عذاب ہے۔“

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾..... ”کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر ستم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی (کا مزہ) چکھائے، دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں۔“ پھر سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ چار امور ہیں، چاروں عذاب کی صورتیں ہیں، سب نے لامحالہ طور پر واقع ہوتا ہے، بلکہ ”نبی کریم ﷺ کی وفات کے سے پچیس برس بعد واقع ہو چکی ہیں، ایک یہ کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور دوسرا پھر انہوں نے ایک دوسرے کو عذاب بھی چکھایا، باقی دو نے بھی لامحالہ طور پر ہو کر رہنا ہے، اور وہ ہیں: زمین میں دھنسا اور پتھروں کا برسنا۔“

فوائد:..... اوپر سے عذاب کے آنے کی صورتیں: بارش کی کثرت، پتھر کا برسنا، امراء و حکام کا ظلم و ستم، نیچے سے عذاب کے آنے کی صورتیں: دھنسا، زلزلہ، طوفانی سیلاب، ماتحتوں کی بددیانتی اور خیانت۔ باقی دو امور واضح ہیں کہ لوگ مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ کر ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔

بَعْضٍ ﴿[الأنعام: ٦٥] قَالَ: ((هَذِهِ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ)) (مسند احمد: ١٤٣٦٧)

(٨٥٩٦)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ الْآيَةَ [الأنعام: ٦٥]، قَالَ: هُنَّ أَرْبَعٌ وَكُلُّهُنَّ عَذَابٌ وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، فَمَضَتْ اثْنَتَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِخَمْسِ وَعَشْرِينَ سَنَةً، فَأَلْبَسُوا شِيْعًا وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ الْخَسْفُ وَالرَّجْمُ۔ (مسند احمد: ٢١٥٤٧)

بَابُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۷)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ۸۲] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي تَعْنُونَ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ؟ ﴿يَا بَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ)) (وَفِي لَفْظٍ: ((لَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾)) (مسند احمد: ۴۰۳۱)

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾..... ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی“ تو یہ بات لوگوں پر بہت گراں گزری اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون ہے جس نے خود پر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا مطلب وہ نہیں، جو تم سمجھ رہے ہو، کیا تم نے نیک بندے کی بات نہیں سنی؟ جب اس نے کہا تھا: ﴿يَا بَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾..... ”اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔“ ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾..... ”اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾..... ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مطلق ظلم مراد لیا اور ہر گناہ کو ظلم کہتے ہیں، جبکہ اس مقام پر ظلم سے مراد شرک ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک جیسے ظلم سے بہت دور تھے، لہذا وہی امن پانے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔

بَابُ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
 ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۸)۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ عَزَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ يَبْتِنُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ قَالَ: فَخَالَطَوْهُمْ۔ (مسند احمد: ۳۰۰۰)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾..... ”یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقہ سے جو بہتر ہو۔“ تو لوگوں نے یتیموں کے مال علیحدہ کر دیئے، جب علیحدہ کئے تو ان کا کھانا خراب ہونے لگا اور گوشت بدبودار ہونے لگا، جب نبی کریم ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾..... ”اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے۔“ اس حکم کے بعد صحابہ نے ان سے کھانا ملا لیا۔

فوائد:..... پہلی آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فکر پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یتیم کا حساب کتاب ہی علیحدہ کر دیا، یہ عدل و انصاف تو تھا ہی، لیکن اس میں یتیم کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ الگ سے کھانا پکانا اور پھر پہنچی ہوئی چیز کا خراب ہو جانا، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئے حکم کے ذریعے صحابہ کرام کی رہنمائی کی کہ یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو، البتہ اخراجات کا حساب ٹھیک ٹھیک اور عدل و انصاف کے ساتھ رکھو۔ ان آیات سے ان مختلف افراد کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جن کا کھانا پینا مشترک ہو، کسی کے دل میں مشترک مال کے بارے میں کوئی ایسا عنصر نہ پایا جائے، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے متاثر ہوں۔

بَابُ: ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا...﴾
 ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا...﴾ کی تفسیر

(۸۵۹۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا نَمَّ قَالَ: ”نبی کریم ﷺ نے ہمارے لئے ایک خط کھینچا اور ساتھ ہی

(۸۵۹۸) تخریج: حسن، قاله الالبانی - أخرجه بنحوه ابوداود: ۲۸۷۱ (انظر: ۳۰۰۰)

(۸۵۹۹) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه الطيالسی: ۲۴۴، والدارمی: ۶۷ / ۱، والنسائی فی ”الکبری“:

۱۱۱۷۴، وابن حبان: ۷ (انظر: ۴۱۴۲)

فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔“ پھر اس کے دائیں بائیں کئی خطوط کھینچے اور فرمایا۔ ”یہ جدا جدا راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے، جو اپنی طرف بلاتا ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾..... ”اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔“

((هُذَا سَبِيلُ اللَّهِ)) ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ۔ ثُمَّ قَالَ: ((هَذِهِ سُبُلٌ، قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ۱۵۳]۔ (مسند احمد: ۴۱۴۲)

نوٹ:..... اختلاف اور فرقہ بندی سے اجتناب کرتے ہوئے آپ ﷺ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

بَابُ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ کی تفسیر

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورج عرش کے نیچے غروب ہوتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے، تب یہ واپس لوٹتا ہے، جب وہ رات آئے گی، جس کی صبح کو اس نے مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، تو اسے لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جب صبح ہوگی تو سورج سے کہا جائے گا: جہاں سے تو آیا ہے، وہیں سے طلوع ہو (یعنی مغرب سے)، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ لَنْتَنْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾..... ”وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے، جس دن

(۸۶۰۰)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((تَغِيْبُ الشَّمْسُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُؤَدِّنُ لَهَا فَتَرْجِعُ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ لَمْ يُؤَدِّنْ لَهَا، فَإِذَا أَصْبَحَتْ قِيلَ لَهَا: اظْلَعِي مِنْ مَكَانِكَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ۱۵۸]۔)) (مسند احمد: ۲۱۶۲۵)

تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے انتظار کرو، بے شک ہم (بھی) منتظر ہیں۔“

فوائد: اللہ تعالیٰ کافروں کو، پیغمبروں کے مخالفوں کو، اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آجائیں گے اور خود اللہ تبار بھی، لیکن وہ ایسا وقت ہو گا، جب ایمان بھی بے سود ہوگا اور توبہ بھی بیکار ہوگی، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے، سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہوگا، بلکہ جب قیامت کی تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، تو بے ایمان کو ایمان لانا اور خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا عرش کے نیچے غروب ہونا اور سجدہ کرنا، اس قسم کے امور پر مشتمل احادیث صحیحہ پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی کیفیت کو بھی سمجھا جائے، جبکہ سورج ہر وقت عرش کے نیچے ہی رہتا ہے اور کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی، جس میں یہ اپنے رب کے سامنے مطیع نہ ہو رہا ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الَّذِينَ لَا يُسْجِدُونَ لِلَّهِ لَمَّا تَرَوْهُ وَهُمْ عَلِيمُونَ﴾ (سورہ حج: ۱۸)

”کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، مویشی اور بہت زیادہ لوگ۔“

ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ نے کہا: آسمان میں موجود ہر ستارہ، سورج اور چاند غروب ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ سورج ہر وقت فلک میں رہتا ہے، پس یہ ہر وقت فلک میں تسبیح بیان کرتا ہے اور ہر وقت سجدہ کرتا ہے اور ہر رات کو اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے، وہ اس طرح سجدہ کرتا ہے، جیسا اس کے لیے مناسب ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ سورج ہر گھڑی میں کسی علاقے کے لیے غروب ہو رہا ہے اور کسی علاقے کے لیے طلوع ہو رہا ہے، سو یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے اور آگے چلنے کی اجازت لے رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالے ”مسنوت الأشياء كلها لله“ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی اور کہا: پس نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں اس چیز کی خبر دی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد سجدہ کرتا ہے اور اجازت لیتا ہے۔ پھر انھوں نے ابوالعالیہ کا مذکورہ بالا قول پیش کیا۔

”سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ ”جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آجائے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا“ پھر فرمایا: ”یہ نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔“

(۸۶۰۱)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾ [الأنعام: ۱۵۸] قَالَ: ((طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.)) (مسند احمد: ۱۱۲۸۶)

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

سورة الاعراف

بَابُ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ...﴾
﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ...﴾ کی تفسیر

”سعید بن ابی عروبہ نے اس آیت ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ کے بارے میں کہا: ہمیں قتادہ نے بیان کیا کہ ان کو ابو متوکل ناجی نے بیان کیا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب ایمانداروں کو دوزخ سے رہائی ملے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روکا جائے گا، آپس میں ظلموں کا قصاص دلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان سے پاک و صاف کر دیئے جائیں گے، تو تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ جنت میں اپنے مقام کو اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے، جتنا دنیا میں وہ اپنے گھر کے راستے کو پہچانتے ہیں۔“ قتادہ نے کہا: بعض راویوں نے کہا: جیسے وہ دنیا میں جمعہ پڑھنے کے بعد سیدھے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔“

(۸۶۰۲)۔ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: ۴۳] قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْسَبُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هَلَبُوا وَنَقُوا دُونَ لَهْمٍ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ))، قَالَ: ((فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا حَلْمٌ أَهْدَى لِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ لِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)) قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا يُشْبِهُ لَهُمْ إِلَّا أَهْلَ جُمُعَةٍ حِينَ انصَرَفُوا مِنْ جُمُعَتِهِمْ۔ (مسند احمد: ۱۱۷۲۹)

(۸۶۰۱) تخريج: حديث صحيح لغيره - أخرجه الترمذی: ۳۰۷۱ (انظر: ۱۱۲۶۶)

(۸۶۰۲) تخريج: أخرجه البخاری: ۶۵۳۵ (انظر: ۱۱۷۰۶)

فوائد:..... اس حدیث کا متن پوری آیت سے سمجھ آئے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورۃ اعراف: ۴۳)

”اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، بلاشبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ اور انھیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔“

یعنی اس طرح جنت کی طرف اور پھر جنت میں اپنے مقام کی طرف رہنمائی پانا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔

بَابُ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ... الخ﴾
﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ... الخ﴾ کی تفسیر

(۸۶۰۳)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ [الاعراف: ۱۴۳] قَالَ: قَالَ: هَكَذَا يَعْنِي أَنَّهُ أَخْرَجَ طَرَفَ الْخَنْصَرِ، قَالَ أَبِي: أَرَأْنَا مُعَاذَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: مَا تُرِيدُ إِلَيَّ هَذَا؟ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟ يُحَدِّثُنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَقُولُ: أَنْتَ مَا تُرِيدُ إِلَيَّ؟ (مسند احمد: ۱۲۲۸۵)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾..... ”تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔“ کے بارے میں فرمایا: ”بس اس طرح ہوا تھا۔“ ساتھ ہی آپ ﷺ نے چٹھلی انگلی کا ایک کنارہ نکالا، جب معاذ نے ہمیں یہ کیفیت دکھائی تو حمید طویل نے کہا: اے ابو محمد! اس مثال سے تیری مراد کیا ہے؟ لیکن ابو محمد نے حمید کے سینے پر سخت ضرب لگائی اور کہا: حمید! تو کون ہے؟ تو کیا چیز ہے، حمید! مجھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا تھا اور تو کہتا ہے کہ اس مثال سے تیری مراد کیا ہے۔“

(۸۶۰۳)۔ (وَمِنْ طَرِيقِي ثَانٍ) عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾

(۸۶۰۳) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم - أخرجه بنحوه الترمذی: ۳۰۷۴ (انظر: ۱۲۲۶۰)

(۸۶۰۳) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ قَالَ: فَأَوْمَأَ لِلْجَبَلِ ۖ كَيْ وَضاحت کرتے ہوئے چھٹکی انگلی سے اشارہ کیا، بِخَنْصَرِهِ، قَالَ: فَسَاحَ - (مسند احمد: ۱۳۲۱۰) لیکن (اتنی سی تجلی سے پہاڑ زمین میں دھنس گیا۔

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِيَنِي وَلَٰكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِيَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب! مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو غمگین تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توجہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔“ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ابھی تک چھوٹی انگلی کے پورے کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تھی، لیکن وہ اس کو بھی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔

پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے والی بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس روایت میں اس کے زمین میں دھنس جانے کا ذکر آیا ہے تو ممکن ہے کچھ حصہ ریزہ ریزہ ہوا اور کچھ زمین میں دھنس گیا۔ (عبداللہ رفیق)

بَابُ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ کی تفسیر

ہمارے ہاں عام قراءت ”ذُرِّيَّتَهُمْ“ (مفرد لفظ) ہے لیکن ایک جمع والی قراءت بھی ہے جو اس جگہ لکھی گئی ہے۔

(۸۶۰۴)۔ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةَ فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ

”مسلم بن یسار جہنی سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، انہوں نے کہا: میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم عليه السلام کو پیدا کیا، اس کی کمر کو دائیں ہاتھ سے چھوا اور اس سے اس کی اولاد نکالی اور کہا: میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور اہل جنت کے عمل ہی وہ کریں گے، پھر اس کی کمر کو چھوا اور اس نے مزید اولاد نکال کر کہا: میں نے ان کو

آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور اہل جہنم کے عمل ہی وہ کریں گے۔“ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو اہل جنت کے ہی اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتی لوگوں کے عمل پر مرتا ہے اور اس طرح وہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو جہنمی لوگوں کے عمل کرنے کی ہی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کے اعمال پر مرتا ہے اور وہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔“

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں: ”اور جب تیرے پروردگار نے بنو آدم کی پشتوں یعنی ان کی اولاد سے پختہ عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا“ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، ان کو روحمیں بنایا، پھر ان کی تصویریں بنائیں اور ان کو بولنے کا طاقت دی، پس انھوں نے کلام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے کہا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیام کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہ تھا، تم اچھی طرح جان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، پس میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، میں عنقریب تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ تم کو میرا عہد یاد کرائیں گے، نیز میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا، انھوں نے کہا:

ذُرِّيَّةَ فَقَالَ: خَلَقْتُ هُوْلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ
أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! فَفِيْمَ الْعَمَلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ
لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى
يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ
اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ
عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ
النَّارَ.)) (مسند احمد: ۳۱۱)

(۸۶۰۵)۔ عَنْ رُفَيْعِ ابْنِ الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي
بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:
﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ قَالَ:
جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ
فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ
العَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ
السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ،
وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنْ تَقُولُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا، إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا
إِلَهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي، فَلَا تُشْرِكُوا بِي
شَيْئًا، إِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رَسُولِي
يُذَكِّرُوكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأَنْزِلُ

(۸۶۰۵) تخریج: اثر ضعیف، محمد بن یعقوب الربالی مستور۔ أخرجه الحاكم: ۲/ ۳۲۳، والبيهقي

فی "الاسماء والصفات": ص ۳۶۸ (انظر: ۲۱۲۳۲)

ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، پس ان سب نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم ﷺ کو ان پر بلند کیا، انھوں نے ان میں غنی، فقیر، حسین اور کم خوبصورت افراد دیکھے اور کہا: اے میرے رب! تو نے ان کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر یہ ادا کیا جائے، نیز انھوں نے ان میں انبیاء دیکھے، وہ چراغوں کی طرح نظر آ رہے تھے اور ان پر نور تھا، ان کو رسالت اور نبوت کے عہد و میثاق کے ساتھ خاص کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اسی چیز کا ذکر ہے: ”اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا..... عیسیٰ بن مریم۔“ عیسیٰ ﷺ بھی ان ہی ارواح میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو سیدہ مریمؑ کی طرف بھیجا اور وہ ان کے منہ سے ان میں داخل ہو گئی۔“

عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ، قَالُوا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَ
إِلَهَانَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ، فَاقْرَأْ بِذَلِكَ، وَ
رَفَعَ إِلَيْهِمْ آدَمُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنَى
وَالْفَقِيرَ وَحَسَنَ الصُّورَةَ وَدُونَ ذَلِكَ،
فَقَالَ: رَبِّ! لَوْلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ:
إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ، وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ
مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ، خُصُّوا بِمِيثَاقِ
آخَرَفِي الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾
إِلَى قَوْلِهِ ﴿عِيسَىٰ بَنُ مَرْيَمَ﴾ كَانَ فِي تِلْكَ
الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ، فَحَدَّثَ عَنْ
أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيهَا۔ (مسند احمد:
٢١٥٥٢)

فوائد: ورج بالا اور اس موضوع کی دیگر احادیث میں ”عَهْدِ الْاَنْتِ“ کا ذکر ہے، یہ ترکیب آیت کے

ان الفاظ ﴿اَلَا اَنْتَ بِرَبِّكُمْ﴾ سے بنائی گئی ہے، یہ عہد آدم ﷺ کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا، پوری آیات یوں ہیں:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾

(الاعراف: ١٧٢، ١٧٣)

”اور جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔“

یہ عہد ہم اس لیے تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اطلاع دے دی ہے، بہر حال اس کا اثر

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور اگر یہ فطرت مختلف آلائشوں کی وجہ سے اپنی حیثیت کھونہ بیٹھی ہو تو ایسا انسان خارجی آواز اور باطنی فکر مل جانے کی وجہ سے فوراً حق کی آواز کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر شرک و بدعت یا گندے معاشرے کی وجہ سے وہ فطرت متاثر ہو چکی ہو تو اس کو حق تسلیم کرنے میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے، جلد اور بدیر اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کی وجہ یہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيَهُ أَوْ يَنْصَرَانِيَهُ أَوْ يُمَجْسَانِيَهُ كَمَا مَثَلُ الْبَيْهَمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعَاءَ)) ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان کٹا نہیں ہوتا۔“ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

سورة الانفال کی تفسیر

بَابُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾

(۸۶۰۶)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ بَدْرًا، فَالْتَقَى النَّاسُ، فَهَزَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، فَأَكْبَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهِ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَخَذَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُصِيبُ الْعَدُوَّ مِنْهُ غِرَّةٌ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا فَلَيْسَ لَأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ

”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے، میں غزوہ بدر میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا، جب لوگوں کا مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی، لشکر اسلام میں سے کچھ لوگ دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے اور ان کو قتل کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے لگے اور ایک حصہ مالِ غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کرنے لگا اور ایک حصے نے رسول اللہ ﷺ کو گھیرے میں لے لیا، تاکہ دشمن غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ ﷺ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور سارے لوگ لوٹ آئے، غنیمتیں جمع کرنے والوں نے کہا: ہم نے یہ مال جمع کیا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، دشمن کا پیچھا کرنے والے گروہ نے کہا: تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کے مستحق

نہیں ہو، ہم نے اس مال سے دشمن کو ہنایا اور اس کو شکست دی، اور رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کرنے والوں نے کہا: تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کا حق نہیں رکھتے، ہم نے رسول اللہ ﷺ کو گھیرے رکھا اور ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ ﷺ کو نقصان پہنچا دے اور اس طرح ہم ادھر مصروف رہے، پس اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾.... ”وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے اونٹنی کے فواق کی مقدار کے برابر وقت میں اس مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ دشمن کی سرزمین میں حملہ کرتے تھے تو ایک چوتھائی حصہ زائد دیتے تھے اور اگر واپسی پر ایسا ہوتا ہے تو مجاہدین کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایک تہائی حصہ زائد دیتے تھے، ویسے آپ ﷺ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ زائد حصے کی حرص رکھیں، اس لیے آپ ﷺ فرماتے تھے: ”قوی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کمزوروں کو زائد حصوں میں شریک کریں۔“

فوائد:..... اونٹنی کا فواق: یہ لفظ وقت کی ایک مقدار بیان کرتا ہے، اس کے یہ معانی ہیں: (۱) دو دفعہ دوہنے کے درمیان کا وقت۔ (۲) دوہنے والے کے تھن کو دو دفعہ پکڑنے کے درمیان کا وقت۔ حدیث کے آخر میں ایک چوتھائی اور ایک تہائی کا مطلب یہ ہے کہ جب لشکر اسلام اپنی جہت کی طرف جا رہا ہوتا اور بیچ میں سے ایک سر یہ کوا لگ کر کے گرد و نواح کے کسی علاقے کی طرف بھیج دیا جاتا تو وہ جو مال غنیمت لے کر آتے، اس کا چوتھا حصہ ان کو زائد دیا جاتا، باقی تین حصے تمام مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جاتے، سب سے پہلے آپ ﷺ کا ٹمس نکالا جاتا ہے، اگر جہاد سے واپسی پر یہی صورت حال پیش آتی تو ایک تہائی حصہ زائد دیا جاتا۔ حدیث مبارکہ کے آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مجاہدین کو زائد حصے کی حرص نہیں ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ان کو ایثار کی راہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ کمزور جنگجوؤں کو بھی قوی مجاہدین

الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ نَقِينَا عَنْهَا الْعَدُوِّ وَهَزَمْنَاهُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحَدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ أَحَدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً وَاشْتَغَلْنَا بِهِ، فَتَزَلَّتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعَارَفَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَقَلَ الرَّبْعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلَّ النَّاسِ نَقَلَ الْاِنْتُ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: (الْيَرْدُ قَوِيَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ..)

(مسند أحمد: ۲۳۱۴۲)

کی طرح حاصل سکے۔ نیز اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ مجاہدین کو ان کے زائد جہاد اور محنت کی وجہ سے زائد حصے تو دیتے تھے، لیکن آپ ﷺ کی تمنا یہ تھی کہ وہ لشکر اسلام کے تمام افراد کو ترجیح دیتے ہوئے اپنا الگ حصہ وصول نہ کریں، تاکہ سب کو برابر حاصل سکے۔

” (دوسری سند) سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عباده بن صامت سے انقال والی آیت کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: ہم بدر والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جب ہم نے مالِ غنیمت میں اختلاف کیا اور اس بارے میں ہم سے بد اخلاقی ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے یہ چیز چھین لی اور رسول اللہ ﷺ کے سپرد کر دی، پھر آپ ﷺ نے مسلمانوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔“

(۸۶۰۶م)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْأَنْقَالِ فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرًا ضَحَابٍ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ، يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ۔ (مسند أحمد: ۲۳۱۳۳)

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر کے دن جب میرا بھائی عمیر قتل ہوا اور میں نے سعید بن عاص کو قتل کیا اور اس کی تلوار پکڑ لی، اس تلوار کا نام ”ذُو الْكَتَيْفَةِ“ تھا۔ میں وہ تلوار لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اس کو مالِ غنیمت میں رکھ دو۔“ پس میں لوٹا، لیکن میرے بھائی کے قتل کی وجہ سے مجھے صدمہ تھا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا اور میرا مخالف سے چھیننا ہوا مال بھی آپ ﷺ نے لے لیا، بس میں تھوڑی دیر ہی آگے چلا تھا کہ سورۃ انقال نازل ہو گئی اور نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”سعد جاؤ اپنی تلوار لے لو۔“

(۸۶۰۷)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ، وَقَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتَيْفَةِ، فَأَتَيْتُ بِهِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبْضِ)) قَالَ: فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي وَأَخَذِ سَلْبِي، قَالَ: فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْقَالِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ)) (مسند احمد: ۱۵۵۶)

(۸۶۰۶م) تخریج: حسن لغیرہ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ۲۲۷۵۳)

(۸۶۰۷) تخریج: حسن لغیرہ۔ أخرجه ابن ابی شیبۃ: ۱۲ / ۳۷۰ (انظر: ۱۵۵۶)

(۸۶۰۷م) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه ابو داود: ۲۷۴۰، والترمذی: ۳۰۷۹ (انظر: ۱۵۳۸)

” (دوسری سند) سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی جانب سے شفا دے دی ہے، پس آپ یہ تلوار مجھے عطا کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تلوار تمہاری ہے نہ میری، یہ مال غنیمت ہے، لہذا اس کو رکھ دو۔“ میں نے اس رکھ دیا اور پھر واپس آ گیا، لیکن یہ خیال آ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ تلوار ایسے شخص کو دے دی جائے، جو میری طرح کے جوہر نہ دکھا سکے، اتنے میں مجھے میرے پیچھے سے کوئی آدمی بلارہا تھا، میں نے سوچا کہ میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم نے مجھے تلوار کا سوال کیا تھا، لیکن وہ میری نہیں تھی، اب وہ مجھے بطور بہہ دی جا چکی ہے، لہذا اب یہ تیری ہے۔“ یہ آیت نازل ہوئی تھی: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾

(۸۶۰۷م)۔ (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ شَفَانِي اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، قَالَ: ((إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِي ضَعْفُ)) قَالَ: فَوَضَعْتَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ قُلْتُ: عَسَى أَنْ يُعْطَى هَذَا السَّيْفُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِلَايَتِي، قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يَدْعُونِي مِنْ وَرَائِي، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَنْزَلَ فِيَّ شَيْءٌ، قَالَ: كُنْتَ سَأَلْتَنِي السَّيْفَ وَلَيْسَ هُوَ لِي وَإِنَّهُ قَدْ وَهَبَ لِي فَهُوَ لَكَ)) قَالَ: وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾ [الأنفال: ۱] (مسند احمد: ۱۵۳۸)

فوائد:..... ان آیات و احادیث میں بیان شدہ احکام و مسائل کے لیے ملاحظہ ہو: حدیث نمبر (۵۰۲۳) والا باب۔

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بدر کے دن نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کی جانب دیکھا، وہ تین سو سے کچھ اوپر تھے، پھر مشرکوں کی طرف دیکھا اور وہ ایک ہزار سے کچھ زیادہ تھے، پھر آپ ﷺ قبلہ رخ ہو گئے اور ہاتھ اٹھا لئے، آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا اور چادر اوڑھی ہوئی تھی، پھر یہ دعا کی: میرے اللہ! جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ کہاں ہے، اے میرے اللہ! جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ پورا کر دے، اے میرے اللہ! اگر اسلام والوں کی یہ جماعت تو نے ہلاک کر دی تو زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گا۔ آپ اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہے اور اسے

(۸۶۰۸)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنَيْفٍ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ وَعَلِيهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا تُعْبِدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا)) قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ

پکارتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر گر پڑی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے آئے اور آپ ﷺ کی چادر پکڑ کر اوپر اڑھائی اور کمر کی جانب سے ساتھ چمٹ گئے اور پھر کہا: اے اللہ کے نبی! اپنے رب سے جو آپ نے التجاء کی ہے، یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اسے پورا کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُهِدٌكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ﴾..... ”جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور کہا: میں تمہارے لئے پے در پے ایک ہزار فرشتے نازل کرنے والا ہوں۔“ پھر جب اس دن جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دی، ان میں سے ستر (۷۰) آدمی مارے

گئے اور ستر (۷۰) ہی قیدی بن گئے۔“

بَابُ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾
﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ کی تفسیر

”مطرف کہتے ہیں: ہم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابوعبداللہ! کون سی چیز تم کو یہاں لائی ہے، تم نے خلیفہ راشد کو ضائع کر دیا ہے، حتیٰ کہ انہیں مظلوم شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر تم ان کے خون کا مطالبہ کرنے بیٹھ گئے ہو؟ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم نے عہد نبوی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافتوں میں یہ آیت پڑھی تھی: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾..... ”اس فتنہ سے ڈرو جو خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں۔“ یہ خیال تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہم اس کی زد میں آجائیں گے، بہر حال یہ واقع ہوا اور ہم پر واقع ہوا۔“

رِدَاؤُهُ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ، ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! كَفَاكَ مُنَاشِدَتَكَ رَبَّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُهِدٌكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ﴾ [الأنفال: ۹] فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالتَّقُوا فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا وَأَسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا۔ الحدیث۔ (مسند احمد:

(۲۰۸)

(۸۶۰۹)۔ عَنِ مُطَرِّفٍ قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَعْتُمْ الْخَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بَدْمِهِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ۲۵] لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ۔ (مسند احمد: ۱۴۱۴)

” (دوسری سند) حسن بصری کہتے ہیں: سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاصی تعداد میں موجود تھے: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾..... ” اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔“ اس وقت ہم نے کہا: یہ فتنہ کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں پتہ بھی نہ چلا، لیکن یہ فتنہ واقع ہو گیا۔“

(۸۶۰۹م)۔ (وَمِنْ طَرِيقٍ نَأْن) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ۲۵] فَجَعَلْنَا: نَقُولُ: مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ؟ وَمَا نَشْعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ۔ (مسند احمد: ۱۴۳۸)

فوائد:..... برائیوں سے نہ روکنا عذاب الہی کا سبب ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ اس امتحان، اس محنت اور فتنے کا خوف رکھو جو صرف گنہگاروں اور بدکاروں پر ہی نہیں رہے گا، بلکہ اس بلا کی وبا عام ہوگی۔ اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے، جو بلا تخصیص، عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرتِ بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی و سماوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک و بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں، یا بعض احادیث میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی وہ مراد ہے۔

بَابُ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾
﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: قریشیوں نے مکہ میں ایک رات آپ ﷺ کے بارے میں آپس میں مشورہ کیا، کسی نے کہا: جب صبح ہو تو اس (محمد ﷺ) کو بیڑیوں سے باندھ دو، کسی نے کہا: نہیں، بلکہ اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا: بلکہ اس کو نکال دو، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان باتوں پر مطلع کر دیا، پس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے

(۸۶۱۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ قَالَ: تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ لَيْلَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فَأُثْبِتُوهُ بِالرِّوَاقِ يُرِيدُونَ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَقْتُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ أَخْرِجُوهُ، فَأُطْلِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَاتَ

(۸۶۰۹م) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۲۰۶ (انظر: ۱۴۳۸)

(۸۶۱۰) تخریج: اسنادہ ضعف، عثمان الجزری، قال احمد: روی احادیث مناكير زعموا انه ذهب كتابه۔ أخرجه عبد الرزاق: ۹۷۴۳، والطبرانی: ۱۲۱۵۵ (انظر: ۳۲۵۱)

نبی کریم ﷺ کے بستر پر وہ رات گزاری اور نبی کریم ﷺ وہاں سے نکل کر غارِ ثور میں پناہ گزیں ہو گئے، مشرکوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر پہرہ دیتے ہوئے رات گزاری، ان کا خیال تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ پر پہرہ دے رہے ہیں، جب صبح ہوئی تو وہ ٹوٹ پڑے، لیکن انھوں نے دیکھا کہ یہ تو علی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا کررہ کر دیا، انھوں نے کہا: علی! تیرا ساتھی کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: میں تو نہیں جانتا، پس وہ آپ ﷺ کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں چل پڑے، جب اُس پہاڑ تک پہنچے تو معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، پس یہ پہاڑ پر چڑھے اور غارِ ثور کے پاس سے گزرے، لیکن جب انھوں نے اس کے دروازے پر کڑی کا جالہ دیکھا تو انھوں نے کہا: اگر وہ (محمد ﷺ) اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو کڑی کا یہ جالہ تو نہ ہوتا، پھر آپ ﷺ اسی غار میں تین دن تک ٹھہرے رہے۔“

عَلِيٌّ عَلَى فِرَاشِ النَّبِيِّ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ، وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا يَحْسِبُونَهُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَوْا عَلِيًّا رَدَّ اللَّهُ مُكْرَهُمْ، فَقَالُوا: أَيْنَ صَاحِبِكَ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَاقْتَصَوْا آثَرَهُ، فَلَمَّا بَلَّغُوا الْجَبَلَ خَلَطَ عَلَيْهِمْ، فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ فَمَرُّوا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلِيَّ بَابِهِ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ يَكُنْ نَسَجَ الْعَنْكَبُوتِ عَلِيَّ بَابِهِ فَمَكَثَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (مسند احمد: ۳۲۵۱)

فوائد:..... ہجرت مدینہ کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۰۶۱۳)

بَابُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جبکہ آپ منبر پر تھے: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾..... ”اور دشمن کے لئے جتنی طاقت ہو تیار رکھو۔“ خبردار! طاقت سے مراد تیرا انداز ہی ہے، خبردار! قوت سے مراد تیرا انداز ہی ہے۔“

(۸۶۱۱)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ۶۰] أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ. (مسند احمد: ۱۷۵۶۸)

فوائد:..... عصر حاضر میں جدید جنگی صلاحیتوں کی مہارت حاصل کرنا، جدید اسلحہ تیار کرنا اور ہر میدان میں

لڑنے والی فوجیں تیار کر کے رکھنا اس حدیث مبارکہ کا اولین تقاضا ہے۔

بَابُ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى...﴾ الخ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى...﴾ الخ کی تفسیر

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنگ بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قدرت دی ہے۔“ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، آپ نے ان کی بات سے اعراض کیا اور آپ ﷺ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا اور فرمایا: ”اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے قابو میں دے دیئے ہیں اور یہ کل تمہارے بھائی بننے والے ہیں۔“ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ان کی گردنیں اڑا دیں۔“ لیکن آپ ﷺ نے پہلے کی طرح اعراض کیا اور پھر لوگوں سے وہی بات ارشاد فرما کر مشورہ طلب کیا، اس بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرا خیال ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ اس سے نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک سے غم چھٹ گیا اور آپ ﷺ نے ان سے فدیہ لے کر ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾..... ”اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، جو پہلے طے ہو چکی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔“

فوائد: اس آیت سے پہلے والی آیت یہ تھی: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُبْعِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾..... ”کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ ہر طرح غالب اور حکیم ہے۔“ (سورہ انفال: ۶۷)

(۸۶۱۲)۔ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ رَجُلًا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فِي الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَكَّنَكُمْ مِنْهُمْ)) قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ لِنَبِيِّ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَكَّنَكُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ)) قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ نَادَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ تَرَى أَنْ دَمَقُوا عَنْهُمْ وَتَقْبَلُ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [الأنفال: ۶۸]۔ (مسند احمد: ۱۳۵۹۰)

جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے، غزوہ بدر چونکہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اس لیے قیدیوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی بابت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے، جب آپ ﷺ نے مشورہ کیا تو جوازی کی حد تک تو دونوں صورتیں جائز تھیں کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغننے ہیں، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مزید وضاحت اگلی حدیث میں آرہی ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو آیات نازل ہوئیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ بہتر تھی، یعنی بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔

(۸۶۱۳)۔ عن ابنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَنِيفٍ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ آيُنَا مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا تُعْبَذُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا)) قَالَ: فَمَا زَالَ يَسْتَعِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَرَدَّاهُ، ثُمَّ التَزَمَهُ مِنْ وِرَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَكْفَاكَ مُنَاشِدَتُكَ رَبِّكَ، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَئِذٍ وَالتَّقْوَا، فَهَزَمَ

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بدر کے دن نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ تین سو سے کچھ زائد تھے، پھر آپ ﷺ نے مشرکوں کی طرف دیکھا اور وہ ایک ہزار سے زائد تھے، پھر آپ ﷺ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کیا، جبکہ آپ ﷺ نے ایک چادر اور ایک ازار زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ ﷺ نے یہ دعا کی: ”اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، وہ کہاں ہے، اے اللہ! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دے، اے اللہ! اگر تو نے اہل اسلام کی اس جماعت کو ختم کر دیا تو زمین میں کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔“ آپ ﷺ اپنے رب سے مدد طلب کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی چادر گر گئی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انھوں نے آپ ﷺ کی چادر اٹھائی اور اس کو آپ ﷺ پر ڈال کر پیچھے سے آپ ﷺ کو پکڑ لیا اور پھر کہا: اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنے رب سے جو مطالبہ کر لیا ہے، یہ آپ کو کافی ہے، اس نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، وہ عنقریب اس کو پورا کر دے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

رَبِّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾..... ”اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا، جو لگا تار چلے آئیں گے۔“ (سورۃ انفال: ۹) پھر جب اس دن دونوں لشکروں کی ٹکر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اس طرح شکست دی کہ ان کے ستر افراد مارے گئے اور ستر افراد قید کر لیے گئے، پھر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! یہ لوگ ہمارے بچوں کے ہی بیٹے ہیں، اپنے رشتہ دار اور بھائی ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس مال سے کافروں کے مقابلے میں ہماری قوت میں اضافہ ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں ہدایت دے دے، اس طرح یہ ہمارا سہارا بن جائیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن خطاب! اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، میرا خیال تو یہ ہے کہ فلاں آدمی، جو میرا رشتہ دار ہے، اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاؤں گا، عقیل کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کریں، وہ اس کو قتل کریں گے، فلاں شخص کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن قلم کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے کوئی رحم دلی نہیں ہے، یہ قیدی مشرکوں کے سردار، حکمران اور قائد ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند نہیں کیا، اس لیے آپ ﷺ نے ان سے فدیہ لے لیا۔ سیدنا

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُشْرِكِينَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، وَأَسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيًّا وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ وَالْبِخْوَانُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ مَا أَخَذْنَا مِنْهُمْ قُوَّةً لَنَا عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ، فَيَكُونُونَ لَنَا عَضُدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ! مَا أَرَى مَا أَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ قَرِيبًا لِعُمَرَ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمْكِنَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمْكِنَ حَمْزَةَ مِنْ فُلَانٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ يَلْمُسُشْرِكِينَ، هَؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمْ وَأَيْمَتُهُمْ وَقَادَتُهُمْ، فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ فَأَخَذَ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْعَدَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِذَا هُمَا بَيْكِيَانُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي مَاذَا يُمَكِّنُكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكَيْتُ لِيُكَاثِبَكُمَا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ

عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب اگلے دن میں نبی کریم ﷺ کے پاس گیا تو آپ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو زلا رہی ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آ گیا تو میں بھی روؤں گا اور اگر مجھے رونا نہ آیا تو تمہارے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت بنا لوں گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے ساتھیوں نے فدیہ لینے کے بارے میں جو رائے دی تھی، اس کی وجہ سے مجھ پر تمہارا عذاب پیش کیا گیا ہے، جو اس درخت سے قریب ہے۔“ اس سے آپ ﷺ کی مراد قریب والا ایک درخت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْعَثَ فِي الْأَرْضِ لِيُخَبِّرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾۔ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿”نبی کے ہاتھ قیدی نہیں چاہئیں جب تک کہ زمین میں اچھی خوزری کی جنگ نہ ہو جائے، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور با حکمت ہے، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔“ (سورة انفال: ۶۷) پھر ان کے لیے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا، جب اگلے سال غزوہ احد ہوا تو بدر والے دن فدیہ لینے کی سزا دی گئی اور ستر صحابہ شہید ہو گئے، نیز آپ ﷺ کے صحابہ آپ ﷺ سے بھاگ گئے، آپ ﷺ کے دانت شہید کر دئے گئے، آپ ﷺ کے سر پر خود کو توڑ دیا گیا اور آپ ﷺ کے چہرے پر خون بہنے لگا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ

أَصْحَابُكَ مِنَ الْفِدَاءِ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَذْنَىٰ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ﴾ ((وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْعَثَ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ مِنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ أَجَلَ لَهُمُ الْعَنَائِمُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحُدٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عُرِقُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرٍ مِّنْ أَخَذِهِمُ الْفِدَاءِ، فَفَقِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ، وَفَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ وَهَشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿أَوَلَمْآ صَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا﴾ الْآيَةُ بِأَخَذِكُمْ الْفِدَاءِ۔ (مسند أحمد: ۲۰۸)

مُثَلِّبَهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“ (کیا بات ہے کہ جب احد
کے دن) تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا
چکے، تم یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ
خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر
ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۱۶۵) یعنی فدیہ لینے کی وجہ سے۔“

فوائد: غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد (۳۱۳) اور کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، پھر مسلمان
بیتے اور بے سرو سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ کی بھی فراوانی تھی، ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ
نعمانی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑگڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے، خود نبی کریم ﷺ الگ ایک خیمے میں نہایت الخاح
وزاری سے مصروف دعا تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگا تار
مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ کو پسند
تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم فیصلہ کرنے کی وجہ سے عتاب نازل ہوا۔ آخری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر احد کے دن ستر
صحابہ شہید ہو گئے تو تم اس سے پہلے بدر والے معرکے میں ستر کافر قتل کر چکے ہو اور ستر قیدی بند چکے ہیں، جبکہ غزوہ احد کی
کاست کی وجہ تم خود ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے تاکید حکم کے باوجود تم نے پہاڑی موچہ چھوڑ دیا اور کافروں کو اسی دڑ سے
دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔

سُورَةُ التَّوْبَةِ

سورة توبہ

بَابُ سَبَبِ عَدَمِ وُجُودِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهَا

اس سورت کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے نہ لکھنے کی وجہ کا بیان

(۸۶۱۴)۔ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ لِعُمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا
حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ،
”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: تم اس پر کیوں آمادہ ہوئے کہ
سورہ انفال جو کہ مثنائی سورتوں میں سے ہے اور سورہ توبہ، جو

(۸۶۱۴) تخریج: اسنادہ ضعیف، ومنتہ منکر، یزید الفارسی فی عداد المجہولین، وقال الحافظ فی

”التقريب“: مقبول۔ أخرجه ابوداود: ۷۸۶، ۷۸۷، والترمذی: ۳۰۸۶ (انظر: ۳۹۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ مبین سورتوں میں سے ہے، تم نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر بھی نہیں لکھی اور تم نے اس کو سات لمبی سورتوں میں شامل کر دیا، کیا وجہ ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی عرصے میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہی نہ ہوتی اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کئی سورتوں نازل ہو جاتیں، بہر حال جب آپ ﷺ پر وحی کا نزول ہوتا تو کاتب کو بلاتے اور اس سے فرماتے: ”یہ آیات اس سورت میں لکھو، جس میں ایسے ایسے امور کا ذکر موجود ہے، اگر پھر کوئی آیت اترتی تو پھر فرماتے: ”یہ آیت اس سورت میں لکھ دو، جس میں ایسا ایسا ذکر کیا گیا ہے۔“ اب سورہ انفال وہ سورت ہے، جو مدینہ میں شروع شروع میں نازل ہوئی اور سورہ توبہ قرآن مجید کی آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، جبکہ ان کا واقعہ آپس میں ملتا جلتا ہے، اور ادھر نبی کریم ﷺ وفات پا گئے اور آپ ﷺ نے ہمارے سامنے (ان دو سورتوں کے) بارے میں وضاحت نہیں فرمائی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا کہ سورہ انفال، سورہ توبہ کا حصہ ہے، اس لیے میں نے دونوں کو آپس میں ملا دیا اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور اس کو سات لمبی سورتوں میں رکھ دیا۔

وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُؤَيَّنِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ، مَا حَمَلَكُم عَلَى ذٰلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ، يُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَكَانَ اِذَا اُنزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، يَدْعُو بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ يَقُوْلُ: ((ضَعُوْا هٰذَا فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا))، وَيُنزَلُ عَلَيْهِ الْاٰیَاتُ فَيَقُوْلُ: ((ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰیَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا))، وَيُنزَلُ عَلَيْهِ الْاٰیَةُ فَيَقُوْلُ: ((ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰیَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا))، وَكَانَتْ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَّلِ مَا اُنزِلَ بِالْمَدِيْنَةِ وَبَرَاءَةُ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْآنِ، فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهًا بِقِصَّتِهَا، فَقَبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَبِيْنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا، وَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرًا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطَّوَالِ۔ (مسند احمد: ۳۹۹)

فوائد: سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے، جس کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ نہیں لکھی گئی، اس کی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں بڑی حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے اور گویا یہ سورت، سورہ انفال کا تتمہ اور بقیہ ہے اور یہ سات بڑی سورتوں میں سے ساتویں بڑی سورت ہے، جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم کی سورتیں چار قسم کی ہیں:

(۱) طَوَال: سات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور انفال اور براءت (سورہ انفال اور سورہ

براءت) کو ایک شمار کیا گیا ہے۔

(۲) الْمِثْنَيْن: جن سورتوں کی آیات (۱۰۰) سے زائد یا اس کے قریب ہیں۔

(۳) الْمَثَانِي: وہ سورتیں جو تعداد میں مثنین کے بعد آتی ہیں، ان کو مثنائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو طوال اور

مثنین کی بہ نسبت بار بار پڑھا جاتا ہے۔

(۴) الْمُفَصَّل: ان کی ابتداء سورہ ق یا سورہ حجرات سے ہوتی ہے، یہ مزید تین حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں:

طَوَال مُفَصَّل: سورہ ق یا سورہ حجرات سے لے کر سورہ نباء یا سورہ بروج تک۔

أَوْسَاط مُفَصَّل: سورہ نباء یا سورہ بروج سے لے کر سورہ ضحیٰ یا سورہ بینہ تک۔

قِصَار مُفَصَّل: سورہ ضحیٰ یا سورہ بینہ سے آخر قرآن تک۔

”سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں امیر حج بنا کر بھیجا اور اہل مکہ سے اس براءت کا اعلان کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی آدمی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا، جو مسلمان ہو گا، جس شخص کا پیغمبر اسلام ﷺ سے کسی خاص مدت تک کوئی معاہدہ پہلے سے ہوا ہو، وہ اپنی مدت کے اختتام تک برقرار رہے گا اور یہ کہ اللہ اور اس کا پیغمبر مشرکین سے بری ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پیغام کو لے کر روانہ ہو گئے اور تین دن کی مسافت طے کر چکے تو نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ابو بکر کو پیچھے سے جا لو، انہیں میری طرف واپس کر دو اور یہ اعلان تم نے کرنا ہے۔“ سوانحوں نے ایسے ہی کیا، لیکن جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا میرے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے کہ مجھے واپس بلا لیا؟

(۸۶۱۵)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ بِبِرَاءَةٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْفَسَ مُسْلِمَةً، مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدَّةٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مِدَّتِهِ، وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِرَسُولِهِ، قَالَ: فَسَارَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ((الْحَقْفَةُ، فَرُدَّ عَلِيَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَلَّغَهَا أَنْتَ)) قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ بَكَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْ فِي شَيْءٍ؟ قَالَ: ((مَا حَدَّثْتُ فَيْكَ إِلَّا خَيْرٌ، أَمَرْتُ أَنْ لَا يُبَلِّغَهُ إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِثِّي)) (مسند

احمد: ۴)

آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بارے میں صرف خیر ہی پیش آ سکتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ پیغام خود مجھے پہنچانا چاہیے یا میرے خاندان کے کسی آدمی کو۔“

فوائد:..... اس حدیث کا محفوظ متن حدیث نمبر (۸۶۱۸) میں آرہا ہے۔

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ براءت کی دس آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کے سامنے ان کی تلاوت کریں، پھر مجھے (علی کو) کو بلایا اور فرمایا: ”ابو بکر کو جا ملو، جہاں بھی تم ان کو ملو، ان سے یہ پیغام لے لینا اور پھر اہل مکہ کے سامنے جا کر پڑھ دینا۔“ پس میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حجفہ میں جا ملا اور ان سے خط لے لیا۔ پھر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ کے پاس لوٹے تو پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، کوئی حکم نہیں ہے، بس جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ پیغام یا تو آپ خود پہنچائیں یا آپ کے خاندان کا کوئی آدمی پہنچائے۔“

(۸۶۱۶)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ بَرَاءَةِ عَلِيِّ النَّبِيِّ ﷺ، دَعَا النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَعَثَهُ بِهَا لِيَقْرَأَهَا عَلَيَّ أَهْلَ مَكَّةَ، ثُمَّ دَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لِي: ((أَدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَيْثَمَا لَحِقْتَهُ فَخُذِ الْكِتَابَ مِنْهُ، فَادْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَاقْرَأْهُ عَلَيْهِمْ)) فَدَحِقْتُهُ بِالْجُحْفَةِ فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، وَرَجَعْتُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((لَا وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ جَاءَنِي فَقَالَ: لَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ)) (مسند احمد: ۱۲۹۷)

فوائد:..... اس اعلان کی درست صورت درج ذیل ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ((بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّينَ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَدِّنُ بِيَمِينِي أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ بَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيُّ فِي أَهْلِ مَنَى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)) ”سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس حج میں نحر والے دن اعلان کرنے والوں میں بھیجا، سو ہم نے منیٰ میں اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی آدمی نگی حالت میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا: پھر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ سورہ براءت والا اعلان کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

(۸۶۱۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف محمد بن جابر الحنفی، وحش بن المعتمر الكنانی لیس بالقوی (انظر: ۱۲۹۷)

پس انھوں نے بھی منیٰ میں نحر والے دن ہمارے ساتھ اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کرے گا۔“ (صحیح بخاری: ۳۶۵۵)

” (دوسری سند) سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے ان کو سورہ براءت کا اعلان دے کر بھیجا تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نہ زیادہ زبان دان ہوں اور نہ ہی خطیب ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں خود جاؤں، یا پھر تم جاؤ۔“ انھوں نے کہا: اگر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر میں ہی چلا جاتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر رکھا۔“

”ہمدان کا باشندہ زید بن اشج سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ان کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا تھا، جس دن نبی کریم ﷺ نے ان کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے بھیجا تھا؟ انھوں نے کہا: مجھے چار چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا: (۱) جنت میں صرف مومن آدمی داخل ہوگا، (۲) کوئی برہنہ آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، (۳) جس کا نبی کریم ﷺ سے کوئی معاہدہ ہے، تو وہ عہد اپنی مدت تک قائم رہے گا اور (۴) اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان ایک ساتھ حج نہیں کریں گے۔“

بَابُ ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ...﴾
﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۱۹)۔ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ

(۸۶۱۷) تخریج: حسن لغیرہ (انظر: ۱۲۸۷)

(۸۶۱۸) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه الترمذی: ۸۷۱، ۸۷۲، ۳۰۹۲ (انظر: ۵۹۴)

(۸۶۱۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۷۹ (انظر: ۱۸۳۶۷)

نبی کریم ﷺ کے منبر کی ایک جانب بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے کہا، اسلام کے بعد مجھے کوئی عمل کرنے کی پرواہ نہیں ہے، الا یہ کہ حاجیوں کو پانی پلاؤں گا۔ دوسرے نے کہا: مجھے اسلام کے بعد مسجد حرام آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل کرنے کی پرواہ نہیں ہے، ایک اور بولا اور اس نے کہا: جو تم کہہ رہے ہو، اس سے افضل اور بہتر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا: منبر رسول ﷺ کے پاس آوازیں بلند نہ کرو، یہ جمعہ کا دن تھا، جب میں نے جمعہ ادا کر لیا تو آپ ﷺ کے پاس گیا اور ان لوگوں کے اختلاف کے بارے میں آپ ﷺ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ توبہ: ۱۹) ”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ كُلِّهَا [التوبة: ۱۹]۔ (مسند احمد: ۱۸۵۵۷)

فوائد: نیکیوں اور برائیوں کا تعین کرنا اور پھر کسی نیکی کو کم یا زیادہ ثواب والا اور کسی برائی کو کم یا زیادہ جرم

والا قرار دینا، یہ شریعت کا حق ہے، کسی بندے کے فہم کا نتیجہ نہیں ہے۔

باب: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ...﴾

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۲۰)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذِي الْحُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: ((اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! "سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک بار نبی کریم ﷺ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ عبد اللہ بن ذی خوہصرہ تمہی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! ذرا

انصاف کرنا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو ہلاک ہو جائے، اگر میں بھی عدل نہ کروں تو اور کون عدل کرے گا؟“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو چھوڑ دو، اس کے ایسے ساتھی ہوں گے کہ تم میں سے ایک شخص ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس کے پروں میں دیکھا جائے تو معلوم کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کے پھل میں دیکھا جائے تو معلوم کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کی تانت اور اس کے بعد پیکان اور پر کے درمیان کے حصے کو دیکھتا ہے، تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خون اور گوبر سے ہو کر گزرا ہوتا ہے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا ایک چھاتی عورت کی ایک چھاتی کی طرح ہوگی، یا فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگی اور ہلتی ہوگی، لوگوں کے تفرقہ کے وقت نکلیں گے۔“ ابوسعید نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی نے ان لوگوں کو قتل کیا، میں ان کے ساتھ تھا، اس وقت ان میں سے ایک شخص کو لایا گیا، وہ اسی صورت کے مطابق نکلا جو نبی کریم ﷺ نے بیان کی تھی، ان ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ (توبہ: ۵۸) ”اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔“

فَقَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟)) قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: ((دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ، يُنظَرُ فِي قُدْذِهِ فَلَا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنظَرُ فِي نَصْلِهِ، فَلَا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ فِي رِصَافِهِ، فَلَا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنظَرُ فِي نَضِيهِ فَلَا بُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالْدَمُّ، يَتَهُمُ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ تَذِيهِ مِثْلُ نَذِي الْمَرَأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرَدُرُ بِخَرْجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ-)) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَانزَلَتْ فِيهِ: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ-﴾ (مسند احمد: ۱۱۵۵۸)

فوائد:..... تیرا اتنی تیزی سے شکار کو زخمی کر کے نکل جاتا ہے کہ اس پر خون کے اثرات بھی نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا دعویٰ کرنے والے بعض لوگ دعویٰ تو اسلام کا کریں گے، لیکن وہ ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اکثر محدثین اور شارحین کے نزدیک ایسے لوگوں سے مراد خوارج ہیں۔

باب: ﴿الْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿الْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۶۲۱)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْمَوْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةً، عَلْقَمَةَ بِنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيِّ وَالْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ وَزَيْدَ الْحَيْلِ الطَّائِسِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيَّ بِدَهَبَةٍ مِنَ الْيَمَنِ بِشُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ۔ (احمد: ۱۱۲۸۷)

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے عہد میں جن لوگوں کو ان کی تالیفِ قلبی کی خاطر مال دیا گیا تھا، وہ چار افراد تھے: علقمہ بن علاشہ جعفری، افرع بن حابس حنظلی، زید خیل طائی اور عیینہ بن بدر فزاری، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن سے کچھ سونا لے کر آئے تھے جو ابھی مٹی میں تھا، (یعنی صاف نہیں کیا گیا تھا) نبی کریم ﷺ نے وہ ان میں تقسیم کیا تھا۔“

فوائد:..... سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سونا یمن سے بھیجا تھا، وہ تقسیم کے وقت خود موجود نہیں تھے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ افرع بن حابس: یہ تمیمی حنظلی اور بنو تمیم کے اشراف لوگوں میں سے تھے تھا، یہ عطارد بن حاجب، زبرقان بن بدر وغیرہ کے ساتھ فتح مکہ کے بعد نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، پھر یہ مختلف غزوات میں شریک ہوا اور یرموک میں شہید ہو گیا تھا، ایک قول کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہا۔ عیینہ بن بدر: یہ فزاری تھا، بدر اس کے دادا کا نام ہے، باپ کا نام حصن ہے، یہ اپنی قوم کا رئیس تھا، فتح مکہ کے بعد یا اس سے پہلے مسلمان ہوا، یہ مرتد ہو کر طلحہ اسدی کے ساتھ مل گیا تھا، لیکن پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ علقمہ بن علاشہ: یہ عامری تھا اور عامر بن طفیل کے ساتھ بنو کلاب کا رئیس تھا، یہ دونوں شرف کی خاطر جھگڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے رہتے تھے، علقمہ بھی ایک بار مرتد ہو گیا تھا، لیکن پھر مشرف باسلام ہو گیا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حوران مقام پر فوت ہوا تھا۔ عامر بن طفیل بیچارہ عہد نبوی میں ہی شرک کی حالت میں مر گیا تھا۔

فوائد:..... زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ اس مال سے لوگوں کی تالیفِ قلبی کی جائے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

اس سے کون سے افراد مراد ہیں:

ایک تو وہ کافر ہے، جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے، وہ نو مسلم افراد ہیں، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے، وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیفِ قلب کی ہیں، جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں، احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ... وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ

مَا تَابَ اَبَدًا﴾

﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ... وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَابَ اَبَدًا﴾ کی تفسیر

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبد اللہ بن ابی منافق مرا تو اس کی نماز جنازہ کے لئے نبی کریم ﷺ کو بلایا گیا، آپ ﷺ تشریف لے آئے اور جب اس کی نماز کا ارادہ کیا تو میں پلٹ کر آپ ﷺ کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ کے دشمن پر؟ کیا آپ عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اس نے فلاں فلاں دن یہ یہ کہا تھا، ساتھ ہی میں اس کے ہر دن کو شمار کرنے لگا، جس میں اس نے اسلام کے خلاف سازش کی تھی، جبکہ رسول اللہ ﷺ مسکرا رہے تھے، جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ ﷺ فرمایا: ”اے عمر! پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار دیا گیا ہے اور میں نے پڑھنے کو اختیار کیا ہے، مجھ سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾..... (آپ ان کے لئے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لئے ستر (۷۰) بار بخشش طلب

(۸۶۲۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ تَحَوَّلَتْ حَتَّى قُمْتُ فِي صَدْرِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَلَى عَدُوِّ اللَّهِ؟ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي النَّقَائِلِ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ يُعَدُّ أَيَّامَهُ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْسُمُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: ((أَخْرَجَنِي يَا عُمَرُ! إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْرَجْتُ وَقَدْ قِيلَ: ﴿اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ۸۰] لَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ.)) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ

کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔) اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ اگر میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں تو اسے بخش دیا جائے گا تو میں اتنی مرتبہ بھی اس کے لئے استغفار کر دوں گا۔“ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کی قبر تک بھی چل کر تشریف لے گئے، جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو مجھے نبی کریم ﷺ پر کی گئی جرأت پر بڑا تعجب ہوا، بہر حال اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم! تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ یہ دو آیتیں نازل ہو گئیں: ﴿وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾..... ”اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ ﷺ وفات پا گئے۔“

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مرا تو اس کا بیٹا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو مسلمان تھا، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قمیص عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں اور اس کے لئے استغفار کریں، آپ ﷺ نے اسے قمیص عطا کر دی اور فرمایا: ”مجھے وقت پر اطلاع دینا۔“ جب آپ ﷺ نماز کے لئے آگے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے، آپ ﷺ نے

وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فُرِعَ مِنْهُ، قَالَ: فَعَجَبْتُ لِي وَجَرَءَ تِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا كَانَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ: ﴿وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مسند احمد: ۹۵)

(۸۶۲۳)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أَكْفِنَهُ فِيهِ وَصَلُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرَ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: ((إِذْنِي بِهِ)) فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ يَعْزِي عُمَرُ: قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ)) ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ۸۰] فَصَلِّيَ

فرمایا: ”مجھے دو اختیار ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔“ سو آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾..... ”اور آپ ان میں سے کسی کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔“

عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ۸۴] قَالَ: فَتُرِكَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ۔ (مسند احمد: ۴۶۸۰)

فوائد:..... غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذوالقعدہ ۹ھ میں رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی مرثدہ۔ چونکہ اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس نے نبی کریم ﷺ سے قیص کا اور نماز جنازہ پڑھانے کا مطالبہ کیا تاکہ اس سے عذاب ٹل جائے، لیکن اس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔

معلوم ہوا کہ کافر، مشرک اور منافق کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنا منع ہے۔

بَابُ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ﴾
﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اس گروہ میں شامل تھا، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾..... ”اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئے ہیں، تاکہ تو انھیں سواری دے تو تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں۔“ تو سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے درخت کی ٹہنیاں پکڑ کر نبی کریم ﷺ پر سایہ کیا ہوا تھا، جبکہ لوگ بیعت کر رہے تھے اور انھوں نے کہا: ہم موت پر آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ تم اس چیز پر بیعت کرو کہ فرار اختیار نہ کرو۔“

(۸۶۲۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، وَكَانَ أَحَدَ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ [التوبة: ۹۲] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ بِغُضْنٍ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ، أَطَّلُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُمْ يَبَايِعُونَهُ، فَقَالُوا: نَبَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ، قَالَ: ((لَا وَلَكِنْ لَا تَبْرُوا)) (مسند احمد: ۲۰۸۲۰)

(۸۶۲۴) تخريج: اسنادہ ضعيف، ابو جعفر الرازي سبيء الحفظ - أخرجه الطبري في "التفسير": ۱۰/

فوائد: سیدنا جابر اور سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے یہ صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کی موت پر بیعت نہیں کی، بلکہ اس چیز پر کی تھی کہ وہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔

اس آیت سے پھلنی والی آیت یہ ہے: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ”ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکتِ جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ بے حد درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔“ ان دو آیات میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے، جن کو جہاد کے معاملے میں معذور قرار دیا گیا ہے۔

بَاب: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾

إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ ﴿﴾

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ...﴾

إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ ﴿﴾ کی تفسیر

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لئے بخشش طلب کر رہا تھا، میں نے کہا: تم اپنے مشرک والدین کے لئے استغفار کر رہے ہو؟ اس نے کہا: کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لئے استغفار نہیں کیا تھا؟ جب میں نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ”اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں،

(۸۶۲۵)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ: تَسْتَغْفِرُ لِأَبِيكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ۱۱۴]۔ (مسند احمد: ۱۰۸۵)

خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔“

”میتب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا تو نبی کریم ﷺ اس کے پاس داخل ہوئے، جبکہ اس کے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے چچا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دو، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کے ذریعہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بحث مباحثہ کروں گا۔“ ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا: اے ابو طالب! کیا عبدالمطلب کے دین سے روگردانی کر جاؤ گے، وہ یہی بات دوہراتے رہے اور ورغلا تے رہے حتیٰ کہ ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبدالمطلب کے دین پر (مر رہا) ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا تا وقتیکہ مجھے منع کر دیا جائے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾..... ”اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔“ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

(۸۶۲۶)۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ: ((أَنْتَ عَمَّ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُّ بِهَا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَتَرَعْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِي حَتَّىٰ قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ)). فَتَزَلَّتْ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ، مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ۱۱۳] قَالَ: فَتَزَلَّتْ فِيهِ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ۵۶]۔ (مسند احمد: ۲۴۰۷۴)

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿.....﴾ ”بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو پسند کرے اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔“

فوائد:..... امام نووی نے کہا: اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ ﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾..... والی آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کا ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا نبی کریم ﷺ کے قبضے کی چیز نہیں ہے، آپ ﷺ پر تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کا فریضہ ہے، ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾..... ”تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے۔“ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِبُؤْمِيهِمْ﴾..... ”گو تو ہر چند طمع کرے لیکن ان میں سے اکثر ایماندار نہیں ہیں۔“ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا حقدار کون ہے۔

بَاب: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾.....
﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾..... کی تفسیر

غزوہ تبوک رجب ۹ھ میں پیش آیا، اس غزوے میں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کرنے والے رومیوں سے مقابلہ تھا، یہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، لبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے اور پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے۔ بہر حال رسول اللہ ﷺ نے اہل ثروت صحابہ کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دلائی اور ان سے جو کچھ بن سکا، وہ لے آئے۔

ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کر آئے اور نبی کریم ﷺ سے اس غزوے میں عدم حضوری کی اجازت چاہ رہے تھے، آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔

ان آیات اور اس حدیث میں اس واقعہ کا اور اسی قسم کے عذر خواہوں کا ذکر ہے۔

(۸۶۲۷)۔ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ جِئَ عَمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ

”عبدالرحمن بن عبد اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: عبداللہ بن کعب، جو اپنے باپ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے تائبینا ہو جانے کی وجہ سے ان کے قائد تھے، وہ کہتے ہیں: سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کیا جب وہ غزوہ تبوک سے

پیچھے رہ گئے تھے۔ انھوں نے کہا: میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوا تھا، ماسوائے تبوک اور بدر کے، میں ان میں پیچھے رہ گیا تھا، مگر بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نہیں ہوا، نبی کریم ﷺ کی اس جنگ میں غرض یہ تھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی، میں عقبہ والی رات کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا تھا اور مجھے تو عقبہ والی وہ رات غزوہ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے، اگرچہ جنگ بدر کو لوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک کا واقعہ یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں، اس غزوہ کے وقت میں دو سواریوں کا مالک تھا، اس کے علاوہ نبی کریم ﷺ کا یہ دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پتہ نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں بات ظاہر کرتے تھے تاکہ لوگ دوسرا مقام سمجھتے رہیں، غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی، راستہ طویل تھا اور بے آب و گیاہ تھا، دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لہذا آپ ﷺ نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیار کر لیں، اس وقت نبی کریم ﷺ کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے، مگر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو، مگر وہ یہ خیال کرتا تھا کہ کسی کی غیر حاضری نبی کریم ﷺ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے، غرض نبی کریم ﷺ نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وہ وقت تھا کہ میوہ پک

يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: لَمْ أَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَيْرِهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ لَهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، رَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ لَعَقَبَةِ حَيْنَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، مَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدٌ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرًا ذَكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا وَأَشْهَرُ، وَكَانَ مِنْ خَبْرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَنْوَى وَلَا أَيْسَرَمَنِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللَّهُ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهَا فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَلَمًا يُرِيدُ غَزَاةً يُغْزُوهَا إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزَاةُ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرْبٍ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفْرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُ لَيْتًا هَبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ، لَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيَانَ، فَقَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ

رہا تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا، سب تیاریاں کر رہے تھے، مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، کیا جلدی ہے، میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں، اسی طرح دن گزرتے رہے، ایک روز صبح کو نبی کریم ﷺ روانہ ہو گئے، میں نے سوچا ان کو جانے دو، میں ایک دو دن میں تیاری کر کے راستہ میں ان میں شامل ہو جاؤں گا، دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنا چاہی، مگر نہ ہو سکی اور میں یوں ہی رہ گیا تیسرے روز بھی یہی ہوا اور پھر برابر میرا یہی حال ہوتا رہا، اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے، میں نے کئی مرتبہ قصد کیا کہ آپ ﷺ سے جا ملوں، مگر تقدیر میں نہ تھا، کاش! میں ایسا کر لیتا چنانچہ نبی کریم ﷺ کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ میں چلا پھرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ جو کمزور ضعیف اور بیمار تھے، مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، (جب میں نے بعد میں معلومات لی تھیں تو ان سے پتہ چلا تھا کہ) نبی کریم ﷺ نے راستے میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا تھا، البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: "کعب بن مالک کہاں ہے؟" بخوسلہ کے ایک آدمی سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں، لیکن سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نے اچھی بات نہیں کی، اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول! ہم تو انہیں اچھا آدمی ہی سمجھتے ہیں، نبی کریم ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا حیلہ بہانہ ہاتھ آ جائے جو نبی کریم ﷺ کے غصہ سے مجھے بچا سکے، پھر میں اپنے گھر کے بھھدار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو، مگر جب یہ بات

رَجُلٌ يُرِيدُ يَتَغَيَّبُ إِلَّا ظَنَّ أَنْ ذَلِكَ سِيْخْفِيْ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَخِيٌّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ الثَّمَارُ وَالظَّلُّ، وَأَنَا فِيْهَا أَضْعُرُّ، فَتَجَهَّزَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، وَطَفِئْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَأَرْجِعَ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِيْ نَفْسِيْ أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، إِذَا أَرَدْتُ فَلَسْتُ يَنْزِلُ كَذَلِكَ يَتِمَادَى بِي حَتَّى شَمَّرَ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِيْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: الْجَهَازُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَحْضَهُمْ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ مَا فَصَلُوا إِلَّا تَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا مِنْ جَهَازِيْ، ثُمَّ عَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَنْزِلْ ذَلِكَ يَتِمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أُرْتَحِلَ فَأَذَرِكُهُمْ وَلَيْتَ أَنِّي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ ذَلِكَ لِيْ، فَطَفِئْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفِئْتُ فِيْهِمْ يَخْزِنِيْ أَنْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي التَّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَدَّرَهُ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: ((مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟)) قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: حَبَسَهُ

معلوم ہوئی کہ نبی کریم ﷺ مدینہ کے بالکل قریب آگئے ہیں تو میرے دل سے اس حیلہ کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ ﷺ کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا، صبح کو نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور آپ ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے، اس بار بھی آپ ﷺ نے ایسے ہی کیا اور مسجد میں بیٹھ گئے، اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ کل اسی (۸۰) افراد یا اس سے کچھ زیادہ تھے، نبی کریم ﷺ نے ان سے ان کے عذر قبول کر لئے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب میں آیا تو السلام علیکم کہا، آپ ﷺ نے غصے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور فرمایا: ”آؤ۔“ پس میں سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا؟“ میں نے عرض کیا: آپ ﷺ کا فرمان درست ہے، میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ بہانے وغیرہ کر کے اس سے نجات پا جاتا، کیونکہ میں خوب بول سکتا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اس لئے میں سچ ہی بولوں گا، چاہے آپ مجھ پر غصہ ہی کیوں نہ فرمائیں، آئندہ کو تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی، اللہ کی قسم! میں تصور وار ہوں، حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے، مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہوسکا، نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر

يَا رَسُولَ اللَّهِ! بُرْدَاهُ وَالنَّظْرُ فِي عَطْفِيهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِسْمَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَنِي قَطَفٍ فَأَتَقَرُّ الْكَذِبَ، وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ عَدَا أَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُتَخَلِّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضِعَّةٍ وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقِيلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانِيَتُهُمْ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَيَكُلُّ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى جَنَّتْ، فَلَمَّا سَلِمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّ تَبَسَّمِ الْمُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ لِي: ((تَعَالَ)) فَجَنَّتْ أَمْسِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: ((مَا خَلَفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ اسْتَمَرَّ ظَهْرُكَ؟)) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي أَخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ بَعْدَرٍ، لَقَدْ

فرمایا۔ ”کعب نے درست بات بیان کر دی، اچھا چلے جاؤ اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔“ میں اٹھ کر چلا گیا، بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لئے اور کہنے لگے: ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا، تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح نبی کریم ﷺ کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا، حضور کی دعائے مغفرت تیرے کے لئے کافی ہو جاتی، وہ مجھے برابر یہی سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس واپس چلا جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور شخص بھی ہے، جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں دو آدمی اور بھی ہیں، جنہوں نے اقرار کیا اور آپ ﷺ نے ان سے بھی وہی کچھ فرمایا ہے جو تم سے ارشاد فرمایا ہے، میں نے ان کے نام پوچھے تو انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربیع عامری اور دوسرے ہلال بن امیہ واہلی ہیں، یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا، ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے بھی اطمینان سا ہو گیا اور میں چلا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے تمام مسلمانوں کو منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص ان تین آدمیوں سے کلام نہ کرے، دوسرے پیچھے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا، اب ہو گیا کہ لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا اور ہم ایسے ہو گئے، جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، بس گویا ہمارے لیے زمین تبدیل ہو گئی ہے، پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں، میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے، میں ہمت والا تھا، نکلتا، باجماعت نماز میں شریک ہوتا، بازار وغیرہ جاتا، مگر کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، میں نبی

أَعْطَيْتُ جَدًّا وَلَا وَكَيْتَهُ وَاللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى عَنِّي بِهِ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِصِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنْسِي لَا رَجُورَةَ عَيْنِي عَفْوًا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاللَّهُ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَفْرَعٌ وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَمَنْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ)) فَقُمْتُ وَبَادَرْتُ رِجَالَ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتُ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ الْمُتَخَلِّفُونَ، لَقَدْ كَانَ كَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ اسْتَغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكْذَبَ نَفْسِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهِ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالَا مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَذَكَّرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا لِي فِيهِمَا أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوا هُمَا لِي، قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ

کریم ﷺ کی خدمت میں بھی آتا، آپ ﷺ جائے نماز پر جلوہ افروز ہوتے، میں سلام کہتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آپ ﷺ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں، پھر میں آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا، اور آنکھ چرا کر آپ ﷺ کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ ﷺ اس دوران کیا کرتے ہیں، چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ ﷺ مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ ﷺ کی طرف ہوتی تو آپ ﷺ مجھ سے اعراض کر لیتے، اس حال میں یہ مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے عاجز آ گیا، ایک دن اپنے چچا زاد بھائی سیدنا ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کہا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی، مگر اللہ کی قسم! اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا: اے ابوقادہ! تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرفدار جانتا ہے یا نہیں؟ اس نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا، پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی مگر جواب ندارد، میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو ابوقادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں نے رونا شروع کر دیا اور واپس چل دیا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان، جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا، وہ لوگوں سے میرا پتہ معلوم کر رہا تھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک ہے، وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، اس میں لکھا تھا کہ ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تم کو ذلیل اور بے عزت نہیں بنایا ہے، تم بہت کام کے آدمی ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے۔“ میں نے سوچا کہ یہ

مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ، قَالَ: وَتَغَيَّرُوا وَالنَّاسَ حَتَّى تَنْكَرْتُ لِي مِنْ نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُ، فَلَيْتَنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا بُكْلُمُنِي أَحَدٌ، وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَسْلَمْتُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي حَرَكَ شَفْتَيْهِ بَرْدَ السَّلَامِ ثُمَّ لَا؟ ثُمَّ أَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ وَأَسَارَفُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، فَإِذَا التَّفْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ هَجْرِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى نَسَوْتُ حَائِطَ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ! أَنْشُدَكَ اللَّهُ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّي أَحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، قَالَ: فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، ففَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْسِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِيُّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟

تو دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تنور میں ڈال دیا، ابھی تک چالیس دن گزرے تھے، دس باقی تھے کہ نبی کریم ﷺ کے قاصد سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے آکر کہا کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، میں نے کہا: کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ انھوں نے کہا: بس الگ رہو اور مباشرت وغیرہ مت کرو، میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم دیا گیا، پس میں نے بیوی سے کہا کہ تم اس وقت تک اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو، جب تک اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ نہ فرمادے۔ ادھر سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! ہلال بن امیہ میرا خاوند بہت بوڑھا ہے، اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، بس وہ صحبت نہ کرنے پائے، اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے، وہ مسلسل رو رہا ہے، جب اس کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تو میرے عزیزوں نے مجھ سے کہا: تم بھی نبی کریم ﷺ کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو، تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے، جس طرح سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے، میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، معلوم نہیں کہ نبی کریم ﷺ کیا فرمائیں گے، میں نوجوان آدمی ہوں، ہلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں، اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کو صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے، اتنے میں

قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَى حَتَّى جَاءَ، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَانَ، وَكُنْتُ كَاتِبًا فَإِذَا فِيهِ: أَمَا بَعْدُ! فَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانَ وَلَا مَضِيعَةٍ، فَالْحَقُّ بِنَا نُوَابِسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: حِينَ قَرَأْتَهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، قَالَ: فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنَوُّرَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا، قَالَ: وَأَرْسَلْ إِلَى صَاحِبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: النَّحْيُ بِأَهْلِكَ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ شَيْخٍ ضَائِعٍ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدَمَهُ، قَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ لَا يَفْرَبَنَّكَ)) قَالَتْ: فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ، مَا يَزَالُ يَبْكِي مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ مِنْ أَمْرِكَ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ، فَقَدْ أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدَمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا اسْتَأْذِنُ فِيهَا..... صَبَاحَ

کوہ سلع پر سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا: اے کعب بن مالک! تم کو بشارت دی جاتی ہے۔ یہ آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہوگئی، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔“ اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوشخبری اور مبارکباد کے لئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام اپنے گھوڑے کو بھگاتے میرے پاس آیا اور ایک دوسرا بنو سلمہ کے آدمی نے سلع پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی، اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے، جبکہ میرے پاس ان کے سوائے کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے، میں نے ابوقحادہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے لے کر زبیر تن کیے، پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جانے لگا، راستہ میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو۔ پھر جب میں مسجد میں گیا نبی کریم ﷺ تشریف فرماتے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر دوڑے، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مبارک باد دی، مہاجرین میں سے یہ کام صرف طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا، اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، پھر جب میں نے نبی کریم ﷺ کو سلام کیا اور آپ ﷺ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے کعب! یہ دن تمہیں مبارک ہو، جو سب ان دنوں سے اچھا ہے، جو تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک ہیں۔“ میں نے عرض کیا: حضور! یہ معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ ﷺ کی طرف سے؟ آپ ﷺ نے

خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ، سَمِعْتُ صَارِحًا أَوْفَى عَلَى جَبَلٍ سَلَعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ! أَبَشِّرْ، قَالَ: فَخَرَزْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْنَا، حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي يُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، وَأَوْفَى الْجَبَلِ، فَكَانَ الصَّوْتُ تُسْرِعُ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبَشَارَتِهِ، وَاللَّهِ! مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ فَاسْتَعْرْتُ ثَوْبَيْنِ مَلِسْتُهُمَا، فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا مُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهْتَوُونَ بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهْرُؤُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَتَأَنِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَسْأَهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ:

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیا گیا ہے۔“ اور آپ ﷺ جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پہچان جاتے تھے، پھر میں نے آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکر یہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لئے خیرات نہ کر دوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تھوڑا کرو اور کچھ اپنے لئے رکھ لو، کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہوگا۔“ میں نے عرض کیا: جی ٹھیک ہے، میں اپنا خیر کا حصہ روک لیتا ہوں، پھر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے، اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا، اللہ کی قسم! میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو، جو مجھ پر کی ہے، اس وقت سے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ”بلاشبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار پر بھی، جو تک دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل

فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: ((أَبَشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مِنْذُ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ.)) قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ! يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.)) قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَتَرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قَمَرٍ حَتَّى يُعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.)) قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى نَجَانِي بِالصَّدَقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقِ فِي الْحَدِيثِ مُذْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَاللَّهُ! مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُذْ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لَا رَجُو أَنْ يَحْفَظَنِي فِيمَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ

وَارْجَاؤُهُ أَمْرَنَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِمَّا خُلِفْنَا
بِتَخْلُفِنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَّنْ حَلَفَ
لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. (مسند احمد:
۱۵۸۸۲)

سیدنا کعب بن علقمہ کہتے ہیں: ہم تینوں ان منافقوں سے علیحدہ
ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے بہانے بنائے اور جھوٹے حلف
اٹھائے اور نبی کریم ﷺ نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان
سے بیعت لے لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمادی، مگر
ہمارا معاملہ چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.....
”اور ان تینوں پر بھی جو متوقف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب
زمین ان پر تنگ ہوگئی، باوجود اس کے کہ فراخ تھی اور ان پر ان کی
جانیں تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے
پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر
مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو
بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (سورہ توبہ: ۱۱۸)
آپ ﷺ کا ہم کو پیچھے کرنا اور ہمارے معاملے کو مؤخر کرنا، جس
کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہمارا غروے سے پیچھے رہ جانا نہیں تھا، بلکہ یہ
تو ان لوگوں سے پیچھے اور الگ کرنا تھا، جنہوں نے آپ ﷺ
کے لیے حلف اٹھائے اور آپ ﷺ کے سامنے عذر پیش کیے اور
آپ ﷺ نے ان کے عذر قبول کر لیے۔“

بَابُ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۲۸)۔ عن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر ”عباد بن عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حارث بن خزیمہ،

(۸۶۲۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لتدلیس محمد بن اسحق، ولانقطاعه، قال الشيخ احمد شاکر: عباد بن
عبد اللہ لم يدرك قصة جمع القرآن، بل ما اظنه ادرك الحارث بن خزيمه، ولئن ادركه لما كان ذلك
مصححا للحديث، اذ لم يروه عنه، بل ارسل القصة ارسالا (انظر: ۱۷۱۵)

سورہ توبہ کی یہ آخری دو آیتیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لائے، انہوں نے کہا: ان پر تمہارے ساتھ گواہ کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا: جی اللہ کی قسم! مجھے پتہ نہیں ہے، ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے یہ آیات سنی تھیں اور میں نے ان کو یاد کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنی تھیں، اگر یہ تین آیات ہوتیں تو میں ان کو علیحدہ سورت بنا دیتا، اب تم دیکھو کہ کون سی سورت ان آیات کے لیے زیادہ مناسب ہے، پس اس میں ان کو لکھ دو، پس میں نے ان کو سورہ توبہ کے آخر میں لکھ دیا۔“

قَالَ: أَتَى الْحَارِثُ بْنُ خَزَمَةَ بَهَاتَيْنِ اللَّائِيْنِ مِنْ آخِرِ بَرَاءَةَ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: لَا أُدْرِي وَاللَّهِ، إِلَّا أَنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوَعَيْتُهَا وَحَفِظْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَشْهَدُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: لَوْ نَفَّاتِ ثَلَاثَ آيَاتٍ لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى جِدَةٍ، نَسَانُظُرُوا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَضَعُوهَا فِيهَا نَوَضَعْتُهَا فِي آخِرِ بَرَاءَةَ۔ (مسند احمد: ۱۷۱۵)

فوائد: یہ دو آیات یہ ہیں: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (سورہ توبہ: ۱۲۸، ۱۲۹)

”بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس تمھی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت نرم رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔“

مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان عظیم یاد دلا رہا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے خود انہیں میں سے ان کی ہی زبان میں اپنا رسول بھیجا، پھر اتنے نرم دل کہ امت کی تکلیفوں سے خود کانپ اٹھیں۔ آسانی، نرمی اور سادگی والا دین لے کر آئے ہیں، جو بہت آسان ہے، سہل ہے، کامل ہے اور اعلیٰ اور عمدہ ہے، وہ تمہاری ہدایت کے متمنی ہیں۔

(۸۶۲۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي قَالَ: ”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا ابی بنی اللہ نے کہا: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية] [التوبة: ۱۲۸]۔ (مسند احمد: ۲۱۴۳۰)

فوائد: کون سی آیات سب سے آخر میں نازل ہوئیں؟ ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۴۳۷) کے فوائد۔

سُورَةُ يُونُسَ

سورة یونس

بَابُ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾
 ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۰)۔ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نُوذُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ اللَّهِ لَمْ تَرَوْهُ، فَقَالُوا: وَمَا هُوَ أَلَمْ تَبْيَضْ وَجُوهَنَا وَتُزَحِّخْنَا عَنِ النَّارِ وَتَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ! مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ.)) ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [یونس: ۲۶]۔ (مسند احمد: ۱۹۱۴۳)

”سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں آواز دی جائے گی: اے جنت والو! اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ فرمایا تھا، جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، وہ حیران ہو کر کہیں گے: وہ کیا وعدہ ہے، اے اللہ! کیا تو ہمارے چہرے سفید نہیں کئے، کیا ہمیں دوزخ سے نہیں بچایا ہے اور کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (ابھی تک کون سی چیز باقی ہے)؟ اتنے میں پردہ ہٹ جائے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی ہوگی، جو اس دیدار سے پیاری اور محبوب ہو۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾..... ”جن لوگوں نے نیکی کی، انہیں اس کا صلہ ملے گا اور مزید بھی دیا جائے گا۔“

فوائد:..... آیت مبارکہ میں ”زِيَادَةٌ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔

بَابُ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
 ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۱)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ”سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول!

(۸۶۳۰)؛ تخريج: أخرجه مسلم: ۱۸۱ (انظر: ۱۸۹۳۵)

(۸۶۳۱)؛ تخريج: صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه: ۳۸۹۸، والترمذی: ۲۲۷۵ (انظر: ۲۲۶۸۸)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے:
﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
..... ”ایسے لوگوں کے لیے دنیوی زندگی اور آخرت میں خوشخبری
ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے مجھ سے ایسی چیز کے
بارے میں سوال کیا ہے کہ میری امت سے کسی نے یہ سوال
نہیں کیا، اس سے مراد نیک خواب ہے، جو نیک بندہ دیکھتا ہے
یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔“

أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
[یونس: ۶۴] فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ
شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، أَوْ أَحَدٌ
قَبْلَكَ.)) قَالَ: ((تِلْكَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.))
(مسند احمد: ۲۳۰۶۴)

فوائد: اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورہ یونس: ۶۲-۶۳)
”سن لو! بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جو ایمان لائے اور بچا
کرتے تھے۔ انھی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں،
یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہو، جن کا ظاہر تقویٰ اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو،
جتنا تقویٰ ہوگا، اتنی ہی ولایت ہوگی، ایسے لوگ بروز قیامت بے خوف ہوں گے، غم و رنج سے نا آشنا ہوں گے، دنیا میں
جو چھوٹ جائے اس پر انہیں حسرت و افسوس نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کی خوشی اور بشارت کا ایک سبب دنیا میں آنے والا
نیک خواب بھی ہے۔

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس
آیا اور اس نے کہا: تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں
کیا کہتے ہو: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ﴾ ”ایسے لوگوں کے لیے دنیوی زندگی اور آخرت
میں خوشخبری ہے۔“ انھوں نے کہا: تو نے ایسی چیز کے بارے
میں سوال کیا ہے کہ میں نے اس آدمی کے بعد کسی کو یہ سوال
کرتے ہوئے نہیں سنا، جس نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا
تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”دنیوی زندگی میں ایسے لوگوں

(۸۶۳۲)۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ رَجُلٍ
مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ:
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ:
﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ﴾ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ شَيْءٍ مَا
سَمِعْتُ أَحَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ
عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((بُشْرَاهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ

أَوْ تُرَى لَهُ، وَيُسْرَأُهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْجَنَّةِ۔ کی خوشخبری نیک خواب ہے، جو مسلمان دیکھتا ہے، یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کی خوشخبری جنت ہے۔“ (مسند احمد: ۲۸۰۷۶)

فوائد:..... سابق حدیث کے فوائد ملاحظہ ہوں۔

بَابُ: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾
﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ قَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ حَالًا مِنْ حَالِ الْبَحْرِ، فَدَسَّيْتُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ)) (مسند احمد: ۲۸۲۰)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب فرعون نے کہا: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾..... ”میں ایمان لایا ہوں کہ وہی معبود برحق ہے، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔“ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا: اے محمد! کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں (اللہ کی) رحمت اس کو پا نہ لے۔“

فوائد:..... برے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل قانون یہ ہے کہ جو آدمی جس انداز میں زندگی گزارتا ہے، اسی انداز میں اس کو موت آتی ہے۔ سجدوں میں ان لوگوں کی روئیں پرواز کر گئیں جو اپنے زندگی میں کثرت سے سجدے کرنے کے عادی تھے اور برائی کی حالت میں ان لوگوں کو موت کا پیغام قبول کرنا پڑا جو برائیوں کے دلدادہ تھے۔ فرعون کی زندگی بغاوت اور سرکشی کی سنگین مثالوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے اسی کے مطابق ہی اس کا خاتمہ ہونا تھا۔

(۸۶۳۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) (مسند احمد: ۲۱۴۴)

” (دوسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام اس ڈر سے فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونس رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دے۔“

(۸۶۳۳) تخريج: صحيح بالشواهد، قاله الالباني - أخرجه الترمذی: ۳۱۰۷ (انظر: ۲۸۲۰)

(۸۶۳۳)م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

سُورَةُ هُودٍ

سورة هود

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ هُودٍ مِنْ ذِكْرِ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا

سورة هود میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان

(۸۶۳۴)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَأَحْسِبُهُ أَنَّهُ قَالَ: سُورَةُ هُودٍ)۔ (مسند احمد: ۴۸۰۶)

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو قیامت کے دن کو بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان سورتوں کی تلاوت کرے: سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشاق۔“ راوی کہتے ہیں: میں گمان ہے کہ سورہ ہود کا بھی ذکر کیا۔“

بَابُ: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾

﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۵)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَهَا: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود]: آیت اس طرح پڑھی: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾۔

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ

[۴۶]۔ (مسند احمد: ۲۷۰۵۳)

فوائد: اس آیت کی متواتر قراءت یوں ہے: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾۔ جب نوح علیہ السلام نے سیلاب کے دوران اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا تھا کہ وہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔

بَابُ: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

(۸۶۳۴) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه الترمذی: ۳۳۳۳ (انظر: ۴۸۰۶)

(۸۶۳۵) تخریج: حدیث محتمل للتحسین بشاہدہ - أخرجه ابوداؤد: ۳۹۸۳، والترمذی: ۲۹۳۲ (انظر: ۲۶۵۱۸)

(۸۶۳۶) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه بنحوه ومختصراً البخاری: ۳۳۷۵، ومسلم: ص ۱۸۴۰ (انظر: ۸۹۸۷)

فِي قَوْلِ لُوطٍ: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [يونس: ٨٠] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كَانَ يَا أُوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَمَا بُعِثَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا فِي ثُرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ)) (مسند احمد: ٨٩٧٥)

لوٹ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾..... ”کاش کہ مجھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔“ (سورہ ہود: ٨٠) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ (لوٹ علیہ السلام) ایک مضبوط سہارے اپنے رب کی طرف آسرا پکڑتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا، اس کو اس کی قوم کے انبوہ کثیر میں بھیجا۔“

فوائد:..... قوت سے مراد اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے مراد خاندان، قبیلہ یا اسی قسم کا مضبوط آسرا مراد ہے، یعنی وہ نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی، بلکہ میں ان بد قماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا، لوٹ علیہ السلام کی یہ آرزو، اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔

لوٹ علیہ السلام کی مذکورہ بالا کاسیاق و سباق درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَةً بِهِمْ وُضِعَ الْحَكْمُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَتْهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَرِيقُونَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي آلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرُ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْكَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ. مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ﴾ (سورہ ہود: ٧٧ تا ٨٢)

”اور جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) لوٹ کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ اور اس کی قوم (کے لوگ) اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انھوں نے کہا بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اور بلاشبہ یقیناً تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کاش!

واقعی میرے پاس تمہارے مقابلہ کی کچھ طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ انہوں نے کہا اے لوط! بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بہ تہ کھٹکر کے پتھر برسائے۔ جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔“

(۸۶۳۶)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) (دوسری سند) اسی طرح کی حدیث ہے، البتہ اس میں ہے: ”لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ مضبوط قلعہ کی جانب جگہ پکڑتے تھے، ان کی مراد رشتہ دار تھے، پس اللہ نے اس کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجا، مگر اس کی قوم کے اعلیٰ نسب سے۔“ ابو عمر راوی کے الفاظ یہ ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر اس کو اپنی قوم میں محفوظ کر کے۔“ (مسند ۱۰۹۰۳)

فوائد:..... سابق حدیث کی شرح ملاحظہ ہو۔

باب: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ...﴾
﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مُغِيْبًا أَتَتْ رَجُلًا تَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ: اذْخُلِي الدَّوْلَجَ حَتَّى أُعْطِيكَ، فَدَخَلَتْ فَقَبَّلَهَا وَعَمَزَهَا فَقَالَتْ: وَيْحَكَ إِنِّي مُغِيْبٌ فَتَرَكَهَا وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ فَلَعَلَّهَا مُغِيْبٌ، قَالَ: فَلْيَأْتِهَا مُغِيْبٌ، قَالَ: فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَاسْأَلْهُ، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک عورت جس کا خاندان گھر سے باہر تھا، وہ ایک آدمی کے پاس کچھ خریدنے آئی۔ اس نے کہا: اس حجرہ میں اندر چلی جاؤ، تاکہ میں تمہیں تمہاری چیز دے سکوں، جب وہ داخل ہوئی تو اس آدمی نے اس سے بوس و کنار کیا، اس عورت نے کہا: بڑا افسوس ہے، میرا خاندان گھر سے باہر تھا تو نے یہ کیا کیا، اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا اور نادام ہوا، پھر وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور جو کیا تھا انہیں بتا دیا، انہوں نے کہا: لگتا ہے اس عورت کا خاندان گھر پر نہ

(۸۶۳۶) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۶۳۷) تخریج: صحيح لغيره - أخرجه الطبرانی: ۱۲۹۳۱ (انظر: ۲۴۳۰)

أَبُو بَكْرٍ: وَنَحَكَ لَعَلَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَإِنَّهَا مُغِيبٌ، قَالَ: فَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبِرْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَعَلَّهَا مُغِيبٌ..)) قَالَ: فَإِنَّهَا مُغِيبٌ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لِلذَّاكِرِينَ﴾ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمِي فِي خَاصَّةٍ أَوْ فِي النَّاسِ عَامَّةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَا، وَلَا نَعْمَةٌ عَيْنِي لَكَ بَلْ هِيَ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: ((صَدَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ..)) (مسند احمد: ۲۴۳۰)

ہوگا، تب وہ سودا خریدنے آئی ہوگی؟ اس نے کہا: جی ہاں وہ گھر سے باہر تھا۔ انہوں نے کہا: تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جا اور ان سے پوچھ لے، پس وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے کہا: تو ہلاک ہو جائے، شاید اس کا خاوند گھر پر نہ ہو، اس نے کہا: جی ہاں، اس پر خاوند گھر پر نہیں تھا، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: تو نبی کریم ﷺ کے پاس جا اور آپ کو ﷺ یہ تفصیل بتا، پس وہ آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ کو واقعہ بتایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”گلتا ہے کہ اس عورت کا خاوند گھر سے باہر تھا؟“ اس آدمی نے کہا: جی ہاں، واقعی وہ گھر پر نہ تھا، پس آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور یہ قرآن مجید نازل ہوا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾..... ”اور دن کے دنوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔“ اس آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ حکم میرے لئے خاص ہے یا لوگوں کے عام ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں، اس سے صرف تیری ہی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لئے خوشخبری ہے، نبی کریم ﷺ مسکرا کر فرمایا: ”عمر نے سچ کہا ہے۔“

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے باغ میں ایک عورت کو پکڑ لیا اور میں نے اس کے ساتھ ہر کام کیا ہے، بس صرف زنا نہیں کیا، میں نے اسے بوسہ دیا اور اس کے ساتھ چمٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اب میں

(۸۶۳۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَجَامِعْهَا، قَبَلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا، وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَافْعَلْ بِي

حاضر ہوں، آپ جو چاہیں، مجھے سزا دیں، آپ ﷺ نے اسے کچھ نہ کہا اور وہ چلا بھی گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کہا: اللہ تعالیٰ نے تو اس پر پردہ ڈالا تھا، اگر وہ خود بھی پردہ ڈال لیتا، ادھر رسول اللہ ﷺ اس جانے والے کو پیچھے سے تک رہے تھے اور بالآخر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے واپس بلاؤ۔“ پس جب اس کو لوٹایا گیا تو آپ ﷺ نے اس پر یہ آیت تلاوت کی: ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ﴾..... ”اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔“ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ اس اکیلے کے لئے ہے یا سب لوگوں کے لئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب لوگوں کے لئے ہے۔“

”(دوسری سند) نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ﴾..... ”اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔“ پس آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور اس پر اس آیت کی تلاوت کی، سیدنا عمر نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ اس کے لئے خاص ہے یا سب لوگوں کے لئے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب لوگوں کے لئے عام ہے۔“

مَا شِئْتِ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصْرَهُ فَقَالَ: ((رُدُّوهُ عَلَيَّ)) فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ أَلْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ إِلَى الدَّاكِرِينَ﴾ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَلْهُ وَخَدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَقَالَ: ((بَلِّ لِلنَّاسِ كَافَّةً)) (مسند احمد: ٤٢٩٠)

(٨٦٣٨م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ نَحْوُهُ) وَفِيهِ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ﴾ قَالَ: فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ هَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلْهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ فَقَالَ: ((بَلِّ لِلنَّاسِ كَافَّةً)) (مسند احمد: ٤٢٥٠)

سُورَةُ يُوسُفَ

سورہ یوسف کی تفسیر

بَابُ: ﴿فَاسْأَلَهُ مَا بَالَ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾
 ﴿فَاسْأَلَهُ مَا بَالَ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ کی تفسیر

(۸۶۳۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ لِرَسُولِهِ: ﴿فَاسْأَلَهُ مَا بَالَ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَسْرَعْتُ الْبِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُدْرَةَ)) (مسند احمد: ۹۰۴۸)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فَاسْأَلَهُ مَا بَالَ النُّسُوءِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ کے بارے میں فرمایا: اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو میں پیغام دینے والے کی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتا اور میں نے کوئی عذر تلاش نہ کرنا تھا۔“

فوائد: یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور بادشاہ کی اجازت کے باوجود وہاں سے نکلنے میں جلدی نہیں کی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعی گنہگار تھے اور اب ان کو معاف کر کے رہا کر دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ان پر یہ حجت قائم کر دیں کہ انہوں نے ان پر ظلم کر کے ان کو قید کیا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کا حسن صبر اور قوت عزم تھا۔ نبی کریم ﷺ عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾
 ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۴۰)۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ [الأنعام: ۸۳] قَالَ: بِالْعِلْمِ، قُلْتُ: مَن حَدَّثَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ۔ (مسند احمد: ۴۴۹)

”امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے کہا: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ یعنی علم کے ذریعے، میں نے ایک راوی سے کہا: تجھے کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اس نے کہا: زید بن اسلم یہ گمان کرتے ہیں۔“

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ”اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم

(۸۶۳۹) تخریج: أخرجه بنحوه ومختصرا البخاری: ۳۳۷۵، ومسلم: ص ۱۸۴۰ (انظر: ۹۰۶۰)

(۸۶۴۰) تخریج: اثر صحیح (انظر: ۴۴۹)

درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“
یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل، جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم سے نہ بن پڑا۔

سُورَةُ الرَّعْدِ

سورہ رعد

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾
﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۴۱)۔ عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ۷] قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النُّنْذِرُ وَالْهَادِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ۔ (مسند احمد: ۱۰۴۱) ہاشم میں سے ایک آدمی ہے۔“ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ڈرانے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے رہنما ہوتا ہے اس کی تفسیر میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ڈرانے والا اور رہنمائی کرنے والا بنو ہاشم میں سے ایک آدمی ہے۔“

امام حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا علی نے یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ اور پھر کہا: رسول اللہ ﷺ المنذر وأنا الهادي۔ (رسول اللہ ﷺ نے ڈرانے والے ہیں اور میں رہنمائی کرنے والا ہوں)۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حسین بن حسن الاشقر راوی منکر الحدیث ہے مزید دیکھیں مسند احمد محقق ج ۲، ص ۳۰۶۔ (عبداللہ رفیق)

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾
﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ کی تفسیر

(۸۶۴۲)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ يَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! إِنَّا نَسَأُ لَكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَبِأَنْ تَبْتَأَنَا بِهِنَّ عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيلُ عَلَى بَنِيهِ إِذْ ”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: اے ابوالقاسم! ہم آپ سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، اگر آپ ان کے جوابات دیں گے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ برحق نبی ہیں اور ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، آپ

(۸۶۴۱) تخریج: اسنادہ ضعیف، وفي متنه نكارة، مطلب بن زياد، واسماعيل بن عبد الرحمن السدي،

مثل هذين الراويين لا يحتملان مثل هذا المتن - أخرجه الحاکم: ۳ / ۱۲۹ (انظر: ۱۰۴۱)

(۸۶۴۲) تخریج: صحیح، قاله الالبانی - أخرجه الترمذی: ۳۱۱۷ (انظر: ۲۴۸۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ان سے اس طرح عہد لیا، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا، جب انھوں نے کہا تھا ”ہم جو بات کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ سوال پیش کرو۔“ (۱) انہوں نے کہا: ہمیں نبی کی نشانی بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔“ (۲) انھوں نے کہا: یہ بتائیں کہ نر اور مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مردوزن کا آب جو ہر دونوں ملتے ہیں، جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے، تو نر پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا آب جو ہر غالب آتا ہے تو مادہ پیدا ہوتی ہے۔“ (۳) انہوں نے کہا: ہمیں بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام نے خود پر کیا حرام قرار دیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انہیں عرق نساء کی بیماری تھی، انہیں صرف اونٹنیوں کا دودھ موافق آیا، تو صحت ہونے پر اونٹوں کا گوشت خود پر حرام قرار دے دیا۔“ انہوں نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں، (۴) اچھا یہ بتائیں کہ یہ رعد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، جس کے سپرد بادل ہیں یا اس فرشتہ کے ہاتھ میں آگ کا ہنتر ہے، جس کے ساتھ وہ بادلوں کو چلاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے۔“ انہوں نے کہا: یہ آواز کیا ہے جو سنی جاتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اسی ہنتر کی آواز ہے۔“ انہوں نے کہا: آپ نے سچ کہا ہے۔ (۵) انہوں نے کہا: ایک بات رہ گئی ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو ہم آپ کی بیعت کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو اس کے پاس بھلائی یعنی وحی لے کر آتا ہے، آپ بتائیں آپ کا فرشتہ ساتھی کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام ہیں۔“ اب کی بار انھوں نے کہا:

قَالُوا: ﴿اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ قَالَ: ((هَاتُوا.)) قَالُوا: أَخْبِرْنَا عَنْ عَلَامَةِ النَّبِيِّ، قَالَ: ((تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا كَيْفَ تُؤْتِي الْمَرْأَةَ وَكَيْفَ تُذَكِّرُ؟ قَالَ: ((يَلْتَقِي الْمَاءُ إِنْ إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَتْ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ أَثْنَتْ.))، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: ((كَأَن يَسْتَكْبِي عِرْقَ النِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَانِمُهُ إِلَّا أَلْبَانَ كَذًا وَكَذَا.)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي الْبَابِلَ فَحَرَّمَ لِحُومَهَا، قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالُوا: أَخْبِرْنَا مَا هَذَا الرَّعْدُ؟ قَالَ: ((مَلَكٌ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ بِيَدِهِ، أَوْ فِي يَدِهِ مَخْرَاقٌ مِنْ نَارٍ، يَزْجُرُ بِهِ السَّحَابَ، يَسُوقُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ.)) قَالُوا: فَمَا هَذَا الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ؟ قَالَ: ((صَوْتُهُ.))، قَالُوا: صَدَقْتَ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الَّتِي نُبَايِعُكَ إِنْ أَخْبَرْتَنَا بِهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا لَهُ مَلَكٌ يَأْتِيهِ بِالْخَبَرِ، فَأَخْبِرْنَا مَنْ صَاحِبُكَ؟ قَالَ: ((جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.)) قَالُوا: جِبْرِيلُ؟ ذَلِكَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَالْعَذَابِ عَدُوْنَا. لَوْ قُلْتَ: مِيكَائِيلَ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ لَكَانَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ (مسند احمد: ۲۴۸۳)

جبریل، یہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ میکائیل کہتے جو کہ رحمت، نباتات اور بارش کے ساتھ نازل ہوتا ہے، تو پھر بات نبی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۷)

”کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔“

فوائد:..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۸۷)

سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ

سورہ ابراہیم

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ...﴾
﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ﴾..... ”اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے۔ وہ اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ”جب یہ پانی روزخی کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس کو ناپسند کرے گا، پھر جب وہ منہ قریب کرے گا تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور اس کے سر کی کھال اس میں گر جائے گی اور جب اس کو پئے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی جو کہ

(۸۶۴۳)۔ عَنِ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ﴾ [ابراہیم: ۱۶-۱۷] قَالَ: ((يُقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ فَإِذَا دَنَا مِنْهُ شَوَىٰ وَجْهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، وَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ))، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ وَيَقُولُ اللَّهُ: ﴿وَإِنْ

(۸۶۴۳) تخريج: ضعيف، قاله الالبانى - أخرجه الترمذى: ۲۵۸۳ (انظر: ۲۲۲۸۵)

يَسْتَعِيشُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي
الْوُجُوهُ بِنَسِ الشَّرَابِ ﴿[الكهف: ٢٩]-
(مسند احمد: ٢٢٦٤١)

اس کے پانخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ﴾.....
”ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔“ مزید فرمایا: ﴿وَإِنْ يَسْتَعِيشُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِنَسِ الشَّرَابِ﴾..... ”اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے۔“

فوائد: أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ - (اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے پناہ عطا فرمائے) آمین۔

بَابُ: ﴿الْمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ...﴾
﴿الْمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ...﴾ کی تفسیر

(٨٦٤٤)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ وہ درخت ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور میرا خیال آئنا النخلۃ۔“ (مسند احمد: ٥٦٤٧) تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔“

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (سورۃ ابراہیم: ٢٤، ٢٥)

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان فرمائی (کہ وہ) ایک پاکیزہ درخت کی طرح (ہے) جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے۔ وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“

حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں کہا: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جما ہوا ہے، اس کی شاخ آسمان میں ہے، یعنی اس توحید کے کلمہ کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے کہ مراد اس سے مومن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام، مومن کھجور کے درخت کے مثل ہے، ہر وقت، ہر صبح، ہر شام اس کے اعمال آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے پاس

(٨٦٤٤) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف شريك بن عبد الله النخعی (انظر: ٥٦٤٧)

کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا، آپ ﷺ نے اس کو دیکھ کر اسی آیت کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔

درج ذیل حدیث میں اس درخت کی مزید وضاحت کی گئی ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدَّثُونِي مَا هِيَ؟)) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((هِيَ النَّخْلَةُ.)) (صحيح بخاري: ٦١، ٦٢، ١٣١، صحيح مسلم: ٨/١٣٧)

”ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟“ لوگ جنگل کے مختلف درختوں کے بارے میں غور و خوض کرنے لگ گئے۔ عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میرا خیال تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بیان کرنے سے شرماتا رہا۔ بالآخر صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ خود ہی وضاحت کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کھجور کا درخت ہے۔“

کھجور کے درخت کا پھل پکنے سے پہلے کئی مراحل میں کھایا جاتا ہے، اس کی گٹھلی جانوروں کے چارے میں استعمال ہوتی ہے، آجکل کہا جاتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، یہ پھل تیار ہونے کے بعد عرصہ دراز تک خشک کھجور کی شکل میں باقی رہتا ہے۔ یہ درخت سال کے بارہ مہینے سرسبز رہتا ہے۔ اس کے پتوں سے چٹائیاں اور رسیاں بنائی جاتی ہیں۔ غرضیکہ کسی نہ کسی انداز میں یہ درخت فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور سال کے ہر موسم میں۔ یہی مومن کی مثال ہے کہ اس کا وجود زمان و مکاں سے بالاتر ہو کر مبارک ہے، وہ ہر کس و تا کس اور ادنیٰ و اعلیٰ کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، کسی فرد کو اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا اور نہ کسی کو اس کے وجود سے کسی قسم کا خطرہ رہتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بلا امتیاز لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیز وہ ایسے انداز میں زندگی گزارتا ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

بَابُ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾
﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ کی تفسیر

(٨٦٤٥)۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ذَكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ: (يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ رَبِّي) اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں، یہ درست جواب اللہ تعالیٰ کے

النَّزِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)۔ ((ابراہیم: ۲۷) يَغْنَىٰ بِذَلِكَ الْمُسْلِمِ، زَادَ فِي رَوِيَّةٍ: وَفِي الْآخِرَةِ۔ (مسند احمد: ۱۸۷۷۶)

اس فرمان کا مصداق ہے: ﴿ثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾.....
”اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔“ یعنی اس سے مراد مسلمان ہے۔

فوائد:..... عذاب قبر سے متعلقہ ابواب میں اس موضوع کی طویل احادیث کا بیان ہے۔

بَابُ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾
﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ کی تفسیر (۸۶۴۶)۔ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ آيَةِ: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((عَلَى الصَّرَاطِ))۔ (مسند احمد: ۲۴۵۷۰)

”سروق سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے لوگوں میں سب سے پہلے نبی کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾.....
”جس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اور آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، جو کیتا و یگانہ اور زبردست ہے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پل صراط پر۔“

فوائد:..... سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُمُ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ))..... جس دن زمین و آسمان کو تبدیل کیا جائے گا، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔“ (صحیح مسلم: ۴۷۳)

سُورَةُ الْحَجَرِ

سورة حجر

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ...﴾
 ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۴۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ حَسَنَاءُ تُصَلِّيَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِئِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهَا: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: ۲۴]۔ (مسند احمد: ۲۷۸۳)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک حسین عورت، نبی کریم ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھی، کچھ لوگ اس نظریے سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکیں اور کچھ لوگ آخری صف میں اس نیت سے کھڑے ہوتے تھے کہ جب وہ رکوع کریں گے تو بغلوں کے نیچے سے اسے دیکھیں گے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾..... ”ہم تم میں سے آگے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی جانتے ہیں۔“

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: حافظ ابن کثیر نے (تفسیر القرآن العظیم: ۱۲/۵ - ۱۳) میں کہا: یہ بڑی غریب اور ناقابل تسلیم خبر ہے۔ لیکن میں (البانی) کہتا ہوں: حافظ ابن کثیر نے جس غرابت اور تفرّد کا دعویٰ کیا ہے، دوسرے طرق کی وجہ سے اس کی نفی ہو جاتی ہے،..... ان طرق میں اگرچہ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں اور حدیث قابل عمل بن سکتی ہے۔ ان تمام طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نماز کی صفوں کے بارے میں نازل ہوئی،۔ رہا مسئلہ اس حدیث کے ناقابل تسلیم ہونے کا، تو ممکن ہے کہ حافظ صاحب کی مراد یہ ہو کہ یہ متن معقول المعنی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ کے زمانے میں نمازی صحابہ ایک عورت کو دیکھنے کی خاطر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں؟ ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ جب روایت ثابت ہو جاتی ہے تو غور و فکر کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، حدیث کے ثبوت کے بعد اس کی نکارت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، اگر ہم عقل کو معیار بنائیں گے تو کوئی احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا، یہ روش اہل السنۃ اور اہل الحدیث کو زیب نہیں دیتی، یہ تو معتزلہ اور خواہش پرست

(۸۶۴۷) تخریج: صحیح، قالہ الالبانی۔ أخرجه ابن ماجہ: ۱۰۴۶، والترمذی: ۳۱۲۲، والنسائی: ۲/

۱۱۸ (انظر: ۲۷۸۳)

لوگوں کا رویہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے یہ لوگ منافق ہوں یا نو مسلم صحابہ ہوں، جو اُس وقت تک اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلامی آداب و اخلاق کے سانچے میں نہ ڈھال سکے ہوں۔ (صحیح: ۲۴۷۲)

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ کی تفسیر

(۸۶۴۸)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي أُمَّ الْقُرْآنِ: ((هِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)) (مسند احمد: ۹۷۸۷)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ام القرآن (یعنی سورہ فاتحہ) کے بارے میں فرمایا: ”یہی وہ سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور اسی سورت کو قرآن عظیم کہتے ہیں۔“

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۸۴۷۳) والاباب۔

(۸۶۴۹)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَفْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)) (مسند احمد: ۲۱۴۱۰)

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل کی اور نہ انجیل میں، یہی بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں اور یہ سورت میں (اللہ) اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے، جو اس نے سوال کیا۔“

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۸۴۷۷)

سُورَةُ النَّحْلِ

سورة نحل

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۵۰)۔ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا

(۸۶۴۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۴۷۰۴ (انظر: ۹۷۸۸)

(۸۶۴۹) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم۔ أخرجه الترمذی: ۳۱۲۵، والنسائی: ۱۳۹/۲ (انظر: ۲۱۰۹۴)

(۸۶۵۰) تخريج: اسنادہ ضعیف، شهر بن حوشب مختلف فیہ، و عبد الحمید بن بہرام مختلف فیہ ایضا

(انظر: ۲۹۱۹)

نبی کریم ﷺ مکہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس سے عثمان بن مظعون کا گزر ہوا اور وہ نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر مذاق سے ہنسے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عثمان! کیا تم ہمارے پاس بیٹھ نہیں جاتے؟“ اس نے کہا: ”جی کیوں نہیں، نبی کریم ﷺ ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے، اچانک آپ ﷺ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظر نیچے کی اور دائیں جانب زمین پر دیکھا۔ پھر آپ ﷺ اپنے ساتھی عثمان کی طرف سے منحرف ہو گئے اور سر جھکائے انداز پر بیٹھ گئے، گویا کہ آپ ﷺ کسی سے کوئی بات سمجھ رہے ہوں۔ ابن مظعون یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے اپنا کام پورا کر لیا اور جو آپ ﷺ سے کہا گیا تھا وہ سمجھ لیا، تو پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، جس طرح پہلی مرتبہ اٹھائی تھی، اپنی نظر کو اس چیز کے پیچھے لگایا حتیٰ کہ وہ چھپ گئی، پھر آپ ﷺ عثمان کی جانب پہلے کی مانند متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا: اے محمد! جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا آتا جاتا ہوں، تو جس طرح آپ نے صبح کیا تھا، اس طرح آپ نے کبھی نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے مجھے کیا کرتے دیکھا ہے؟“ اس نے کہا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے، پھر آپ نے دائیں جانب جھکائی ہے، پھر آپ نے مجھ سے اعراض کر لیا اور مجھے چھوڑ دیا اور اس طرح سر جھکالیا تھا، جس طرح آپ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے یہ حالت دیکھی ہے؟“ عثمان نے کہا: جی میں نے دیکھی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابھی تمہارے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا قاصد آیا تھا۔“ عثمان نے کہا: اللہ کا قاصد؟

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفَنَاءِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا تَجْلِسُ؟)) قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ فَيَسْمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ، إِذْ شَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ، فَأَخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتَّى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يَنْغُضُ رَأْسَهُ كَأَنَّهُ يَسْتَفِهُ مَا يَقَالُ لَهُ وَابْنُ مَظْعُونٍ يَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفِهُ مَا يَقَالُ لَهُ، شَخَّصَ بَصَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا شَخَّصَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَأَتْبَعَهُ بَصَرُهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى عُثْمَانَ بِجَلِيسَتِهِ الْأُولَى، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِيمَ كُنْتَ أَجَالِسُكَ وَأَيْتِكَ مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: ((وَمَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ؟)) قَالَ: رَأَيْتُكَ تَشَخَّصُ بِبَصْرِكَ لِي السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ وَضَعْتَهُ عَلَى يَمِينِكَ، فَتَحَرَّفْتَ إِلَيْهِ وَتَرَكْتَنِي فَأَخَذْتَ تُنْغِضُ رَأْسَكَ كَأَنَّكَ تَسْتَفِهُ شَيْئًا يُقَالُ لَكَ. قَالَ: ((وَفِطْنَتَ لَذَاكَ؟)) قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ آتِفًا، وَأَنْتَ جَالِسٌ.)) قَالَ:

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ انھوں نے کہا: تو پھر اس نے کیا کہا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے کہا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾..... ”بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتے ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو۔“ سیدنا عثمان بن مطعون کہتے ہیں: اس وقت سے ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی اور میں محمد ﷺ سے محبت کرنے لگا تھا۔

”سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک آپ ﷺ نے نگاہ اٹھائی اور پھر نیچے جھکائی، اور قریب تھا کہ آپ ﷺ زمین کے ساتھ لگا دیں، پھر آپ ﷺ نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا: ”جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ آیت فلاں سورت کے فلاں مقام پر رکھوں: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾..... ”بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو۔“

بَابُ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية
﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ کی تفسیر

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے احد کے دن انصار میں سے چونسٹھ اور مہاجرین میں سے چھ آدمی شہید ہو گئے،

رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ۹۰] قَالَ عُمَانُ: فَذَلِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَخْبَبْتُ مُحَمَّدًا۔ (مسند احمد: ۲۹۱۹)

(۸۶۵۱)۔ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا إِذْ شَخَّصَ بَصَرَهُ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ، قَالَ: ثُمَّ شَخَّصَ بَصَرَهُ، فَقَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ۹۰]۔ (مسند احمد: ۱۸۰۸۱)

(۸۶۵۲)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ

(۸۶۵۱) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف لیث بن ابی سلیم، وشہر بن حوشب (انظر: ۱۷۹۱۸)

(۸۶۵۲) تخریج: اسنادہ حسن۔ أخرجه الترمذی: ۳۱۲۹ (انظر: ۲۱۲۲۹)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض افراد نے کہا: اب اگر ہمیں کسی دن موقع ملا تو ہم کئی گنا بڑھ کر زیادتی کریں گے، پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس دن ایک آدمی نے کہا: آج کے بعد قریش کا نام نہ رہے گا۔ لیکن ادھر نبی کریم ﷺ کے منادی نے یہ آواز دی: سیاہ فام ہو، سفید فام ہو، ہر ایک کو امن مل گیا ہے، ماسوائے فلاں فلاں کے، چند لوگوں کے نام لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ”اگر تم بدلہ لو تو جس طرح تمہیں سزا دی گئی ہے، اتنی ہی سزا دو اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہو گا۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہم صبر کریں گے اور سزا نہیں دیں گے۔“

بَابُ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ﴾
﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ آپ ﷺ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیں اور پہاڑوں کو ان سے دور کر دیں، تا کہ (جگہ ہموار ہو جائے اور) وہ کھیتی باڑی کر سکیں، آپ ﷺ سے کہا گیا: اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو مہلت دے دیں اور چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان کا مطالبہ پورا کر دیں، لیکن اگر مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا تو میں انہیں اس طرح ہلاک کر دوں گا، جس طرح ان سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔“ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

رَجُلًا، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةً، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَنُرِيَنَّ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، قَالَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ: لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَمِنَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، نَاسًا سَمَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ۱۲۶] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَضْبِرُوا وَلَا نُعَاقِبُ.)) (مسند احمد: ۲۱۵۴۹)

(۸۶۵۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، وَأَنْ يُحَيَّ الْجِبَالَ عَنْهُمْ فَيَزِدْرِعُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَسْتَأْنِي بِهِمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤْتِيَهُمُ الَّذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكْتَ مَنْ قَبْلَهُمْ، قَالَ: ((لَا بَلَّ أَسْتَأْنِي بِهِمْ.))، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَآتَيْنَا مُوَدَّ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾ [الاسراء: ۵۹]۔ (مسند احمد: ۲۳۳۳)

(۸۶۵۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۲۹۰،
والحاكم: ۲/ ۳۶۲ (انظر: ۲۳۳۳)

فرمائی: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَعْوِيفًا﴾ ”اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انھیں جھٹلادیا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انھوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجے مگر ڈرانے کے لیے۔“

فوائد: یہ کوئی شرعی قانون نہیں ہے کہ دشمنوں کا ہر مطالبہ پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی روشنی میں اور اتمام حجت کے لیے مختلف نشانیوں کا اظہار تو کرتا ہی رہتا ہے، وگرنہ گزر جانے والی امتوں نے نشانی کا مطالبہ پورا ہونے کے بعد نہ صرف ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ وہ ظلم میں اور آگے بڑھ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِئْسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَلِّفُ السُّيُوءَاتِ﴾ (سورہ رعد: ۳۱)

”اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ (اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

بَابُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾
﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ کی تفسیر

(۸۶۵۴)۔ عَنِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الاسراء: ۶۰] ”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس منظر سے مراد ہے..... ”اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا، نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔“

قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ رَأَاهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ

آنکھ کا دیکھنا ہے، جو نبی کریم ﷺ نے معراج کی رات کو دیکھا تھا۔“

اُسری بہ۔ (مسند احمد: ۱۹۱۶)

” (دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ اس آیت ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ ”اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا، نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ اس سے مراد وہ چیز ہے، جو حالت بیداری میں تھی جو آپ ﷺ نے اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھی جب آپ ﷺ کو بیت المقدس کی جانب لے جایا گیا تھا۔“

(۸۶۵۴م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ شَيْءٌ أُرِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْبَيْتَةِ رَأَاهُ بِعَيْنِهِ جِئْنَا بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ۔ (مسند احمد: ۳۵۰۰)

فوائد: اسراء و معراج کا سفر نبی کریم ﷺ کا کھلا معجزہ ہے، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ ساتھ ساتھ لوگوں کی آزمائش اور امتحان بھی ہے، حدیث نمبر (۱۰۵۶۳) اور اس کے بعد والی احادیث میں اسراء و معراج کی تفصیل موجود ہے۔

بَابُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾
﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ کی تفسیر

(۸۶۵۵)۔ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الاسراء: ۷۸] قَالَ: ((تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ))“
”اور فجر کا قرآن (پڑھ)، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”رات اور دن کے فرشتے اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔“ (مسند احمد: ۱۰۱۳۷)

فوائد: اس آیت میں ”قرآن“ سے مراد قراءت ہے، دراصل نماز فجر کی قراءت کا ذکر کر کے اس نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، نیکیاں اور برائیاں نوٹ کرنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر کی نمازوں میں تبدیل ہوتی ہیں، آنے والے اور جانے والے دونوں ان نمازوں میں شریک ہوتے ہیں۔

(۸۶۵۴م) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط البخاری، وانظر الحديث بالطريق الاول

(۸۶۵۵) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه ابن ماجه: ۶۷۰، والترمذی: ۳۱۳۵ (انظر: ۱۰۱۳۳)

بَابُ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾
 ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ کی تفسیر

(۸۶۵۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الاسراء: ۷۹] قَالَ: ((هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ)) (مسند احمد: ۹۶۸۲)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾..... (قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔) کے بارے میں فرمایا: ”یہ وہ مقام ہے، جہاں میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔“

بَابُ: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ...﴾
 ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۵۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾ [الاسراء: ۸۰]۔ (مسند احمد: ۱۹۴۸)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر یہ حکم نازل فرمایا: ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾.....“ اور کہہ اے میرے رب! داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔“

فوائد:..... اس آیت کے بارے میں درج ذیل تین اقوال ہیں:

- (۱) یہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، جب کہ آپ ﷺ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔
- (۲) اس میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ سچائی کے ساتھ موت ملے اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے۔
- (۳) یہ دعا کی جا رہی ہے کہ قبر میں سچا داخل کیا جائے اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے تو سچائی کے ساتھ نکالا جائے۔

امام شوکانی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے، اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔

(۸۶۵۶) تخریج: حسن لغیرہ (انظر: ۹۶۸۴)

(۸۶۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف قابوس۔ أخرجه الترمذی: ۳۱۳۹ (انظر: ۱۹۴۸)

بَابُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾
 ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا: ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، جس کے بارے میں ہم اس آدمی (محمد ﷺ) سے سوال کریں (اور اس کو لا جواب کر دیں)، انہوں نے کہا: اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، پس جب انہوں نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾..... ”یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“ انہوں نے کہا: ہمیں تو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، ہمیں تورات دی گئی اور جس کو تورات دے دی جائے، اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی جاتی ہے، ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی: ﴿قُلْ لَوْ كَانِ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِشْرِهِ مَدَدًا﴾..... ”کہہ دے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔“

(۸۶۵۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِيَهُودٍ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَسَأَلُوهُ فَتَزَلَّتْ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ۸۵] قَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا، أُوتِينَا التَّوْرَةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَةَ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لَوْ كَانِ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ﴾ [الكهف: ۱۰۹]۔ (مسند احمد: ۲۳۰۹)

فوائد:..... یہودی ایک ہٹ دھرم، جنتی اور حق سے منحرف قوم تھی، وہ حق کو کسی صورت قبول کرنے والے نہیں تھے۔

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا، جبکہ آپ ﷺ ایک ٹہنی پر ٹیک لگا رہے تھے، اتنے میں

(۸۶۵۹)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَّكٍ عَلَى عَصِيْبٍ، قَالَ: فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ

(۸۶۵۸) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه الترمذی: ۳۱۴۰ (انظر: ۲۳۰۹)

(۸۶۵۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۲۵، ۴۷۲۱، ۷۴۵۶، ۷۴۵۶، ۲۷۹۴ (انظر: ۳۶۸۸)

آپ ﷺ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، بعض نے کہا کہ اس سے کوئی بات مت پوچھو، لیکن پھر انہوں نے پوچھ لیا اور کہا: اے محمد! روح کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ ٹہنی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، میں نے خیال کیا کہ آپ ﷺ پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾..... ”یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“ پھر ان میں سے بعض افراد دوسروں سے کہنے لگے: ہم نے تم کو کہا تو تھا کہ ان سے سوال نہ کرو۔“

فوائد:..... روح ایک لطیف چیز ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے، اگر وہ نہ ہو تو وجود، مردہ پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، بس اس کے بارے میں اتنا جان لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

بَابُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۶۰)۔ عَنْ عَسْرُو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ يَزِيدُ الْمُرَادِيُّ: قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ يَزِيدُ: إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ﴾ [الاسراء: ۱۰۱] فَقَالَ: لَا تَقُلْ لَهُ

”سیدنا صفوان بن عسّال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا: آؤ ہم اس نبی کے پاس چلیں اور اس سے اس آیت کے بارے میں پوچھیں ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ﴾..... (اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو (۹) نشانیاں دیں تھیں)۔ دوسرے یہودی نے کہا: اسے نبی مت کہہ، اگر اس نے یہ سن لیا تو اس کو چار آنکھیں لگ جائیں گی، (یعنی وہ بہت خوش ہوگا کہ یہودی بھی اس کو نبی کہتے

(۸۶۶۰) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف عبد الله بن سلمة المرادي - أخرجه الترمذی: ۲۷۳۳،

والنسائی: ۱۱۱/۷، وابن ماجه: ۳۷۰۵ (انظر: ۱۸۰۹۲)

ہیں۔ پس وہ آئے اور سوال کیا اور نبی کریم ﷺ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اسے قتل نہ کرو، مگر حق کے ساتھ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بری اور بے گناہ آدمی کو بادشاہ کے پاس اس لئے نہ لے جاؤ کہ اسے قتل کروادو، پاکدامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، یا فرمایا جنگ کے دن میدان سے نہ بھاگو، اور اے یہودیو! تم خصوصاً خیال رکھنا کہ ہفتہ کے دن حد سے نہ بڑھو۔“ ان یہودیوں نے آپ ﷺ کا ہاتھ پاؤں چوما اور کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ نبی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر میری پیروی کرنے میں کون سی چیز مانع اور رکاوٹ ہے؟“ انہوں نے کہا: داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی نسل سے ہمیشہ نبی آتا رہے، اس لیے اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں ڈر ہے کہ یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔“

نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَكَ لَصَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةٌ
أَعْيُنٍ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِفُوا، وَلَا
تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا،
وَلَا تَمْشُوا بِبِرِّي إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ،
وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، أَوْ قَالَ: تَقْرُوا مِنْ
الزَّخْفِ-))، شُعْبَةُ الشَّائِكِ، ((وَأَنْتُمْ يَا
يَهُودُ! عَلَيْكُمْ خَاصَّةٌ أَنْ لَا تَعْتَدُوا، نَالَ
يَزِيدُ: تَعْدُوا فِي السَّبْتِ-)) فَقَبَّلَا يَدَهُ
وَرَجَلَهُ، قَالَ يَزِيدُ: يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ:
نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ
تَتَّبِعَانِي؟)) قَالَ: إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا
أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخْشَى، قَالَ
يَزِيدُ: إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ- (مسند

احمد: ۱۸۲۶۲)

فوائد:..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ﴾..... ”اور البتہ تحقیق ہم نے

موسیٰ علیہ السلام کو نو (۹) نشانیاں دیں تھیں۔“ (سورہ بنی اسرائیل: ۱۰۱)

ان نو نشانوں سے مراد درج ذیل نو معجزے ہیں:

ہاتھ، لائھی، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، جراد (نڈی دل)، قمل (کھٹل، جوئیں)، مینڈک اور خون۔

لیکن حس بصری نے کہا: قحط سالی اور پھلوں کی کمی ایک ہی چیز ہے، اور نواں معجزہ لائھی کا جادو گروں کی شعبہ بازی

کو نگل جاتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیئے گئے تھے، مثلاً: لائھی کا پتھر پر مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہو گئے

تھے، بادلوں کا سایہ کرنا اور من و سلوی وغیر، لیکن اس مقام پر نو نشانوں سے مراد صرف وہ نو معجزات ہیں، جن کا مشاہدہ

فرعون اور اس کی قوم نے کیا ہے، اس لیے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سمندر کے پھٹنے کو ان نو معجزات میں شمار کیا ہے

اور حس بصری کی طرح قحط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شمار کیا ہے۔

بَابُ: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾..... ”اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھ اور نہ اسے پست کر اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر۔“ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تو باواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ جب مشرک قرآن سنتے تو وہ قرآن مجید کو اس کو نازل کرنے والے اور اس کو لانے والے فرشتے کو برا بھلا کہتے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ یعنی اپنی قراءت کو اتنا بلند نہ کرو کہ مشرک سن لیں اور پھر وہ قرآن کو گالی دیں، ﴿وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ اور اس کو اپنے صحابہ سے پست نہ کرو کہ وہ بھی نہ سنیں، تاکہ وہ سن کر اس کو سیکھ سکیں، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔“

(۸۶۶۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَارِبًا بِمَكَّةَ ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافُ بِهَا﴾ عَنِ أَصْحَابِكَ، فَلَا تُسْمِعُهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنكَ ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: ۱۱۰]۔ (مسند احمد: ۱۸۵۳)

فوائد:..... کسی مفدت کی خاطر کوئی مصلحت اختیار کی جاسکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تُسَبُّوا

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (سورہ انعام: ۱۰۸)

”اور انھیں گالی نہ دو جنھیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی

دیں گے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے،

اگرچہ اس میں مصلحت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پائی جانے والے مفدت بڑی ہے اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ ایسا مشرک اپنی نادانی کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگ جائے۔

بَابُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ...﴾
 ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ...﴾ کی تفسیر

(۸۶۶۲)۔ عَنِ سَهْلِ بْنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: آيَةُ الْعِزِّ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ...﴾ آيَةُ كُلِّهَا [الاسراء: ۱۱۱]۔ (مسند احمد: ۱۵۷۱۹)

”سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عزت والی آیت یہ ہے: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلِيُّ مَنَ الذُّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا﴾ (سورۃ اسراء: ۱۱۱) ”اور کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائی بیان کر، خوب بڑائی بیان کرنا۔“

فوائد: یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عزیز اور مہجور ہونے پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی صفات عالیہ کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔

سُورَةُ الْكَهْفِ

سورۃ کہف

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
 سورۃ کہف کی فضیلت کا بیان

(۸۶۶۳)۔ عَنِ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ نُورِهَا))

”سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی یا آخری آیات کی تلاوت کی تو اس کے قدم سے سرتک نور ہوگا،

(۸۶۶۲) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه - أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۰ / ۴۳۰ (انظر: ۱۵۶۳۴)

(۸۶۶۳) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف زبان بن فائد، وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه - أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۰ / ۴۴۳ (انظر: ۱۵۶۲۶)

قَدِمِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.)) (مسند احمد: ۱۵۷۱۱)

اور جس نے اس ساری سورت کی تلاوت کی، اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہوگی۔“

(۸۶۶۴)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ.)) (مسند احمد: ۲۸۰۹۰)

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔“

(۸۶۶۵)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.)) (مسند احمد: ۲۸۰۶۶)

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سورہ کہف کی آخری آیات پڑھیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔“

فوائد: صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے۔ جمع کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے، جیسا کہ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.)) ”جس نے جمع کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور روشن کر دے گا۔“

(الدعوات الكبير للبيهقي، مشكوة المصابيح)

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا...﴾

﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا...﴾ کی تفسیر

(۸۶۶۶)۔ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَلَا وَإِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.)) (مسند احمد: ۱۸۵۴۳)

”سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! یہ چار کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ أَكْبَرُ۔“

(۸۶۶۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۰۹ (انظر: ۲۷۵۳۹)

(۸۶۶۵) تخریج: انظر الحديث السابق، لكن شد في شعبة فقال: ”من أواخر سورة الكهف“، والمحموظ لفظة ”من أول سورة الكهف“ - أخرجه (انظر:)

(۸۶۶۶) تخریج: صحيح لغيره (انظر: ۱۸۳۵۳)

فوائد: درج ذیل آیات سے درج بالا آیت کا مفہوم سمجھنا آسان ہے: ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا هِيَ مَرْجُلُ مِمَّا يُنْتَبِهُ مِنَ الشَّجَرِ فَأَخْتَلَطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا. الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (سورہ: ۴۵، ۴۶)

”اور اے نبی (ﷺ)، انہیں حیاتِ دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر ندرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔“

دنیا اپنے زوال، فنا، خاتمے اور بردباری کے لحاظ سے آسمانی بارش کی طرح ہے، جو زمین کے دانوں وغیرہ سے ملتی ہے اور ہزار ہا پودے لہلہانے لگتے ہیں، تروتازگی اور زندگی کے آثار ہر چیز سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے گزرتے ہی وہ سوکھ ساکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں انہیں دائیں بائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہی ہیں۔

باب: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَتَاةٍ﴾
وَقِصَّةُ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَىٰ
خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قصہ

(۸۶۶۷)۔ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ، عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ النَّاقِدُ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا اشْأَمِيًّا يَزْعَمُ أَوْ يَقُولُ: لَيْسَ مُوسَىٰ صَاحِبُ خَضِرٍ مُوسَىٰ بِنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: كَذَبَ نَوْفٌ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَطِيئًا فَقَالُوا لَهُ: مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَنَا، فَأَوْحَى اللَّهُ

”سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: نوف شامی کا خیال ہے کہ جس موسیٰ کی خضر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بنو اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں، انھوں نے کہا: اللہ کے دشمن نوف نے جھوٹ بولا ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یشک موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان سے پوچھا: لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں ہوں، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کر دی کہ میرا ایک بندہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے، انھوں نے کہا: اے میرے رب! تو

پھر وہ مجھے دکھاؤ، ان سے کہا گیا کہ تم ایک مچھلی پکڑو اور اس کو ایک ٹوکری میں ڈالو، جہاں تم اس کو گم پاؤ گے، وہ وہاں ہوگا، پس انہوں نے مچھلی پکڑی اور اس کو ایک ٹوکری میں رکھا اور انہوں نے اور ان کے ایک ساتھی نے ساحل کی طرف چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، مچھلی نے ٹوکری میں حرکت کی اور سمندر میں کود گئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے داخل ہونے والی جگہ کا پانی روک لیا (اور یوں ایک غاری نظر آنے لگی)، جب پانی مضطرب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے (اور کہیں آگے جا کر اپنے نوجوان سے) کہا: ”لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔“ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام سے آگے گزر کر تھکاوٹ محسوس کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آگے سے ”اس نوجوان نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جب کہ ہم چٹان پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا۔“ ”چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔“ پس انہوں نے اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ”اور اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔“ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چلاؤ روک لیا اور وہ جگہ طاق کی طرح نظر آنے لگا، یہ مچھلی کے لیے انوکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے عجیب کام تھا، بہر حال وہ دونوں بالآخر اس چٹان تک پہنچ گئے، مطلوبہ مقام پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کپڑا ڈھانپا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا، اس نے آگے سے کہا: تیرے علاقے میں سلام کیسے آگیا؟ انہوں نے کہا: میں موسیٰ ہوں، خضر علیہ السلام نے کہا: بنو اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا: جی

تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا أَعْلَمَ مِنْكَ، قَالَ: رَبِّ فَأَرِنِيهِ؟ قَالَ: قِيلَ تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ نَسَمٌ، قَالَ: فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ وَجَعَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى آتَى الصَّخْرَةَ رَفَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ، فَحَبَسَ اللَّهُ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ الْمَاءُ فَاسْتَيْقَظَ مُوسَى فَقَالَ: ﴿لَقَدْ آتَيْنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ وَ لَمْ يُصِبِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ ﴿فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فَجَعَلَا يُقِصَّانِ آثَارَهُمَا ﴿وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ قَالَ: أَمْسَكَ عَنْهُ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى عَلَيْهِ عَجْبًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًى عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَسَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بَارِضِكَ السَّلَامُ، قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ﴿أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ قَالَ: يَا مُوسَى! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا تَعْلَمُهُ، وَ أَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمَكَهُ

ہاں، ”میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں۔“ خضر عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا: اے موسیٰ! بیشک مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم دیا گیا ہے کہ تم اس کو نہیں جانتے اور تم کو اسی کی طرف سے ایسا علم دیا گیا ہے کہ میں اس کی معرفت نہیں رکھتا، پھر وہ دونوں ساحل پر چل پڑے (اور خضر عَلَيْهِ السَّلَام نے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام پر پابندی لگا کہ انھوں نے اس سے اس کے کیے کے بارے میں سوال نہیں کرنا)، وہاں سے ایک کشتی گزری، انھوں نے خضر عَلَيْهِ السَّلَام کو پہچان لیا، اس لیے ان کو بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا گیا، لیکن یہ چیز اسے اچھی نہ لگی پھر خضر عَلَيْهِ السَّلَام نے کشتی کو دیکھا اور کلہاڑا لے کر اس کی ایک تختی کو توڑنا چاہا، موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا: ان لوگوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا اور اب تم اس کشتی کو توڑ کر سب سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ ”انھوں نے کہا: میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔“ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا: بیشک میں بھول گیا تھا، پھر ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ بھری، خضر عَلَيْهِ السَّلَام نے اس کو دیکھ کر کہا: اے موسیٰ! میرے اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں صرف اتنی کمی کی ہے، جتنی کہ اس پرندے نے اس سمندر میں کی ہے، ”پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انھوں نے ان کی مہمان داری سے صاف انکار کر دیا۔“ نیز خضر عَلَيْهِ السَّلَام نے وہاں ایک لڑکا دیکھا اور اس کو پکڑ کر اس کا سر اکھاڑ دیا، موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا: ”کیا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بیشک تو نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی، انھوں نے کہا: کیا میں نے تم نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔“ عمرو نے اپنی روایت میں کہا: یہ پہلے کام سے زیادہ سخت کام تھا، پھر وہ دونوں

اللَّهُ، فَاَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ
فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَعَرَفُوهُمَا الْحَضِرَ فَحَمِلَ بَعْضُ
نَوْلِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، وَنَظَرَ فِي السَّفِينَةِ فَاَخَذَ
الْقُدُومَ يُرِيدُ اَنْ يَكْسِرَ مِنْهَا لَوْحًا، فَقَالَ:
حُمِلْنَا بِغَيْرِ نَوْلِ وَتُرِيدُ اَنْ تَخْرُقَهَا لِتَغْرُقَ
اَهْلَهَا ﴿قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
صَبْرًا﴾ قَالَ: اِنِّي نَسِيتُ، وَجَاءَ عَصْفُورٌ
فَنَقَزَ فِي الْبَحْرِ قَالَ الْحَضِرُ: مَا يَنْقِصُ
عِلْمِي وَلَا عِلْمَكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلَّا
كَمَا يَنْقِصُ هَذَا الْعَصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ
﴿فَاَنْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتٰى اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا
اَهْلَهَا فَاَبْوَا اَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾ فَرَاى عُلَمَا
فَاَخَذَ رَاسَهُ فَاَنْزَعَهُ فَقَالَ: ﴿اَقْتَلْتُمْ نَفْسًا
زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْتٰنًا نَّكِرًا، قَالَ
اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾
قَالَ: سَفِيَانٌ، قَالَ عَمْرُو: وَهٰذِهِ اَشَدُّ مِنْ
الْاُولٰى، قَالَ: فَاَنْطَلَقَا فَاِذَا جِدَارٌ يُرِيدُ اَنْ
يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ، اَرٰنَا سَفِيَانٌ بِيَدِهِ فَرَفَعَ يَدَهُ
مُكَدًّا رَفْعًا فَوَضَعَ رَاْحَتَيْهِ فَرَفَعَهُمَا لِيَبْطِنَ
كَفَّيْهِ رَفْعًا فَقَالَ: ﴿لَوْ شِئْتُمْ لَا تَخَذْتُمْ عَلَيْهِ
جُرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: كَانَتْ الْاُولٰى نَسِيَانًا، فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ: ((يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوسٰى لَوْ كَانَ صَبَرَ
حَتّٰى يَقْضَى عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِ)) (مسند

احمد: ۲۱۴۳۱)

چل پڑے، جب خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا، سفیان راوی نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح بلند کیا، پھر اپنی ہتھیلیوں کو رکھا اور پھر ان کو ہتھیلیوں کی اندر دنی سمت کی طرف سے بلند کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، اس نے کہا: بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔“ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ صبر کرتے تاکہ وہ ہم پر اپنے مزید معاملات بیان کرتے۔“

فوائد: مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: احادیث نمبر (۱۰۳۸۲، ۱۰۳۸۳)، خضر علیہ السلام کون تھے؟ دیکھیں:

حدیث نمبر (۱۰۳۹۵)

اگر قارئین موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکمل قصہ پڑھنا چاہیں تو سورہ کہف کی آیت (۸۲ تا ۶۰) اور کسی تفسیر کا مطالعہ کر لیں۔

”سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ نوف شامی بکالی کہتا ہے کہ جو موسیٰ حصول علم کے لئے سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہ تھے، یہ سن کر سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: اے سعید! کیا وہ ایسا ہی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی میں نے خود اس سے یہی سنا ہے، سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: وہ غلط کہتا ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہم پر اور صالح علیہ السلام پر رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد قوم والے میرے پیغمبر بھائی ہود علیہ السلام پر رحمت کرے۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام نے ایک

(۸۶۶۸)۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنَّ نَوْفًا الشَّامِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ الَّذِي ذَهَبَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَيْسَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَكِنًا فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا فَقَالَ: كَذَلِكَ يَا سَعِيدُ! قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ نَوْفٌ، حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ صَالِحٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَخِي عَادٍ))، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مُوسَىٰ ﷺ بَيْنَنَا هُوَ يَخْطُبُ

(۸۶۶۸) تخریج: انظر الحديث السابق

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دفعہ اپنی قوم سے خطاب کیا اور ان سے کہا: روئے زمین میں مجھ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وحی کی کہ فلاں زمین میں تم سے زیادہ علم والا آدمی موجود ہے اور اس سے ملاقات کی علامت یہ ہے کہ ایک نمکین مچھلی لو، جہاں وہ ہاتھ سے نکل جائے، وہ وہاں ہوگا، پس موسیٰ علیہ السلام نے نمکین مچھلی لی اور اپنے نوجوان شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ چل دیئے، جس جگہ کا حکم ملا تھا، جب وہاں پہنچے تو ایک چٹان تھی، جب اس تک گئے تو موسیٰ علیہ السلام کوئی چیز تلاش کرنے گئے اور ان کے شاگرد نے مچھلی چٹان پر رکھی، وہ حرکت میں آئی اور سمندر میں رستہ بنا لیا، شاگرد کہنے لگا کہ سیدنا موسیٰ آئیں گے تو انہیں بتادوں گا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور وہ آگے کو چلتے رہے حتیٰ کہ جب انہیں مسافروں کی مانند تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور تھکاوٹ مطلوبہ جگہ سے آگے گزر جانے کے بعد محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا: ہمیں کھانا دو، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، شاگرد نے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تو مچھلی نے وہاں حرکت کی، لیکن میں بتانا بھول گیا تھا، یہ شیطان ہی نے بھلایا ہے تو اس مچھلی نے سمندر میں جگہ بنا لی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی مقام ہماری مطلوبہ جگہ ہے، اب پچھلے پاؤں انہی نشانات قدم پر واپس آئے، جب اسی چٹان تک پہنچے تو وہاں گھومے، اچانک دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کپڑا لے کر موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کہا، انہوں نے سر اٹھایا اور کہا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، انہوں نے پوچھا: کون سا موسیٰ؟ انہوں نے کہا: بنو اسرائیل والے موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: تمہارے پاس علم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رفاقت میں رہ کر وہ علم حاصل کروں،

قَوْمَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ قَالَ لَهُمْ: مَا فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي، وَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ تُزَوِّدَ حَوْتًا مَالِحًا، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ حَيْثُ تَقَعْدُهُ، فَتَزَوِّدَ حَوْتًا مَالِحًا فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْمَمْكَانَ الَّذِي أُمِرُوا بِهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الصَّخْرَةِ انْطَلَقَ مُوسَى يَطْلُبُ، وَوَضَعَ فَتَاهُ الْحَوْتَ عَلَى الصَّخْرَةِ، وَاضْطَرَبَ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، قَالَ فَتَاهُ: إِذَا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثْتُهُ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، فَانْطَلَقَا فَأَصَابَهُمْ مَا يُصِيبُ الْمُسَافِرَ مِنَ النَّصَبِ وَالْكَلالِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الْمُسَافِرَ مِنَ النَّصَبِ وَالْكَلالِ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿إِنَّا عَدَاءٌ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ قَالَ لَهُ فَتَاهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْسَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ﴾ أَنْ أَحَدْتُكَ ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ قَالَ: أَخْبِرْتُمْ أَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا فَأَ رَدْتُ أَنْ أَضْحَبَكَ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ قَالَ: ﴿فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ قَالَ: قَدْ أَمَرْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ﴿قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا

انہوں نے کہا: تم اس کے حصول کی طاقت نہیں رکھتے، انھوں نے کہا: آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خضر علیہ السلام نے کہا: جس کی آپ کو خبر نہیں اس پر تم صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا: مجھے چونکہ حکم ملا ہے، اس لئے میں صبر کروں گا، خضر علیہ السلام نے کہا: اگر تم میرے سنگ چلے ہو تو پھر جو بھی میں کرتا جاؤں، تم نے نہیں بولنا، میں خود ہی وضاحت کر دوں گا۔ اب دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے، جب وہ رکی تو اس کی سواریاں باہر چلی گئیں تو یہ پیچھے رہ گئے اور انھوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے، کشتی میں بیٹھنے والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو، یہ تو اچھا کام نہیں کیا، خضر علیہ السلام نے کہا: میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں بھول گیا ہوں، اس پر مواخذہ نہ کریں اور تنگ نہ ہوں، پھر چل پڑے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، وہاں بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ سب سے زیادہ صاف ستھرا تھا، خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا، اب کی بات پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا: ایک ایسی جان کو قتل کر دیا ہے، جس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو بہت بری چیز ہوئی ہے، خضر علیہ السلام کے تکرار سے کچھ شرم سی محسوس ہونے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ لے جانا، آپ کا عذر معقول ہوگا۔ اب وہ دونوں چلے اور ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سخت تھک چکے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے، انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، پھر خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، پس انھوں نے اسے درست کر دیا، اس بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اتنی مشقت میں ہم

تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَجَ مَنْ كَانَ فِيهَا وَتَخَلَّفَ لِيَخْرِقَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُوسَى: تَخْرِقُهَا لِتَغْرِقَ اَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْتَا اِمْرًا﴾ ﴿قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِى عُسْرًا﴾ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَوْا عَلٰى غُلَمَانٍ يَلْعَبُوْنَ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ، وَفِيْهِمْ غُلَامٌ لِّسَ فِي الْغُلَمَانِ غُلَامٌ اَنْظَفَ يَعْزِي مِنْهُ، فَاَخَذَهُ فَقَتَلَهُ، فَفَرَّ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَقَالَ: ﴿اَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْتَا نَكَرًا، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ قَالَ: فَاَخَذْتُهُ دَمَامَةً مِنْ صَاحِبِهِ وَاسْتَحٰى، فَقَالَ: ﴿اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا، فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا اَتٰى اَهْلَ قَرْيَةٍ ﴿لِنَاْمَا﴾ اَسْتَطَعْمَا اَهْلَهَا﴾ وَقَدْ اَصَابَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَهْدٌ فَلَمْ يَضِيْفُوْهُمَا، ﴿فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا اُيْرِيْدُ اَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ﴾ قَالَ لَهُ مُوسٰى مِمَّا نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْجَهْدِ: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا، قَالَ هٰذَا فِرَاقٌ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ﴾ فَاَخَذَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِطَرْفِ ثَوْبِهِ فَقَالَ: حَدِّثْنِيْ فَقَالَ: ﴿اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنٍ

بتلا ہیں، اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، خضر علیہ السلام نے کہا: یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، سید ناموسی علیہ السلام نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا: جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس کا پس منظر تو بیان کر دو، خضر علیہ السلام نے کہا: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔) اب جب وہ بادشاہ کے پاس سے گزرے گی اور وہ اس کو سوراخ زدہ دیکھے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، اور (یہ نقص اتنا بڑا بھی نہیں ہے) اس کا مالک لکڑی کا ٹکڑا لگا کا اس کی مرمت کر لے گا اور پھر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، رہا مسئلہ بچے کو قتل کرنے کا تو اس پر کافر کی مہر لگ چکی تھی، جبکہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے تھے، اگر اس معاملے وہ اس کی اتباع کرتے تو وہ ان کو کفر اور سرکشی میں پھنسا دیتا، پس ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ (اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔)، ادھر اس خاندان نے جب اپنی بیوی سے جماع کیا تو اسے حمل ہو گیا اور اس نے بہترین پاکیزگی والا اور بہت صلہ رحمی کرنے والا بچہ جنم دیا۔ ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ﴿وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ﴿فَإِذَا مَرَّ عَلَيْهَا فَرَأَاهَا مُنْخَرِقَةً تَرَكَهَا وَرَفَعَهَا أَهْلُهَا بِقِطْعَةٍ خَشْيَةً فَاثْتَفَعُوا بِهَا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ كَانَ طَبِيعَ يَوْمٍ طَبِيعَ كَافِرًا، وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْ أَبِيهِ وَلَوْ أَطَاعَهُ لَأَرْهَقَهُمَا: ﴿طَغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ وَوَقَعَ أَبُوهُ عَلَى أُمِّهِ فَعَلِقَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾۔ (مسند احمد: ۲۱۱۱۸)

تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - ”اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو تیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔“

بَابُ: ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي...﴾
﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي...﴾ کی تفسیر

(۸۶۶۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ [الكهف: ۷۶] يَنْقُلُهَا۔
 ”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھی: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾، یعنی ”لدنئی“ کو شد کے ساتھ پڑھا۔“
 (مسند احمد: ۲۱۴۴۲)

فوائد:..... ”لدنئی“ یہ جمہور کی قراءت ہے، مزید دو قراءات یہ ہیں: ”لدنئی“ اور ”لدنئی“

(۸۶۷۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا لِأَحَدٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى فَقَالَ: ((رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِ، وَلَكِنْ قَالَ: ﴿إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾۔ (مسند احمد: ۲۱۴۴۴)

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کے لئے دعاء کرتے تو اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کرتے، ایک دن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا ذکر کیا تو فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید معلومات عطا کرتے، لیکن انھوں نے یہ شرط باندھ لی: ﴿إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾.....“
 موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجیے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔“

(۸۶۶۹) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۳۹۸۵، والترمذی: ۲۹۳۳ (انظر: ۲۱۱۲۴)

(۸۶۷۰) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم - أخرجه ابوداود: ۳۹۸۴، والترمذی: ۳۳۸۵ (انظر: ۲۱۱۲۶)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بَابُ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي...﴾
 ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي...﴾ کی تفسیر

(۸۶۷۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطَوْنَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَسَأَلُوهُ فَتَزَلَّتْ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الاسراء: ۸۵] قَالُوا: أُوتِينَا عِلْمًا كَثِيرًا، أُوتِينَا التَّوْرَةَ، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْرَةَ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ﴾ [الكهف: ۱۰۹]۔ (مسند احمد: ۲۳۰۹)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا: ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، جس کے بارے میں ہم اس آدمی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے سوال کریں (اور اس کو لا جواب کر دیں)، انہوں نے کہا: اس سے روح کے بارے میں سوال کرو، پس جب انہوں نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾..... ”یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، تمہیں صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔“ انہوں نے کہا: ہمیں تو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، ہمیں تورات دی گئی اور جس کو تورات دے دی جائے، اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی جاتی ہے، ان کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبُيُوتِهِ مَدَدًا﴾..... ”کہہ دے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاحی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاحی لے آئیں۔“

فوائد:..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۶۵۸)

سُورَةُ مَرْيَمَ

سورہ مریم

بَابُ: ﴿يَا أُخْتِ هَارُونَ﴾

﴿يَا أُخْتِ هَارُونَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۷۲)۔ عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ: فَقَالُوا أَرَأَيْتَ مَا تَقْرَأُ وَنَ ﴿يَا أُخْتِ هَارُونَ﴾ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذِّا وَكَذِّا، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْمُونَ بِأَلَا نَبِيَاءٍ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ)) (مسند احمد: ۱۸۳۸۷)

”سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھے نجران کی جانب بھیجا تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا: تم لوگ اس طرح پڑھتے ہو: ﴿يَا أُخْتِ هَارُونَ﴾..... ”اے ہارون کی بہن!“ جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے طویل عرصہ پہلے گزرے تھے، (تو عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم ان کی بہن کیسے ہو گئی) جب میں واپس لوٹا تو آپ ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے انہیں بتانا تھا کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے نیک لوگوں اور انبیائے کرام کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔“

فوائد:..... عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً تیرہ چودہ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ سیدہ مریم علیہا السلام کے کسی رشتہ دار کا نام ہارون تھا، جو ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، آیت میں سیدہ مریم کو اسی رشتہ دار کی طرف منسوب کر کے اس کی بہن کہا گیا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔

بَابُ: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۷۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَجَبْرِئِيلَ: ((مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا)) قَالَ: فَتَزَلَّتْ ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا: ”تمہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہے کہ اب جتنی ملاقات کرتے ہو، اس سے زیادہ کر لیا کرو؟“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ

(۸۶۷۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۳۵ (انظر: ۱۸۲۰۱)

(۸۶۷۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۱۸، ۴۷۳۱، ۷۴۵۵ (انظر: ۳۳۶۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿مريم: ٦٤﴾ قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسند احمد: ٣٣٦٥)

مَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا..... ”ہم تیرے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے، اسی کے لیے ہے، جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور تیرا رب بھولنے والا

نہیں ہے۔“ یہ محمد ﷺ کے لیے جواب تھا۔“

باب: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾
﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ کی تفسیر

(٨٦٧٤)۔ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حَفْصَةَ يَقُولُ: ((لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا)) فَقَالَتْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٢]۔)) (مسند احمد: ٢٧٩٠٦)

”سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ ﷺ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جن لوگوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی، ان شاء اللہ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔“ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں، پھر جب آپ ﷺ نے ان کو ڈانٹا تو انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾..... ”اور بے شک تم میں سے ہر ایک دوزخ میں وارد ہونے والا ہے۔“ نبی کریم ﷺ نے جواباً فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾..... ”پھر ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوئے، دوزخ سے نجات دیں گے اور ظالموں کو ہم اس میں گھنٹوں کے بل چھوڑ دیں گے۔“

(٨٦٧٥)۔ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادِ الْبُرْسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ: اخْتَلَفْنَا هَاهُنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُنَجَّى

”ابو سمیہ کہتے ہیں: ہم نے دوزخ میں وارد ہونے کے بارے میں اختلاف کیا، بعض نے کہا: اس میں مومن داخل نہ ہوگا، لیکن بعض نے کہا: سب داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو نجات دیں گے۔ میں سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملا

(٨٦٧٤) تخریج: أخرجه مسلم: ٢٤٩٦ (انظر: ٢٧٣٦٢)

(٨٦٧٥) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة ابی سمیة - أخرجه الحاكم: ٥٨٧ / ٤ (انظر: ١٤٥٢٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور میں نے کہا: ہم نے دوزخ میں وارد ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ مومن اس میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن بعض نے کہا کہ سب داخل ہوں گے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کو لگائیں اور کہا: یہ بہرے ہو جائیں، اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو: ”وارد ہونے سے مراد داخل ہونا ہے، ہر نیکو کار اور اور بدکار اس جہنم میں داخل ہوگا، لیکن وہ آگ ایمان والوں کے لیے اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی والی ہوگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تھی، یہاں تک کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کی دوزخ میں آواز آئے گی، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل چھوڑیں گے۔“

اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، فَلَقِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا اخْتَلَفْنَا فِي ذَلِكَ الْوَرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا مُؤْمِنٌ، وَقَالَ بَعْضُنَا: يَدْخُلُونَهَا جَمِيعًا، فَأَهْوَى بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنِيهِ وَقَالَ: صُمْنَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْوَرُودُ الدُّخُولُ لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرِّدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ إِنَّ لِلنَّارِ أَوْ قَالَ لِحَبْهَمَ صَاحِبًا مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ يَنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا.))

(مسند احمد: ۱۴۵۷۴)

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں: تمام لوگ اس میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے بل بوتے پر باہر آئیں گے، عبد الرحمن بن مہدی نے امام شعبہ سے کہا: اسرائیل تو اس کو مرفوع بیان کرتے ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، یہ نبی کریم ﷺ سے ہے، یا آپ ﷺ کے کلام کے ہم معنی ہے۔“

(۸۱۷۶)۔ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ مَرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مریم: ۷۱] قَالَ: يَدْخُلُونَهَا أَوْ يَدْجُونَهَا، ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ، قُلْتُ لَهُ: إِسْرَائِيلُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ.

(مسند احمد: ۴۱۲۸)

فوائد: جامع ترمذی میں یہ روایت مرفوعا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں: اسرائیل سے مروی ہے کہ سدی کہتے ہیں: میں نے ہمدانی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأُولَئِكَ كَلَمَحِ الْبَرِّقِ ثُمَّ كَالرِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّايِبِ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشِيهِ.)) ”لوگ دوزخ پر وارد ہوں گے، اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کو پار کریں گے، پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، دوسرا گروہ ہوا کی طرح، پھر گھوڑے کی رفتار کی طرح، پھر

اونٹ کے سواری کی طرح، پھر انسان کی دوڑ کی مانند اور پھر انسان کے چلنے کی طرح دوزخ سے گزریں گے۔“
 ارشاد باری تعالیٰ ہیں: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا
 وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيمًا﴾ (سورہ مریم: ۷۱، ۷۲)

”تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو دنیا میں تھی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔“ جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہوا، وہ پل صراط کو عبور نہ کر سکیں گے اور اس سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے جنت میں جانا ہوا، وہ اس پل سے گزر کر جائیں گے، ان آیات میں اسی گزرنے کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر نے کہا: دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس نے جہنم میں داخل ہونے کی بات کی، اس کی مراد اس کے پل سے ہی گزرنے کا ہے، کیونکہ جو آدمی پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، اس میں جہنم میں داخل ہونے کے معنی میں ہوگا۔

بَابُ: ﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾
 ﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ کی تفسیر

(۸۶۷۷)۔ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ خَبَابُ
 بِنُ الْأَرْت: كُنْتُ قَبِيْنَا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَعْمَلُ
 إِلْعَاصِرِ بْنِ وَاثِلِ، فَاجْتَمَعَتْ لِي عَلَيْهِ
 دَرَاهِمُهُمْ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا
 أَفْضِيَنَّكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ:
 قُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى
 تَحْمُوتَ ثُمَّ تَبْعَتْ، قَالَ: فَإِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِي
 مَالٌ وَوَلَدٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي إِذَا مِتُّ ثُمَّ
 بُعِثْتُ وَلِيَّ ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَعْطِيكَ) قَالَ:
 فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى ﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ
 لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿فَرْدًا﴾
 [مریم: ۷۷-۸۰] (مسند احمد: ۲۱۳۸۲)

”مسروق سے مروی ہے کہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا: میں مکہ میں لوہار تھا، میں نے عاص بن وائل کا کام کیا اور میرے کچھ درہم اس پر جمع ہو گئے، ایک دن میں ان کا تقاضا کرنے کے لیے اس کے پاس آیا، لیکن اس نے کہا: میں تجھے اس وقت تک یہ درہم نہیں دوں گا، جب تک تو محمد ﷺ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس وقت تک محمد ﷺ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ تو مر جائے اور پھر تجھے اٹھا دیا جائے، اس نے آگے سے کہا: جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو میرے لیے مال اور اولاد ہوگی، ایک روایت میں ہے: اس نے کہا: بس بیشک جب میں مر جاؤں گا اور پھر مجھے اٹھایا جائے گا تو وہاں میرا مال ہوگا اور میری اولاد ہوگی، اُس وقت میں تجھے یہ قرض چکا دوں گا، سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا: جب میں نے اس کی یہ بات رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت نازل کی: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِيَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ (سورہ مریم: ۷۷ تا ۸۰) ”کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے، اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔“

فوائد: عمرو بن عاص کا یہ جواب طنز اور استہزاء پر مشتمل تھا۔

ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمرو بن عاص یہ جو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی؟ یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف آیات الہی کا استہزاء و تمسخر ہے، یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جتھہ، البتہ عذاب ہوگا، جو اس کے لیے اور ان جیسے لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔

بَابُ: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾
﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ کی تفسیر

(۸۶۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ هَذِهِ آيَةَ: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ”نعمان بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، بوائے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ”ہم پرہیز گاروں کو رحمن کی طرف جماعتوں کی صورت میں اکٹھا کریں گے۔“ پھر انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! یہ لوگ اپنے پاؤں

[مریم: ۸۵] قَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا عَلَيَّ

(۸۶۷۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف عبد الرحمن بن اسحق، وجہالۃ النعمان بن سعد أخرجه ابن

ابی شیبہ: ۱۱۹ / ۱۳ (انظر: ۱۳۳۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پر یعنی پیدل جمع نہیں کئے جائیں گے، وہ ایسی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ لوگوں نے آج تک ان جیسی اونٹنیاں نہیں دیکھی ہوں گی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، وہ ان پر سوار ہو کر چل پڑیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازوں پر دستک دیں گے۔“

أَرْجُلِهِمْ يُحْشَرُونَ وَلَا يُحْشَرُ الْوَفْدُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَلَكِنْ عَلَى نُوقٍ لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ بِشَلْهًا، عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ ذَهَبٍ فَيَرْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضْرِبُوا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ - (مسند احمد: ۱۳۳۳)

سُورَةُ الْحَجِّ

سورہ حج

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی چلنے میں دور جا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند یہ دو آیتیں تلاوت کیں: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾..... ”لوگو! اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔“ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ آیات سنیں تو اپنی سواریوں کو اڑیاں لگائیں

(۸۱۷۹)۔ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)) [الحج: ۱-۲] حَتَّى بَلَغَ آخِرَ الْآيَتَيْنِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ حَثُوا الْمَطْيَ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ، فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ: ((أَتَذَرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكَ؟)) قَالَ: ((ذَاكَ يَوْمٌ ينادى آدَمُ فَينادي به ربُّه تبارك وتعالى: يَا آدَمُ! ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ؟ فَيَقول: يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي

(۸۱۷۹) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه الترمذی: ۳۱۶۹ (انظر: ۱۹۹۰۱)

ثَلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْبَيْضِ)) (صحیح بخاری: ۳۳۴۸، ۴۷۴۱، صحیح مسلم: ۲۲۲)

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم! اٹھ کر جہنم کا حصہ الگ کرو، وہ کہیں گے: اے میرے رب! میں حاضر ہوں، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہر ہزار میں نو سونانوے۔ اس وقت (گھبراہٹ کا ایسا عالم طاری ہوگا کہ) بچے بوڑھے بن جائیں گے، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اور لوگ بے ہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، درحقیقت اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! نجات پانے والا وہ ایک آدمی تم میں سے کون ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ (نوسونانوے افراد ان سے ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا۔“ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جنت میں ایک چوتھائی تعداد تمہاری ہوگی، اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ جنت میں ایک چوتھائی تعداد تمہاری ہوگی، اللہ کی قسم! مجھے تو یہ امید ہے کہ جنت میں ایک تہائی تعداد تمہاری ہوگی، اللہ کی قسم! بلکہ مجھے تو یہ امید ہے کہ جنت میں نصف تعداد تمہاری ہوگی۔“ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوشی سے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن دوسرے لوگوں کے بہ نسبت تمہاری تعداد یوں گی، جیسے سیاہ رنگ کے تیل کے جسم پر ایک سفید بال ہو یا سفید رنگ کے تیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو۔“

معلوم ہوا کہ حشر میں خلقت بڑی تعداد میں جمع ہوگی اور پھر ان میں یاجوج ماجوج اور ابلیس کی نسل کی بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج کی تفصیل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۳۰۲۳) کا باب

بَابُ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ﴾

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ﴾ کی تفسیر

(۸۶۸۰)۔ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ مَرْوَةَ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَبِي: شُعْبَةٌ رَفَعَهُ وَأَنَا لَا أَفَعُهُ لَكَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ۲۵] قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِالْحَادِ وَهُوَ بَعْدَ أَنْ يَبِينَ لَأَذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ (مسند احمد: ۴۰۷۱)

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں: اگر کوئی آدمی حرم میں الحاد (ظلم) کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ وہ عدنان امین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دردناک عذاب چکھائیں گے۔“

فوائد: معلوم ہوا کہ یہ روایت مرفوع ہے۔ پوری آیت یوں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٍ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْعَادِ يُظْلَمِ نُزُوقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کج روی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔“

یمن کے ایک شہر کا نام عدن امین ہے۔

بَابُ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا...﴾
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا...﴾ کی تفسیر

(۸۶۸۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: ۳۹] قَالَ: فَعَرَفَ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ - (مسند احمد: ۱۸۶۵)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ ان لوگوں نے اپنے نبی ﷺ کو نکالا ہے، یہ ضرور ضرور ہلاک ہوں گے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ”اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر ہر طرح قادر ہے۔“ انہوں نے اس وقت جان لیا تھا کہ عنقریب لڑائی ہوگی۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ لڑائی کی اجازت کے بارے میں پہلی آیت ہے، جو نازل ہوئی۔“

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سورة المؤمنون

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الْآيَاتُ
﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.....﴾ كِ تَفْسِيرِ

(۸۶۸۲)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَارِي: صَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّخْلِ، فَمَكَّنَّا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِثْرَانَا وَلَا تُؤَيِّرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا)) ثُمَّ قَالَ: ((لَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ))، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ۔ (مسند احمد: ۲۲۳)

”سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ ﷺ کے قریب سے اس طرح جھنجھناہٹ سنی جاتی، جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، پھر ہم کچھ دیر ٹھہر گئے اور دیکھا کہ آپ ﷺ قبلہ رخ ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھالئے اور یہ دعا مانگی: اے ہمارے اللہ! ہمیں زیادہ دینا، کم نہ کرنا، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا کرنا اور ہمیں ترجیح دینا اور ہم پر غیر کو ترجیح نہ دینا اور ہم سے راضی ہونا اور ہمیں راضی کرنا۔“ اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے اوپر دس آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر قائم رہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ آپ ﷺ نے ہم پر ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ دس آیات ختم کیں۔“

فوائد:..... یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی دس آیات ہیں، ان میں مؤمنون کی صفات کا ذکر ہے۔

بَابُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ الْآيَةُ
﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ كِ تَفْسِيرِ

(۸۶۸۳)۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ: ”ابو خلف عبید بن عمیر کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

(۸۶۸۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة یونس بن سلیم - أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۴۳۹،
والحاكم: ۲ / ۳۹۲ (انظر: ۳۲۳)

(۸۶۸۳) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابو خلف مولی بنی جمح مجهول الحال، واسماعیل المکی مختلف فی تعینہ - أخرجه الحاكم: ۲ / ۲۳۵ (انظر: ۲۴۶۴۱)

کے پاس زمزم کے چبوترہ میں آئے، اس کے سوا اس وقت مسجد میں سایہ نہ تھا، سیدہ نے مرحبا اور خوش آمدید کہا اور کہا: ہماری ملاقات میں تمہیں کیا رکاوٹ ہے؟ عبید نے کہا: مجھے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ میں آپ کو اکتاہٹ میں ڈال دوں گا، سیدہ نے کہا: کیسے آئے ہو؟ عبید نے کہا میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ نبی کریم ﷺ کیسے پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ نے کہا: وہ کونسی آیت ہے، اس نے کہا: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ یا ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا﴾ سیدہ نے کہا: تمہیں ان میں سے کونسی تلاوت زیادہ پسند ہے؟ عبید نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان میں سے ایک قرأت مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے، سیدہ نے کہا: وہ کونسی قرأت ہے؟ عبید نے کہا: ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے، لیکن حروف تجویزی والی بھی ایک قرأت ہے۔“

حَدَّثَنِي أَبُو خَلْفٍ مَوْلَى بَنِي جُمَحٍ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَقِيفَةِ زَمْرَمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ ظِلٌّ غَيْرُهَا، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِأَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَوْ تُلِمَّ بِنَا؟ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ أُمَلِّكَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: جِئْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤُهَا؟ فَقَالَتْ: آيَةُ آيَةٍ، فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ أَوْ ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا﴾ [المؤمنون: ٦٠] فَقَالَتْ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، أَوِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، قَالَتْ: أَيُّهُمَا؟ قُلْتُ: ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا﴾ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ كَانَ يَقْرُؤُهَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْتُ، أَوْ قَالَتْ: أَشْهَدُ لَكَذَلِكَ أَنْزَلْتُ وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤُهَا وَلَكِنَّ الْهَجَاءَ حَرْفٌ. (مسند احمد: ٢٥١٤٨)

فوائد: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ أَوْ ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا﴾ پہلی قرأت مد کے ساتھ اور دوسری مد کے بغیر، دوسری قرأت زیادہ پسند تھی، کیونکہ اس کا معنی ہے: وہ جو اعمال بھی کرتے ہیں، یہ عموم نافرمانیوں کو بھی شامل ہے، اس طرح یہ وسعت رحمت پر دلالت کرتی ہے۔

فوائد: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

(سورہ مؤمنون: ٦٠، ٦١)

”اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔“
درج ذیل حدیث میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔

(۸۶۸۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ﴾ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرِبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ، قَالَ: ((لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا بِنْتَ الصَّدِيقِ! وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)) (مسند احمد: ۲۵۷۷۷)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ آیت: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ﴾..... ”اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں“ (سورہ مومنوں: ۶۰) میں نے کہا: (اے اللہ کے رسول!) کیا اس آیت کا مصداق وہ آدمی ہے، جو چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اور شراب پینے والا ہو، جبکہ وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈر رہا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، اے بنت صدیق! اس آیت سے مراد وہ آدمی ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال قبول ہی نہ ہوں۔“

فوائد:..... امام البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”مومنوں کو نیک اعمال سرانجام دینے کے بعد یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول ہی نہ ہوں۔“ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پورا اجر نہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ (سورہ نسا: ۱۷۳)

”پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا۔“ بلکہ اضافے کے ساتھ اجر و ثواب عطا کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ (سورہ فاطر: ۳۰)

”تا کہ ان کو ان کی اجر میں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔“

اور اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قبولیت کا تعلق عمل صالح کے صحیح سرانجام پانے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کی مراد و منشا کے مطابق ہے، بلکہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ انھوں نے اس عمل کو پورا کرنے میں کوتاہی برتی

(۸۶۸۴) تخریج: صحیح، قالہ الالبانی أخرجه الترمذی: ۳۱۷۵ (انظر: ۲۵۲۶۳)

ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیشی کی بنا پر اعمالِ صالحہ قبول ہی نہ ہوں۔ جب مومن یہ بات سوچتا ہے تو اس میں یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق حسن پیدا ہونا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی سیرت و کردار کی پیروی کی جائے اور پر خلوص انداز میں اعمالِ صالحہ سرانجام دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کا یہ مفہوم ہے: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (سورہ کہف: ۱۱۰)

”جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائے۔“

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے رسالے (التوبة) میں اس حدیث پر بڑا عمدہ کلام کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ (صحیحہ: ۱۶۲)

یہ مومن کی پہچان ہے کہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور صدقہ و خیرات جیسے عظیم اعمال میں حصہ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول ہی نہ کرے اور جب ہم اس کی بارگاہ میں اجر و ثواب وصول کرنے جائیں تو وہ ہمیں دھتکار دے۔ یہ فکر دامن گیر کر کے وہ نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ حسنت و خیرات میں حصہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے درپے ہیں۔

بَابُ: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾
﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۸۵)۔ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ [المؤمنون: ۱۰۴] قَالَ: ((تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقْلَسُ شَفْتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرِحِي شَفْتَهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ)) (مسند احمد: ۱۱۸۵۸)

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾..... ”ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔“ کی تفسیر یہ ہے کہ آگ انہیں بھون ڈالے گی، اوپر والا ہونٹ سکلر کر سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ ناف سے جا لگرائے گا۔“

(۸۶۸۵) تخریج: اسنادہ ضعیف لجعفر ابی السمیع دراج بن سمعان فی روایتہ عن ابی الہیثم۔ أخرجه الترمذی: ۲۵۸۷، ۳۱۷۶ (انظر: ۱۱۸۳۶)

سُورَةُ النُّورِ

سورہ نور

بَابُ ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾
﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ کی تفسیر

(۸۶۸۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُتَفَقَّ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ قَالَ: أَنْزَلْتُ ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ۳] قَالَ أَبِي: قَالَ عَارِمٌ: سَأَلْتُ مُعْتَمِرًا عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ: كَانَ قَاصًّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ۔ (مسند احمد: ۷۰۹۹)

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مسلمان آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اجازت طلب کی کہ کیا وہ ام مہزول نامی ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ خاتون زنا کار تھی اور اس نے اس سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس پر خرچ کرے گا، جب اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی یا آپ ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾..... ”زنا کار عورت سے صرف زنا کار یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے۔“ عارم کہتے ہیں: میں معتمر سے حضرمی کے بارے میں پوچھا، انھوں نے کہا: وہ ایک قصہ گو آدمی تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا۔“

فوائد:..... سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ((أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنْبُورِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارِيَّ بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ۔ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْكِحْ عَنَاقَ، قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَتَزَلَّتْ ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ فَدَعَانِي فَقَرَأَ هَا عَلَيَّ وَقَالَ: ((لَا تَنْكِحُهَا۔)) (ابوداؤد: ۱۷۵۵، نسائی: ۳۲۲۸)

”سیدنا مرثد عنبری رضی اللہ عنہما مسلمان قیدیوں کو مکہ مکرمہ سے منتقل کرتے تھے، جبکہ مکہ میں عناق نامی ایک زانی خاتون تھی، (دور جاہلیت میں) وہ ان کی سہیلی بنی ہوئی تھی، سیدنا مرثد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں عناق سے شادی کر لوں، آپ ﷺ مجھ سے خاموش ہو گئے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ”اور زانی

خاتون، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، مگر زانی یا مشرک۔“ آپ ﷺ نے مجھے بلایا، یہ آیتیں مجھے سنائیں اور فرمایا: ”تو اس سے شادی نہ کر۔“

ان احادیث میں پاکدامن خواتین و حضرات کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے پاکدامن ساتھی کی تلاش کریں۔

بَابُ آيَاتِ اللَّعَانِ

لعان کی آیات کی تفسیر

(۸۶۸۷)۔ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعِنِ، فَقَالَ: ((قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ)) قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسند احمد: ۲۳۲۴۱)

”سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس بارے میں بتائیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر آدمی کو پالیتا ہے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید میں لعان سے متعلقہ آیات نازل فرمادیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا اور تیری بیوی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔“ پس ان دونوں میاں بیوی نے لعان کیا، جبکہ میں (سہل) وہاں موجود تھا، پھر اس آدمی نے اس عورت کو نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں جدا کر دیا۔“

فوائد:..... حدیث نمبر (۷۱۹۴) اور اس سے بعد والی احادیث میں لعان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ... أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ... أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ کی تفسیر

(۸۶۸۸)۔ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَنْزَلَ فِي شَأْنِي وَخِي يَتْلَى وَلَسْأَنِي، كَانَ أَحَقَّرَ


”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ حدیث الا فک (یعنی بہتان والی بات) بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں: اللہ کی قسم! یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے بارے میں وحی

(۸۶۸۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۲۳، ۴۷۴۵، ۴۷۴۶، ۵۳۰۹، و مسلم: ۱۴۹۲ (انظر: ۲۲۸۵۳)

(۸۶۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۷۹، ۴۰۲۵، ۴۶۹۰، ۴۷۵۰، ۶۶۶۲، و مسلم: ۲۷۷۰ (انظر: ۲۶۱۴۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نازل ہوگی، میں اپنے اس معاملہ کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں کلام کریں گے اور پھر اس کلام کی تلاوت کی جائے گی، ہاں یہ مجھے امید تھی کہ میرے بارے میں نبی کریم ﷺ خواب دیکھیں گے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بری کر دیں گے، اللہ کی قسم! نبی کریم ﷺ نے اپنی نشست گاہ سے حرکت نہ کی تھی اور نہ ہی گھر والوں میں سے ابھی کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ پر وحی نازل کر دی اور وحی کے وقت سخت بوجھ کی وجہ سے آپ ﷺ کا پسینہ آنا شروع ہو گیا، سردی کے سخت دن میں بھی وحی کے نازل ہوتے وقت آپ کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح گرتا تھا، اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے، جو آپ پر نازل ہو رہی ہوتی تھی، جب نبی کریم ﷺ سے وحی کے نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ مسکرا رہے تھے، سب سے پہلے آپ ﷺ نے وحی کے بعد جو بات کی، وہ یہ تھی: ”اے عائشہ! خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔“ یہ سن کر میری ماں نے کہا: عائشہ! کھڑی ہو جا اور آپ ﷺ کا شکریہ ادا کر۔ لیکن میں نے کہا: میں آپ ﷺ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوں گی، میں اپنے اس اللہ کی تعریف کروں گی، جس نے میری براءت نازل کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کر دیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: ۱۱] یہ کل دس آیات تھیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما مسطح پر خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیر تھا اور ان کا رشتہ دار بھی تھا، اس نے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں تہمت والی بات کر دی تھی، اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس پر آئندہ خرچ نہیں کروں گا، یہ اس حد تک چلا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل

فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَأْسٍ يُرِي، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يَبْرئُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ، وَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّائِي مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: ((أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ! أَمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَأَ لِي)) فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ [النور: ۱۱] عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَاتِ بَرَاءَتِي قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى مَسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَقَفَرَهُ: وَاللَّهِ! لَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: ۲۲] فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ! إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ



کردی: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾..... ”اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھالیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“ یہ آیت سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، پس انہوں نے جو سطح کا خرچہ لگا رکھا تھا وہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا اب میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے معاملہ کے بارے میں سوال کیا کہ ”تم اس بارے میں کیا جانتی ہو؟ یا کیا سمجھتی ہو؟ یا تم کو کون سی بات پہنچی ہے؟“ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اس بات سے اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں! اللہ کی قسم، میری معلومات کے مطابق عائشہ میں خیر ہی خیر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: یہ سیدہ زینب ہی امہات المؤمنین میں سے میرا مقابلہ کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ کی بدولت اس معاملے میں پڑنے سے بچا لیا اور ان کی بہن سیدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن کے ساتھ عصبیت اختیار کی اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ ابن شہاب کہتے ہیں: اس گروہ کے بارے میں ہمیں یہی کچھ معلوم ہوسکا۔“

يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَىٰ مَسْطِحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَمْرِي: ((وَمَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ أَوْ مَا بَلَغْتُكَ؟)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْمَى سَمِعِي وَبَصَرِي وَأَنَا مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَرَعِ، وَطَفِقتُ أُخْتَهَا حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكْتَ فِيمَنْ هَلَكَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هُوَلَاءِ الرَّهْطِ. (مسند احمد: ۲۶۱۴۱)

فوائد:..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت اور پاکدامنی کو ثابت کرنے کے موقع پر درج ذیل آیات نازل ہوئیں: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شُرَاكُكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا

اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ. لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ﴿

(سورۃ نور: ۱۱-۲۲) ”بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ بھی سے ایک گروہ ہیں، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کیا اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے، تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے مونہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو، اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ یقیناً اللہ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے (تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آجاتا)۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم

دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھالیں کہ قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ بھی کر لیں، سبق آموز باتیں تو مذکورہ بالا حدیث اور آیات سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں، مزید تفصیل ”کتاب السیرة النبویة“ میں آئے گی۔

صحیح بخاری میں اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے تہمت لگانے والوں کا واقعہ بیان کیا، لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، ان میں جس کا نام نکل آتا، اس کو ساتھ لے کر جاتے ایک جنگ (غزوہ بنی مصطلق) میں جانے کے لئے اسی طرح قرعہ اندازی کی، میرا نام نکل آیا، میں آپ ﷺ کے ساتھ چلی گئی، یہ واقعہ پردہ کی آیت اترنے کے بعد کا ہے، میں ہودج میں سوار رہتی اور ہودج سمیت اتاری جاتی، ہم لوگ اسی طرح چلتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور لوٹے، (واپسی میں) ہم لوگ مدینہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ رات کے وقت آپ ﷺ نے روانگی کا اعلان کر دیا، جب آپ ﷺ نے روانگی کا اعلان کیا تو میں اٹھی اور چلی، یہاں تک کہ لشکر سے آگے بڑھ گئی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ہودج کے پاس آئی تو میں نے اپنے سینہ پر ہاتھ پھیرا، معلوم ہوا کہ میرا اظفار کے موتیوں کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، میں واپس ہوئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی، اس کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی، جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے، وہ آئے اور اس ہودج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا، جس پر میں سوار ہوتی تھی، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں ہوں، اس زمانہ میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری نہیں ہوتی تھیں، ان کی خوراک قلیل تھی، اس لئے جب ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا، تو اس کا وزن انہیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا اور اٹھالیا، مزید برآں کہ میں ایک کم سن لڑکی تھی، چنانچہ یہ لوگ اونٹ کو ہانک کر روانہ ہو گئے، لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مل گیا، میں ان لوگوں کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، میں نے اس مقام کا قصد کیا، جہاں میں تھی اور یہ خیال کیا کہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند آنے لگی اور میں سو گئی، سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے تھے، صبح کو میری جگہ پر آئے اور دور سے انہوں نے ایک سویا ہوا آدمی دیکھا تو میرے پاس آئے اور (مجھ کو پہچان لیا) اس لئے کہ پردہ کی آیت اترنے سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے، صفوان کے (انا لله وانا الیہ راجعون) پڑھنے سے میں جاگ گئی، وہ میرا اونٹ پکڑ کر پیدل چلنے لگے، یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے جب کہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لئے اتر چکے تھے، تو ہلاک ہو گیا وہ

شخص جس نے ہلاک ہی ہونا تھا اور تہمت لگانے والوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں ایک مہینہ تک بیمار رہی تہمت لگانے والوں کی باتیں لوگوں میں پھیلتی رہیں اور مجھے اپنی بیماری کی حالت میں شک پیدا ہوا کہ نبی کریم ﷺ اس لطف سے پیش نہیں آتے تھے، جس طرح (اس سے قبل) بیماری کی حالت میں لطف و مہربانی سے پیش آیا کرتے تھے، بس اب تو صرف تشریف لاتے، سلام کرتے، پھر پوچھتے: ”تم کیسی ہو؟“ (پھر چلے جاتے) مجھے تہمت کی بات کی خبر بالکل نہ تھی، یہاں تک کہ میں بہت کمزور ہو گئی (ایک رات) میں اور مسطح کی ماں مناصح کی طرف قضائے حاجت کے لئے نکلیں، ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے، جب کہ ہم لوگوں کے لیے قضائے حاجت کی جگہ ہمارے گھروں کے قریب نہ تھی اور عرب والوں کے پہلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت کرتے تھے، میں اور ام مسطح ہم دونوں چلے جا رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں بھنس کر گر پڑیں اور کہا: مسطح ہلاک ہو جائے، میں نے اس سے کہا: تو نے بہت بری بات کہی ہے، ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا، اس نے کہا: عائشہ! کیا تم نے نہیں سنا جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ ساتھ ہی اس نے مجھے تہمت لگانے والوں کی بات بیان کر دی، یہ سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا، جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: ”تم کیسی ہو؟“ میں نے کہا: مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجئے اور اس وقت میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کی بابت ان کے پاس جا کر تحقیق کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اجازت دے دی، میں اپنے والدین کے پاس آئی اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: بیٹی! تو ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر، جو عورت حسین ہو اور اس کے شوہر کو اس سے محبت ہو اور اس کی سونکیں ہوں، تو اس قسم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں، میں نے کہا: سبحان اللہ! اس قسم کی بات سوکنوں نے تو نہیں کی، ایسی بات تو لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے، میں نے وہ رات اس حال میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھے اور نہ مجھے نیند آئی، پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو جب وحی اترنے میں دیر ہوئی بلایا اور اپنی بیوی کو جدا کرنے کے بارے میں ان دونوں سے مشورہ کرنے لگے، اسامہ چونکہ جانتے تھے کہ آپ ﷺ کو اپنی بیویوں سے محبت ہے، اس لئے انہوں نے ویسا ہی مشورہ دیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی بیویوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔ لیکن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی، ان کے علاوہ عورتیں بہت ہیں اور باقی آپ لونڈی (سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا) سے دریافت کر لیجئے، وہ آپ سے سچ سچ بیان کرے گی، رسول اللہ ﷺ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا: ”اے بریرہ! کیا تو نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے، جو تجھے شبہ میں ڈال دے؟“ سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، جو عیب کی ہو، بجز اس کے کہ وہ کم سن ہیں اور گوندھا ہوا آنا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ اسی دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے مقابلہ میں مدد طلب کی اور

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو میری مدد کرے گا، اس شخص کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق اذیت دی، حالانکہ اللہ کی قسم ہے، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی دیکھتا ہوں اور جس مرد کے ساتھ تہمت لگائی گئی ہے، اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں، وہ گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہوتا تھا؟“ یہ سن کر سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کا ہے، تو جیسا حکم دیں، عمل کروں گا، یہ سن کر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، کھڑے ہوئے، اس سے پہلے وہ نیک آدمی تھے، لیکن حمیت نے انہیں اکسایا اور کہا: اللہ کی قسم! نہ تو اسے مار سکے گا اور نہ تو اس کے قتل پر قادر ہے، پھر سیدنا اسید بن حنیر کھڑے ہوئے اور کہا: تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کی قسم! ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو منافق ہے، منافقوں کی طرف سے جھگڑا کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اوس اور خزرج دونوں لڑائی کے لئے ابھر گئے، یہاں تک کہ آپس میں لڑنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی تھے، بالآخر آپ ﷺ منبر سے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرو کیا یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپ ﷺ بھی خاموش ہو گئے اور میں سارا دن روتی رہی، نہ تو میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند آتی، صبح کو میرے پاس والدین آئے، میں دورات اور ایک دن روتی رہی، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگی تھی کہ رونے سے میرا کلیجہ شق ہو جائے گا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اسے اجازت دے دی، وہ بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی، ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے جب سے کہ میرے متعلق تہمت لگائی گئی، کبھی نہیں بیٹھے تھے، ایک مہینہ تک انتظار کرتے رہے، لیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، آپ ﷺ نے خطبہ شہادت پڑھا اور پھر فرمایا: ”اے عائشہ! تمہارے متعلق مجھ کو ایسی ایسی خبر ملی ہے، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی ظاہر کر دے گا اور اگر تو اس میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر اس لئے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔“ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی گفتگو ختم کی تو میرے آنسو دفعۃً رک گئے، یہاں تک کہ میں نے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کیا اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ کو کیا جواب دوں، پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ تم میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو جواب دو، انہوں نے کہا: واللہ! میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں: میں کس تھی اور قرآن زیادہ نہیں پڑھا تھا، میں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! میں جانتی ہوں کہ آپ ﷺ نے وہ چیز سن لی ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے اور آپ ﷺ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی ہے اور آپ ﷺ نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ ﷺ میری بات کو سچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں

تو آپ ﷺ مجھے سچا سمجھیں گے، اللہ کی قسم! میں نے اپنی اور آپ ﷺ کی مثال یوسف کے والد کے سوا نہیں پائی، جب کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے، ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو، پھر میں نے بستر پر کروٹ تبدیل کی، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاکدامنی ظاہر فرمادے گا، لیکن اللہ کی قسم! مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی اور اپنے دل میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کا ذکر قرآن میں ہوگا، بلکہ میں سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری پاکدامنی ظاہر کر دے گا، پھر اللہ کی قسم! آپ ﷺ اس جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ ﷺ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ ﷺ پر وحی کی حالت طاری ہوگئی، جو نزول وحی کے وقت طاری ہوا کرتی تھی، سردی کے دن میں بھی، پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو اس وقت آپ ﷺ کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عائشہ! اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری پاکدامنی بیان کر دی ہے۔“ مجھ سے میری ماں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا، میں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! میں کھڑی نہیں ہوں گی اور صرف اللہ کا شکر یہ ادا کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ الْذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ...﴾ جب اللہ تعالیٰ نے میری براءت میں یہ آیت نازل کی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مسطح بن اثاثہ کی ذات پر اس کی قرابت کے سبب خرچ کرتے تھے، انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اب میں مسطح کی ذات پر خرچ نہیں کروں گا، اس نے میرے بیٹی عائشہ پر تہمت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُوا الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَىٰ وَالسُّكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ سیدنا ابوبکر کہنے لگے: اللہ کی قسم! میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے، پھر مسطح کو وہی وظیفہ دینا شروع کر دیا، جو برابر دیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے: ”اے زینب! کیا تو جانتی ہے؟ کیا تو نے کبھی کچھ دیکھا ہے؟“ وہ جوابا کہتی: یا رسول اللہ! میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کو بچاتی ہوں، اللہ کی قسم! میں تو عائشہ کو اچھا ہی جانتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ہی میرے مقابلے میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پرہیزگاری کے سبب سے بچالیا۔

(۸۶۸۹)۔ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
 أَيضًا قَالَ: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ إِلَّا
 حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَانَةَ وَحَمْنَةُ
 بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسِ آخِرِينَ، لَا عَلِمَ لِي
 بِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،
 ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تہمت کی باتیں کرنے والوں میں حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمزہ بنت جحش کے نام لیے گئے، ان کے علاوہ اور لوگ بھی شامل تھے، لیکن مجھے ان کا علم نہیں ہے، بہر حال یہ ایک جماعت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ”عُصْبَةٌ“ لفظ استعمال کیا ہے۔ سب

سے زیادہ حصہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ناپسند کیا کرتی تھیں کہ ان کے ہاں سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جائے، نیز وہ کہا کرتی تھیں کہ حسان تو وہ ہے، جس نے کہا تھا: پس بیشک میرا باپ اور اس (باپ) کا باپ اور میری عزت، محمد ﷺ کی عزت کو تم سے بچانے والی ہے۔“

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: مجھ پر تہمت لگائی گئی، جبکہ مجھے خبر تک نہ تھی، اس کے بعد مجھے بات پہنچی تو تھی، لیکن اس پر یقین نہیں آتا تھا، ایک دن نبی کریم ﷺ میرے پاس تھے، اسی اثنا میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ ﷺ پر ہلکی نیند غالب آنے لگی، پھر آپ ﷺ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور فرمایا: ”اے عائشہ! خوش ہو جاؤ۔“ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، نہ کہ آپ کی تعریف کے ساتھ، پھر آپ ﷺ نے ان آیات کی تلاوت کی: ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ حَتَّىٰ بَلَغَ مَبْرَءٌ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾۔“

وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ، وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ: فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعَرْضِي لِعَرْضٍ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ. (مسند احمد: ۲۶۱۴۲)

(۸۶۹۰)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُمِيتُ بِمَا رُمِيتُ بِهِ وَأَنَا غَافِلَةٌ، فَلَمَّعَنِي بَعْدَ ذَلِكَ رَضِخٌ مِنْ ذَلِكَ، فَيَسْمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدِي إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ يَأْخُذُهُ شِبْهُ السُّبَاتِ، فَيَسْمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدِي إِذْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِيئِهِ، فَقَالَ: ((أَبْشِيرِي يَا عَائِشَةُ!)) فَقُلْتُ: بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَا بِحَمْدِكَ، فَقَرَأَ ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿حَتَّىٰ بَلَغَ مَبْرَءٌ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ [النور: ۴-۲۶]۔ (مسند احمد: ۲۵۲۲۷)

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سورة فرقان

بَابُ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الْآيَةُ
﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ كِتَابُ التَّفْسِيرِ

(۸۶۹۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی

(۸۶۹۰) تخريج: حديث صحيح دون ذكر الآيات التي انزلت، وهذا اسناد ضعيف لضعف عمر بن ابى سلمة - أخرجه الطبراني في ”الكبير“: ۲۳ / ۱۵۶ (انظر: ۲۴۷۲۰)
(۸۶۹۱) تخريج: أخرجه البخاري: ۴۷۶۱، ۶۸۱۱، ومسلم: ۸۶ (انظر: ۳۶۱۲)

نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ کونسا گناہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔“ اس نے کہا: اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔“ اس آدمی نے پھر کہا: اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔“ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان باتوں کی تصدیق نازل کر دی اور فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (سورۃ فرقان: ۶۸) ”اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔“

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اَيُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ؟ قَالَ: (اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلْقَكَ-) قَالَ: ثُمَّ اَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ-)) قَالَ: ثُمَّ اَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ-)) قَالَ: فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَا آخَرَ﴾ اِلٰى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اٰثَامًا﴾ [الفرقان: ۶۸]۔ (مسند احمد: ۳۶۱۲)

سُوْرَةُ الشُّعْرَاءِ

سورۃ شعراء

بَابُ اَنَّ سُوْرَةَ الشُّعْرَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الْمِائَتَيْنِ وَكَسْرِ

سورۃ شعراء کا ان سورتوں میں سے ہونا، جن کی آیات دو سو سے زائد ہیں

(۸۶۹۲)۔ عَنْ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: اَتَيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ اَنْ يَفْرَأَ عَلَيْنَا ﴿طسم﴾ الْمِائَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هِيَ مَعِيَ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمُ ﴿طسم﴾

”معدیکرب کہتے ہیں: ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمیں سورۃ ﴿طسم﴾ سنائیں، جو دو سو آیتوں والی ہے۔ انہوں نے کہا:

(۸۶۹۲) تخریج: اسنادہ ضعیف، معدیکرب الهمدانی العبدی، لم یرو عنه الا ابو اسحاق، و ذکره ابن حبان فی ”الثقات“، ولم یؤثر توثیقه عن غیره۔ أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۳۶۱۴ (انظر: ۳۹۸۰)

مَنْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَبَابٌ بِنِ الْأَرْتِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا خَبَابَ بِنِ الْأَرْتِ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا. (مسند احمد: ۳۹۸۰)

مجھے تو یہ سورت یاد نہیں ہے، البتہ تم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ سورت سیکھی ہے، پس ہم سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انھوں نے ہمیں یہ سورت سنائی۔“

فوائد:..... سورہ شعراء کی آیات کی تعداد (۲۲۷) ہے، کسر کو گرا کر صرف دو سو کا ذکر کیا، عرب ایسا کر لیتے ہیں۔

بَابُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۹۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا صَبَاحَا! فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي فِهْرٍ! يَابَنِي لُؤَى! أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا سَفَحَ هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ صَدَقْتُمْوَنِي؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ)) فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ! أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهَذَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾۔ (مسند احمد: ۲۸۰۱)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾..... ”اور اپنے قریبی زیادہ رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ تو نبی کریم ﷺ صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور اس پر چڑھ کر یہ آواز دی: ”يَا صَبَاحَا!“ پس لوگ آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی خود آ گیا اور کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے بنو عبدالمطلب! اے بنو فہر! اے بنو لؤی! اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، وہ تم پر شیخون مارنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر میں تم کو سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔“ یہ سن کر ابولہب نے کہا: سارا دن تجھ پر ہلاکت پڑتی رہے، کیا تو نے ہمیں صرف اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾..... ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔“

(۸۶۹۴)۔ عَنِ قَيْصَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ وَزُهَيْرِ

(۸۶۹۳) تخريج: أخرجه بنحو البخاري: ۴۹۷۱، ومسلم: ۲۰۸ (انظر: ۲۸۰۱)

(۸۶۹۴) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۰۷ (انظر: ۱۵۹۱۴)

ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾..... ”اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ تو نبی کریم ﷺ پہاڑ کی سب سے بلند چٹان پر کھڑے ہوئے اور پکارنا شروع کر دیا: ”اے بنو عبد مناف! بے شک میں ڈرانے والا ہوں، یقیناً میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی مانند ہے، جو دشمن کو دیکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کی خاطر وہ ڈرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ دشمن اس سے پہلے اس کے گھر والوں تک پہنچ جائے گا تو وہ وہیں سے پکارنا شروع کر دیتا ہے اور آواز دیتا ہے: يَا صَبَاحَاہُ!“

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾..... ”اور اپنے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ تو نبی کریم ﷺ نے قریش کو عام ندا دی اور پھر خاص آواز دی، ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ نے قریش کے ایک ایک قبیلے کو بلانا شروع کیا اور فرمایا: ”اے قریش کے گروہ! اپنی جانوں کو دوزخ سے بچالو، اے بنو ہاشم! خود کو دوزخ سے بچالو، اے بنو عبدالمطلب! اپنی جانوں کو دوزخ سے بچالو، اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان دوزخ سے بچالے، اللہ کی قسم! میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہاں ہاں تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، میں اس کو ترک نہیں کروں گا۔“

بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفْمَةً مِنْ جَبَلٍ عَلَى أَعْلَاهَا حَجْرًا (وَفِي رِوَايَةٍ: انْطَلَقَ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلَا أَعْلَاهَا) فَجَعَلَ يُنَادِي: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنْفٍ! إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَلِي وَمَثَلُكُمْ كَرَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ، فَذَهَبَ يَرْتَابُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي، وَيَهْتَفُ يَا صَبَاحَاہُ!)) (مسند احمد: ۱۶۰۰۹)

(۸۶۹۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ۲۱۴] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَعَمَّ وَخَصَّ، (وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ يَدْعُو بَطُونَ قُرَيْشٍ بَطْنًا بَطْنًا) فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا دَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنْفٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي هَاشِمٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَأُبَلِّغُهَا بِبِلَالِهَا)) (مسند احمد: ۸۳۸۳)

(۸۶۹۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ۲۱۴] قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ! يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، يَا بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ)) (مسند احمد: ۲۵۵۵۸)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾..... اور اپنے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”اے فاطمہ! اے بنت محمد! اے صفیہ بنت عبد المطلب! اے بنو عبد المطلب! میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہاں میرے مال سے جو چاہتے ہو سوال کر لو۔“

نوٹ:..... تمام احادیث مبارکہ کا مضمون ایک ہی ہے، بذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر سمجھایا کریں۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

سورہ قصص

بَابُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾
﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۹۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّهِ: ((قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيَّرَنِي فُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لَا فَرَزْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ۵۶] الآية۔ (مسند احمد: ۹۶۰۸)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچے سے فرمایا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دو، میں قیامت کے روز اس کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔“ لیکن انہوں نے کہا: اگر قریشی مجھے عار دلاتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ بے صبری نے ابوطالب کو یہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ کر دیا ہے تو میں یہ کلمہ ادا کر کے آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اتاری: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾..... ”بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے اور لیکن اللہ ہدایت

(۸۶۹۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۵ (انظر: ۲۵۰۴۴)

(۸۶۹۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵ (انظر: ۹۶۱۰)

دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔“

فوائد: امام نووی نے کہا: اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي...﴾ والی آیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کا ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا نبی کریم ﷺ کے قبضے کی چیز نہیں ہے، آپ ﷺ پر تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ہے، ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ ”تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے۔“ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ”گو تو ہر چند طمع کرے لیکن ان میں سے اکثر ایماندار نہیں ہوتے۔“ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور ضلالت کا حقدار کون ہے۔

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سورة عنكبوت

بَابُ: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾
﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ کی تفسیر

(۸۶۹۸)۔ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ قَالَ: ((كَانُوا يَأْخُذُونَ أَهْلَ الطَّرِيقِ، وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، فَذَلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ.)) قَالَ: رُوحٌ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ۲۹]۔ (مسند احمد: ۲۷۴۲۹)

”سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ ”(اے قوم لوط!) تم اپنی مجلسوں میں برائی کو آتے ہو۔“ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ راہ گزرنے والوں کو پتھر مارتے تھے، ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، یہ وہ برائی ہے، جس کا وہ اپنی مجلسوں میں ارتکاب کرتے تھے۔“ روح راوی نے کہا: یہ صورت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہے: ﴿وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ طَآ اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا

(۸۶۹۸) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف ابى صالح مولى ام هانىة - أخرجه الترمذى: ۳۱۹۰ (انظر: ۲۶۸۹۱)

مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرُّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ. ﴿سورة عنكبوت: ۲۸، ۲۹﴾

”اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، اور رہنمی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوانہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔“

سُورَةُ الرُّومِ

سورہ روم کی تفسیر

بَابُ: ﴿الْمَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ ﴿الْمَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ کی تفسیر

(۸۶۹۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿الْمَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ قَالَ: غَلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرَهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَّا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ.)) قَالَ: فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((أَلَا

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فرمان ﴿الْمَ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ کے بارے میں کہتے ہیں: پہلے رومی مغلوب ہو گئے، پھر وہ غالب آ گئے، مشرکوں کو یہ بات پسند تھی کہ فارس والے رومیوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور یہ بھی بت پرست تھے، لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے فارسیوں پر غالب آ جائیں کیونکہ رومی اہل کتاب تھے، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ عنقریب غالب آ جائیں گے۔“ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات مشرکوں کو بتائی کہ رومی عنقریب غالب آئیں گے تو انہوں نے کہا: تم ہم سے مدت مقرر کرو اور اگر ہم (شُرک والے) غالب آ گئے تو ہمارے لیے اتنا اتنا مال ہوگا اور تم (کتاب والے) غالب آ گئے تو تمہیں اتنا اتنا مال دیا جائے گا،

(۸۶۹۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه الترمذی: ۳۱۹۳ (انظر: ۲۴۹۵)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پانچ سال کی مدت مقرر کر دی، لیکن اس عرصے میں رومی غالب نہ آسکے، پھر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اس سے زیادہ مدت کیوں نہیں رکھی۔“ راوی کہتا ہے: میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے دس سال کی بات کی تھی، سعید بن جبیر کہتے ہیں: ”بضع“ اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رومی غالب آ گئے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿الْمَغْلُوبَةُ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ”رومی مغلوب ہو گئے۔ سب سے قریب زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں، سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔“

فوائد: ”بضع“ کا اطلاق تین سے نو افراد تک ہوتا ہے، اگرچہ پانچ کا عدد بھی اس میں داخل ہے، لیکن اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نو دس برسوں کی شرط لگا لیتے تو اس میں زیادہ احتیاط تھی۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں کہا: یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ نیشاپور کا شاہ فارس بلاد شام اور جزیرہ کے آس پاس کے شہروں پر غالب آ گیا اور روم کا بادشاہ ہرقل تک آ کر قسطنطیہ میں محصور ہو گیا، مدتوں محاصرہ رہا، آخر پانہ پلٹا اور ہرقل کی فتح ہو گئی۔ مفصل بیان آگے آ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ رومیوں کو شکست پر شکست ہوئی اور مشرکین نے اس پر بہت خوشیاں منائیں، اس لئے کہ جیسے یہ بت پرست تھے، ایسے ہی فارس والے بھی ان سے ملتے جلتے تھے اور مسلمانوں کی چاہت تھی کہ رومی غالب آئیں اس لئے کم از کم وہ اہل کتاب تو تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا رومی عنقریب پھر غالب آ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے مشرکین کو جب یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے کہا آؤ کچھ شرط بدلو اور مدت مقرر کر لو اگر رومی اس مدت میں غالب نہ آئیں تو تم ہمیں اتنے دینا ردینا اور اگر تم سچے نکلے تو ہم تمہیں اتنے اتنے دیں گے۔ پانچ سال کی مدت مقرر ہوئی وہ مدت پوری ہو گئی اور رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں یہ خبر پہنچائی، آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے دس سال کی مدت مقرر کیوں نہ کی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: قرآن میں مدت کے لئے لفظ بضع استعمال ہوا ہے اور یہ

دس سے کم پر بولا جاتا ہے، چنانچہ یہی ہوا بھی کہ دس سال کے اندر اندر رومی پھر غالب آگئے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ امام سفیان کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے بعد رومی بھی فارسیوں پر غالب آگئے۔

سُورَةُ لُقْمَانَ

سورة لقمان

بَابُ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۰)۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ أُمِّي: أَلَيْسَ اللَّهُ يَأْمُرُكَ بِصَلَةِ الرَّحِمِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ؟ وَاللَّهِ! لَا أَكُلُّ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَكَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ حَتَّى يَشْجُرُوا فَمَهَا بِعَصَا فَيَصُوبُوا فِيهِ الشَّرَابَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَرَاهُ قَالَ: وَالطَّعَامَ، فَأَنْزَلَتْ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ وَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ۱۴-۱۵] (مسند احمد: ۱۵۶۷)

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میری والدہ نے مجھ سے کہا: کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا، اللہ کی قسم! نہ میں کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ پیوں گی، جب تک تو محمد ﷺ کا انکار نہیں کرے گا، پھر واقعاً میری والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ لکڑی کے ذریعے اس کا منہ کھولا جاتا اور زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالتے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ وَفَضَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.﴾ (سورة لقمان: ۱۴، ۱۵) اور

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے۔ (اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ) میرا شکر کر اور اپنے

والدین کا شکر بجالا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن وہ اگر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیسے عمل کرتے رہے ہو۔“

فوائد: اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں، اگرچہ وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں، خبردار! تم ان کی مان کر میرے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا چھوڑ دو، دنیوی حقوق جو تمہارے ذمہ ان کے ہیں، ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابعداری کرو جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں، سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا۔ حافظ ابن کثیر نے (کتاب العشرہ لسطبرانی) کا حوالہ دے کر یہ روایت ذکر کی ہے: سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے اللہ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ مجھ پر بہت بگڑیں اور کہنے لگی: بچے یہ نیا دین تو نے کہاں سے نکال لایا۔ سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس دین سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی اور یونہی بھوکی مر جاؤں گی۔ میں نے تو اسلام کو چھوڑا نہیں، لیکن میری ماں نے واقعی کھانا پینا ترک کر دیا اور ہر طرف سے مجھ پر آوازہ کشی ہونے لگی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں دل میں بہت ہی تنگ ہوا اور اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار عرض کیا، خوشامدیں کیں، سمجھایا کہ اللہ کے لئے اپنی ضد سے باز آ جاؤ، یہ تو ناممکن ہے کہ میں اس سچے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی ضد میں میری والدہ پر تین دن کا فاقہ گذر گیا اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی، میں پھر اس کے پاس گیا اور میں نے کہا: میری اچھی اماں جان! سنو تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو، لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو۔ اللہ کی قسم! ایک نہیں، تمہاری ایک سو جانیں بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں، تو بھی میں آخری لمحہ تک اپنے سچے دین اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میری ماں مایوس ہو چکی تھی اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَآ عَلَّمُ السَّاعَةَ﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَآ عَلَّمُ السَّاعَةَ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۱)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ ”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام

جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ: فَحَدَّثَنِي مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا هُوَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) [لقمان: ۳۴]۔ (مسند احمد: ۲۹۲۶)

والی حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے کہا: مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! (بڑا تعجب ہے)، غیب کی پانچ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾..... ”قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔“

”سیدنا بریدہ السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾..... ”بے شک اللہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

فوائد: صرف اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا ہے، اس آیت میں پانچ غیبی امور کا بیان ہے۔

(۸۷۰۲)۔ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾..... [لقمان: ۳۴]۔ (مسند احمد: ۲۳۳۷۴)

سُورَةُ السَّجْدَةِ

سورہ سجده

بَابُ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾
﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۳)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾..... "ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔" پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "اس سے مراد بندے کا رات کو قیام کرنا ہے۔"

بَابُ: ﴿وَلَنُنذِرَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾
﴿وَلَنُنذِرَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۴)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: "سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت نے ﴿وَلَنُنذِرَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾..... "اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔" سے مراد مختلف مصائب ہیں، دھواں، بطخ، لزام، یہ سب گزر چکے ہیں۔"

فوائد:..... دھواں اور بطخ: دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۰۳)

لزام: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ

(۸۷۰۳) تخریج: صحیح بطرقہ وشواہدہ۔ أخرجه الطبري في "تفسيره" ۲۱ / ۱۰۳ (انظر: ۲۲۰۲۲)

(۸۷۰۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۹۹ (انظر: ۲۱۱۷۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لِسْزَامًا... ”کہہ میرا رب تمہاری پروا نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو، سو بے شک تم نے جھٹلا دیا، تو عنقریب (اس کا انجام) چٹ جانے والا ہوگا۔“ (سورہ فرقان: ۷۷)

کافروں کا یہ انجام دنیا میں بدر میں شکست کی صورت میں ان کو مل چکا ہے اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

سورہ احزاب

بَابُ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾
 ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۵)۔ عَنِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي طَيَّيَانَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ۴] مَا عَنِى بِذَلِكَ؟ قَالَ: قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَا يُصَلَّى قَالَ: فَخَطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ: أَلَا تَرَوْنَ لَهُ قَلْبَيْنِ، قَالَ: قَلْبٌ مَعَكُمْ، وَقَلْبٌ مَعَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾ - (مسند احمد: ۲۴۱۰)

”ابو ظبيان کہتے ہیں: ہم نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾..... ”اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔“ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: نبی کریم ﷺ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ کو سوسہ ہوا، جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہا: آپ کے دو دل ہیں، ایک تمہارے یعنی منافقوں کے ساتھ اور ایک اپنے صحابہ کے ساتھ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾۔“

فوائد:..... اس آیت کی توضیح و تفسیر کے لیے مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر:

(۱) ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا کفر اور کافروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی تردید کی۔

(۲) مشرکین میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہر تھا، وہ بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ

(۸۷۰۵) تخریج: اسنادہ ضعیف، قابوس لین، یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ - أخرجه الطبرانی: ۱۲۶۱۱،

والبیہقی: ۱/ ۳۹ (انظر: ۲۴۱۰)

اس کے دو دل ہیں، جن سے وہ سوچتا ہے، جب کہ محمد (ﷺ) کا ایک دل ہے، اس آیت کے ذریعے اس کے اس نظریہ کا رد کیا گیا۔

(۳) آیت کے اس کڑے سے آگے جو دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں، یہ دراصل ان کی تمہید ہے، وہ دو مسئلے یہ ہیں: ظہار اور لے پالک بیٹوں کی حقیقت، یعنی جس طرح ظہار کے ذریعے دو مائیں نہیں بن سکتیں، اس طرح حقیقی اور لے پالک بیٹا، دو ایک حکم میں نہیں آسکتے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے۔

بَابُ: ﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾
﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۶)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ثَانًا يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ۵]۔

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو زید بن محمد پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کا یہ حصہ نازل ہوا: ﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾..... ”تم ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔“

(مسند احمد: ۵۴۷۹)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾..... ”اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تمہارا اپنے مومنوں سے کہنا ہے اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی (سیدھا) راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے، پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔“

دور جاہلیت میں لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا مقام حاصل تھا، نبی کریم ﷺ نے بھی سیدنا زید رضی اللہ عنہما کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور لوگ بھی ان کو آپ ﷺ کا بیٹا سمجھتے ہیں، بعد میں ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا۔

بَابُ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ الْآيَةُ
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۰۷)۔ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ عَمِّي ”سیدنا انس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میرے چچا

(۸۷۰۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۷۸۲، ومسلم: ۲۴۲۵ (انظر: ۵۴۷۹)

(۸۷۰۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۰۳ (انظر: ۱۳۰۱۵)

سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ حاضر نہ ہوئے تھے، اسی چچا کے نام پر میرا نام بھی انس رکھا گیا، اس کا انہیں بہت قلق تھا، وہ کہا کرتے تھے: بدر پہلا معرکہ تھا، جس میں نبی کریم ﷺ حاضر ہوئے اور میں حاضر نہ ہو سکا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور معرکہ کا موقع دیا تو وہ دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں، پھر وہ مزید کوئی دعویٰ کرنے سے ڈر گئے، پھر سیدنا انس بن نضر احد کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سامنے آرہے تھے، سیدنا انس بن نضر نے ان سے کہا: ابو عمرو! کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا: آہ، میں احد کی جانب سے جنت کی خوشبو پارہا ہوں۔ پھر سیدنا انس لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، ان کے جسم میں تلوار، نیزے اور تیر کے اسی (۸۰) سے زائد زخم آئے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان کی بہن یعنی میری پھوپھی ریح بنت نضر رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ ان کے بھائی ہیں، پس یہ آیت نازل ہوئی:

﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

..... ”کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ سے جو عہد کیا تھا، وہ سچا کر دکھایا، پس ان میں سے بعض وہ ہیں، جنہوں نے اپنی نذر کو پورا کر دیا اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدوں میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔“ صحابہ کا یہی خیال تھا کہ یہ آیت سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں (جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ) کے بارے میں نازل ہوئی۔“

أَنَّ بَنِي النَّضْرِ، سُمِّيَتْ بِهِ، لَمْ يَشْهَدْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: فِي أَوَّلِ مَشْهَدِ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَبْتُ عَنْهُ، لِئِنْ أَرَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيرَيْنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، قَالَ: فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا، قَالَ: فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍو! أَيْنَ؟ قَالَ: وَاهَا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ ضَرَبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ، قَالَ: فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِي الرَّبِيعُ بِنْتُ النَّضْرِ: فَمَا عَرَفْتُ أَحْيَى إِلَّا بِبَنَائِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ: ﴿رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ۲۳] قَالَ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

(مسند احمد: ۱۳۰۴۶)

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرُدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرُدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾ کی تفسیر

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، لوگ آپ کے درازے پر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر کو اجازت نہ ملی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ملی، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو اجازت مل گئی، یہ دونوں آپ کے پاس اندر داخل ہوئے، نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے ارد گرد آپ ﷺ کی بیویاں تھیں، آپ ﷺ خاموش تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ضرور بر ضرور ایسی بات کروں گا، جس سے نبی کریم ﷺ مسکرائیں گے، پھر انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش آپ دیکھتے، جب میری بیوی بنت زید نے مجھ سے خرچ کا مطالبہ کرے تو میں نے اس کی گرون پر گھونسا دے مارا، نبی کریم ﷺ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی داڑھیں ظاہر ہونے لگیں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ میری بیویاں بھی، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، خرچ کا سوال کرنے کے لیے میرے ارد گرد جمع ہوئی ہیں۔“ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کے لئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کو مارنے کے لئے کھڑے ہوئے اور دونوں نے ان سے کہا: تم نبی کریم ﷺ سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو، جو آپ ﷺ کے پاس نہیں ہے؟ آپ ﷺ کی بیویوں نے کہا: اللہ کی قسم! آج کے بعد ہم آپ سے وہ مطالبہ نہیں کریں گے، جو آپ کے بس میں نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ

(۸۷۰۸)۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ بَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ بِسَابِهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ أُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَدَخَلَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ وَحَوْلَهُ سَاوَةٌ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِأَكَلِمَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَهُ بَضْحُكَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةً عُمَرَ فَسَأَلَتْنِي السَّفَقَةَ أَنْفًا فَوَجَّاتُ عَنْقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَأَ تَوَاجِدُهُ، قَالَ: ((هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى بِسَأَلْتَنِي السَّفَقَةَ)) فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ لِيَضْرِبَهَا، وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ، كِلَاهُمَا يَقُولَانِ: تَسْأَلَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَهَنَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ نِسَاوَةٌ: وَاللَّهِ! لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْخِيَارَ، فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَذْكَرَ لَكَ أَمْرًا، مَا أَحِبُّ أَنْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ))، قَالَتْ: مَا هُوَ؟ قَالَ فَتَلَا عَلَيْهَا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ﴾ [الاحزاب: ۲۸]

آیات اتاریں جن میں اختیار کی اجازت تھی، آپ ﷺ نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: ”میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کئے بغیر جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا۔“ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ پھر آپ ﷺ نے اختیار والی آیت تلاوت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ﴾ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اچھا کیا میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے اس اختیار کا آپ اپنی کسی دوسری بیوی سے ذکر نہ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجا، مجھے آسانی کرنے والا اور سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، میری کوئی بھی بیوی اگر اختیار کے متعلق پوچھے گی، تو میں اس کو یہ تفصیل ضرور بتاؤں گا۔“

نوٹ: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسْرُحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ”اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازدواجِ مطہرات نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، جس پر آپ ﷺ سادگی پسند ہونے کی وجہ سے سخت کبیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی جو ایک ماہ تک جاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی متن میں مذکورہ آیات نازل کیں اور نبی ﷺ کی بیویوں کے سامنے دو چیزیں رکھیں کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہ کر اخروی زندگی کی بہتری چاہتی ہو یا دنیا کی زندگی اور اس کی رونق۔ آپ ﷺ نے سب سے پہلے یہ آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تلاوت کیں، جنہوں نے دنیوی زندگی پر اخروی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے آپ ﷺ کے عقد میں رہنا پسند کیا۔ حدیث

کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خواہ مخواہ تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بیوی سیدہ عائشہ کی بابت پوچھے گی تو میں اس پر معاملہ واضح کر دوں گا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور امہات المؤمنین کی رسول اللہ ﷺ سے سچی محبت ہے کہ انھوں نے دنیوی ساز و سامان سے بے رخی اختیار کی اور آپ ﷺ کو ترجیح دی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیویوں کو دو باتوں میں سے ایک کی قبولیت کا اختیار دیں، اگر تم دنیا پر اور اس کی رونق پر مائل ہوئی ہو تو آؤ میں تمہیں اپنے نکاح سے الگ کر دیتا ہوں اور اگر تم تنگی ترشی پر یہاں صبر کر کے اللہ کی خوشی اور رسول کی رضامندی چاہتی ہو اور آخرت کی رونق پسند کرتی ہو تو صبر و سہار سے میرے ساتھ زندگی گزارتی رہو، اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، جواباً تمام امہات المؤمنین نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی۔

(۸۷۰۹)۔ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنِّي أَذْكَرُ لَكَ أَمْرًا وَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تُذَكِّرِي أَبَوَيْكَ)) قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَا زَوَّجَكُ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعُكُنَّ وَأَسْرُحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۲۸-۲۹] فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ زَوْاجُ النَّبِيِّ ﷺ مَا فَعَلْتُ، وَفِي لَفْظٍ: فَقُلْتُ: قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَتْ: فَرِحَ لِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (مسند احمد: ۲۶۶۳۷)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ ﷺ سب نے سے پہلے مجھ سے کہا: اے عائشہ! میں آپ سے ایک معاملہ بیان کرنے لگا ہوں، اپنے ماں باپ سے ذکر کے بغیر جلد بازی سے اس کا جواب نہ دینا۔“ جبکہ آپ ﷺ کو علم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ ﷺ سے جدا ہونے کا حکم نہیں دیں گے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَا زَوَّجَكُ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعُكُنَّ وَأَسْرُحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.....“ اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ۔ امان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“ میں نے کہا: کیا میں اس بارے میں والدین سے مشورہ کروں؟ میں نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول

اور آخرت کے گھر کو پسند کیا ہے، نبی کریم ﷺ اس سے خوش ہو گئے۔“

بَابُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۱۰)۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَذَكُّرًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِرُومَةٍ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا: ((أَدْعِي زَوْجَكَ وَابْنَيْكَ)) قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيُّ وَالحُسَيْنُ وَالحَسَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الخَزِيرَةِ، وَهُوَ عَلِيُّ مَنَامَةً لَهُ عَلَى دُكَّانٍ تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْبَرِيٌّ، قَالَتْ: وَأَنَا أَصَلُّ فِي الْحُجْرَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ۳۳] قَالَتْ فَأَخَذَ فَضْلُ الْكِسَاءِ فَغَسَّاهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلْوَى بِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا)) قَالَتْ: فَأَدَخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكَ إِلَى خَيْرٍ إِنَّكَ إِلَى

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک ہنڈیا لے کر آئیں، جس میں گوشت سے تیار شدہ خریزہ (ایک کھانا جو قیمہ اور آٹے سے تیار کیا جاتا ہے) تھا، جب وہ آپ ﷺ کے پاس داخل ہوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ۔“ اتنے میں سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے پاس پہنچ گئے اور وہ سارے خریزہ کھانے لگے، آپ ﷺ ایک دکان نما جگہ پر تھے، جو آپ کی خواب گاہ تھی، نیچے خیبر کی بنی ہوئی چادر بچھا رکھی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ”اللہ تعالیٰ تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے پلیدی دور کر دیں اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دیں۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے زائد چادر کے حصہ کو لیا اور انہیں ڈھانپ لیا، پھر اپنا ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا: ”اے میرے اللہ! یہ میرے گھروالے اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ اے میرے اللہ! یہ میرے گھروالے اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک

(۸۷۱۰) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۲۶۶۵، والحاكم: ۴۱۶ / ۲، والبيهقي:

۱۵۰ / ۲ (انظر: ۲۶۵۰۸)

کردے۔“ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس چادر کے اندر اپنا سر داخل کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک تم خیر پر ہو، بلاشبہ تم خیر پر ہو۔“

خَيْرٍ))، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْسَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءٍ سَوَاءً، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ أَبُو الْحَجَّافِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. (مسند

احمد: ۲۷۰۴۱)

فوائد: درج ذیل آیات کے ذریعے مذکورہ بالا آیت کے سیاق و سباق کو سمجھیں: ﴿يُنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتَنَّا كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَإِذْ كُنَّ مِمَّا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (سورہ احزاب: ۳۲، ۳۳، ۳۴)

”اے نبی کی بیویو! تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقویٰ اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اور اپنے گھروں میں مکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی کریم ﷺ کی بیویوں یعنی امہات المؤمنین سے خطاب کیا ہے۔ بہر حال اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھ اختلاف ہے، بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن مجید کے سیاق سے واضح ہے، قرآن نے یہاں امہات المؤمنین ہی کو اہل بیت کہا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے، ایک مقام درج ذیل ہے: جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی تو ان کی اہلیہ نے اس وقت جس تعجب کا اظہار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا اور اس کا جواب بھی دیا: ﴿قَالَتْ يَوِئسَتِي ۗ اِئدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتِ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ ۗ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَسِيْدٌ مَّجِيْدٌ﴾ (سورہ ہود: ۷۲، ۷۳)

”اس نے کہا ہائے میری بربادی! کیا میں جنوں گی، جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انھوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر

والو! بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔“

اس لیے نبی کریم ﷺ کی ازواجِ مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہو گیا۔

جبکہ بعض حضرات، بعض احادیث کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا

حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔

تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، اہمات المؤمنین نص قرآن کی وجہ سے اور

آپ ﷺ کا داماد اور اولاد ان احادیث کی رو سے، یہ آیت دراصل ازواجِ مطہرات کے بارے میں نازل کی تھی، لیکن مذکورہ

بالا حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ نے باقی چار ہستیوں کو بھی اس کے مفہوم میں داخل کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ کی تفسیر

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی

کریم ﷺ سے کہا: کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمارا ذکر

مردوں کی مانند نہیں ہوتا؟ پھر اچانک اسی دن میں نے

آپ ﷺ کو سنا اور آپ ﷺ کی آواز منبر پر بلند ہو رہی

تھی، میں بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے وہیں بال لپیٹے

اور اپنے گھر کے ایک کمرے میں چلی گئی اور ایک ٹہنی کے قریب

سے آپ کی آواز آرہی تھی، ادھر میں نے کان لگا دیئے، آپ

منبر کے قریب فرما رہے تھے: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے اپنی

کتاب میں فرمایا ہے: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً

وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾۔“

(۸۷۱۱)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ:

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا لَنَا لَا نُذَكَّرُ فِي الْقُرْآنِ

كَمَا يُذَكَّرُ الرَّجَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُغْنِي مِنْهُ

يَوْمَئِذٍ إِلَّا وَنْدَاؤُهُ عَلَيَّ الْمَنْبَرِ، قَالَتْ: وَأَنَا

أُسْرِحُ شَعْرِي فَلَقَقْتُ شَعْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ

إِلَى حُجْرَةٍ مِنْ حُجْرِ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ

سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: عِنْدَ

الْمَنْبَرِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي

كِتَابِهِ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ إِلَى آخِرِ آيَةِ:

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾))

[الأحزاب: ۳۵]۔ (مسند احمد: ۲۷۱۳۸)

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْقُنُوتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

(۸۷۱۱) تخريج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۴۰۵، والطبراني: ۲۳ / ۴۵۴،

والحاكم: ۲ / ۴۱۶ (انظر: ۲۶۶۰۳)

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا... ” بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

جب مردوں کو حکم دیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد و زن کے مخصوص احکامات کے علاوہ، بہر حال اس آیت میں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کیا گیا۔

بَابُ: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ...﴾
﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۱۲)۔ عَنْ أَنَسِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَكَأَنَّهُ دَخَلَهُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ حَمَادٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ، فَجَاءَ زَيْدٌ يَشْكُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)) قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿زَوْجَنَا كَهَا﴾ [الأحزاب: ۳۷] يَعْنِي زَيْنَبَ۔ (مسند احمد: ۱۲۵۳۹)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے ان کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو دل میں کچھ خیال آیا، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ حماد کا قول ہے یا حدیث کا حصہ ہے، ادھر سیدنا زید رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی شکایت کی، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔“ پس یہ حکم نازل ہوا: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ...﴾ زَوْجَنَا كَهَا... تک، اس سے مراد زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔“

فوائد: اس حدیث کا صحیح سیاق یہ ہے: سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ((لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَزَيْدٍ: ((فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ)) قَالَ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُحَمَّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتَهَا عَظَمْتُ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِكْرِكَ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِبَصَانِعَةٍ شَيْئًا

(۸۷۱۲) تخریج: اسنادہ ضعیف، وفي متنه غرابة، مؤمل بن اسماعیل سبیء الحفظ (انظر: ۱۲۵۱۱)

حَتَّىٰ أُوَامِرَ رَبِّي فَفَقَمْتُ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ..)) (صحيح بخارى: ٤٧٨٧، ٧٤٢٠، صحيح مسلم: ١٤٢٨)

”جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوگئی تو رسول اللہ ﷺ نے زید سے فرمایا: ’زینب سے میرا ذکر کرو۔‘ سیدنا زید رضی اللہ عنہ گئے، ان کے پاس پہنچے، جبکہ وہ آٹے کا خمیر کر رہی تھیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب میں نے انہیں دیکھا، تو میرے دل میں ان کی عظمت آئی یہاں تک کہ مجھ میں ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ ہوئی، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا ذکر کیا تھا، چنانچہ میں نے ان سے پیٹھ پھری اور اپنی ایزویوں پر لوٹا، یعنی ان کی طرف اپنی پشت کر کے کھڑا ہوا اور پھر کہا: اے زینب! رسول اللہ ﷺ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے اور آپ ﷺ تجھے یاد کرتے ہیں۔ سیدہ نے کہا میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتی، جب تک کہ اپنے رب سے استحارہ نہ کر لوں، پھر وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ہو گئیں اور قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ ﷺ ان کے پاس بغیر اجازت آ گئے، پھر آپ ﷺ نے کہا جو کہا اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا اور جب دن چڑھ گیا تو لوگ کھا کر چلے گئے اور باقی لوگوں نے گھر میں ہی کھانے کے بعد گفتگو کرنا شروع کر دی۔“

(۸۷۱۳)۔ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُنْتُمْ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَىٰ نَفْسِهِ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ۳۷]۔ (مسند احمد: ۲۶۵۶۹)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: اگر نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کا کوئی حصہ چھپانا ہوتا تو آپ ﷺ ان آیات کو چھپا لیتے: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾۔“

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (سورہ احزاب: ۳۷)

”اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے، پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو، جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے (پورا) کیا ہوا ہے۔“

اس باب کا مفہوم درج ذیل ہے: سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا، جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی کریم ﷺ سے ہوئی تو انھوں نے یہ غلام آپ ﷺ کو بہہ کر دیا، آپ ﷺ ان کو آزاد کر کے اپنا لے پا لک بیٹا بنا لیا اور بعد میں اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر دی، بہر حال مزاج میں فرق برقرار رہا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا، جبکہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے دامن پر غلامی کا داغ تھا، سو ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی، جس کا تذکرہ زید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ ظاہر کرتے رہتے تھے، لیکن آپ ﷺ ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین کرتے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرمادیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی منہ بولا بیٹا بنانے کی اس رسم پر ایک کاری ضرب لگا کر واضح کر دیا جائے کہ لے پا لک بیٹا، احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے، ان آیات میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی جو آپ ﷺ کو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی، آپ ﷺ ڈرتے اس بات سے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ ﷺ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، ذہن نشین رہے کہ آپ ﷺ کا یہ خوف فطری تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ کو تنبیہ فرمائی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فطری خوف کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اگر آپ ﷺ نے کوئی وحی چھپانی ہوتی تو ان آیات کو چھپا لیتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے قرار پا گیا، یعنی نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر، اس لیے آپ ﷺ بلا اجازت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، کیونکہ وہ آسمانی فیصلے کے مطابق آپ ﷺ کی بیوی بن چکی تھیں۔ سبحان اللہ! کتابنا بشارت ہے سیدہ کا۔

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم ﷺ کو چند قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا تھا، صرف ہجرت کرنے والی ایماندار عورتوں سے آپ ﷺ نکاح کر سکتے تھے، پھر حکم ہوا: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾..... ”تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگر چہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ ہے۔“ پس اللہ تعالیٰ نے ایمان دار لونڈیوں کو حلال قرار دیا اور اس مومن خاتون کو بھی حلال کر دیا، جو اپنا نفس نبی کریم ﷺ کے لیے بہہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ ہر دین والی کو آپ ﷺ کے لیے حرام قرار دیا اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ اللَّاتِيَّاتِ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ وَأَمْرًا مُمِينَةً إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾..... ”اے نبی! بے شک ہم نے تیرے لیے تیری بیویاں حلال کر دیں جن کا تو نے مہر دیا ہے اور وہ عورتیں جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنا ہے، اس (غنیمت) میں سے جو اللہ تجھ پر لوٹا کر لایا ہے اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالوں کی بیٹیاں، جنھوں نے تیرے ساتھ

(۸۷۱۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ: ﴿لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الاحزاب: ۵۲] وَأَحْلَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَمْرًا مُمِينَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ۔ (مسند احمد: ۲۹۲۲)

ہجرت کی ہے اور کوئی بھی مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی کو بہہ کر دے، اگر نبی چاہے کہ اسے نکاح میں لے لے۔ یہ خاص تیرے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ بے شک ہم نے جان لیا جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان عورتوں کے بارے میں فرض کیا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، تاکہ تجھ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

فوائد:..... جب آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت اور تنگی کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ یہ دیا: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾..... ”تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے۔“

اس وقت آپ ﷺ کے عقد میں (۹) بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیتے ہوئے آپ ﷺ کے لیے دیگر خواتین سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مزید شادیاں کرنے کا اختیار دے دیا تھا، جیسا کہ حدیث نمبر (۸۷۱۸) سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ ﷺ نے عملی طور پر کوئی شادی کی نہیں تھی۔ خاتون کا اپنے آپ کو کسی کے بہہ کر دینا اور اس شخص کا اس عورت سے خود شادی کر لینا اور کسی سے کروا دینا، یہ نبی کریم ﷺ کا خاصہ تھا اور یہ کسی خلیفہ اور امتی کا حق نہیں ہے۔

بَابُ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ...﴾
﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۱۵)۔ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُعَبِّرُ النِّسَاءَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: أَلَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَنَزَلَ أَوْ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ان عورتوں پر عیب لگاتی تھیں جو اپنا نفس رسول اللہ ﷺ کے لیے بہہ کر دیتی تھیں اور سیدہ کہتی تھیں: کیا عورت کو اس سے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بغیر مہر کے اپنے آپ کو بہہ کر دیتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾..... ”ان میں سے
جسے تو چاہے مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے
دے اور تو جسے بھی طلب کر لے، ان عورتوں میں سے جنہیں تو
نے الگ کر دیا ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ
ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب کی سب
اس پر راضی ہوں جو تو انہیں دے اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے
دلوں میں ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم
والا ہے۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے کہا: اے اللہ
کے نبی! آپ کا رب بلا تاخیر آپ کی مرضی پوری کر دیتا ہے۔“

إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿٥١﴾ [الأحزاب: ٥١] قَالَتْ:
إِنِّي أَرَىٰ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي
هَوَاكٍ۔ (مسند احمد: ٢٥٧٦٥)

فوائد:..... اس آیت کی تفسیر اگلی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس آیت
کے نازل ہونے کے بعد بھی جب کسی بیوی کی باری ہوتی تو
اس سے اجازت طلب کرتے تھے ﴿تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ
عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾..... ”ان میں سے جسے تو چاہے
مؤخر کر دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے دے اور تو جسے
بھی طلب کر لے، ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا
ہو تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔“ میں (معاذہ) نے کہا: عائشہ! جب
آپ تم سے پوچھتے تو تم کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے کہا: میں یہ
کہتی تھی: اے اللہ کے رسول! اگر یہ میرا اختیار ہے تو میں آپ
پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گی۔“

(٨٧١٦)۔ عَنِ مَعَاذَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَرْأَةِ
مِنَّا بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿تُرْجَىٰ مَنْ
تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ
ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾
[الأحزاب: ٥١] قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا
كُنْتَ تَقُولِينَ لَهُ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ
كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
أَنْ أُؤْتَرَ عَلَيْكَ أَحَدًا۔ (مسند احمد: ٢٤٩٨١)

فوائد:..... اس آیت میں آپ کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر
کرنے میں آپ ﷺ کو اختیار دے دیا گیا تھا، آپ ﷺ جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں، یعنی اس کو نکاح میں

رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے یہ حق استعمال نہیں کیا، ماسوائے سوہہ نبیؐ کے، کہ انھوں نے اپنی باری خود ہی سیدہ عائشہ نبیؐ کے لیے بہہ کر دی تھی، آپ ﷺ نے تمام ازواج کی باریاں مقرر کر رکھی تھیں، اسی لیے آپ ﷺ نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت لے کر باری کے ایام عائشہ نبیؐ کے پاس گزارے، ﴿ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنُهُنَّ﴾ کا تعلق آپ ﷺ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ ﷺ پر تقسیم اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ ﷺ نے تقسیم کو اختیار فرمایا، تاکہ آپ ﷺ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ ﷺ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ ﷺ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اور دل داری کا اہتمام فرمایا۔

بَابُ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ...﴾
 ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۱۷)۔ عَنْ زِيَادِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ
 لِأَبِي بَنِي كَعْبٍ: لَوْ مَنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ
 كُنَّهِنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا
 يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِقَوْلِهِ: ﴿لَا
 يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب:
 ۵۲] قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَرْبٌ
 مِنَ النِّسَاءِ۔ (مسند احمد: ۲۱۵۲۷)

”زیاد انصاری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابی بن کعب بنی کعب سے کہا: اگر بالفرض نبی کریم ﷺ کی تمام بیویاں فوت ہو جاتیں تو کیا آپ ﷺ کے لئے پھر بھی نکاح کرنا حلال نہ تھا؟ انھوں نے کہا: آپ پر نکاح کرنا حرام کب ہوا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾۔ انھوں نے کہا: نبی کریم ﷺ کے لئے ایک قسم کی عورتیں حلال تھیں۔“

فوائد:..... پہلے اس آیت کا مفہوم گزر چکا ہے۔

(۸۷۱۸)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ۔
 (مسند احمد: ۲۴۶۳۸)

”سیدہ عائشہ نبیؐ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات سے پہلے آپ کے لئے مزید عورتوں سے نکاح کرنا حلال کر دیا گیا تھا۔“

فوائد:..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۷۱۳) اور اس کے فوائد۔

(۸۷۱۷) تخریج: اسنادہ ضعیف، زیاد الانصاری مجهول، و محمد بن ابی موسیٰ كذلك۔ أخرجه الطبرانی: ۲۲ / ۲۹، والدارمی: ۲۲۴۰ (انظر: ۲۱۲۰۸)
 (۸۷۱۸) تخریج: صحیح، قاله الالبانی۔ أخرجه الترمذی: ۳۲۱۶، والنسائی: ۵۶ / ۶ (انظر: ۲۴۱۳۷)

بَابُ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...﴾
 ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پتھر کے ایک تھال میں آپ ﷺ کے لئے حبس بطور تحفہ بھیجا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ ﷺ نے مجھ فرمایا: ”جاؤ اور جو بھی طے اس کو بلا لاؤ۔“ پس لوگوں نے داخل ہونا اور کھانا شروع کر دیا، نبی کریم ﷺ نے کھانے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اس پر برکت کی دعا کی اور جو اللہ کو منظور تھا، اس پر پڑھا، ادھر میں نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا، مگر اس کو دعوت دی، لوگوں نے کھانا کھایا اور سیر ہوئے اور باہر نکل گئے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اندر ہی بیٹھ کر گیس لگاتے رہے، اب نبی کریم ﷺ ان کو کچھ کہنے سے شرماتے تھے، تو آپ ﷺ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ان کو گھر میں چھوڑ دیا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ... لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ﴾“

(۸۷۱۹)۔ عَنِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ، أَهَدَتْ إِلَيْهِ أُمُّ سَلِيمٍ حَيْسًا فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَاذْهَبْ فَادْعُ مَنْ لَقَيْتَ-)) فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ يَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ وَدَعَا فِيهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقَيْتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا، فَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ﴾ [الأحزاب: ۵۳]۔

(مسند احمد: ۱۲۶۹۸)

فوائد: پوری آیت یوں ہے: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (سورہ احزاب: ۵۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو

منتشر ہو جاؤ اور نہ (بیٹھے رہو) اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے شرم نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔“

اس میں نبی کریم ﷺ کے ایک ادب کا ذکر ہے کہ جب بھی صحابہ کو کھانے پینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے بلایا جائے تو وہ اجازت کے بغیر آپ ﷺ کے گھر میں داخل نہ ہو اور کام پورا ہو جانے کے بعد فوراً اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور آپ ﷺ کے گھر میں بیٹھے ہاتھیں مت کرتے رہا کریں۔ ہمیشہ مہمان کو اپنے میزبان کے ساتھ اس ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حینس: کجھور، ہینز (یا ستو) اور گھی سے تیار کیا ہوا کھانا

(۸۷۲۰)۔ عَنِ اَنْسِ قَالَ: دَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ اِلَى وِلْمَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَسِيحَةَ بَنِي بَزِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَاَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَّلَحْمًا، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ نَمَا كَانَ يَصْنَعُ، فَاَتَى حُجْرَةَ نِسَائِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَدَعَوْنَهُ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ اِلَى بَيْتِهِ وَاَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا اَتَتْهُ اِلَى الْبَيْتِ فَاِذَا رَجُلَانِ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ فِي نَسَاجَةِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا بَصَرَ بِهِمَا وَاثَى رَاجِعًا، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ وَاثَى عَنْ بَيْتِهِ فَاَمَّا مُسْرِعِينَ، فَلَا اَدْرِي اَنَا اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرْتَهُ، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ وَاَرْحَى السُّرْبَيْنِيَّ وَبَيْتَهُ، وَاَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ۔ (مسند احمد: ۱۲۰۴۶)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس صبح نبی کریم ﷺ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ رخصتی کے بعد ولیمہ کیا تھا، میں نے لوگوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دی تھی، آپ نے لوگوں کو روٹی اور گوشت سے سیر کیا، پھر آپ لوٹے جس طرح اپنی بیویوں کے حجرہوں میں لوٹتے تھے، آپ ﷺ نے ان پر سلام کیا اور انہوں نے آپ ﷺ کے لئے دعا کی، پھر آپ ﷺ اپنے گھر کی طرف لوٹے، میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا، جب آپ ﷺ گھر تک پہنچے تو ابھی تک ایک کونے میں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو آپ ﷺ واپس چلے گئے، جب ان دو آدمیوں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو آپ ﷺ کے گھر سے بہت تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے، اب میں نہیں جانتا کہ میں نے آپ ﷺ کو ان کے چلے جانے کی خبر دی یا آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی تھی، پھر آپ ﷺ اپنے گھر کی طرف لوٹے اور میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا اور پردہ دالی آیت نازل ہوئی۔“

فوائد: پردہ والی آیت سے مراد درج ذیل آیت ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَبْزِئِنِ اِنِّيهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْيِبُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْيِبُ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

(سورہ احزاب: ۵۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی (ﷺ) کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی (ﷺ) کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو کرو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے، تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول (ﷺ) کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔“

پردے کا یہ حکم عمر رضی اللہ عنہما کی خواہش پر نازل ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو کیا اچھا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(۸۷۲۱)۔ عَنِ سَلْمَانَ الْعَلَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ جِئْتُ أَدْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَرَأَيْتَ يَا بَنِيَّ)) (مسند احمد: ۱۲۳۹۳)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب پردہ والی آیت نازل ہوئی تو میں آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے آیا، جیسے پہلے داخل ہوتا تھا، لیکن اس بار نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پیارے بیٹے! پیچھے ہٹ جاؤ (اب پردے کا حکم آ گیا ہے)۔“

(۸۷۲۲)۔ عَنِ عَائِشَةَ: أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَحْجُبْ نِسَانِكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بیویاں قضائے حاجت کے لئے باہر مناصع کی جانب نکلتی تھیں، یہ ایک وسیع میدان تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نبی کریم ﷺ سے کہتے رہتے تھے کہ آپ ﷺ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا، ایک رات سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا عشاء کے وقت باہر نکلیں، وہ ایک لمبے قد والی

(۸۷۲۱) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه ابو يعلى: ۴۲۷۶ (انظر: ۱۲۳۶۶)

(۸۷۲۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۴۶، ومسلم: ۲۱۷۰ (انظر: ۲۵۸۶۶)

خاتون تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: خبردار! اے سودہ! ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو، پس پردہ کا حکم نازل ہو گیا۔“

النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ
امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ
يَا سَوْدَةَ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ،
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ الْحِجَابُ. (مسند

احمد: ۲۶۳۹۱)

بَابُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾..... ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوة بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس پر صلوة بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔“ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں (اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم جو دیا ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس طرح مجھ پر درود بھیجو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ“ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم یہ درود پڑھ کر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ..... (اور ان کے ساتھ ہم پر بھی رحمت ہو)۔ یزید راوی کہتے ہیں: مجھے معلوم نہیں یہ چیز ابن ابی لیلیٰ نے اپنی طرف سے بیان کی ہے یا سیدنا کعب نے اس کو بیان کیا ہے۔“

(۸۷۲۳)۔ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الاحزاب: ۵۶] قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّيْكَ؟ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَالَ: ((قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ))، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ، قَالَ يَزِيْدُ: فَلَا اَدْرِيْ اَشْيْءٌ زَادَهُ ابْنُ اَبِي لَيْلَى مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ اَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ كَعْبٌ؟ (مسند

احمد: ۱۸۳۱۳)

نوٹ:..... نماز میں درود کے مسائل کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۱۷۹۹) کا باب۔

(۸۷۲۳) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه البخاری: ۳۳۷۰، و مسلم: ۴۰۶ (انظر: ۱۸۱۳۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾ الآية
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾ کی تفسیر

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾ کی تفسیر ہے کہ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس پاک ثابت کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا۔“ کے متعلق نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا دار اور اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپانے والے تھے اسی حیا کی وجہ سے قریب نہ تھا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ دیکھا جاسکے۔ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس انداز میں اس لیے چھپتے ہیں کہ ان کو جلد کی کوئی بیماری ہے یا نصیب میں پھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی اس بات سے پاک کرنا چاہا۔ ہوا یوں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام خلوت میں گئے اور اپنا کپڑا پتھر پر رکھ کر غسل کیا۔ جب غسل سے فارغ ہو کر کپڑا پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئے تو پتھر آپ کا کپڑا لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی پکڑی اور پتھر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلے اور کہتے تھے او پتھر! میرا کپڑا (دے دے) او پتھر میرا کپڑا (دے دے) کہ موسیٰ تو بہت خوبصورت انسان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتوں سے بری کر دیا۔ پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا پکڑا اور پتھر کو لاشی سے مارنا شروع کیا آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاشی مارنے سے تین یا چار یا پانچ نشان پڑ گئے۔

(۸۷۲۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ [الاحزاب: ۶۹] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَىٰ كَانَ رَجُلًا حَيًّا سَيِّئًا لَا يَكَادُ يُرَىٰ مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءَ مِنْهُ قَالَ فَأَذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا يَتَسْتَرُ هَذَا السَّسْتَرُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ سِجْلِيهِ إِمَّا بَرَّصٍ وَإِمَّا أُذْرَةَ وَقَالَ رَوْحٌ مَرَّةً أُذْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا قَالُوا وَإِنَّ مُوسَىٰ خَلَا يَوْمًا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَىٰ عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ وَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجْرٌ، ثَوْبِي حَجْرٌ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلِقًا وَأَبْرَاهُ مِمَّا كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ وَقَامَ الْحَجْرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ قَالَ قَوْلَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْحَجَرِ لَنَدْبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. (مسند احمد: ۱۰۶۷۸)

فوائد:..... اس میں موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا بیان ہے: پتھر کا ان کے کپڑے لے کر دوڑ جانا اور پتھر پر ان کی ضرب کے نشان لگانا۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ننگا نہ ہونے دیتے تھے، لیکن لوگوں نے یہ بات گھڑی کہ ان کی شرم گاہ میں فلان بیماری ہے، یہ اس وجہ سے ہر وقت پردہ کر کے رکھتے ہیں، حالات کا تقاضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام اور شبہ سے پاک ثابت کیا جائے، پس یہ واقعہ پیش آیا۔

سُورَةُ سَبَا

سورة سبا

بَابُ ذِكْرِ سَبَا وَأَوْلَادِهِ سبا اور اس کی اولاد کا ذکر

(۸۷۲۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ سَبَا مَا هُوَ أَوْ رَجُلٌ أَمَّ امْرَأَةً أَمْ أَرْضٌ؟ فَقَالَ: ((بَلْ هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشْرَةَ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَيَالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الْيَمَانِيُّونَ فَمَدَجِجٌ وَكِنْدَةٌ وَالْأَزْدُ، وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَالنَّمَارُ، وَحَمِيرٌ عَرَبًا كُلَّهَا، وَأَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَحْمٌ وَجَذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَعَسَانٌ)) (مسند احمد: ۲۸۹۸)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سبا کے بارے میں سوال کیا کہ وہ مرد تھا یا عورت یا زمین کا نام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مرد تھا، اس کے دس بچے تھے، ان میں چھ یمن میں اور چار شام میں آباد ہوئے، پس یمنی یہ ہیں: مدنج، کندہ، ازد، اشعری، انمار اور حمیر، یہ سارے کے سارے عرب تھے اور شامی یہ ہیں: لحم، جذام، عاملہ اور غسان۔“

فوائد:..... دس بچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ دس آدمی سبا کی نسل میں سے ہیں، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی پوتا اور پڑپوتا وغیرہ۔ سورہ سبا کی درج ذیل آیت میں میں سبا کا ذکر کیا گیا ہے: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (سورہ سبا: ۱۵) ”سبا کے لیے ان کی اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں کھاوا اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجالاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنش فرمانے والا۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا: قوم سبا یمن میں رہتی تھی، تبع بھی ان میں سے ہی تھے، بلقیس بھی انہی میں سے تھیں، یہ بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، چھین سے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے

کی تلقین کی، رب کی وحدانیت کی طرف بلا یا، اس کی عبادت کا طریقہ سمجھایا، کچھ زمانے تک تو یہ لوگ یونہی رہے، لیکن پھر جبکہ انہوں نے سرتابی اور روگردانی کی۔ احکام اللہ بے پرواہی سے نال دیئے تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک، باغات اور کھیتیاں وغیرہ تاخت و تاراج ہو گئیں۔ حافظ صاحب کچھ روایات بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں: آب و ہوا کی عمدگی، صحت، مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، چھھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے، یہ اس لئے تھا کہ وہ لوگ اللہ کی توحید کو مانیں اور دل و جان اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں، یہ تھی وہ اللہ کی طرف سے نشانی جس کا ذکر ان آیات میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد بستی اور بستی کے دونوں طرف ہرے بھرے پھل دار باغات اور سرسبز کھیتیاں اور ان سے جناب باری نے فرما دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزیاں کھاؤ پیو اور اس کے شکر میں لگے رہو، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔ جیسے کہ ہد ہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّأٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ﴾..... "میں تمہارے پاس سبأ کی ایک پختہ خبر لایا ہوں۔" (سورہ نمل: ۲۲) ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، عظیم الشان تخت سلطنت پر وہ متمکن ہے۔ رانی اور رعایا سب سورج پرست ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ بے راہ ہو رہے ہیں۔ مروی ہے کہ بارہ یا تیرہ پیغمبران کے پاس آئے تھے۔ بالاخر شامت اعمال رنگ لائی جو دیوار انہوں نے بنا رکھی تھی وہ چوہوں نے اندر سے کھوکھلی کر دی اور بارش کے زمانے میں وہ ٹوٹ گئیں، پانی کی ریل پیل ہو گئی دریاؤں کے، چشموں کے، بارش کے، تالوں کے، سب پانی آ گئے، ان کی بستیاں ان کے مخلات ان کے باغات اور ان کی کھیتیاں سب تباہ و برباد ہو گئیں، ہاتھ ملتے رہ گئے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، پھر تو وہ تباہی آئی کہ اس زمین پر کوئی پھلدار درخت جتنا ہی نہ تھا، پیلو، جھاؤ، کیکر، بول اور ایسے ہی بے میوہ بد مزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیڑیوں کے درخت اگ آئے تھے جو نہتا اور درختوں سے کارآمد تھے۔ لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور بہت کم پھل دار تھے۔ یہ تھا ان کے کفر و شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ نعمتیں کھو بیٹھے اور زخموں میں مبتلا ہو گئے کافروں کو یہی اور اس جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابو خیرہ کہتے ہیں گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے، روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا فوراً کوئی زحمت آپڑی اور مزہ مٹی ہو گیا۔

بَابُ: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾
 ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۲۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی قَالَ: ((قَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا كَرِيمًا ﷻ)) نے فرمایا: "جب ہمارا رب، جس کا نام بہت سَبَّحَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ زیادہ بابرکت ہے، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے

والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان کے قریب والے فرشتے جو اس آسمان میں ہیں، وہ تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کا یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، پھر حاملین کے قریب والے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ پس وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر ایک آسمان والے اگلے نچلے آسمان والے کو بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اس سے جن بات کو اچکتے ہیں اور سن لیتے ہیں، پھر انہیں شعلے مارے جاتے ہیں اور (اگر وہ بیچ جائیں تو سنی ہوئی بات میں کوئی جھوٹ ملاتے ہیں۔“ عبدالرزاق راوی نے کہا: جن بات اچکتے ہیں اور ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں۔“

السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ هَذِهِ السَّمَاءُ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ، وَيُخْبِرُ أَهْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ الْخَبْرُ إِلَىٰ هَذِهِ السَّمَاءِ، وَيَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُرْمُونَ فَمَا جَاءَ وَابِهِ عَلَىٰ وَجْهِهُ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يُقَدِّفُونَ وَيَزِيدُونَ.)) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَيَخْطِفُ الْجِنُّ وَيُرْمُونَ. (مسند احمد: ۱۸۸۲)

فوائد:..... اس حدیث میں درج ذیل آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سورہ سباء: ۲۳) ”اور سفارش اس کے ہاں نفع دیتی نہیں مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گجراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق (فرمایا) اور وہی سب سے بلند بہت بڑا ہے۔“

صحیح بخاری کی روایت میں اس آیت متعلقہ درج ذیل تفصیل بیان کی گئی ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسَلَةِ عَلَىٰ صَفْوَانَ قَالَ عَلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانَ يَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَفُو السَّمْعِ وَمُسْتَرَفُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَقَرَّحَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيَمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ صَاحِبِهِ فَيُخْرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ يَذْرُكْهُ حَتَّىٰ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ الَّذِي يَلِيهِ إِلَىٰ الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّىٰ يُلْقَوْهَا إِلَىٰ الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ الْأَرْضِ فَتَلْقَىٰ عَلَىٰ فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيُصَدِّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعْتَ مِنَ السَّمَاءِ.)) ”جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ اپنے پر

مارنے لگتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں اور زنجیر کی سی جھنکار نکلتی ہے، جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ دوسرے کہتے ہیں: جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند برتر ہے، فرشتوں کی یہ باتیں شیطان چوری سے اڑاتے ہیں اور یہ شیطان اس طرح اوپر تلے رہتے ہیں اور امام سفیان نے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے ان کی کیفیت کو بیان کیا انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان کچھ کشادگی کر کے ان کو اوپر تلے کیا، پھر کبھی فرشتے خبر ہوتے ہی آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں اور وہ شعلہ باتیں سننے والوں کو قبل اس سے کہ وہ اپنے ساتھ والے کو بتلائے جلا ڈالتا ہے اور کبھی اس شعلہ کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتا ہے اور اس طرح یہ باتیں زمین تک آ جاتی ہیں، پھر ان باتوں کو نجومی کے منہ پر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس ایک بات میں سو جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، کوئی کوئی بات اس نجومی یعنی جادوگر کی سچ نکل آتی ہے، تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس نجومی نے ہم سے یہ کہا تھا لہذا اس کی بات سچ نکلی، حالانکہ یہ وہی بات ہوتی ہے جو آسمان سے چوری کر لی جاتی ہے۔“

سُورَةُ فَاطِرٍ

سورة فاطر

بَابُ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾
 ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا...﴾ کی تفسیر

(۸۷۲۷)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهُ﴾..... ”پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکوں میں آگے نکل جانے والا ہے، اللہ کے حکم

’سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهُ﴾.....

(۸۷۲۷) تخريج: اسنادہ ضعیف لانقطاعہ بین علی بن عبد اللہ و ابی الدرداء، بینہما فیہ ابو خالد البکری

ولم یتبینہ - أخرجه الحاكم ۲ / ۴۲۶ (انظر: ۲۱۷۲۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، جو لوگ میانہ روی والے ہیں، ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کو میدانِ محشر میں روکا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی تلافی کریں گے، یہی لوگ کہیں گے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ۳۴-۳۵] (مسند احمد: ۲۲۰۷۰)

أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿﴾ ”اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت قدر دان ہے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔“

”ابو ثابت سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد دمشق میں داخل ہوا اور اس نے یہ دعا کی: اے میرے اللہ! میری وحشت کو انس سے تبدیل کر دے، میری غربت کو باعثِ رحمت بنا دے اور مجھے پیارا اور نیک ہم نشین عطا فرما، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کے یہ الفاظ سن لیے اور کہا: اگر تو سچا ہے تو میں تیری دعا کے لئے زیادہ خوش نصیب ہوں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ سے مراد وہ ظالم، جس کو حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا اور اس کو غم اور پریشانی پہنچائی جائے گی، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ سے مراد وہ شخص ہے، جس کا حساب آسان ہوگا اور ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔“

بَيْسِيرًا، وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَاُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْسَبُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ، ثُمَّ هُمْ الَّذِينَ تَلَا فَاَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لُغُوبٌ﴾ [فاطر: ۳۴-۳۵] (مسند احمد: ۲۲۰۷۰)

(۸۷۲۸)۔ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ آانسْ وَخَشْتِي، وَارْحَمْ عُرْيَتِي، وَارزُقْنِي جَلِيسًا حَبِيبًا صَالِحًا، فَسَمِعَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتُ صَادِقًا لَأَنَا أَسْعَدُ بِمَا قُلْتَ مِنْكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ قَالَ: الظَّالِمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مَقَامِهِ فَذَلِكَ اللَّهُمَّ وَالْحَزْنَ، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَيْسِيرًا، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ۳۲] فَذَلِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ لُجَّةً بَغَيْرِ حِسَابٍ. (مسند احمد: ۲۸۰۵۴)

(۸۷۲۸) تخریج: اسنادہ ضعیف، ثابت او ابو ثابت، لم ينسب البخاری فی ”تاریخہ“ و ابو حاتم فی ”الجرح والتعديل“، وذهب الهیثمی الی انه ثابت بن عبید، وهو من رجال مسلم، وقد اختلف فی اسنادہ علی الاعمش۔ أخرجه الحاكم: ۲ / ۴۲۶ (انظر: ۲۷۵۰۵)

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ﴾..... ”پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی متوسط درجے کا ہے اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”(اس آیت میں مذکورہ) سب لوگوں کا مرتبہ ایک ہی ہے اور سارے جنت میں جائیں گے۔“

(۸۷۲۹)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قَالَ: ((هُوَ لِأَنَّ كُلَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ)) (مسند احمد: ۱۱۷۶۷)

فوائد: اس آیت میں امت محمدیہ کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں:

- (۱) وہ لوگ جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔
- (۲) اس قسم سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرائض کے پابند اور محرمات کے تارک تو ہیں، لیکن کبھی مستحبات کو ترک کر دیتے ہیں اور کبھی بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے، بس نیک تو ہیں، لیکن پیش پیش نہیں ہیں۔
- (۳) وہ لوگ جو دین کے معاملے میں پہلی دونوں اقسام کے افراد سے سبقت کرنے والے ہیں۔

سُورَةُ يَسٍ

سورة يس

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سورة يس کی فضیلت کا بیان

(۸۷۳۰)۔ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ ﷺ ”سیدنا معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۸۷۲۹) تخريج: اسنادہ ضعیف لابہام الرجل من ثقیف، والرجل من کنانة - أخرجه الترمذی: ۳۲۲۵ (انظر: ۱۱۷۴۵)

(۸۷۳۰) تخريج: اسنادہ ضعیف لجهالة الرجل وابیه، وسمی فی الروایة بأبی عثمان، ولا يعرف - أخرجه النسائی فی ”عمل الیوم والليلة“: ۱۰۷۵، والطبرانی: ۵۱۱ / ۲۰ (انظر: ۲۰۳۰۰)

فرمایا: ”سورہ یس قرآن مجید کا دل ہے، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے گھر کی خاطر اس کی تلاوت کرے گا، اس کو بخش دیا جائے گا اور اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔“

”صفوان کہتے ہیں: بعض بزرگوں نے مجھے بیان کیا کہ وہ غضیف بن حارث شمالی کے پاس موجود تھے، ان پر عالم نزع کی بڑی سختی تھی، پس انھوں نے کہا: کیا تم میں سے کوئی آدمی سورہ یس پڑھ سکتا ہے؟ صالح بن شریح سکوتی نے سورہ یس کی تلاوت کی، ابھی تک انھوں نے چالیس آیتیں پڑھی تھیں کہ وہ فوت ہو گئے۔ بزرگ کہتے تھے کہ جب میت پر اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی وجہ سے اس پر تخفیف کی جاتی ہے۔“

اللَّهُ ﷻ قَالَ: ((يَسُ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى وَالِدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ، وَافْرَاءُ وَهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ.)) (مسند احمد: ۲۰۵۶۶)

(۸۷۳۱)۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي الْمَشِيخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الشَّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ ﴿يَسُ﴾ قَالَ: فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شَرِيحِ السَّكُوْتِيَّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: فَكَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا، قَالَ صَفْوَانُ: وَقَرَأَهَا عَيْسَى بْنُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ ابْنِ مَعْبِدٍ۔ (مسند احمد: ۱۷۰۹۴)

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! کیا تجھے معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟“ میں نے کہا: جی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ چلا رہے گا، یہاں تک کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے واپس آنے کی اجازت طلب کرے گا، پس اس کو اجازت دی جائے گی اور کہا جائے گا: تو جہاں سے آیا ہے، وہیں چلا جا، پس یہ اپنے مطلع کی طرف لوٹ جائے گا، وہی اس کے فرار پلٹنے کی جگہ ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ ”اور سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چلتا ہے۔“

(۸۷۳۲)۔ عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَي رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَتَسْتَأْذِنَ فِي الرَّجُوعِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعِي إِلَى مَطْلَعِهَا فَذَلِكَ مُسْتَقَرُّهَا.)) ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: ۳۸] (مسند احمد: ۲۱۶۷۹)

(۸۷۳۱) تخریج: اثر اسنادہ صحیح (انظر: ۱۶۹۶۹)

(۸۷۳۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۱۹۹، ۴۸۰۲، ومسلم: ۱۵۹ (انظر: ۲۱۳۵۲)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔“

(۸۷۳۳)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ ”اور سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چلتا ہے۔“ [یس: ۳۸] قَالَ: ((مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ)) (مسند احمد: ۲۱۷۳۴)

فوائد: ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۶۰۰)

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

سورة صافات

بَابُ قِصَّةِ الذَّبِيحِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾
ذبح ہونے والے کا بیان اور ﴿نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب جبریل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو جمرہ عقبہ کے پاس لے کر گئے تو شیطان سامنے آ گیا، انھوں نے اس کو سات کنکریاں ماریں، وہ زمین میں دھنس گیا، پھر جب وہ جمرہ وسطیٰ پر آئے تو شیطان پھر سامنے آ گیا، انھوں نے اسے سات کنکریاں ماریں، پس وہ زمین میں دھنس گیا، پھر جب وہ دور والے جمرہ کے پاس پہنچے تو شیطان پھر سامنے آ گیا، انھوں نے اس بار بھی اس کو سات کنکریاں ماریں اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے

(۸۷۳۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ فَسَاحَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ فَسَاحَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ فَسَاحَ، فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ!

(۸۷۳۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۸۰۳، ۷۴۳۳، و مسلم: ۱۵۹ (انظر: ۲۱۴۰۵)

(۸۷۳۴) تخریج: اسنادہ ضعیف، عطاء بن السائب اختلط، وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من أهل العلم، والمرجح هنا ان هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط، والصحيح عند أهل العلم أن الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق۔ (انظر: ۲۷۹۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَوْ تُفْسِنِي لَا أَضْطَرُّ فَيَنْتَضِحَ عَلَيْكَ مِنْ
 دَمِي، إِذَا ذَبَحْتَنِي فَسُدَّهُ، فَلَمَّا أَخَذَ
 الشَّفْرَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ:
 ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾
 [صافات: ۱۰۵]۔ (مسند احمد: ۲۷۹۵)

اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے اپنے باپ سے کہا: اے ابا جان! مجھے اچھی طرح باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے چین ہو جاؤں اور میرا خون آپ پر جا گرے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو باندھ دیا اور جب چھری پکڑ کر ذبح کرنا چاہا تو آواز آئی: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾..... ”اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔“

نوٹ:..... مفسرین کے درمیان اس کی بابت اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کون بیٹا ذبح تھا، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، ابن جریر، ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح قرار دیا ہے اور یہی بات صحیح ہے، صحیح ہونے کی وجوہات درج ذیل ہیں:

(۱) سورہ صافات کی آیت نمبر (۱۰۰) سے (۱۱۳) تک کا مطالعہ کریں، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر ہے، جس بیٹے کو ذبح کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَبَشِّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾..... ”تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔“ پھر آیت نمبر (۱۱۱) تک ذبح کا واقعہ بیان کیا اور پھر فرمایا: ﴿وَبَشِّرْنَا بِاسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾..... ”اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی، جو نبی اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔“ اس ترتیب سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کیا گیا، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت بعد میں ہوئی تھی۔

درج ذیل اقتباسات تفسیر ابن کثیر سے لیے گئے ہیں، بتقاضہ ضرورت ساتھ اضافی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں:

(۲) اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بردبار بچے کی بشارت دی جاتی ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ آپ کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، اسے تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں بلکہ ان کی کتب میں موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ یا سب سے زائد تھی اور جس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت آپ کی عمر ننانوے برس تھی۔

(۳) ان کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم کو اپنے اکلوتے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا (اور اکلوتے بیٹے تو حضرت اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی بڑے تھے اور بڑا ہی اکلوتا ہوتا ہے، جب تک دوسرا بیٹا پیدا نہ ہو)۔ لیکن صرف اس لیے کہ یہ اہل کتاب خود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب ہیں، پس انھوں نے واقعہ کی اصلیت کو ہی بدل دیا اور یہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہٹا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ثابت کر دی اور بیجا تاویلیں کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا اور کہا ہماری کتاب میں لفظ ”وحید“ ہے اس سے مراد اکلوتا نہیں، بلکہ جو تیرے پاس اس وقت اکیلا ہے، وہ ہے، یہ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اپنی

والدہ کے ساتھ مکہ میں تھے اور وہاں خلیل اللہ ابراہیم ﷺ کے ساتھ صرف حضرت اسحاق تھے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، ”وحید“ اسی کو کہا جاتا ہے جو اکلوتا ہو اور اس کا اور کوئی بھائی نہ ہو۔

(۴) پھر یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اکلوتے اور پہلوٹھی کے بچے کے ساتھ جو محبت اور لاڈ پیار ہوتا ہے، وہ عموماً دوسری اولاد کے ہونے پر باقی نہیں رہتا، اس لیے اکلوتے کو ذبح کرنے کا حکم، اس میں کڑا امتحان اور مشکل آزمائش ہے، اس نقطے کا مصداق بھی صرف اسماعیل ﷺ بنتے ہیں۔

(۵) اسماعیل کی بشارت کا ”غلامِ حلیم“ (بردبار بچہ) کہہ کر ذکر ہوا اور پھر اللہ کی راہ میں ذبح کے لیے تیار ہونے کا ذکر ہوا، اس تمام بیان کو ختم کر کے پھر نبی صالح اسحاق کی ولادت کی بشارت کا بیان ہوا اور فرشتوں نے اسحاق ﷺ کی بشارت کے موقع پر ﴿غلامِ علیہ﴾ کہا، (اور آدمی بڑا ہو کر علیم بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق ﷺ کی ولادت کی بشارت کے ساتھ یہ بھی بتلادیا گیا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے)

(۶) قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اسحاق کی بشارت ان لفظوں میں دی گئی: ﴿فَبَشِّرْ نَبَاً بِاسْحٰقَ وَيٰ اِسْحٰقَ يٰعَقُوبَ﴾..... ”پس ہم نے ابراہیم ﷺ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی“ (سورہ ہود: ۷۱) اس سے معلوم ہوا کہ اسحاق ﷺ زندہ رہیں گے اور ان کی نسل جاری رہے گی اور اسحاق ﷺ کی اولاد میں یعقوب ﷺ پیدا ہوں گے، اب جس بچے کی نسل جاری رہنے کا پہلے ہی علم دیا جا چکا ہو، اس کو ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے؟

(۷) ذبح اللہ تو اسماعیل ﷺ ہیں، کیونکہ ذبح کا محل منیٰ ہے اور یہ مقام مکہ میں ہے اور اسماعیل ﷺ یہیں تھے، اسحاق ﷺ تو کنعان شہر میں تھے، جو شام ہے۔

(۸) نبی کریم ﷺ نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کو بلا کر فرمایا: ((إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَرْنِي الْكَنْبِشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَتَنَيْتُ أَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُحَمَّرَ هُمَا فَحَمَّرَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ الْمُصَلِّيَ.)) قَالَ سُفْيَانٌ لَمْ تَزَلْ قَرْنَا الْكَنْبِشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى احْتَرَقَ الْبَيْتُ فَاحْتَرَقَا۔ ”جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے مینڈھے کے دو سینگ دیکھے تھے، پھر میں بھول گیا کہ تجھے ان کو ڈھانپ دینے کا حکم دوں، اس لیے اب انہیں ڈھانپ دے، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں ہے جو نمازی کو مشغول کرے۔“ سفیان فرماتے ہیں: مینڈھے کے دونوں سینگ بیت اللہ میں ہی رہے، جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے تھے۔“

اسماعیل ﷺ کے فدیے میں جو مینڈھا لایا گیا تھا، اس کے سینگ کعبہ کی عمارت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ جب یزید بن معاویہ کے دور میں واقعہ حرہ کے بعد بنو امیہ کا لشکر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد اللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا اور منجیق نصب کر کے کعبہ پر پتھر برسائے اور آگ لگ جانے کی وجہ سے بیت اللہ کے پردے، چھت اور یہ دو سینگ جل گئے، یہ صفر ۶۳ھ کا واقعہ ہے۔ (بلوغ المعانی من اسرار الفتح الربانی: ۱/ ۳۶۰)

یہ واقعہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ ذبح اللہ اسماعیل تھے، اسی وجہ سے ان کی اولاد قریش تک یہ سینگ برابر اور مسلسل چلے آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا۔
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اسماعیل تھے، واللہ اعلم بالصواب۔

سُورَةُ ص

سورہ ص

بَابُ: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾
﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے، قریشی ان کے پاس آئے اور نبی کریم ﷺ بھی ان کی تیمارداری کے لئے تشریف لے آئے، ان کے سر کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تو تھی، لیکن ابو جہل کھڑا ہوا اور اس جگہ میں بیٹھ گیا، پھر قریشیوں نے کہا: ابو طالب! تمہارا یہ بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے آپ ﷺ سے مخاطب ہو کر کہا: کیا بات ہے، یہ آپ کی قوم آپ کی شکایت کر رہی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے چچا! میں انہیں ایک ایسے کلمہ پر متحد کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو قبول کرنے سے عرب ان کے تابع ہوں گے اور عجم انہیں جزیہ دیں گے۔“ ابو طالب نے کہا: وہ کونسا کلمہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: کیا اس نے سب معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے، اس وقت سورہ ص کی یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

(۸۷۳۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَضَ أَبُو طَالِبٍ فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَقَعَدَ فِيهِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا، قَالَ: مَا شَأْنُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ قَالَ: ((يَا عَمُّ! أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي الْعَجَمُ إِلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ))، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))، فَقَامُوا فَقَالُوا: أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، قَالَ: وَنَزَلَ ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ۱-۵]، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (بِعْنَى ابْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ): قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَبَادٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ أَبِي: قَالَ الْأَشْجَعِيُّ: يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ (مسند احمد: ۲۰۰۸)

فوائد: نازل ہونے والی پوری آیات یہ تھیں: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَآلَاتٍ حِينٍ مَنَاصٍ. وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفَرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ. أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ (ص).

”اس نصیحت والے قرآن کی قسم! بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں (پڑے ہوئے) ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلاشبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔“

(۸۷۳۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ لَمَّا مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْهُمْ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ! ابْنُ أَخِيكَ يَشْتُمُ آلِهَتَنَا يَقُولُ وَيَقُولُ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَنَاهَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِبٍ، وَكَانَ قُرْبَ أَبِي طَالِبٍ مَوْضِعُ رَجُلٍ فَخَشِيَ أَنْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَمِّهِ أَنْ يَكُونَ أَرْقَ لَهُ عَلَيْهِ فَوَتَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَجِدْ مَجْلِسًا إِلَّا عِنْدَ الْبَابِ فَجَلَسَ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ قَوْمَكَ يَشْكُونَكَ، يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَتَهُمْ، وَتَقُولُ وَتَقُولُ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: ((يَا عَمُّ! إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجَزِيَّةَ))، قَالُوا: وَمَا هِيَ نَعْمَ وَأَبِيكَ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریشیوں کا ایک گروہ ان کی تیمارداری کے لئے آیا، ان میں ابو جہل بھی تھا، انہوں نے کہا: ابو طالب! تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا، ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، ابو جہل کو خدشہ تھا کہ اگر نبی کریم ﷺ داخل ہوں تو قریب ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر ترس آجائے، اس لیے یہ کوہر اس خالی جگہ پر بیٹھ گیا، جب نبی کریم ﷺ داخل ہوئے اور بیٹھنے کی جگہ نہ پائی تو آپ ﷺ دروازے کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا: اے بھتیجے! تمہاری قوم تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور یہ یہ کہتے ہو اور ایسے کرتے ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے چچا! میں ان سے ایسا کلمہ چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے عرب ان کے تابع ہو جائیں گے اور عجمی ان کو جزیہ دیں گے۔“ انہوں نے کہا: وہ کونسا کلمہ ہے؟ تیرے باپ کی قسم! ہم یہ اور اس طرح

(۸۷۳۶) تخريج: اسنادہ ضعيف، عباد بن جعفر في عداد المجهولين - أخرجه ابن ابى شيبة: ۱۴ /

۲۹۹، والنسائي في "الكبرى": ۱۱۴۳۷ (انظر: ۳۴۱۹)

عَشْرًا، قَالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) قَالَ: فَقَامُوا وَهُمْ يَنْفُضُونَ يَابَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿لَمَّا بَدُّوْا عَذَابِ﴾ [ص: ۵ - ۸] - (مسند حمد: ۳۴۱۹)

کی دس باتیں قبول کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ یہ سن کر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا): ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ ”کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلاشبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے آگے تلاوت کی، یہاں تک کہ ﴿لَمَّا بَدُّوْا عَذَابِ﴾ تک پہنچ گئے۔“

فوائد: باقی کل تین آیات تھیں، جو کہ درج ذیل ہیں:

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْيَهْتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْهَيْلَةِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُوا عَذَابِ﴾ ”اور ان کے سر کردہ لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہمارے ارمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انھوں نے ابھی تک میرا مذاب نہیں چکھا۔“

سُورَةُ الزُّمَرِ

سورة زمر

بَابُ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ کی تفسیر

(۸۷۳۷)۔ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿[الزمر: ۳۱] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! أَيْكُرُّ

”سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب سورہ زمر کی یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ ”(اے نبی) یقیناً تم بھی وفات پانے والے ہو اور وہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم روز قیامت اپنے رب کے پاس جھگڑا

کرو گے۔“ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! گناہوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہمارے مابین جو کچھ ہوتا ہے، کیا پھر اس کا تکرار ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، تم پر ضرور تکرار ہوگا، یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔“ یہ سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے۔“

”سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ ”(پھر تم روز قیامت اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔“ تو میں (زبیر) نے کہا: اے اللہ کے رسول! دنیا میں ہونے والے ہمارے مابین کے جھگڑوں کے ساتھ (آخرت میں بھی یہ جھگڑے) ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ اور جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ لَنْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ ”پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“ میں (زبیر رضی اللہ عنہ) نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ بس ہمارے پاس تو یہ دو کالے رنگ کی چیزیں ہیں، ایک کھجور ہے اور ایک پانی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! عنقریب یہ سوال ہوگا۔“

فوائد: دنیا اور آخرت کے محاسبہ میں فرق ہے، اگر مظلوم نے دنیا میں ہی اپنی رضامندی سے ظالم کو مکمل طور پر معاف کر دیا تو ٹھیک و اگر نہ میدانِ حشر میں تصفیہ ہوگا۔ نعمت، نعمت ہی ہوتی ہے، ہر بشر کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے، اگر دنیا میں ان کا شکر ادا کر لیا تو ٹھیک، وگرنہ آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔

عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الدُّنُوبِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، لِيُكْرَرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُوَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقُّهُ)) فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ! إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيدٌ. (مسند احمد: ۱۴۳۴)

(۸۷۳۸)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ۳۱] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! مَعَ خُصُومَتِنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، وَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [الكاثر: ۸] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! أَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ وَإِنَّمَا يَعْنِي هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ)) (مسند احمد: ۱۴۰۵)

بَابُ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾
 ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ کی تفسیر

”مولائے رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس آیت کے بدلے میں دنیا و ما فیہا دے دیا جائے: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.....“ اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔“ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور جس نے شرک کیا؟ نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا: ”مگر جس نے شرک کیا (اس کی بخشش نہیں ہو گی)۔“ آپ ﷺ نے تین بار یہ جملہ دوہرایا۔

(۸۷۳۹)۔ عَنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا أَحَبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ۵۳] فَتَنَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ (مسند احمد: ۲۲۷۲۰)

فوائد:..... آیت مبارکہ اپنے مضمون میں واضح ہے، توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

بَابُ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾
 ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک یہودی، نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرا، آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا: اے ابوالقاسم! اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو اس انگشت شہادت پر اٹھالے گا اور زمین کو اس انگلی پر، پانی کو اس انگلی پر، پہاڑوں کو اس انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو اس انگلی پر اٹھالے گا؟ ساتھ ہی اس

(۸۷۴۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَى ذَهَبٍ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْأَرْضَ عَلَى ذَهَبٍ، وَالْمَاءَ عَلَى ذَهَبٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذَهَبٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذَهَبٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ، قَالَ:

(۸۷۳۹) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابن لہیعہ سیء الحفظ، و ابو عبد الرحمن الجبلانی فی عداد المجہولین - أخرجه الطبرانی فی "اللاوسط": ۱۷۶ (انظر: ۲۲۳۶۲)
 (۸۷۴۰) تخریج: حسن لغیرہ - أخرجه الترمذی: ۳۲۴۰ (انظر: ۲۹۸۸)

یہودیوں نے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر نہیں کی، جتنی کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔“

”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابو القاسم! کیا یہ بات آپ تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ایک انگلی پر، آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور ترمٹی کو ایک انگلی پر اٹھالے گا؟ نبی کریم ﷺ اس کی بات پر اتنا زیادہ ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نمایاں ہو گئیں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر نہیں کی، جتنی کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن منبر پر یہ اس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ”اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔“ ساتھ ہی نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے حرکت دینا شروع کی اور فرمایا: ”رب اپنی ذات کی بزرگی بیان کر رہا ہے کہ میں جبار ہوں، میں بڑائی والا ہوں، میں

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ۶۷] (مسند احمد: ۲۹۸۸)

(۸۷۴۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَبْلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالسَّمَوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْأَرْضَ رَضِينَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ۶۷] النَّبِيُّ ﷺ (مسند احمد: ۳۵۹۰)

(۸۷۴۲)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ ذَاتِ يَوْمٍ عَلَى الْمُنْبَرِ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ۶۷] وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ وَيَحْرُكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ: ((يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ)) فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا

(۸۷۴۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۴۱۵، ۷۴۵۱، ومسلم: ۲۷۸۶ (انظر: ۳۵۹۰)

(۸۷۴۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۴۱۲، ومسلم: ۲۷۸۸ (انظر: ۵۴۱۴)

یَاخِرَنَّ بِهِ۔ (مسند احمد: ۵۴۱۴) بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں، میں کریم ہوں۔“ جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو منبر اس قدر لرز رہا تھا کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں آپ منبر سے نیچے نہ گر جائیں۔

فوائد:..... یہ آیت اللہ تعالیٰ کے عظیم اختیارات پر دلالت کرتی ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا: مشرکین نے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت جانی ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت والا، اس سے زیادہ بادشاہت والا، اس سے بڑھ کر غلبے اور قدرت والا کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسرہ ہے اور نہ مد مقابل، یہ آیت قریشی کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر انہیں قدر ہوتی تو اس کی باتوں کو غلط نہ جانتے، جو شخص اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے، وہی اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس آیت کے متعلق بہت سی حدیثیں منقول ہیں، اس جیسی آیات اور احادیث کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ رہا ہے کہ جس طرح اور جن لفظوں میں یہ آئی ہے اسی طرح انہی لفظوں کے ساتھ انہیں مان لینا چاہیے اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ ان کی کیفیت کو ٹٹولا جائے اور نہ ان میں تحریف و تبدیلی کی جائے۔

سُورَةُ فَصَّلَتْ

سورۃ فصلت

بَابُ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ...﴾
﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۴۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِبِتَارِ الْكَعْبَةِ، فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيٍّ وَخَتَنَاهُ نَقْفِيَّانَ أَوْ نَقْفِيٍّ وَخَتَنَاهُ قُرَشِيَّانَ، كَبِيرٌ سَخِمٌ بَطُونِهِمْ، قَلِيلٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ، فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ أَسْمَعُهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَرَأُونَ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ: أَرَأَنَا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ وَإِذَا لَمْ نَرَفَعْهَا لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ سَمِعَ

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کعبہ کے پردے کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا کہ تین آدمی آئے، ایک قریشی تھا اور دو اس کے سالے تھے، جو بنو ثقیف سے تھے، یا ایک ثقیفی تھا اور دو اس کے قریشی سالے تھے، ان کے پیٹوں پر چربی تو بہت زیادہ چڑھی ہوئی تھی لیکن دلوں میں سمجھ کی کمی تھی، انہوں نے مختلف باتیں کیں، میں وہ ساری تو نہ سن سکا، بہر حال ان میں سے ایک نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: میرا خیال ہے کہ جب ہم

مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كَلَّهُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [فصلت: ۲۲-۲۳] - (مسند احمد: ۳۶۱۴)

آواز بلند کریں گے تو وہ ہماری آواز سنے گا اور جب ہم آوازیں بلند نہیں کریں گے تو وہ نہیں سنے گا، تیسرا بولا اور اس نے کہا: اگر وہ ہماری بات کا کچھ حصہ سنتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری باتیں سنتا ہے۔ جب میں نے نبی کریم ﷺ سے ان باتوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

فوائد: مکمل آیات یہ ہیں: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ”اور تم اس سے چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چہرے اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام، جو تم کرتے ہو، نہیں جانتا۔ اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔“

مشرک واقعی کھوٹی عقل والا ہوتا ہے، بھلا جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہ رہے، اس کو کون آسرا دے گا۔

سُورَةُ الشُّورَى

سورة شوری

بَابُ ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾
﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ کی تفسیر

(۸۷۴۴)۔ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ: أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، وَسَلِمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ الْمَعْنَى عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ لَا

”طاووس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے معنی کے بارے میں سوال کیا: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ”کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر قربت داری کی دوستی کا سوال کرتا ہوں۔“ سعید بن حمیر نے کہا: یہاں

محمد ﷺ کی قربت داری مراد ہے، لیکن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اے سعید! تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے، نبی کریم ﷺ کی قریش کے ہر چھوٹے اور بڑے قبیلے کے ساتھ قربت داری تھی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ ”میں تم سے تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان جو قربت داری ہے میں تو اس کو ملانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔“

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿الشورى: ۲۳﴾ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجَلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ إِلَّا أَنْ تَصَلُّوا قَرَابَةَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ (مسند احمد: ۲۰۲۴)

فوائد: قبائل قریش اور نبی کریم ﷺ کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں وعظ و نصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتے داری ہے، اس کا لحاظ تو کرو، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تو باز رہو، تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری و قربت کے ناطے مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ اور میرے راستے کا روڑہ تو نہ بنو۔ ذہن نشین رہے کہ نبی کریم ﷺ کی آل حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے، اس سے محبت، اس کی تعظیم و توقیر جزو ایمان ہے، لیکن اس کا آیت کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بَابُ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ...﴾
﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں قرآن مجید کی افضل آیت نہ بتاؤں، جو نبی کریم ﷺ نے ہمیں بیان فرمائی تھی، وہ آیت یہ ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ ”تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: اے علی! میں تمہارے لئے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ جو کچھ تم کو پہنچتا

(۸۷۴۵)۔ عَنْ أَبِي سُخَيْلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ ﷺ: أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿الشورى: ۳۰﴾ وَسَأَفْسُرُهَا لَكَ يَا عَلِيُّ! ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا، ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾

(۸۷۴۵) تخريج: اسنادہ ضعیف، الازھر بن راشد الکاهلی ضعفہ ابن معین، وقال ابو حاتم: مجهول، والخضر بن القواس مجهول، وكذا ابو سخيلة۔ أخرجه ابو يعلى: ۴۵۳، ۶۰۸ (انظر: ۶۴۹)

وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُنْتَى عَلَيْهِمُ الْعُقُوْبَةُ فِى الْاٰخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِى الدُّنْيَا، فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَحْلَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَ بَعْدَ عَفْوِهِ. ((مسند احمد: ۶۴۹)

ہے، یعنی بیماری یا سزا یا کوئی دنیوی آزمائش، ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ﴾ (تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے) اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کرم والا ہے کہ وہ آخرت میں تم کو دوبارہ عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ معاف کر دیتا ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ بردبار ہے کہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ گرفت کرے۔“

فوائد:..... اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض گناہوں کا کفارہ دنیوی مصائب بن جاتے ہیں، کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی کریم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ مواخذہ نہیں فرمائے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ اَذْنَبَ فِى الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوْقِبَ بِهٖ فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُنْتَىٰ عِقُوْبَتَهٗ عَلٰى عَبْدِهٖ، وَمَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّعُوْدَ فِى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.)) (ترمذی: ۲۶۲۶، وابن ماجہ: ۲۶۰۴، مسند احمد: ۷۷۵)

”جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور پھر اسے یہیں اس کی سزا دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انصاف والا ہے کہ وہ ایسے بندے کو دوبارہ سزا دے، اور جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی اور اس کو معاف کر دیا تو وہ اس سے زیادہ فضل و کرم والا ہے کہ وہ اس گناہ پر گرفت کرے، جس کو وہ معاف کر چکا ہو۔“

معلوم ہوا کہ حد سے متعلقہ جرم معاف ہو جاتا ہے، آپ ﷺ نے عملاً حدود کے نفاذ کے بعض مواقع پر بھی بخشش کی نویدیں سنائی ہیں۔ اور کوئی مجرم حد سے بچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر اس نے چاہا تو اس کو معاف کر دے گا اور چاہا تو عذاب دے گا، آخری حدیث میں دنیا میں گناہ کی پردہ پوشی کا اللہ تعالیٰ کا جو قانون بیان کیا گیا ہے، یہ قانون ہر جرم کے بارے میں علی الاطلاق نہیں ہے کہ دنیا میں جس مجرم کی پردہ پوشی کی گئی، اس کو آخرت میں بخش دیا جائے، بلکہ اس خاص آدمی کے حق میں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی اور اس کو بخش بھی دیا تو قیامت کے دن اس کے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسری کئی نصوص سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی مجرم کے گناہ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شخص یہ سمجھے کہ اس کا گناہ تو معاف کیا جا چکا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس چیز کا امکان بھی ہے کہ اس سے اس کے گناہ کا انتقام لیا جائے، مؤخر الذکر چیز مؤمن کو ستاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ نیکیاں کرنے اور توبہ تائب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

سُورَةُ الزُّحُرْفِ

سورة زحرف

بَابُ: ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا...﴾
 ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں تو اس کو جانتا ہوں، لیکن کبھی کسی آدمی نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا علم ہے، اس لیے سوال نہیں کرتے، یا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس کے بارے میں سوال کریں، پھر وہ ہم سے اور باتیں کرتے رہے اور جب کھڑے ہو کر چلے گئے تو ہم ایک دوسرے سے ملامت کرنے لگے کہ ہم نے ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت ہی نہیں کیا، میں (ابو بکر) نے کہا: کل جب وہ آئیں گے تو میں پوچھوں گا، چنانچہ جب دوسرے دن آئے تو میں نے کہا: اے ابن عباس! کل آپ نے ایک آیت کا ذکر کیا تھا کہ اس کے متعلق آپ سے کسی آدمی نے پوچھا نہیں ہے، اب معلوم نہیں لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے نہیں پوچھایا وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے؟ انہوں نے کہا: جی، بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں سے فرمایا: اے قریشیوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی پرستش کی جائے گی، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اب قریشیوں کو پتہ تھا کہ عیسائی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ عیسائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی وہ

(۸۷۴۶)۔ عَنِ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى ابْنِ عُقَيْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ آيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ فَمَا أَذْرَى أَعْلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا، أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا فَيَسْأَلُوا عَنْهَا، ثُمَّ طَفِقَ يُحَدِّثُنَا فَلَمَّا قَامَ تَلَا وَمَنَا أَنْ لَا نَكُونَ سَأَلْنَاهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: أَنَا لَهَا إِذَا رَاحَ غَدَا فَلَمَّا رَاحَ الْغَدَا، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! ذَكَرْتَ أَمْسٍ أَنَّ آيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَسْأَلْكَ عَنْهَا رَجُلٌ قَطُّ فَلَا تَذْرَى أَعْلِمَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْهَا أَمْ لَمْ يَفْطِنُوا لَهَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْهَا، وَعَنِ اللَّاتِي قَرَأْتَ قَبْلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِقُرَيْشٍ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ...))، وَقَدْ عَلِمْتُ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّصَارَى تَعْبُدُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ؟ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدًا! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى كَانَ نَبِيًّا، وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ صَالِحًا، فَلَيْزِنَ كُنْتَ

(۸۷۴۶) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه مختصراً ابن حبان: ۶۸۱۷ (انظر: ۲۹۱۸)

آپ ﷺ کی نبوت کے منکر ہیں۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا: اے محمد! کیا تم ہی لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو پھر اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو ان کے معبود بھی ویسے ہی ہوئے، جیسے تم کہتے ہو (پس عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی خیر نہ رہی)؟ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ﴾..... ”جب ان کے لئے مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو تیری قوم اس سے منہ پھیرتی ہے۔“ راوی نے کہا: ”يَصِدُونَ“ کا لیا مطلب ہے، اس نے کہا: شور کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا قیامت سے پہلے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔“

صَادِقًا فَإِنَّ إِلَهَهُمْ لَكُمْ تَقُولُونَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ﴾ [الزخرف: ٥٧] قَالَ: قُلْتُ: مَا يَصِدُونَ، قَالَ يَضْجُونَ: ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٦١] قَالَ: هُوَ خُرُوجُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (مسند احمد: ٢٩١٨)

فوائد:..... شرک کی تردید اور جھوٹ معبودوں کی بے وقعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تو اس سے مراد پتھر کی مورتیاں ہوتی تھیں، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، نہ وہ نیک لوگ، جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے ان کو معبود بنا لیا۔ اس لیے مشرکین کا یہ کھوکھلا نقطہ بے وقعت ہو گیا کہ اگر ان کے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ نبی بھی جہنم میں جائیں گے، جن کی عبادت ہونے لگی، العیاذ باللہ۔

بَابُ: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ...﴾
﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ...﴾ کی تفسیر

(٨٧٤٧)۔ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: ((وَنَادُوا يَا مَالِكُ))
”سیدنا یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منبر پر یہ الفاظ ادا کیے: ((وَنَادُوا يَا مَالِكُ))..... ”وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک!“ (الزخرف: ٧٧)۔ (مسند احمد: ١٨١٢٥)

فوائد:..... جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے۔ پوری آیت یوں ہے: ((وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِئُونَ))..... ”اور وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک! تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، لیکن وہ کہے گا: تمہیں تو ہمیشہ (اسی جہنم میں) رہنا ہے۔“

جہنمی، جہنم میں موت کا مطالبہ کریں گے، لیکن اس وقت موت کو موت آچکی ہوگی۔

سُورَةُ الدُّخَانِ

سورہ دخان

بَابُ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ...﴾
﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ...﴾ کی تفسیر

”مسروق سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ایک آدمی کوفہ کی مسجد اعظم میں بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن آسمان سے دھواں نازل ہوگا، جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں کو پکڑے گا، اور ایمانداروں پر اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کو زکام محسوس ہوگا۔ یہ سن کر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیکن یہ بات سنتے ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: اے لوگو! جب تم سے علمی سوال کیا جائے تو اگر اس کا علم ہو تو اس کا جواب دو اور اگر علم نہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ ”اللہ اعلم“ (اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے)، بے شک یہ بھی علم ہی ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں ”اللہ اعلم“ کہا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾.....

”کہہ دو کہ میں تم سے اس پر اجرت طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“ جب قریشی نبی کریم ﷺ پر غالب آ گئے اور آپ پر سرکش ہو گئے تو آپ ﷺ نے ان پر ان الفاظ کے ساتھ بددعا کی: ”اے میرے اللہ! یوسف علیہ السلام والا سات سالہ قحط ان پر مسلط کر کے

(۸۷۴۸)۔ عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَزَلَ دُخَانٌ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَخَذَ بِأَسْمَاعِ الْمُنافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، وَأَخَذَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ، قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سُئِلَ مِنْكُمْ عَنْ عِلْمٍ هُوَ عِنْدَهُ فَلْيَقُلْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ إِنَّ فُرَيْشًا لَمَّا عَلَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي بِسَبْعِ كَسَبَعِ يَوْسُفَ)) قَالَ: فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ

(۸۷۴۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۸۲۲، ومسلم: ۲۷۹۸ (انظر: ۴۱۰۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان کے خلاف میری مدد فرما۔“ پس وہ قحط سالی میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار کھانا شروع کر دیئے، وہ اس قدر تکلیف اور مشقت میں پڑ گئے کہ بھوک کی وجہ سے ان کو اپنے اور آسمان کے مابین دھوئیں کی طرح کی چیز نظر آتی تھی۔ بالآخر انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! یہ عذاب ہم سے کھول دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ آپ ﷺ سے کہا گیا: اگر ان سے عذاب کھل گیا تو یہ پھر پہلی حالت میں لوٹ آئیں گے، آپ ﷺ نے اپنے رب سے دعا کی اور اس نے ان سے عذاب دور کر دیا، لیکن جب وہ پھر اسی نافرمانی کی حالت میں لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن ان کی گرفت کی، یہی صورتیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مصداق ہیں: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ... يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾۔ ابن نمیر کی حدیث میں سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں: اگر اس سے قیامت کے دن کا دھواں ہوتا تو پھر ان سے دور نہ کیا جاتا۔“

فوائد:..... سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں جو آیات پیش کر رہے ہیں، یہ کل سات درج ذیل آیات ہیں:

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ. يَغْشى النَّاسُ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. اِنِّى لَهُمُ الدُّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلِّمٌ مَّجْنُوْنٌ. اِنَّا كَاْشِفُوْا الْعَذَابَ قَلِيْلًا اِنْكُمْ عَايِدُوْنَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾

(سورہ دخان: ۱۱ تا ۱۶)

”اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ (اب کہتے ہیں کہ) پروردگار، ہم پر سے یہ عذاب ہٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔“

دھوئیں کے تعین کے بارے میں دو اقوال ہیں:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۱) قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے، ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی، اس کی ہیئت و حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

(۲) نبی کریم ﷺ کے دور میں یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے تنگ آ کر ان کے لیے قحط سالی کی بددعا کی، نتیجتاً ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ کھاتے تھے، جب آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انھیں دھواں سا نظر آتا تھا۔
بطحہ (سخت پکڑ): پہلے جنگ بدر میں مشرکین کی سخت گرفت کی، اس سے ان کا غرور خاک میں مل گیا، ستر کا فرما رہے اور ستر قیدی بنا لیے گئے، دوسری تفسیر کی رو سے یہ سخت گرفت قیامت کے دن ہوگی، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔

سُورَةُ الْأَحْقَافِ

سورة احقاف

بَابُ: ﴿قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾
﴿قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۴۹)۔ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَوْ أَثَارَةَ مِنْ عِلْمِهِ﴾ [الأحقاف: بارے میں فرمایا: "اس سے مراد خط ہے۔"
فوائد:..... طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَطِّ، فَقَالَ: ((هُوَ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمِهِ))..... رسول اللہ ﷺ سے خط کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ علم کا بقیہ ہے۔" ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
"اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو سہی کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس

(۸۷۴۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ أخرجه الطبرانی: ۱۰۷۲۵، والحاکم: ۲/ ۴۵۴ (انظر: ۱۹۹۲)

سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ (ان عقائد کے ثبوت میں) تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔“ اس حدیث میں ﴿أَوْ أَشَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ﴾ کا معنی خط کیا گیا ہے خط لگانا ایک نبی کا طریقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ناممکن ہے کہ کون سا خط اس نبی کے خط سے موافقت کر رہا ہے اور کون مخالفت، اس لیے ہمارے لیے علم کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ فَهُوَ عِلْمُهُ...)) ”ایک نبی لکھیں لگاتا تھا، پس جس شخص کا علم اس کے موافق ہو جائے، وہ علم درست ہوگا۔“ (مسند احمد: ۹۱۰۶)

گویا کہ آپ ﷺ زجر و توبخ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نبی سے موافقت ہو جانے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ دورِ جاہلیت میں خط لگانے کی صورت یہ تھی کہ محتاج مٹھائی وغیرہ لے کر کاہن اور پیشین گوئی کرنے والے کے پاس آتا، وہ اس کو کہتا: تو بیٹھ جا، میں تیرے لیے لکھیں لگاتا ہوں، ادھر کاہن کے سامنے ایک لڑکا ہوتا، اس کے پاس سرمہ کی سلائی ہوتی، پھر وہ نرم زمین کی طرف آتا اور اتنی جلدی سے لکھیں لگاتا کہ ان کو گن نہیں سکتا تھا، پھر دو دو لکھیں مٹانا شروع کر دیتا، اب اگر آخر میں دو لکھیں بچ جاتیں تو ان کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا اور اگر ایک بچ جاتی تو وہ ناکامی کی علامت ہوتی تھی، یہ قسمت آزمائی کی ممنوعہ صورت ہے۔ ﴿أَوْ أَشَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ﴾ کے مزید دو معانی بیان کیے گئے ہیں: کوئی منقول روایت یا واضح علمی دلیل۔

یہ معنی زیادہ واضح ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس غیر اللہ کو پکارنے کے متعلق سابقہ دور کی کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔

بَابُ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾
﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۵۰)۔ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَيْسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدِ لَهُمْ، فَكَّرَ هُوَا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! أُرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يُحِيطُ اللَّهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ

”سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہودیوں کی عید کا دن تھا، نبی کریم ﷺ یہودیوں کے ایک عبادت خانہ کی طرف گئے، میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا، ہمارا آنا ان کو ناگوار گزرا، بہر حال نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اے یہودیوں کی جماعت! (اپنی جماعت میں سے) مجھے بارہ (۱۲) ایسے آدمی بتاؤ جو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جو تم

(۸۷۵۰) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم - أخرجه ابن حبان: ۷۱۶۲، والطبرانی فی ”الکبیر“

۸۳ / ۱۸، والحاکم: ۳ / ۴۱۵ (انظر: ۲۳۹۸۴)

پر غضب در غضب کیا ہے وہ مٹا دے گا۔“ یہودی خاموش رہے، ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا، آپ ﷺ نے پھر سوال لوٹایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، تیسری بار سوال دوہرایا، لیکن اس بار بھی جواب نہ آیا، پھر آپ ﷺ نے خود فرمایا: ”تم انکار کر رہے ہو، اللہ کی قسم! میں حاضر ہوں (جس کی ملت پر لوگ اکٹھے کئے جائیں گے)، میں عاقب ہوں (جس کے بعد کوئی نبی نہیں) اور میں نبی مصطفیٰ ہوں، تم ایمان لاؤ یا تکذیب کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ پھر آپ واپس چل پڑے، میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا، جب ہم باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ہمارے پیچھے سے ایک آدمی نے ہمیں آواز دی، وہ عبد اللہ بن سلام تھے، اس نے کہا: اے محمد! ٹھہر جائیں، وہ آیا اور اس نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے گروہ یہود! میں تمہارے علم کے مطابق کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہماری معلومات کے مطابق تم سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم اور فقیہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہی تجھ سے پہلے تیرے باپ سے زیادہ کوئی فقیہ اور عالم تھا، بلکہ تیرے باپ سے پہلے تیرے دباوے سے بڑھ کر بھی کوئی عالم نہ تھا۔ عبد اللہ نے کہا: تو پھر میں تو گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نبی ہیں، جن کا ذکر تم تورات میں پاتے ہو، یہودی وہیں بدل گئے اور کہنے لگے: تو جھوٹ بولتا ہے، پھر ساری بات کی تردید کر دی اور سیدنا عبد اللہ ﷺ کو برا کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اب تمہاری بات ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی، ابھی تم ان کی تعریف کر رہے تھے، جب وہ ایمان لے آیا ہے، تو تم اسے جھوٹا کہنے لگ گئے ہو اور اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہو تمہاری بات ہرگز قبول نہیں ہوگی۔“ اب ہم باہر نکلے تو تین افراد تھے، میں تھا، نبی کریم ﷺ تھے اور سیدنا عبد اللہ بن سلام ﷺ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے

تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْعَظْبِ الَّذِي عَظِبَ عَلَيْهِ.)) قَالَ: فَأَسْكُتُوا مَا آجَابَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَلَّثَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: ((أَبَيْتُمْ فَوَاللَّهِ! إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ.)) ثُمَّ انصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدًا، قَالَ: فَأَقْبَلَ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيُّ رَجُلٍ تَعْلَمُونَ فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكَ، وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ، وَلَا مِنْ أَيْبِكَ قَبْلَكَ، وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ أَيْبِكَ، قَالَ: فَبِئْسَى أَشْهَدُ لَهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ الَّذِي تَجِدُونَهُ فِي التَّوْرَةِ، قَالُوا: كَذَّبْتَ ثُمَّ رَدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَذَّبْتُمْ لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ، أَمَا إِنِّي فَتَنُوتُنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَتَيْتُمْ، وَلَمَّا آمَنْتُمْ كَذَّبْتُمُوهُ، وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ، فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ.)) قَالَ: فَخَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ۱۰]۔ (مسند

میں آیت نازل کی: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾..... ”کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک شہادت دینے والے نے اس جیسے (قرآن) کی شہادت دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا (تو تمہارا انجام کیا ہوگا) بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

فوائد:..... اس آیت میں قوم یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے، عجب قسم کی ہٹ دھرم اور ضدی قوم ہے۔

بَابُ: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ نَاهٍ﴾
﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ نَاهٍ﴾ کی تفسیر

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی کھل کر ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ ﷺ کے گلے کا کوا دیکھ سکوں، آپ صرف زیر لب مسکراتے تھے اور جب آپ ﷺ بادلوں یا ہوا کو دیکھتے تو اس کے اثرات آپ کے چہرہ پر نمایاں ہو جاتے (یعنی آپ ﷺ پریشان ہو جاتے)، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگ تو بادل یا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بارش کے آنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! مجھے اس سے بے خونی نہیں ہے کہ اس میں عذاب ہو، جبکہ ایک قوم (یعنی قوم عاد) کو ہوا ہی کے ذریعہ ہلاک کیا گیا اور اس قوم کی نظر تو عذاب پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ (ظاہری بادل کو دیکھ کر) کہہ رہے تھے: یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔“

(۸۷۵۱)۔ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنْ مَا كَانَ يَبْسَمُ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عَرَفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا زَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُدَّ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: هَذَا عَارِضٌ مُمَطَّرٌ نَاهٍ.))

فوائد: اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کی قوم عاد یوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّبْتَدِلٌ لَنَا مَاءَ مَا اسْتَعَجَلْتُمْ بِهِ رِيحَ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تَدْعُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

”تو جب انھوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انھوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے، جس میں دردناک عذاب ہے۔ جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی، پس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دیکھائی نہ دیتی تھی، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔“

بَابُ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ.....﴾

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ.....﴾ کی تفسیر

(۸۷۵۲)۔ عَنِ الزُّبَيْرِ ﴿نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ [الأحقاف: ۲۹] قَالَ: سَخَلَةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ﴿كَأَدْوَا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ۲۹] قَالَ سُفْيَانٌ: كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَاللَّبِيدِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ۔ (مسند احمد: ۱۴۳۵)

”سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾، یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا، رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾..... ”اور یہ کہ بلاشبہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اسے پکارتا تھا تو وہ قریب تھے کہ اس پر تہ بہ تہ جمع ہو جائیں۔“ امام سفیان کہتے ہیں: وہ جن اون یا بالوں کی طرح تہ بہ تہ جمع ہو گئے۔“

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾..... ”اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا، جو قرآن غور سے سنتے تھے تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انھوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔“

فوائد: سورہ احقاف کی اس سے اگلی تین آیات میں بھی جنوں کا ہی ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا: یہ واقعہ نخلہ کا ہے، رسول اللہ ﷺ اس وقت نماز عشاء ادا کر رہے تھے، یہ سب جنات سمٹ کر آپ کے ارد گرد بھیڑ کی شکل میں کھڑے ہو گئے، ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ جنات (نہسمین) کے تھے۔..... اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جنات میں بھی اللہ کی باتوں کو پہنچانے والے اور ڈرانے والے ہیں، لیکن ان میں سے رسول نہیں بنائے گئے،

یہ بات بلاشک ثابت ہے کہ جنوں میں پیغمبر نہیں ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾..... ”ہم نے تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے، وہ سب بستیوں کے رہنے والے انسان ہی تھے جن کی طرف ہم اپنی وحی بھیجا کرتے تھے۔“ (سورہ انبیاء: ۷) نیز اللہ تعالیٰ فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾..... ”تجھ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے، وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔“ (سورہ فرقان: ۲۰)، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾..... ”ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پس ان کے بعد جتنے نبی آئے، وہ ان ہی کے خاندان اور ان ہی کی نسل میں سے ہوئے ہیں۔“ (سورہ عنکبوت: ۲۲)

مزید ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۸۱۰)

ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ انبیاء و رسل بشریت کا امتیاز ہے، کسی اور جنس سے پیغمبر نہیں آسکتے۔ البتہ سورہ انعام میں ہے: ﴿يَمْشِرَ الْجِنُّ وَالْإِنْسَ الْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾..... ”اے جنوں اور انسانوں کے گروہ: کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، جو تم کو میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔“ (سورہ انعام: ۱۳۰)

آیت میں اگرچہ دو جنسوں کا ذکر ہے۔ لیکن اس کا مصداق ایک جنس ہی ہو سکتی ہے جیسے فرمایا: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾..... ”ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور موتے نکلتے ہیں۔“ حالانکہ یہ چیزیں دراصل ایک ہی سمندر میں سے ہی نکلتی ہیں۔ (سورہ رحمن: ۲۲)

سُورَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ

سورہ محمد ﷺ

بَابُ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾
﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۵۳)۔ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ قَامَتِ الرَّجِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ سَيْدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُ مِنْ رِجْلِ النَّبِيِّ ﷺ)) فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو صلہ رحمی، رحمن کی کمر سے چمٹ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا: یہ قطع رحمی سے پناہ

لینے والے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا: کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ جو تجھے ملائے گا، میں بھی اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا، میں بھی اس کو کاٹ دوں گا۔“ اگر چاہتے ہو تو یہ آیات پڑھ لو: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ، أَقَلَّامٌ يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾..... ”پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں؟“

الرَّحْمَنِ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعِكَ-))، اَفْرَاءُ وَإِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ، أَقَلَّامٌ يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ۲۲-۲۴]۔
(مسند احمد: ۸۳۴۹)

فوائد:..... صلہ رحمی کی بہت تاکید بیان کی گئی اور قطع رحمی کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔

سُورَةُ الْفَتْحِ

سورۃ فتح

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَوَقْتِ نَزُولِهَا
سورۃ فتح کی فضیلت اور اس کے نزول کے وقت کا بیان

(۸۷۵۴)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! نَزَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ، قَالَ: فَرَكِبْتُ

”سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: حدیبیہ کے سفر میں ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے، میں نے آپ ﷺ سے ایک چیز کے متعلق تین بار سوال کیا، لیکن آپ ﷺ نے مجھے کچھ جواب نہ دیا، میں نے اپنے دل میں اپنے آپ سے کہا: اے خطاب کے بیٹے! تیری ماں تجھے گم پائے تین بار تو نے نبی کریم ﷺ سے سوال کرنے میں اصرار

(۸۷۵۴) تخريج: أخرجه البخاری: ۴۱۷۷، ۴۸۳۳ (انظر: ۲۰۹)

کیا ہے، لیکن آپ ﷺ نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سوچ کر میں اپنی سواری پر بیٹھا اور آگے نکل گیا، ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو جائے، تو چانک ایک پکارنے والے نے پکارا: اے عمر! عمر کہاں ہو؟ میں واپس مڑا اور خیال یہی تھا کہ میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے، جب میں حاضر ہوا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آج رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے کہ وہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پیاری ہے، یعنی ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾.....

”بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔“

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ حدیبیہ سے واپس ہوئے تو یہ آیات اتریں: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾..... ”بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔“ مسلمانوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کو مبارک ہو، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ پس ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.....

”تاکہ اللہ تعالیٰ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو بہشتوں

رَاجِلَتِي فَتَقَدَّمْتُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِي يَا عُمَرُ! أَيْنَ عُمَرُ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَزَلَتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ۱-۲]۔)) (مسند احمد: ۲۰۹)

(۸۷۵۵)۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا انصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ۱-۲] قَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اهْنِئْنَا لَكَ! مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ، فَمَا لَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ۵]۔ (مسند احمد: ۱۲۲۵۱)

میں داخل کرے، جن کے نیچے نہری بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔“

فوائد: ذوالقعدہ ۶ سن ہجری میں رسول اللہ ﷺ اور (۱۳۰۰) کے قریب صحابہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کو روانہ ہوئے، لیکن مشرکین مکہ نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو روک دیا، پھر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوئے اور نبی کریم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے، ان سے صلح کر لی، مزید بھی شرطیں طے کی گئی تھیں، لیکن صحابہ کی ایک بڑی جماعت اس صلح نامے کو ناپسند کر رہی تھی، جس میں قابل ذکر ہستی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، بہر حال آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے وہیں اپنے جانور ذبح کیے اور سر منڈوائے، واپس چل پڑے، لوٹتے ہوئے راستے میں یہ سورت آپ ﷺ پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے اور اس صلح کو باعتبار نتیجہ کھلم کھلا فتح قرار دیا، اگلے سال آپ ﷺ نے عمرہ ادا کیا اور ۸ سن ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔

بَابُ: ﴿وَهُوَ الَّذِينَ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ...﴾
﴿وَهُوَ الَّذِينَ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۵۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَّةِ هَبَطَ عَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي السَّلَاحِ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّنْعِيمِ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ۲۴] قَالَ: يَعْنِي جَبَلِ التَّنْعِيمِ مِنْ مَكَّةَ۔ (مسند احمد: ۱۲۲۵۲)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ والے دن مکہ والوں میں سے اسی (۸۰) ہتھیاروں سے لیس آدمی معمم پہاڑ کی جانب سے نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر چڑھ آئے، تو آپ ﷺ نے ان پر بددعا کی، پس ان کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ ”وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا۔“

فوائد: جب نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیبیہ میں تھے تو کافروں نے ۸۰ آدمی، جو ہتھیاروں سے لیس تھے، اس نیت سے بھیجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی ﷺ اور صحابہ کے خلاف کارروائی کریں، چنانچہ یہ مسلح جتھہ جبل معمم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی، صحیح ہوتی،

لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی، جبکہ آپ ﷺ اس موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے تھے، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کا مفاد تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے ان سب کو معاف کر کے چھوڑ دیا۔

(۸۷۵۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ الْمَزْنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقَعُ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((اَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) فَأَخَذَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِيَدِهِ، فَقَالَ: مَا نَعْرِفُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ، قَالَ: ((اَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ)) فَكَتَبَ: ((هُذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ)) فَأَمْسَكَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو بِيَدِهِ وَقَالَ: لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولَهُ، اَكْتُبْ فِي قَضِيَّتِنَا مَا نَعْرِفُ فَقَالَ: ((اَكْتُبْ هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) فَكَتَبَ فَبَيَّنَّا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ السَّلَاحُ، فَشَارُوا فِي وُجُوهِنَا، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَبْصَارِهِمْ،

”سیدنا عبد اللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس درخت کی جڑ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس درخت کی شاخیں نبی کریم ﷺ کی کمر مبارک پر پڑ رہی تھیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو آپ کے سامنے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”(معاہدہ لکھو)، لکھو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔“ لیکن سہیل بن عمرو نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کو نہیں جانتے، ہمارے صلح کے فیصلہ میں وہ لکھو جو ہم جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”(چلو) بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ۔“ پھر آپ ﷺ نے لکھوایا کہ ”یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد رسول اللہ ﷺ نے مکہ والوں سے صلح کی ہے۔“ لیکن سہیل نے اس بار پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا: اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے آپ کو روک کر آپ پر ظلم کیا ہے، ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، ہمارے اس صلح نامہ میں لکھو جو ہم پہنچاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ٹھیک ہے) لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے، جس پر محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب نے صلح کی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”لکھ دو، لکھ دو، جبکہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔“ ہم صلح کی یہ شرائط لکھ رہے تھے کہ تیس (۳۰) نوجوان مسلح ہو کر ہمارے سامنے سے آگئے، نبی کریم ﷺ نے ان پر بددعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی ختم کر دی اور ہم

(۸۷۵۷) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۵۱۱، والحاكم: ۲ / ۶۶۰،

والطبري في "التفسير": ۲۶ / ۹۴ (انظر: ۱۶۸۰۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے آگے بڑھ کر ان کو گرفتار کر لیا، نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا: ”کیا تم کسی کے عہد میں ہو، کیا کسی نے تم کو امان دی ہے؟“ انہوں نے کہا: نہیں، پھر آپ ﷺ نے انہیں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ”وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ خوب رہا ہے۔“

فَقَدِمْنَا إِلَيْهِمْ فَأَخَذْنَا هُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَلْ جِئْتُمْ فِي عَهْدٍ أَحَدٍ أَوْ هَلْ جَعَلْتُمْ لَكُمْ أَحَدًا مَانًا؟)) فَقَالُوا: لَا، فَخَلَى سَبِيلَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الفتح: ۲۴]۔ (مسند احمد: ۱۶۹۲۳)

فوائد: بچھلی حدیث میں حملہ آوروں کی تعداد (۸۰) بتائی گئی اور اس حدیث میں (۳۰)، اس کی توضیح یہ ہے کہ واقعی ان کی تعداد (۸۰) تھی، ہر صحابی نے اپنے علم کے مطابق خبر دی۔

سُورَةُ الْحُجَرَاتِ

سورة حجرات

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾ کی تفسیر

”ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: قریب تھا کہ اس امت کے دو بہترین آدمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہم ہلاک ہو جاتے، ہوا یوں کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما میں سے ایک نے رائے دی کہ اقرع بن حابس حنظلی کو ان کا امیر مقرر کیا جائے، جبکہ دوسرے نے اور آدمی (قعقعا بن معبد) کا نام پیش کیا، اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: تمہارا مقصد

(۸۷۵۸)۔ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الْحَيْرَانُ أَنْ يَهْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَدَّ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ قَرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ أَحْسَى بَنِي مَجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الْآخَرُ بِغَيْرِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ خِلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَارْتَفَعَتْ

میری مخالفت کرنا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں، میرا ارادہ تمہاری خلاف ورزی کرنا نہیں تھا، پس نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں، سو یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ... عَظِيمٌ﴾ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ ابن زبیر نے کہا اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم ﷺ سے بات کرتے تو ایک راز دان کی طرح کرتے، حتیٰ کہ آپ ﷺ سے بات کو دوہرانے کا مطالبہ کرتے۔“

أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَزَلَّتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٢] قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، إِذَا حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ كَأَخِي السَّرَارِ لَمْ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. (مسند احمد: ١٦٢٣٢)

فوائد: اس موقع پر دو آیات نازل ہوئی تھیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزمائے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔“

(۸۷۵۹)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢] وَكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّامِسِ رَفِيعَ الصَّوْتِ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَبِطَ عَمَلِي، أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ حَزِينًا، فَتَفَقَّدهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقَ

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾۔ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔“ تو سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، جو کہ بلند آواز

والے تھے، یہ کہنے لگے: میری آواز نبی کریم ﷺ کی آواز سے بلند ہے، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، میں تو دوزخی ہوا، یہ سوچ کر اور غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے، نبی کریم ﷺ نے ان کو گم پا کر ان کے بارے میں پوچھا، ایک آدمی (سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ) ان کے پاس گیا اور کہا: نبی کریم ﷺ تمہیں گم پا کر تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے: کہنے لگے: میں وہ ہوں کہ میری آواز نبی کریم ﷺ کی آواز سے بلند ہے، میں اس بلند آوازی کی وجہ سے دوزخی ہوا، میرے تو تمام اعمال ضائع ہو گئے، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ کی بات نبی کریم ﷺ کو بتلائی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، وہ تو جنتی ہے۔“ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا یہی خیال تھا کہ وہ ہمارے درمیان چلتے تو تھے لیکن ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ جب جنگ یمامہ ہوئی تو ہمارے درمیان شکست کے آثار نمودار ہوئے، سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حنوط خوشبو لگا رکھی تھی اور کفن پہن رکھا تھا اور کہا: تم نے اپنے مذ مقابل لوگوں کو بری عادت ڈالی ہے، پھر انہوں نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔“

فوائد:..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی کریم ﷺ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بڑے محتاط تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (۱۱) سن ہجری کے اواخر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لشکر روانہ کیا تھا، بہت سارے قراء اور حفاظ صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اور مسلمہ مارا گیا تھا، یہی یمامہ کی لڑائی تھی۔ حنوط: وہ خوشبوئیں جو مردہ کے کفن اور بطور خاص مردہ کے جسم پر لگائی جاتی ہیں، جیسے مشک، عنبر، صندل اور کافور وغیرہ۔

بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ، فَقَالُوا لَهُ: تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ -حِطَّ عَمَلِي وَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَتَوْنَا نَبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: ((لَا، بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) قَالَ أَنَسٌ: وَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ كَانَ بَيْنَنَا بَعْضُ الْإِنْكَشَافِ فَجَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَقَدْ تَحَنَطَ وَلَيْسَ كَفَنُهُ، فَقَالَ: بِشِّمَائِكَ تُعَوِّدُونَ أَقْرَانَكُمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ - (مسند احمد: ۱۲۴۲۶)

بَابُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ کی تفسیر

(۸۷۶۰)۔ عَنِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَنَّهُ نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ دَمِي شَيْنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ: ((ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) (مسند احمد: ۱۶۰۸۷)

”ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ اقراع بن حابس نے نبی کریم ﷺ کو حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر یوں آواز دی: اے اللہ کے رسول! لیکن آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اس نے پھر پکارا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری تعریف کرنا زینت ہے اور میری مذمت کرنا عیب ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔“

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورہ حجرات: ۵، ۴)

”بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے، جو آپ ﷺ کے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے اور پکارتے ہیں، جس طرح بد لوگوں میں دستور تھا، دراصل ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، پھر اس کی بابت ادب سکھایا کہ چاہیے تھا کہ آپ ﷺ کے انتظار میں ٹھہر جاتے اور جب آپ ﷺ گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ ﷺ سے جو بات کرنی ہوتی، کر لیتے، نہ کہ آوازیں دے کر باہر سے پکارتے، دنیا اور دین کی مصلحت اور بہتری اسی میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...﴾

إِلَى... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ... إِلَى... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ کی تفسیر
 (۸۷۶۱)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، تَنَا "سیدنا حارث بن ضرار خزاعی رضی اللہ عنہ" سے روایت ہے، وہ کہتے

(۸۷۶۰) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، ابو سلمة بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من الاقرع بن

حابس - أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۸۷۸ (انظر: ۱۵۹۹۱)

(۸۷۶۱) تخریج: حسن بشواہدہ دون قصہ اسلام الحارث بن ضرار، وهذا اسناد ضعفه لجهالة دينار

والد عيسى (انظر: ۱۸۴۵۹)

ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، سو میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے مجھے زکوٰۃ کی دعوت دی، میں نے اس کا بھی اقرار کیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنی قوم کی طرف لوٹتا ہوں اور انہیں دعوتِ اسلام دیتا ہوں اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہوں، جو میری بات مان لے گا، میں اس کی زکوٰۃ جمع کر رکھوں گا، پھر میرے پاس اتنی دیر تک اپنا نمائندہ بھیجا تا کہ جو میں نے زکوٰۃ جمع کر رکھی ہو، وہ آپ ﷺ کے پاس لے آئے، جب سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے اور ان کی بات ماننے والوں نے زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مدت پوری ہو گئی، جس میں نبی کریم ﷺ نے نمائندہ بھیجے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، وہ نمائندہ کسی وجہ سے رک گیا، نہ جاسکا، لیکن ادھر سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، پس انہوں نے اپنی قوم کے سربر آوردہ افراد کو جمع کیا اور ان سے کہا: نبی کریم ﷺ نے میرے پاس اتنی مدت میں نمائندہ بھیجے کا فرمایا تھا، تا کہ وہ میرے پاس سے زکوٰۃ وصول کرے، جبکہ آپ ﷺ کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، نمائندہ روکنے کی وجہ میرے خیال کے مطابق یہ کہ آپ ﷺ ناراض ہیں، چلو ہم نبی کریم ﷺ کے پاس چلتے ہیں، (تا کہ سب دریافت کر سکیں)، ادھر نبی کریم ﷺ نے (وعدہ کے مطابق) ولید بن عقبہ کو نمائندہ بنا کر حارث کے پاس بھیجا تھا تا کہ جو اس کے پاس زکوٰۃ کا مال جمع ہے، وہ لے آئے، جب ولید چلا، تو وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ڈرا اور واپس چلا گیا اور آ کر رسول اللہ ﷺ سے کہا: اے اللہ کے رسول! حارث نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس نے مجھے قتل کرنا چاہا ہے، نبی

عینسی بن دینار، ثنا ابی اَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ الْخَزَاعِيَّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ، فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَقْرَرْتُ بِهِ، فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَأَقْرَرْتُ بِهَا، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْجِعْ إِلَى قَوْمِي فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، فَمِنْ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ، فَبُرِّسِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا لِإِبَّانٍ كَذَا وَكَذَا لِأَيَّتِكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَهُ، وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَسَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخَطٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ، فَدَعَا بِسُرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَقَّتْ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخُلْفُ، وَلَا أَرَى حَسَنَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخَطِهِ كَانَتْ، فَاذْطَلِقُوا فَنَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلِيدَ بْنَ عَقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرَّقَ فَارْتَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ، وَأَرَادَ قَتْلِي،

کریم ﷺ نے ایک جہادی دستہ حارث بن ضرار کی جانب بھیجا، آگے سے حارث اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا تھا، جب اس کا سامنا اس دستے سے ہوا اور دستہ مدینہ سے باہر نکل چکا تھا، تو وہ کہنے لگے: حارث تو یہ ہے، جب قریب ہوئے تو حارث نے اس دستہ والوں سے پوچھا: تمہیں کہا بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: تیری طرف، اس نے کہا: وہ کیوں؟ انہوں نے کہا: وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تیری طرف ولید بن عقبہ کو بھیجا، لیکن اس کے بقول تو نے اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دی اور پھر اسے قتل بھی کرنا چاہا ہے۔ حارث نے کہا: نہیں، اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ پھر جب حارث، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”تو نے زکوٰۃ بھی روک لی اور میرے نمائندے کو قتل بھی کرنا چاہا۔“ حارث نے کہا: نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں تو صرف اس وقت آیا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کا نمائندہ نہیں آیا، رک گیا ہے، سو میں خوفزدہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں، سو یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَّبِعُونَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

فوائد: یہ کل تین آیات تھیں، جو کہ درج ذیل ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَّبِعُونَا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ الى قوله تعالى: ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحجرات: 6-8]

فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ، فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ، إِذِ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ، وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا: هَذَا الْحَارِثُ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ: إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقَبَةَ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ! مَا رَأَيْتُهُ بَنَةً وَلَا أَتَانِي، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي؟)) قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي، وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ اخْتَسَرَ عَلَى رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخِطَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَتَزَلَّتِ الْحُجْرَاتُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَّبِعُونَا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ الى قوله تعالى: ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحجرات: 6-8]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خیر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو، جب تک پوری تحقیق و تفتیش سے اصل واقعہ صاف طور پر معلوم نہ ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرو ممکن ہے کہ کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹی بات کہہ دی ہو یا خود اس سے غلطی ہوئی ہو اور تم اس کی خبر کے مطابق کوئی کام کر گزرو تو اصل اس کی پیروی ہوگی اور مفسد لوگوں کی پیروی حرام ہے، اسی آیت کو دلیل بنا کر بعض محدثین کرام نے اس شخص کی روایت کو بھی غیر معتبر بتایا ہے، جس کا حال معلوم نہ ہو، اس لئے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ شخص فی الواقع فاسق ہو۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ صدق و صفا کو مد نظر رکھے، سچی باتیں بیان کرے اور شرعی اصولوں کے مطابق سچی باتیں ہی سنے۔

بَابُ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...﴾
 ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...﴾ کی تفسیر

(۸۷۶۲)۔ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ: أَنَّ أُنْسًا قَالَ:
 قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
 فَنَاطَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا،
 وَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ، وَهِيَ أَرْضٌ
 سَبِيحَةٌ، فَلَمَّا أَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ:
 إِلَيْكَ عَنِّي، فَوَاللَّهِ! لَقَدْ آذَانِي رِيحُ
 حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ!
 لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ،
 قَالَ: فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ،
 قَالَ: فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ،
 قَالَ: وَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالْأُ

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ خود عبد اللہ بن ابی کے پاس چلے جائیں، (تو شاید اس میں بہتری ہو)، پس رسول اللہ ﷺ ایک گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچ گئے، مسلمان بھی آپ ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے، زمین شور والی تھی، آپ ﷺ کے چلنے سے گرد اٹھی، جب نبی کریم ﷺ اس شخص تک پہنچے تو اس نے کہا: ذرا دور رہو، اللہ کی قسم! مجھے آپ کے گدھے کی بو سے تکلیف ہوئی ہے۔ ایک انصاری آدمی نے کہا: اللہ کی قسم! نبی کریم ﷺ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے، ادھر عبد اللہ کے حمایتی لوگوں میں سے ایک آدمی جوش میں آ گیا، ادھر سے آپ ﷺ کے ساتھی آپ ﷺ کی حمایت میں پر جوش ہو گئے، دونوں کے حمایتی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، درخت کی

ٹہنیوں، مکوں اور جوتوں کا استعمال ہوا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾..... ”اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔“

بَابُ: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾ کی تفسیر

”سیدنا ابو جبرہ بن ضحاک کہتے ہیں: یہ آیت ہم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾..... ”برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔“ تفصیل یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم میں سے ہر آدمی کے دو تین نام تھے، جب اس کو کسی ایک نام سے پکارا جاتا تو لوگ کہتے: اے اللہ کے رسول! اس کو اس نام سے غصہ آتا ہے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾..... ”برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔“

”(دوسری سند) ابو جبرہ اپنے چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے ایک دو دو لقب تھے، جب آپ ﷺ کسی آدمی کو اس کے لقب کے ساتھ آواز دیتے تو آگے سے لوگ بتلاتے کہ اے اللہ کے رسول! اسے یہ لقب پسند نہیں ہے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾..... ”برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو۔“

بَيْدِي وَالنُّعَالِ، فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: 9]۔ (مسند احمد: ۱۲۶۳۴)

(۸۷۶۳)۔ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَبْرِةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلَمَةَ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾ [الحجرات: ۱۱] قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، فَكَانَ إِذَا دُعِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾۔ (مسند احمد: ۱۸۴۷۷)

(۸۷۶۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ عُمُومَةَ لَه: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لِقَبٌ أَوْ لِقَبَانِ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلِقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ﴾۔ (مسند احمد: ۱۳۳۲۵)

(۸۷۶۳) تخریج: صحیح، قاله الالبانی - أخرجه ابوداود: ۴۹۶۲، والترمذی: ۳۲۶۸، وابن ماجه: ۳۷۴۱ (انظر: ۱۸۲۸۸)

(۸۷۶۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

سُورَةُ ق

سورة ق

بَابُ ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ...﴾
 ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۶۴)۔ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ التَّفْسِيرِ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ [ق: ۳۰] قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ، وَعِزَّتِكَ! وَيُزَوِّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)) (مسند احمد: ۱۳۴۳۵)

”قنادہ رضی اللہ عنہ اس آیت ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ﴾ کی تفسیر کے متعلق روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ یہی مطالبہ کرتی رہے گی کہ کیا مزید لوگ ہیں، یہاں تک کہ عزت والا رب اپنا قدم مبارک اس میں رکھے گا، اب وہ کہے گی: بس بس، تیری عزت کی قسم! پھر دوزخ کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سکر جائے گا (اور وہ بھر جائے گی)۔“

فوائد:..... اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو بھر دے گا، لیکن وہ اس قدر گہری اور وسیع ہے کہ جب اس کے مستحق افراد کو اس میں ڈالا جائے گا تو ابھی تک اس کا بڑا حصہ خالی پڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے اور اس کے کنارے آپس میں بھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب گاہ سے محفوظ رکھے۔ آمین

سُورَةُ النَّجْمِ

سورة نجم

بَابُ ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى...﴾ إِلَى قَوْلِهِ... لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿
 ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى...﴾ إِلَى قَوْلِهِ... لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴿ کی تفسیر
 (۸۷۶۵)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ

(۸۷۶۴) تخريج: أخرجه البخارى: ۶۶۶۱، ومسلم: ۲۸۴۸ (انظر: ۱۳۴۰۲)
 (۸۷۶۵) تخريج: اسنادہ ضعیف لجهالة حال اسحاق بن ابی الکھتلة، وللشك فی وصله عن ابن مسعود۔ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۰۵۴۷ (انظر: ۳۸۶۴)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ جب آپ ﷺ نے خود جبریل سے مطالبہ کیا تو انھوں نے اپنی اصلی صورت دکھائی، جس سے افق بھر گیا اور دوسری بار جب آپ ﷺ (اسراء و معراج کے موقع پر) ان کے ساتھ چڑھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾..... ”جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔“ جب جبریل علیہ السلام نے اپنے رب کو محسوس کیا تو انھوں نے اپنی اصلی صورت اختیار کر لی اور سجدے میں گر پڑے، اسی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَآءَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾..... ”جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اس کو اترتے دیکھا۔ جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ (بیری کے درخت) پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا۔ نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“ انھوں نے کہا: اس سے مراد جبریل کا وجود ہے۔“

فوائد:..... حدیث نمبر (۱۰۵۸۶) کا باب ملاحظہ ہو، نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو یا جبریل کو دیکھنا، اس باب

میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے۔

(۸۷۶۶)۔ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ قَالَ: ”سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہیٰ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ

مَحْمَدًا لَمْ يَرَ جَبْرِيْلَ فِي صُوْرَتِهِ اِلَّا مَرَّتَيْنِ، اَمَّا مَرَّةٌ فَاِنَّهٗ سَاَلَهُ اَنْ يَّرِيَهٗ نَفْسَهٗ فِي صُوْرَتِهِ، فَاَرَاهُ صُوْرَتَهٗ، فَسَدَّ الْاُفُقَ، وَاَمَّا الْاُخْرَىٰ فَاِنَّهٗ صَعِدَ مَعَهٗ حِيْنَ صَعِدَ بِهٖ، وَقَوْلُهٗ: ﴿وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهٖ مَا اَوْحَىٰ﴾ [النجم: ۷-۱۰] قَالَ: فَلَمَّا اَحْسَسَ جَبْرِيْلُ رَبَّهُ عَادَ فِي صُوْرَتِهٖ وَسَجَدَ، فَقَوْلُهٗ: ﴿وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً اُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَآءَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَاَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ [النجم: ۱۳-۱۸] قَالَ: خَلَقَ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ (مسند احمد: ۳۸۶۴)

کے پاس دیکھا، ان کے چہ سو پر تھے۔“ راوی کہتے ہیں: میں نے عاصم سے پروں کے بارے میں پوچھا، لیکن انھوں نے بتانے سے انکار کر دیا، پھر ان کے بعض شاگردوں نے مجھے بتایا کہ ایک پر مشرق سے مغرب تک تھا۔“

ابن مسعود يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ)) قَالَ: سَأَلْتُ عَاصِمًا عَنِ الْأَجْنِحَةِ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي قَالَ: فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْجَنَاحَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (مسند احمد: ۳۸۶۲)

”سیدنا عبداللہ ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾..... ”نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔“ کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل کو خوش نما پوشاک میں دیکھا، انھوں نے آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر رکھا تھا۔“

(۸۷۶۷)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (مسند احمد: ۳۹۷۱)

”مسروق کہتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾..... ”تحقیق آپ ﷺ نے اس کو واضح افق پر دیکھا۔“ نیز فرمایا: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾..... ”جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اس کو اترتے دیکھا۔“ سیدہ نے جواباً کہا: اس امت میں سب سے پہلے میں نے نبی کریم ﷺ سے ان دو آیات کے بارے میں سوال کیا تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”وہ تو جبریل علیہ السلام ہیں۔“ جس صورت پر جبریل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ ﷺ نے ان کو اس صورت پر صرف دو بار دیکھا، آپ ﷺ نے ان کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا، ان کے بڑے وجود نے آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو بھر رکھا تھا۔“

(۸۷۶۸)۔ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير: ۲۳] ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ۱۳] قَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا فَقَالَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ)) لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ رَأَاهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ سَادًّا عِظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (مسند احمد: ۲۶۵۶۸)

(۸۷۶۷) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین - أخرجه الترمذی: ۳۲۸۳ (انظر: ۳۹۷۱)

(۸۷۶۸) تخريج: أخرجه مسلم ۱۷۷ (انظر: ۲۶۰۴۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۸۷۶۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ۱۱] کہا: "نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملا یا۔" کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: "محمد ﷺ نے اپنے رب کو اپنے دل سے دوبارہ دیکھا۔" مرتبین۔ (مسند احمد: ۱۹۵۶)

فوائد: حدیث نمبر (۱۰۵۸۶) کا باب ملاحظہ ہو، نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کو یا جبریل کو دیکھنا، اس باب میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے۔

سُورَةُ الْقَمَرِ

سورہ قمر

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾
﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۰)۔ عَنِ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ۱] قَالَ: قَدْ اَنْشَقَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ أَوْ فِلْقَتَيْنِ، شُعْبَةُ اللَّذِي يَشْكُ، فَكَانَ فِلْقَةً مِنْ وِرَاءِ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةً عَلَى الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)) (مسند احمد: ۴۲۷۰)

"سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ "قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔" کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، ایک ٹکڑا (حراء) پہاڑ کے پیچھے نظر آ رہا تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر، یہ معجزہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ! گواہ رہنا۔"

(۸۷۷۱)۔ عَنِ أَنَسِ سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ النَّبِيَّ ﷺ آيَةَ، فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ

"سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے نبی کریم ﷺ سے معجزہ طلب کیا تو مکہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ

(۸۷۶۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۷۶ (انظر: ۱۹۵۶)

(۸۷۷۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۸۶۹، ۳۸۷۱، ومسلم: ۲۸۰۰ (انظر: ۴۲۷۰)

(۸۷۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۰۲ (انظر: ۱۲۶۸۸)

يَرَوْنَ آيَةً يُعْرَضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿۱﴾
 [القمر: ۱-۲]۔ (مسند احمد: ۱۲۷۱۸)

”قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔“

فوائد: اہل مکہ کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا، علما کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمر، نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ ﷺ کے واضح معجزات میں سے ہے، صحیح احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں، لیکن قریش نے ایمان لانے کی بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔

(۸۷۷۲)۔ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كَيْفَ نَقَرْنَا هَذَا الْحَرْفَ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: ۱۵] أَدَالَ أَمْ دَالَ؟ فَقَالَ: لَا بَلْ دَالَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا: ﴿مُدَكِّرٍ﴾ دَا لَا۔ (مسند احمد: ۴۴۰۱)

”ابو اسحاق کہتے ہیں: میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اسود بن یزید، جو مسجد میں قرآن کی تعلیم دیتا تھا، سے سوال کیا اور کہا: ہم اس آیت کو کیسے پڑھیں: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ یہ ”ذ“ ہے یا ”ڈ“؟ انھوں نے کہا: نہیں، یہ ”ذ“ ہے، میں نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ﴿مُدَكِّرٍ﴾ پڑھتے ہوئے سنا، یعنی ”ذ“ کے ساتھ۔“

فوائد: ”مُدَكِّر“ لفظ اصل میں ”مُدَكِّر“ تھا، اس کی ادائیگی زبانوں پر نقل تھی، اس لیے پہلے ”ت“ کو

”ذ“ سے بدلا، پھر ”ذ“ کو ”ڈ“ سے بدل کر ادغام کر دیا۔ (۸۷۷۳)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُوا قُرَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُخَاصِمُونَهُ فِي الْقَدْرِ فَتَرَكْتُ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿[القمر: ۴۸-۴۹]۔ (مسند احمد: ۹۷۳۴)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریشی مشرک، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے تقدیر کے بارے میں جھگڑنے لگے، پس یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿..... ”جس دن یہ چہرں کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“

(۸۷۷۲) تخريج: أخرجه البخاری: ۴۸۷۱، ومسلم: ۸۲۳ (انظر: ۴۴۰۱)

(۸۷۷۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۵۶ (انظر: ۹۷۳۶)

فوائد:..... کتاب کے اوائل میں تقدیر کے مسئلہ کی وضاحت کی جا چکی ہے، حدیث نمبر (۱۸۰) سے تقدیر کے

مسائل شروع ہو رہے ہیں۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

سورہ رحمن

بَابُ: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾
﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۴)۔ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ، وَالْمُشْرِكُونَ يَسْتَمِعُونَ: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (مسند احمد: ۲۷۴۹۵)

”سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ حجر اسود کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ اس نماز میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ اور مشرک غور سے سن رہے تھے، جبکہ ابھی تک آپ ﷺ کو واضح طور پر تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔“

بَابُ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ...﴾
﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۵)۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ فَيُغْفَرَ لَهُ، يَرَى الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ [الرحمن: ۳۹، ۴۱]۔)) (مسند احمد: ۲۵۲۲۳)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کا قیامت کے دن محاسبہ بھی ہو اور پھر اس کو بخش بھی دیا جائے، مسلمان قبر میں بھی اپنے عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾..... ”اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گی۔“ نیز فرمایا: ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾..... ”گنہگار صرف علیہ سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔“

(۸۷۷۴) تخريج: اسنادہ ضعيف، يحيى بن اسحاق، وان كان من قدماء اصحاب ابن لهيعة، الا ان ابن لهيعة انفرده به، وهو ممن لا يحتمل تفرده - أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۴ / ۲۳۱ (انظر: ۲۶۹۵۵)

(۸۷۷۵) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف ابن لهيعة (انظر: ۲۴۷۱۶)

فوائد: ”مسلمان قبر میں بھی اپنے عمل کو دیکھتا ہے۔“ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر میں بھی مسلمان کا کچھ محاسبہ ہو جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کا معاملہ کچھ آسان ہو جائے۔

بَابُ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾
﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۶)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ
 النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُصُّ عَلَى الْمُنْبَرِ:
 ((﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾
 [الرحمن: ۴۶]۔)) فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ
 سَرَقَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ الثَّانِيَةَ: فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنَى
 وَإِنْ سَرَقَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ الثَّلَاثَةَ: ((﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
 جَنَّاتٍ﴾۔)) فَقُلْتُ الثَّلَاثَةَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ
 سَرَقَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ: ((نَعَمْ وَإِنْ
 رِزِمَ أَنْفَ أَبِي الدَّرْدَاءِ۔))۔ (مسند احمد:
 ۸۶۶۸)

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے
 نبی کریم ﷺ کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿وَلِمَنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾..... ”جو اپنے رب کے سامنے
 کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو ہشتیس ہیں۔“ میں
 نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری
 بھی؟ نبی کریم ﷺ نے دوبارہ یہی آیت پڑھی، میں نے پھر
 کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری
 بھی؟ آپ ﷺ نے تیسری بار یہی آیت پڑھی کہ ﴿وَلِمَنْ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾، لیکن میں نے بھی تیسری بار بھی
 کہہ دے: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور
 چوری بھی، اب کی بار آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!
 اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو جائے۔“

فوائد:..... اس حدیث میں خوفِ خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، زنا اور چوری کی اجازت نہیں دی گئی، صحیح
 طریقہ یہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی فضیلت یا مذمت بیان ہو رہی ہو تو اس کے موضوع کو سمجھ کر فضیلت والی
 چیز کو اپنایا جائے اور مذمت والی چیز سے اجتناب کیا جائے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۵۳۲۸، ۸۹۳۷)
 خوفِ خدا اور خشیتِ الہی ہی ایسی چیز ہے، جس کی وجہ سے نیکوں کو سرانجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا
 بہت آسان ہو جاتا ہے، سینکڑوں آیات و احادیث میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کا درس دیا
 گیا ہے۔

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سورة واقعه

بَابُ: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾
 ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ۱۳-۱۴] شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَتَزَلَّتْ: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ۳۹-۴۰] فَقَالَ: ((أَنْتُمْ ثُلَّةٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بَلْ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَتَقَاسُمُونَهُمُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ)) (مسند احمد: ۹۰۶۹)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾..... ”(سبقت لے جانے والوں) کا بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے گا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔“ تو یہ بات مسلمانوں پر بہت گراں گزری، پس یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾..... ”(دائیں ہاتھ والوں کا) جم غفیر اگلوں میں سے ہے اور بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم جنت والوں میں سے تیرا حصہ ہو گے، بلکہ اہل جنت کا نصف حصہ تم ہو گے اور باقی نصب میں بھی تم ان کے حصہ دار ہو گے۔“

بَابُ: ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ﴾
 ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۸)۔ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ۳۰]، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّأَكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفْطَعُهَا))، قَالَ

”قادرہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٍ﴾..... ”اور لے لے لے ساہوں میں“ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً جنت میں ایک درخت ہے، سوار اس کے سائے میں ایک سو سال چلے گا، پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔“

(۸۷۷۷) تخريج: حسن لغيره (انظر: ۹۰۸۰)

(۸۷۷۸) تخريج: أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري: ۴۸۸۱، ومسلم: ۲۸۲۶، وأخرجه من حديث

انس الترمذي: ۳۲۹۳ (انظر: ۱۲۷۰۷)

مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْبَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَقْرَأُ وَإِنْ شِئْتُمْ ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٌ﴾. (مسند احمد: ۱۲۷۰۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے: اگر چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھو: ﴿وَوَظِلُّ مَمْدُودٌ﴾..... ”اور لے لے لے سا یوں میں“

بَابُ: ﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ ﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ کی تفسیر

(۸۷۷۹)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ [الواقعة: ۳۴] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ أَرْتَفَاعَهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَسِيرَةٌ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ.)) (مسند احمد: ۸۷۷۹)

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”﴿وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ﴾..... ”اور اونچے اونچے بستروں میں ہوں گے۔“ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے: ان کی بلندی اتنی ہوگی، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان بلندی ہے، جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔“

بَابُ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ کی تفسیر

(۸۷۸۰)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ۷۴] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اجْعَلُوا هَا فِي رُكُوعِكُمْ))، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ۱] قَالَ: ((اجْعَلُوا هَا فِي سُجُودِكُمْ.)) (مسند احمد: ۱۷۵۴۹)

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾..... ”اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو“ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ”اس اس کے مضمون کو اپنے رکوع میں پڑھنے کے لئے مقرر کر لو۔“ اور جب یہ آیت اتری ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾..... ”اپنے بلند و بالا رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے مضمون کو اپنے سجدوں کے لیے مقرر کر لو۔“

(۸۷۷۹) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولضعف رواية دراج عن ابي الهيثم - أخرجه الترمذی: ۲۵۴۰، ۳۲۹۴ (انظر: ۱۱۷۱۹)

(۸۷۸۰) تخريج: اسنادہ محتمل للتحسين - أخرجه ابوداود: ۸۶۹، وابن ماجه: ۸۸۷ (انظر: ۱۷۴۱۴)

بَابُ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾
﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ کی تفسیر

(۸۷۸۱)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ)) قَالَ: شُكْرُكُمْ ﴿أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا.))
 ”سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.....“ اور تم اپنے شکر کی بجائے یہی کرتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔“ اور کہتے ہو: ہمیں تو فلاں ستارے کی وجہ سے بارش دی گئی، ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے۔“ (مسند احمد: ۸۴۹)

فوائد: اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب رزق ملنے کی وجہ سے شکر کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت لوگ نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

بَابُ: ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾
﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾ کی تفسیر

(۸۷۸۲)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سِيدَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَيَانُ كَرْتِي هِيَ كِي نَبِي كَرِيم ﷺ نِي پڑھا: قَرَأَ: ﴿فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ﴾ [الواقعة: ۸۹]۔ (يعني ”راء“ پرضمہ پڑھا)۔ (مسند احمد: ۲۶۳۰۴)

فوائد: متواتر قراءت میں ”راء“ پرفتح ہے۔

سُورَةُ الْمَجَادَلَةِ

سورة مجادلہ

بَابُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا...﴾
﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا...﴾ کی تفسیر

(۸۷۸۳)۔ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ”سیدنا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: اللہ کی وَاللَّهِ فِي وَفَى أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ قَسَمًا! اللَّهُ تَعَالَى نِي سُوْرَةُ مَجَادَلَةِ كَا اِبْتِدَائِي حَصْرِي مِيْرِي اُوْر مِيْرِي

(۸۷۸۱) تخريج: حسن لغيره - أخرجه الترمذی: ۳۲۹۵ (انظر: ۸۴۹)

(۸۷۸۲) تخريج: اسنادہ صحیح - أخرجه ابوداود: ۳۹۹۱، و الترمذی ۲۹۳۸ (انظر: ۲۵۷۸۵)

(۸۷۸۳) تخريج: اسنادہ ضعیف لجهالة معمر بن عبد الله - أخرجه ابوداود: ۲۲۱۴، ۲۲۱۵ (انظر: ۲۷۳۱۹)

خاندان سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل کیا، تفصیل یہ ہے: میں ان کی بیوی تھی، اوس بوڑھے اور ضعیف ہو گئے، جس کی وجہ سے بد اخلاق ہو گئے تھے اور تنگ پڑ جاتے تھے، ایک دن میرے پاس آئے، میں نے ان سے تکرار کیا، وہ غصے میں آئے اور کہا: تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی مانند ہے، پھر باہر چلے گئے، کچھ دیر اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھے رہے، پھر میرے پاس آئے اور مجھ سے صحبت کرنا چاہی، لیکن میں نے کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے! تو مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، تو نے تو ابھی یہ کچھ کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ فیصلہ نہ کر دیں، وہ میری طرف کود پڑے، لیکن میں خود کو ان سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جیسے ایک عورت اپنے بوڑھے خاندان پر غالب آ جاتی ہے، میں نے انہیں دور پھینکا اور میں باہر نکل گئی، اپنی ہمسائی سے کپڑے لیے اور نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ گئی، آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کیا اور آپ ﷺ کے سامنے اپنے خاندان کی بد خلقی کی شکایت کرنے لگی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے خولہ! وہ تیرا چچے کا بیٹا ہے اور بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔“ لیکن میں اسی طرح تکرار کرتی رہی حتیٰ کہ میرے بارے میں قرآن مجید نازل ہونے لگا، آپ ﷺ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، جو وحی میں ہوتی تھی، پھر وہ کیفیت ختم ہوئی آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے خولہ! تیرے اور تیرے خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیات تلاوت کیں: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.....

عَزَّ وَجَلَّ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَصَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَرَأَجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَعَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَى نَفْسِي، قَالَتْ: فَقُلْتُ: كَلَّا، وَاللَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ! لَا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَخُكِّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَائِبُنِي وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيفَ فَأَلْقَيْتُهُ عَنِّي، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ ﷺ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يَا خُوَيْلَةَ! ابْنُ عَمِّكَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَأَتَقَى اللَّهَ فِيهِ-)) قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا بَرَحْتُ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَتَغَشَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ لِي: ((يَا خُوَيْلَةَ! قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ-))، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَمَا إِنَّ اللَّهَ

وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سیدنا خولہ کہتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”خاوند سے کہو کہ ایک گردن آزاد کرے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کے پاس اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کر سکے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اس سے کہو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو بہت بوڑھا ہے اور وہ روزے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر اسے کہو کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلا دے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بھی اس کے پاس نہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک ٹوکرا کھجوروں کا میں تعاون کر دیتا ہوں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک ٹوکرا میں بھی مدد کر دیتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے بہت درست اور اچھا فیصلہ کیا ہے، اب جا اور اس کی طرف سے صدقہ کر، پھر اپنے چچے کے بیٹے سے ہمدردی کا برتاؤ کرنا۔“ پس میں نے ایسا ہی کیا۔“

سَمِعُ بَصِيرٌ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ۱-۴] فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ، قَالَ: ((فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا ذَاكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِيْنَا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَاعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: قَدْ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتِ فَادْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكَ خَيْرًا، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، قَالَ سَعْدُ: الْعَرَقُ الصِّنُّ۔ (مسند احمد: ۲۷۸۶۲)

فوائد: یہ کل چار آیات تھیں، جو کہ درج ذیل ہیں: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أَوْلَدْنَهُمْ إِلَّا أَوْلَادُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

”یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے

انہیں جنم دیا اور بلاشبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں اور بلاشبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے وہ (کفارہ) جس کے ساتھ تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو، پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے تو دو پے درپے مہینوں کا روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پھر جو اس کی (بھی) طاقت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

ان آیات میں ظہار اور اس کے کفارے کا بیان ہے۔ ظہار یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو یوں کہے: اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّي۔ (تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے)۔ زمانہ جاہلیت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا اسی وجہ سے سخت پریشان ہو گئی تھیں، اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئیں تو آپ ﷺ نے بھی کچھ توقف کیا اور وہ آپ ﷺ سے بحث و تکرار کرتی رہیں، بالآخر یہ آیات نازل ہوئیں، جس میں اس کے مسئلہ کی وضاحت کر دی گئی۔

(۸۷۸۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَنِي الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُكَلِّمُهُ، وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ۱] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ (مسند احمد: ۲۴۶۹۹)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہیں، جس کا سننا تمام آوازوں کو شامل ہے، بحث و تکرار کرنے والی (سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا) نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور گفتگو کرنے لگی، جبکہ میں گھر کے ایک کونے میں تھی، میں اس کی بات نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُفْرَانٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾..... ”یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

(۸۷۸۴) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم - أخرجه ابو داود: ۲۲۲۰، وابن ماجه: ۱۸۸،

والنسائی: ۶/ ۱۶۸ (انظر: ۲۴۱۹۵)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا: اے ابوالقاسم! السَّامُ عَلَيْكَ (تجھ پر موت ہو)، آپ ﷺ نے یوں جواب دیا: وَعَلَيْكُمْ (اور تم پر بھی ہو)۔ لیکن سیدہ عائشہ نے کہا: تم پر موت بھی ہو اور مذمت بھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! اتنی بدگوئی نہ کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے السَّامُ عَلَيْكَ کہا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو کیا میں نے ان کا جواب دے نہیں دیا، میں نے کہہ تو دیا ہے: وَعَلَيْكُمْ۔“ ابن نمیر راوی کے الفاظ یہ ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فحش اور بہ تکلف بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔“ پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾..... ”اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو (ان لفظوں کے ساتھ) تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کہا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ انہیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانا ہے۔“

”سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی، نبی کریم ﷺ کو سَامٌ عَلَيْكَ (تجھ پر موت ہو) کہا کرتے تھے، پھر اپنے دل میں ہی کہتے: اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ

(۸۷۸۵)۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاِحِشَةً)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ)) قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ يَعْغِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ﴾ [المجادلة: ۸] حَتَّى فَرَّغَ۔ (مسند احمد: ۲۶۴۴۹)

(۸۷۸۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: سَامٌ عَلَيْكَ، ثُمَّ يَقُولُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا جَاءَ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ

(۸۷۸۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۶۵ (انظر: ۲۵۹۲۴)

(۸۷۸۶) تخریج: صحيح - أخرجه البزار: ۲۲۷۱ (انظر: ۶۵۸۹)

اللَّهُ ﴿ [المجادلة: ۸] إِلَىٰ آخِرِ آيَةِ۔
(مسند احمد: ۶۵۸۹)

وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿..... اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو (ان لفظوں کے ساتھ) تجھے سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے تجھے سلام نہیں کہا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں؟ انھیں جہنم ہی کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانا ہے۔“

فوائد:..... یہ یہودیوں کا حبش باطن تھا، لیکن نبی کریم ﷺ نے جواب اپنے وقار کو برقرار رکھا۔

**بَابُ: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَيْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَيْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ کی تفسیر**

(۸۷۸۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ مِنْ حُجْرِهِ، وَعِنْدَهُ نَفْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ كَادَ يَقْلِصُ عَنْهُمْ لَظْلًا، قَالَ: فَقَالَ: ((إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بَعِيْنِي شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَتَاكُمْ فَلَا تُكَلِّمُوهُ)) قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ أَرْزَقُ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ، قَالَ: ((عَلَامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ نَفْرٌ)) دَعَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَدُوا وَإِلَيْهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ﴾ [المجادلة: ۱۸] آيَةِ (مسند احمد: ۲۴۰۷)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک حجرہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، کچھ مسلمان بھی آپ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب سایہ سکر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مغتریب تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، جو تمہیں شیطان کی نظروں سے دیکھے گا، جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔“ اتنے میں ایک نیلی آنکھوں والا آدمی آیا، آپ ﷺ نے اسے بلایا اور اس سے بات کی اور فرمایا: ”تو اور فلاں فلاں آدمی مجھ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟“ آپ ﷺ نے چند افراد کے نام بھی لیے، وہ آدمی گیا اور ان سب کو بلالایا، پھر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اور آپ ﷺ سے معذرت کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ عَرًّا لَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾..... ”جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے

سامنے قسمیں کھاتے ہیں اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی

چیز پر (قائم) ہیں، سن لو! یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں۔“

فوائد:..... ان لوگوں کی بدبختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قیامت والے دن، جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی،

وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت کریں گے۔

” (دوسری سند) اس میں ہے: پس سورہ مجادلہ کی یہ آیت نازل

ہوئی: ﴿الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى

الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾..... ”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں

دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو

گیا، وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے اور وہ جھوٹ پر قسمیں

کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔“

فوائد:..... اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ بھی تمہاری طرح

مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں۔

سُورَةُ الْحَشْرِ

سورہ حشر

بَابُ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ...﴾

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ

نے بوریہ جگہ پر بنو نضیر کی کھجوروں کو جلایا اور ان کو کاٹ ڈالا،

اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ

لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ

وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾..... ”جو بھی کھجور کا درخت تم نے

(۸۷۸۸)۔ عَنِ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ حَرَقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ

الْبُؤَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا

قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ

أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾

(۸۷۸۷) م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۷۸۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۴۰۳۱، ۴۸۸۴، ومسلم: ۱۷۴۶ (انظر: ۶۰۵۴) كتاب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

[الحشر: ۵] - [مسند احمد: ۶۰۵۴] کاٹا، یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑا تو وہ اللہ کی اجازت سے تھا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔“

فوائد:..... مختصر قصہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کر حضور ﷺ نے ان یہودیوں سے صلح کر لی تھی کہ نہ آپ ان سے لڑیں نہ یہ آپ سے لڑیں، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا تھا، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو ان پر غالب کیا اور آپ نے انہیں یہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو کبھی اس کا خیال تک نہ تھا، خود یہ یہود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان مضبوط قلعوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی یہ سب چیزیں یونہی رکھی کی رکھی رہ گئیں اور اچانک اس طرح گرفت میں آ گئے کہ حیران رہ گئے اور آپ نے انہیں مدینہ سے نکلوا دیا، بعض تو شام کی زراعتی زمینوں میں چلے گئے، جو حشر و نشر کی جگہ ہے اور بعض خیبر کی طرف جانکے، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے اونٹوں پر لاد کر جو سامان لے جا سکو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لئے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ کر جو چیزیں لے جا سکتے تھے، اپنے ساتھ اٹھالیں، جو رہ گئیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔

اس آیت میں بونصیر کا ذکر ہے، جب آپ ﷺ نے ان کا محاصرہ کیا تو ان کے کھجور کے درختوں کو آگ لگا دی اور کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے، جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا تھا اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب آ گئے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَوَاخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ سورہ حشر کی آخری تین آیات کی تفسیر

(۸۷۸۹)۔ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَّارٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبَعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- وَقَرَأَ الثَّلَاثَ آيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمِيسَى، إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمِيسَى كَانَ بِتِلْكَ الْمَتْرِكَةِ)) (مسند احمد: ۲۰۵۷۲)

”سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو صحابہ کو تین بار کہتا ہے: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پھر سورہ حشر کی آخری تین آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار (۷۰،۰۰۰) فرشتے مقرر کرتا ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو وہ شہید فوت ہوگا اور جو شام کو پڑھے گا، وہ صبح تک اسی مرتبہ پر ہوگا۔“

فوائد:..... سورہ حشر کی آخری تین آیات درج ذیل ہیں: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ

(۸۷۸۹) تخریج: اسنادہ ضعیف، خالد بن طهمان ضعفہ ابن معین - أخرجه الترمذی: ۲۹۲۲ (انظر: ۲۰۳۰۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ﴿.....﴾ "وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھرنے ڈھالنے والا، صورت بنا دینے والا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔"

سُورَةُ الْمُتَحِنَةِ

سورة محتنة

بَابُ: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ...﴾
 ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ...﴾ کی تفسیر

"سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فتیلہ بنت عبدالعزیٰ گوہ، پیر اور گھر جیسے تحائف لے کر اپنی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئی، جبکہ وہ فتیلہ مشرک خاتون تھی، اس لیے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما نے اس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسے گھر میں بھی داخل ہونے سے روک دیا، پھر جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾..... "اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم

(۸۷۹۰)۔ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: قدمت فتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد من بنى مالك بن حسل على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر يهدايا ضباب وأقيط وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ۸] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

(۸۷۹۰) تخريج: اسنادہ ضعیف لضعف مصعب بن ثابت۔ أخرجه ابوداود الطيالسي: ۱۶۳۹، والحاكم:

۴ / ۸۵ (انظر: ۱۶۱۱)

فَأَمْرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا۔
(مسند احمد: ۱۶۲۱۰)

ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے
دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے
گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ
اس کا ہدیہ قبول کر لیں اور اپنے گھر میں داخل ہونے دیں۔“

فوائد: اس آیت میں ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں، جو مسلمانوں سے محض دین
اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے لڑتے نہیں، یہ پہلی شرط ہے، اگلی آیات میں
دوسری شرائط کا بیان ہے۔

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ...﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ...﴾ کی تفسیر

(۸۷۹۱)۔ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا
يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا...﴾ إِلَى قَوْلِهِ... وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴿[المستحنة: ۱۲]﴾
قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النَّيَاحَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! إِلَّا آلُ فُلَانٍ وَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا
أُسْعِدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بَدْلَ لِي مِنْ أَنْ
أُسْعِدَهُمْ۔ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: ((إِلَّا
آلَ فُلَانٍ.)) (مسند احمد: ۲۱۰۷۷)

”سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا
يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يُفْتَرِيَنَّ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِيَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (سورہ
مستحنة: ۱۲) یعنی: ”اے نبی! جب اہل ایمان خواتین آپ
کے پاس آئیں تو وہ ان باتوں کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں
کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان طرازی
نہیں کریں گی اور کسی معروف کام میں آپ کی حکم عدولی نہیں کریں
گی۔“ جن کاموں سے آپ نے روکا ان سے ایک نوحہ کرنا بھی
تھا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلاں خاندان والوں نے دور
جاہلیت میں نوحہ کرنے میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اب میرے لیے
ضروری ہے کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں۔ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”(ٹھیک ہے) مگر فلاں خاندان والے۔“

فوائد:..... اس حدیث میں آپ ﷺ نے خاص طور پر سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو نوحہ کرنے کی اجازت دی، جبکہ شارع کو عام حکم سے تخصیص کرنے کا حق حاصل ہے، لہذا سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی اس رخصت کے علاوہ نوحہ کرنا حرام ہے۔

(۸۷۹۲)۔ عَنِ امِّ سَلِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾....." اور وہ خواتین نیکی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔" (روکی گئی چیزوں میں سے) نوحہ ہے۔

(۸۷۹۳)۔ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْتَحِنُ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا بِالْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (سورہ

ممتحنہ: ۱۲) یعنی: "اے نبی! جب اہل ایمان خواتین آپ کے پاس آئیں تو وہ ان باتوں کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان طرازی نہیں کریں گی اور کسی معروف کام میں آپ کی حکم عدولی نہیں کریں گی۔" اور یہ بھی نہیں کریں گی اور یہ بھی نہیں کریں گی۔

احمد: ۲۵۸۱۴)

فوائد:..... یعنی جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں تو آپ ﷺ اس آیت میں بیان شدہ امور کے ذریعے ان کے ایمان کو پرکھتے تھے اور ان سے بیعت لیتے تھے۔

(۸۷۹۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف شہر بن حوشب - أخرجه ابن ماجه: ۱۵۷۹، وأخرجه مطولا الترمذی: ۲۳۰۷ (انظر: ۲۷۲۵۶)

(۸۷۹۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۲۱۴، ومسلم: ۱۸۶۶ (انظر: ۲۵۳۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سُورَةُ الصَّفِّ

سورہ صف

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الصَّفِّ

سورہ صف میں جو کچھ ہے، اس کا بیان

”سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دن آپس میں مذاکرہ کیا اور کہا: ہم میں سے کون ہے جو نبی کریم ﷺ کے پاس جائے اور آپ ﷺ سے دریافت کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کونسا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی آپ ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے جانے کو تیار نہ تھا، اتنی دیر میں نبی کریم ﷺ نے ہمارے پاس ایک آدمی بھیجا، اس نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کو جمع کیا، اب ہم میں سے ہر کوئی اس تعجب کے ساتھ دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگا (کہ نبی کریم ﷺ کو ہماری بات کا کیسے پتہ چل گیا)، بہر حال پھر آپ ﷺ نے ہم پر یہ آیات تلاوت کیں: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ..... كَبِيرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ان آیتوں کو نبی کریم ﷺ نے اول سے آخر تک پڑھا، پھر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اول سے آخر تک پڑھیں، پھر عطاء بن یسار نے اسی طرح پڑھیں، یحییٰ کہتے ہیں: پھر ہلال نے یہ آیات اول تا آخر پڑھیں، اوزاعی کہتے ہیں: ہم پر یحییٰ نے ان آیات کی اول تا آخر تلاوت کی۔“

”(دوسری سند) سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی

(۸۷۹۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: تَذَاكُرْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: أَيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَسْأَلُهُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ وَهَبْنَا أَنْ يَقُومَ مِنَّا أَحَدٌ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا حَتَّى جَمَعَنَا، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يُشِيرُ إِلَى بَعْضٍ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ..... إِلَى نَوِيلِهِ..... كَبِيرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ قَالَ: فَتَلَاهَا بِنُ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ: فَتَلَاهَا عَلَيْنَا ابْنُ سَلَامٍ مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ: فَتَلَاهَا عَلَيْنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ يَحْيَى: فَتَلَاهَا عَلَيْنَا هَلَالَ مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَتَلَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَتَلَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى مِنْ أَوْلَاهَا إِلَى آخِرِهَا۔ (مسند احمد: ۲۴۱۹۸)

(۸۷۹۵)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنْ أَبِي

(۸۷۹۴) تخريج: اسنادہ صحیح - أخرجه الترمذی: ۳۳۰۹ (انظر: ۲۳۷۸۹)

(۸۷۹۵) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

سَلِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ بِنَحْوِهِ، حَدِيثُ بَيَانِ كِي، الْبَتَّةِ اس مِثْلِهِ هُوَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَ فِيهِ: فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَجَمَعَنَا فَقَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ السُّورَةَ يَعْنِي سُورَةَ الصَّفِّ كُلَّهَا. (مسند احمد: ٢٤١٩٧)

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سورة جمعہ

بَابُ: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾
﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ كَيْ تَفْسِيرِ

(٨٧٩٦)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الجمعة: ٣] قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يَرِاجِعْهُ ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ وَقَالَ: ((لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ)) (مسند احمد: ٩٣٩٦)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾..... ”اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی (آپ کو بھیجا) جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب اس نے ایک یا دو یا تین مرتبہ یہی سوال دوہرایا، جبکہ ہم میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو نبی کریم ﷺ نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا: ”اگر ایمان ثریا ستاروں کے پاس بھی ہوتا تو ان کی قوم کے آدمی اسے وہاں سے بھی حاصل کر لیتے۔“

فوائد:..... آیت میں ”آخرین“ (دوسروں) سے مراد فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ ﷺ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے والے درج ذیل واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ ”اگر ایمان ثریا ستاروں کے پاس بھی ہوتا تو اس کے خاندان کے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیتے۔“ یہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے، کتاب کے اواخر میں یہ حدیث آئے

(٨٧٩٦) تخریج: أخرجه البخاری: ٤٨٩٨، ومسلم: ٢٥٤٦ (انظر: ٩٤٠٦)

گی، قارئین کی دلچسپی کے لیے یہاں صرف ترجمہ سپرد قلم کیا جاتا ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنا واقعہ اپنی زبانی یوں بیان کیا، وہ کہتے ہیں: میں اصہبان والوں میں سے ایک فارسی باشندہ تھا، میرا تعلق ان کی ایک جی تائی بستی سے تھا، میرے باپ اپنی بستی کے بہت بڑے کسان تھے اور میں اپنے باپ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی حتیٰ کہ انھوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا، جیسے لڑکی کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے مجوسیت میں بڑی جدوجہد سے کام لیا، حتیٰ کہ میں آگ کا ایسا خادم و مصاحب بنا کہ ہر وقت اس کو جلاتا رہتا تھا اور ایک لمحہ کے لیے اسے بجھنے نہ دیتا تھا۔ میرے باپ کی ایک بڑی عظیم جائداد تھی، انھوں نے ایک دن ایک عمارت (کے سلسلہ میں) مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا: بیٹا! میں تو آج اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائداد (تک نہیں پہنچ پاؤں گا)، اس لیے تم چلے جاؤ اور ذرا دیکھ کر آؤ۔ انھوں نے اس کے بارے میں مزید چند (احکام بھی) صادر کئے تھے۔ پس میں اس جاگیر کے لیے نکل پڑا، میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، میں نے ان کی آوازیں سنیں اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ عوام الناس کا کیا معاملہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر میں پابند کر رکھا ہے۔ (بہر حال) جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنیں تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کی نقل و حرکت دیکھنے لگ گیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہوا اور میں نے کہا: بخدا! یہ دین اُس (مجوسیت) سے بہتر ہے جس پر ہم کاربند ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا: اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انھوں نے کہا: شام میں۔ پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا، (چونکہ مجھے تاخیر ہو گئی تھی اس لیے) انھوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھی میرے پیچھے بھیج دیا تھا۔ میں اس مصروفیت کی وجہ سے ان کے مکمل کام کی (طرف کوئی توجہ نہ دھر سکا)۔ جب میں ان کے پاس آیا تو انھوں نے پوچھا: بیٹا! آپ کہاں تھے؟ کیا میں نے ایک ذمہ داری آپ کے سپرد نہیں کی تھی؟ میں نے کہا: ابا جان! میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی کاروائی بڑی پسند آئی۔ اللہ کی قسم! میں ان کے پاس ہی رہا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے باپ نے کہا: بیٹا! اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا: بخدا! ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ (میرے ان جذبات کی وجہ سے) میرے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہوا اور انھوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں پابند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے تاجروں کا عیسائی قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا۔ (کچھ ایام کے بعد) جب شام سے عیسائیوں کا تجارتی قافلہ پہنچا تو انھوں نے مجھے اس (کی آمد) کی اطلاع دی۔ میں نے ان سے کہا: جب (اس قافلے کے) لوگ اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے ملک کی طرف واپس لوٹنا چاہیں تو مجھے بتلا دینا۔ سو جب انھوں نے واپس جانا چاہا تو انھوں نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار پھینکیں اور ان کے ساتھ نکل پڑا اور شام پہنچ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو

پوچھا: وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں افضل ہے؟ انھوں نے کہا: فلاں گرجا گھر میں ایک پادری ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا: میں اس دین (نصرانیت) کی طرف راغب ہوا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے کہا: (ٹھیک ہے) آ جاؤ۔ پس میں اس میں داخل ہو گیا۔ لیکن وہ بڑا برا آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور ان کو ترغیب دلاتا تھا۔ جب وہ کئی اشیاء لے کر آتے تھے، تو وہ اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے سات منگے جمع ہو گئے۔ میں اس کے کرتوتوں کی بنا پر اس سے نفرت کرتا تھا۔ بالآخر وہ مر گیا، اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے۔ میں نے ان سے کہا: یہ تو برا آدمی تھا، یہ تم لوگوں کو تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دلاتا تھا، لیکن جب تم لوگ اس کے پاس صدقہ جمع کرواتے تھے تو یہ اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا تھا اور مساکین کو بالکل نہیں دیتا تھا۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا: تجھے کیسے علم ہوا؟ میں نے کہا: میں تمہیں اس کے خزانے کی خبر دے سکتا ہوں۔ انھوں نے کہا: تو پھر ہمیں بتاؤ۔ پس میں نے ان کو (اس کے خزانے کا) مقام دکھایا۔ انھوں نے وہاں سے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے سات منگے نکالے۔ جب انھوں نے صدقے (کا یہ حشر) دیکھا تو کہنے لگے: بخدا! ہم اس کو کبھی بھی دفن نہیں کریں گے۔ سو انھوں نے اس کو سولی پر لٹکایا اور پھر پتھروں سے اس کو سنگسار کیا۔ بعد ازاں وہ اس کی جگہ پر ایک اور آدمی لے آئے۔ مسلمان کہتے ہیں: جو لوگ پانچ نمازیں ادا کرتے تھے، میں نے اس کو ان میں افضل پایا۔ میں نے اسے دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت والا اور دن ہو یا رات (عبادت کے معاملات کو) تندہی سے ادا کرنے والا پایا۔ میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ میں اسی کے ساتھ کچھ زمانہ تک مقیم رہا۔ بالآخر اس کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا۔ میں نے اسے کہا: اوفلان! میں تیرے ساتھ رہا اور میں نے تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے قبل اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی۔ اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم (موت) آ پہنچا ہے، تو خود بھی محسوس کر رہا ہے۔ اب تو مجھے کس بندۂ (خدا) کے پاس جانے کی نصیحت کرے گا؟ اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹا! اللہ کی قسم! میں جس دین پر پابند تھا، میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیروکار نہیں ہے۔ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور تبدیل ہو گئے ہیں اور جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس کے اکثر امور کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں فلاں ایک آدمی موصل میں ہے۔ وہ اسی دین پر کاربند ہے، پس تو اس کے پاس چلے جانا۔ پس میں نے اس کے پاس اقامت اختیار کی، میں نے اسے بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کے دین پر برقرار تھا۔ (کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی) فوت ہونے کے آثار (دکھائی دینے لگے)۔ جب اس پر وفات کی گھڑی آ پہنچی تو میں نے کہا: اوفلان! فلاں نے تو مجھے تیرے بارے میں وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ تیری صحبت میں رہوں۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا: اے فلاں! فلاں آدمی نے موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ

میں تجھ سے آملوں۔ اس نے مجھے بتلایا تھا کہ تم بھی اس کے دین پر کار بند ہو۔ اس نے مجھے کہا: (ٹھیک ہے) تم میرے پاس ٹھہر جاؤ تو میں اس کے پاس ٹھہر گیا تو میں نے اسے اس کے ساتھی کی طرح اچھا آدمی پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس کہا مجھے فلاں آدمی نے آپ کے پاس بھیجا تھا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہونے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب تو مجھے کیا وصیت کرے گا اور کیا حکم دے گا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا: بیٹا! اللہ کی قسم! میرے علم کے مطابق تو ہمارے دین پر قائم صرف ایک آدمی ہے، جو نصیبین میں ہے۔ (میری وفات کے بعد) اس کے پاس چلے جانا۔ پس جب وہ فوت ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بارے میں اور اپنے (رہنما) کے حکم کے بارے میں مطلع کیا۔ اس نے کہا: میرے پاس ٹھہریے۔ سو میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے اس کو اس کے سابقہ دونوں صاحبوں کے دین پر پایا۔ وہ بہترین آدمی تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی۔ لیکن اللہ کی قسم! وہ جلد ہی مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا: اوفلاں! فلاں! (اللہ کے بندے) نے مجھے فلاں کی (صحبت میں رہنے کی) نصیحت کی تھی، پھر اس نے تیرے پاس آنے کی نصیحت کی۔ اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرے گا یا کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹے! ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے، جو ہمارے دین پر قائم ہو، کہ تو اس کے پاس جاسکے۔ البتہ ایک آدمی عموریہ میں ہے۔ وہ دین کے معاملے میں ہماری طرح کا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا، کیونکہ وہ ہمارے دین پر برقرار ہے۔ پس جب وہ بھی مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا، تو میں عموریہ والے (بندۂ خدا) کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنا سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا: تم میرے پاس ٹھہرو۔ میں نے اس کی صحبت اختیار کر لی اور اسے اس کے اصحاب کی سیرت اور دین پر پایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے اس کے پاس کمانی بھی کی، حتیٰ کہ میں کچھ گائیوں اور بکریوں کا مالک بن گیا۔ لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، (یعنی موت کی علامات دکھائی دینے لگیں)۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا تو میں نے اسے کہا: اوفلاں! میں فلاں (بندۂ خدا) کے پاس تھا، فلاں نے مجھے فلاں کے بارے میں، فلاں نے فلاں کے بارے میں اور اس نے تیرے پاس آنے کی وصیت کی تھی۔ اب تو مجھے کس (کی صحبت میں رہنے) کی وصیت کرے گا؟ اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا: میرے بیٹا! میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے دین پر کار بند ہو اور جس کے بارے میں میں تجھے حکم دے سکوں۔ لیکن اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب آچکا ہے، اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ عربوں کی سرزمین سے ظاہر ہوگا اور ایسے (شہر) کی طرف ہجرت کرے گا جو دو حروں (یعنی کالے پتھر والی زمینوں) کے درمیان ہوگا اور ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اس کی اور علامات بھی ہوں گی، جو مخفی نہیں ہوں گی۔ وہ ہدیہ (یعنی بطور تحفہ دی گئی چیز) کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہوگی۔ اگر تجھے استطاعت ہے تو (عرب کے) ان علاقوں تک پہنچ جا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور

تھا، میں عموریہ میں سکونت پذیر رہا۔ پھر میرے پاس سے بنو کلب قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ میں نے ان سے کہا: اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ تو میں تم کو اپنی گائیں اور بکریاں دے دوں گا؟ انھوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ پس میں نے اپنی گائیں اور بکریاں ان کو دے دیں اور انھوں نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب وہ مجھے وادی قریٰ تک لے کر پہنچے تو انھوں نے مجھ پر ظلم کیا اور بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پس میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ جب میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہ وہی شہر ہے جو میرے ساتھی نے بیان کیا تھا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس یہودی کا چچا زاد بھائی، جس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا، مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کر اپنے پاس مدینہ میں لے گیا۔ اللہ کی قسم! جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو اپنے ساتھی کی بیان کردہ علامات کی روشنی میں اس کو پہچان گیا (کہ یہی خاتم النبیین کا مسکن ہوگا)۔ میں وہاں فروکش ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کر دیا، جتنے دن انھوں نے وہاں ٹھہرنا تھا، وہ ٹھہرے۔ لیکن میں نے ان (کی آمد) کا کوئی تذکرہ نہیں سنا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں غلامی والے شغل میں مصروف رہتا تھا۔ بالآخر نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اللہ کی قسم! (ایک دن) میں اپنے آقا کے پھل دار کھجور کے درخت کی چوٹی پر کوئی کام کر رہا تھا، میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، اس کا چچا زاد بھائی اچانک اس کے پاس آیا اور کہا: اوفلاں! اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کو ہلاک کرے، وہ قبا میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھ پر اس قدر کپکپی طاری ہو گئی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ میں کھجور کے درخت سے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا: تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بات سے میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مکارا اور کہا: تیرا اس کی بات سے کیا تعلق ہے۔ جا، اپنا کام کر۔ میں نے کہا: کوئی تعلق نہیں، بس ذرا بات کی چھان بین کرنا چاہتا تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میرے پاس میرا جمع کیا ہوا کچھ مال تھا۔ جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور قبا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گیا۔ میں آپ ﷺ پر داخل ہوا اور کہا: مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ آپ کوئی صالح آدمی ہیں اور آپ کے اصحاب غریب اور حاجتمند لوگ ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میں نے آپ لوگوں کو ہی اس کا زیادہ مستحق سمجھا ہے۔ پھر میں نے وہ مال آپ ﷺ کے قریب کیا۔ لیکن آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”تم لوگ کھا لو۔“ آپ ﷺ نے خود اپنا ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ (اس بندہ خدا کے نبی ہونے کی) ایک نشانی تو (پوری ہو گئی ہے)۔ پھر میں چلا گیا اور مزید کچھ مال جمع کیا۔ اب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں منتقل ہو چکے تھے۔ پھر (وہ مال لے کر) میں آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میرا آپ کے بارے میں خیال ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ (یعنی تحفہ) ہے، میں اس کے ذریعے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے وہ چیز خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا، سو انھوں نے بھی کھائی۔ (یہ منظر دیکھ کر) میں نے دل میں کہا: دو علامتیں (پوری ہو گئیں ہیں)۔ (سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں (تیسری دفعہ) جب

رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو وہ ”بَقِيعُ الْعَرْفَدِ“ میں تھے۔ آپ ﷺ کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے، آپ ﷺ پر دو چادریں تھیں۔ آپ ﷺ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ ﷺ کو سلام کہا، پھر آپ کی پیٹھ پر نظر ڈالنے کے لیے گھوما، تاکہ (دیکھ سکوں کہ) آیا وہ (ختم نبوت والی) مہر بھی ہے، جس کی پیشین گوئی میرے ساتھی نے کی تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ بچپان گئے کہ میں آپ ﷺ کے کسی وصف کی جستجو میں ہوں، پس آپ ﷺ نے اپنی چادر اپنی پیٹھ سے ہٹا دی، میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے پہچان گیا۔ پھر میں آپ ﷺ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کے بوسے لینے اور رونے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”بیچھے ہنو۔“ پس میں بیچھے ہٹ گیا۔ ابن عباس! پھر میں نے آپ ﷺ کو اپنا وہ سارا ماجرا سنایا، جو تجھے سنایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کو یہ بات اچھی لگی کہ یہ واقعہ آپ کے صحابہ بھی سنیں۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ غلامی کی وجہ سے مشغول رہے اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ (سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) ایک دن رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”سلمان! (اپنے مالک سے) مکاتبت کر لو۔“ پس میں نے اپنے آقا سے اس بات پر مکاتبت کر لی کہ میں اس کے لیے تین سو کھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر لگاؤں گا اور (مزید اسے) چالیس اوقیے دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی (سلمان) کی مدد کرو۔“ لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجوروں کے درخت دیے۔ کسی نے تیس، کسی نے بیس، کسی نے پندرہ، کسی نے دس، الغرض کہ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے بقدر مجھے کھجوروں کے چھوٹے درخت دیے، حتیٰ کہ میرے پاس تین سو کھجوریں جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”سلمان! جاؤ اور گڑھے کھودو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، (یہ پودے) میں خود لگاؤں گا۔“ (سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں نے گڑھے کھودے، میرے ساتھیوں نے میری معاونت کی۔ جب میں فارغ ہوا تو آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی۔ رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ نکلے۔ ہم (کھجوروں کے وہ) بوٹے آپ ﷺ کے قریب کرتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لگا دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے! ان میں سے کھجور کا ایک پودا بھی نہ مرا۔ اب میں کھجور کے چھوٹے درخت تو لگا چکا تھا اور (چالیس اوقیوں والا) مال باقی تھا۔ کسی غزوے سے رسول اللہ ﷺ کے پاس مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لایا گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”مکاتبت کرنے والا (سلمان) فارسی کیا کر رہا ہے؟“ مجھے بلایا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سلمان! یہ لو اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ پر جتنا (قرضہ) ہے، اس سے کیا اثر ہوگا؟ (یعنی قرضہ بہت زیادہ ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو لو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارا (قرضہ) بھی ادا کر دے گا۔“ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے! میں نے وہ لے لیا اور اس میں سے ان آقاؤں کو چالیس اوقیے تول کر دے دیئے، ان کا پورا حق ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ خندق میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کوئی غزوہ مجھ سے نہ رہا۔ (مسند احمد: 5 / 441، صحیحہ: 894)

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

سورة منافقون

بَابُ سَبَبِ نَزُولِهَا وَمَنْقَبَةِ لَزِيدِ بْنِ أَرْقَمٍ

سورة منافقون کے شان نزول اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی منقبت کا بیان

”سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک غزوہ میں اپنے چچا کے ساتھ نکلا، میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو سنا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا: اس رسول کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو اور اگر ہم مدینہ میں لوٹے تو ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی اور میرے چچا نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کر دیا، آپ ﷺ نے میری طرف پیغام بھیجا، میں نے آپ ﷺ کے پاس آ کر آپ ﷺ کو اس کی بات بتادی، پھر آپ ﷺ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا، سو وہ آگئے، لیکن انہوں نے قسم اٹھائی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں، نبی کریم ﷺ نے مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دیا، اس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی، کبھی بھی اتنی پریشانی مجھے نہیں ہوئی تھی، پس میں گھر میں بیٹھ گیا، میرے چچا نے کہا: تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ تو نے ایسی بات کہی، اب نبی کریم ﷺ نے تجھے جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تجھ پر ناراض بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتا دیں: ﴿إِذَا جَاءَكَ لَئِ الْمُنَافِقُونَ﴾..... ”جب وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں،.....“ اب نبی کریم ﷺ نے میری طرف پیغام

(۸۷۹۸)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَمِّي فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بِنِ سَلُولٍ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْتِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّا أَلَّا عَزُّ مِنْهَا إِلَّا ذَلٌّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَهُ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بِنِ سَلُولٍ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِيبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتُ إِلَيَّ أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَمَكَ، قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ۱] قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ هَاتِمًا قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ)) (مسند احمد: ۱۹۵۴۸)

بھیجا، آپ ﷺ نے مجھ پر یہ آیات پڑھیں اور فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دیا ہے۔“

”(دوسری سند) سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگ سختی اور شدت میں مبتلا ہو گئے، عبد اللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: رسول اللہ کے گرد جمع لوگوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، اب اگر ہم مدینہ میں لوٹے تو ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو یہ بات بتلائی، آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے تو بڑی پختہ قسم اٹھا دی کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی، لوگ کہنے لگ گئے: رسول اللہ ﷺ نے زید کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس بات سے میرے دل میں بڑی پریشانی آئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں یہ آیات نازل کر دیں: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ...﴾ ”جب منافق آپ کے پاس آئیں گے،“ پھر آپ ﷺ نے ان کو بلایا، تاکہ ان کے لیے استغفار کریں، پس انھوں نے اپنے سروں کو موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ [المنافقون: ۴] ”گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں“ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑے خوبصورت مرد تھے۔“

”سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک غزوہ میں تھا، عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے کہا: اگر ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم عزت والے ضرور ضرور ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے، میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور یہ بات آپ ﷺ کو بتلا دی۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے قسم

(۸۷۹۹)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَأَ صَحَابِهِ: لَا تُتَفَقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَسَأَلَهُ لِمَ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَّ، فَقَالُوا: كَذَّبَ زَيْدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ۱] قَالَ: وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْوْا رُءُوسَهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ [المنافقون: ۴] قَالَ: كَانُوا رَجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ۔ (مسند احمد: ۱۹۵۴۹)

(۸۸۰۰)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَيْنٍ: لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي

(۸۷۹۹) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۸۰۰) تخريج: انظر الحديث السابق

اٹھائی کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میری قوم نے مجھے ملامت کیا اور کہا کہ تجھے کیا فائدہ ہوا، پس میں غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا سو گیا، پھر نبی کریم ﷺ نے میری طرف پیغام بھیجا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تیرا عذر اتارا ہے اور تجھے سچا قرار دیا ہے، پس یہ آیت نازل ہوئی: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا..... لَيْتِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرُ مِنْهَا إِلَّا ذَلَّ﴾“

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَلَا مَنِي نَوْمِي وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا، قَالَ: نَانُطَلَقْتُ فَنِمْتُ كَثِيرًا أَوْ حَزِينًا، قَالَ: فَأَرْسَلْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ مَعُذْرَكَ، وَصَدَقَكَ-))، قَالَ: فَتَزَلَّتْ هَذِهِ النَّايَةُ: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لَيْتِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا إِلَّا نَزُّ مِنْهَا إِلَّا ذَلَّ﴾ [المنافقون: ۷-۸]-

(مسند احمد: ۱۹۵۰۰)

فوائد:..... مذکورہ بالا تین روایات کے مفہوم کی وضاحت سورہ منافقون کی درج ذیل ابتدائی آٹھ آیات سے ہوگی: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ اتَى يُؤْفَكُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَارِءٌ وَهُمْ لَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ لَيْنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا إِلَّا عَزُّ مِنْهَا إِلَّا ذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورہ منافقون: ۱-۸)

”جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشبہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بلاشبہ تو یقیناً اس کا رسول ہے اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بلاشبہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس انھوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انھوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو انھیں دیکھے تجھے ان کے

جسم اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات پر کان لگائے گا، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں۔ یہی اصل دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہ۔ اللہ انھیں ہلاک کرے، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیں گے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انھیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔“

محمد ثین کرام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت کے بارے میں یہ قانون مرتب کیا: "الصحابہ کلہم عدول۔"..... (صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں)۔ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدق و صفات متصف تھا، بہر حال ان آیات سے خصوصی طور پر سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی اور صدیقیت ثابت ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا، ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آٹھ آیات نازل کر دیں۔

سُورَةُ الطَّلَاقِ

سورہ طلاق

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...﴾ کی تفسیر

(۸۸۰۱)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ (مسند احمد: ۵۲۶۹)

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت اس طرح پڑھی: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾..... ”اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو۔“

فوائد:..... اس آیت کی متواتر قراءت تو ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ہے، ”فی قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ“ قراءت کے الفاظ متواتر قراءت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل میں اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔

بَابُ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا...﴾
 ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا...﴾ کی تفسیر

(۸۸۰۲)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ۲] حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ! لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ...) قَالَ: فَجَعَلَ يَتْلُو بِهَا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعَسْتُ۔ (مسند احمد: ۲۱۸۸۴)

”سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ پر اس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾..... ”جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔“ حتیٰ کہ آیت سے فارغ ہوئے، اور پھر فرمایا: ”اے ابو ذر! اگر تمام لوگ اس آیت کو پڑ لیں تو یہ ان سب کو کفایت کرے گی۔“ پھر آپ ﷺ اس آیت کو بار بار دہراتے تھے، یہاں تک کہ مجھے نیند آگئی۔“

فوائد:..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

(سورۃ طلاق: ۲۰۱)

”اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسا کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔“

یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ آیت اپنے مضمون میں پراثر اور واضح نظر آ رہی ہیں۔

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

سورۃ تحریم

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرُمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ کی تفسیر

(۸۸۰۳)۔ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ قَالَ: ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ،

(۸۸۰۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، فان ابنا السليل لم يدرك ابا ذر۔ أخرجه ابن ماجه:

۴۲۲۰ (انظر: ۲۱۵۵۱)

(۸۸۰۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۵۷، ۶۶۹۱، ومسلم: ۱۴۷۴ (انظر: ۲۵۸۵۲)

سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرتے تھے اور ان کے پاس شہد پیتے تھے، میں (عائشہ) اور حفصہ دونوں نے آپس میں یہ سیکم تیار کی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی، آپ ﷺ تشریف لائیں، وہ یہ کہے: میں تو آپ سے مغفیر کی بوپاتی ہوں، کیا آپ نے مغفیر کھایا ہے، پس جب آپ ﷺ ہم میں سے ایک کے پاس داخل ہوئے تو اس نے وہی بات کہی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے زینب کے پاس سے شہد پیا ہے، آئندہ میں ہرگز نہ پیوں گا۔“ پس یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿لَمَّا تَحَرَّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾..... ”اے نبی تو وہ کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾..... ”اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو۔“ یہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے۔ اور ﴿وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾..... ”اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی۔“ اس سے مزاد آپ ﷺ کی یہ بات تھی: ”بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے۔“

سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُخْبِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ آيَتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغْفِيرٍ أَكَلْتَ مَغْفِيرًا، فَدَخَلَ عَلَيَّ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ.)) فَنَزَلَتْ: ﴿لَمَّا تَحَرَّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ﴿وَإِنْ تَتُوبَا﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾ (التحریم: ۱-۴) [لِقَوْلِهِ: ((بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا.)) (مسند احمد: ۲۶۳۷۷)]

فوائد:..... مغفیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، جس میں بساند ہوتی ہے

یہ مندرجہ ذیل آیات تھیں: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لَمَّا تَحَرَّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْبَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْغَبِيرُ. إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.﴾

”اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، پھر جب اس (بیوی) نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس (نبی) کو اس کی اطلاع کر دی تو اس (نبی) نے (اس بیوی کو) اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا، پھر جب اس (نبی) نے اسے یہ راز فاش کرنے

کی) بات بتائی تو اس نے کہا تجھے یہ کس نے بتایا؟ کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقیناً تمہارے دل (حق سے) ہٹ گئے ہیں اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔“

اس سورت کی ان ابتدائی آیات کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ایک واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ بھی یہ اختیار نہیں رکھتے تھے۔

بَابُ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ کی تفسیر

(۸۸۰۴)۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ مِنْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ السَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ حَتَّى حَجَّ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ وَعَدَلْتُ وَعَدَلْتُ سَعَهُ بِإِدَاوَةٍ فَبَرَزْتُمْ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى بَدَنِهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِنَ الْمَرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ قَالَ: وَاعْجَبَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوفُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارِلِي مِنَ الْأَنْصَارِ

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں کہ وہ کون سی دو عورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾..... ”اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقیناً تمہارے دل (حق سے) ہٹ گئے ہیں۔“ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا، (قضاء حاجت کے لئے) وہ راہ سے ہٹے، میں بھی ان کے ساتھ لوٹا لے کر مڑ گیا، جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا، اب میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! نبی کریم ﷺ کی وہ دو بیویاں کون کون سی ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾..... ”اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو (تو بہتر ہے) کیونکہ یقیناً تمہارے دل (حق سے) ہٹ گئے ہیں۔“ انھوں نے کہا: اے ابن عباس! مجھے تم پر بڑا تعجب آ رہا ہے، سنو، وہ دونوں

فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي
 الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَسَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى
 النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا فَإِذَا
 نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِمَا حَدَّثَ مِنْ خَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
 مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ
 ذَلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا
 قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ
 نِسَاؤُهُمْ فَطَوَّقَ نِسَاؤُنَا بِأُحْدُنٍ مِنْ أَدَبِ
 نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي
 فَرَأَجَعْتَنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ
 وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ
 النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعُنَّهُ وَإِنْ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ
 الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْرَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا
 قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ
 عَلَى ثِيَابِي فَتَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ
 فَقُلْتُ لَهَا: أَيُّ حَفْصَةَ! أَنْتَ غَاضِبٌ إِحْدَاكُنَّ
 النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ
 فَقُلْتُ قَدْ خَبِبْتُ وَخَسِرْتُ أَفْتَأَمِينُ أَنْ
 يَغْضَبَ اللَّهُ لِيغْضِبَ رَسُولَهُ ﷺ فَتَهْلِكُنِي لَا
 تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ
 وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِّبِي مَا بَدَا لَكَ وَلَا
 يَغُرَّتْكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْضَأَ مِنْكَ وَأَنَّ
 حَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ
 غَسَّانَ تُنْعَلُ الْخَيْلَ لِيَغْرُونَا فَتَزَلَ صَاحِبِي
 الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوَيْتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً

عائشہ اور حفصہ ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بقیہ حدیث بیان کی
 کہ میں اور ایک میرا انصاری پڑوسی (محلہ) بنی امیہ میں رہتے
 تھے، جو مدینہ کے اونچے علاقہ میں واقع تھا، ہم دونوں باری
 باری سے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے،
 جس دن میں جاتا، اپنے ساتھی کو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام
 خبریں آ کر بتا دیتا اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، بات
 یہ ہے کہ ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب مدینہ
 آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انصاری عورتیں مردوں پر غالب ہیں،
 ہماری عورتیں بھی انصاری خواتین کی باتیں سکھنے لگیں، ایک دن
 میں اپنی بیوی پر چیخا، اس نے آگے سے جواب دے دیا، اس کا
 پلٹ کر جواب دینا مجھے ناگوار گزرا، لیکن اس نے کہا: میرا
 جواب کیوں برا لگتا ہے؟ نبی کریم ﷺ کی بیویاں بھی آپ کو
 جواب دیتی ہیں اور کوئی کسی دن رات تک آپ کو چھوڑ بھی دیتی
 ہے، میں اس بات سے گھبرایا اور میں نے کہا: جس نے یہ کیا
 اس کا ستیاناس ہو، پھر میں تیار ہو کر چلا اور حفصہ کے پاس جا
 کر پوچھا: اے حفصہ! کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ ﷺ
 کورات تک خفا رکھتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، میں نے
 کہا: وہ تو نامراد اور خسارہ میں ہے، کیا تمہیں اس بات کا خوف
 نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے غصہ سے اللہ کو غصہ آجائے اور
 اس طرح وہ عورت ہلاک ہو جائے، اب تم آپ ﷺ سے
 زیادہ مانگا کرو نہ آپ کو کچھ جواب دیا کرو اور نہ آپ ﷺ
 سے باتیں کرنی چھوڑا کرو، اگر تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے
 مانگ لیا کرو اور تجھے یہ چیز دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیری پڑوسن
 تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ ﷺ کی پسندیدہ ہے،
 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ
 عنہ نے کہا: ہم یہ بات سنتے رہتے تھے کہ عثمان (شام کا بادشاہ)

ہم سے لڑنے کے لئے گھوڑوں کے نعل لگوا رہا ہے، ایک مرتبہ میرا انصاری دوست اپنی باری کے دن آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر رہا اور شام کو واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور پوچھا: عمر ہیں؟ میں گھبرا کر ان کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا: آج ایک بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، میں نے کہا: وہ کیا؟ کیا غسانی لشکر تو نہیں آ گیا؟ اس نے کہا: یہ بات نہیں، اس سے بھی بڑی بات واقع ہوئی ہے، ایک ہولناک واقعہ ہے، نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، میں نے کہا: بس حصہ بنتی تھا تو نامراد اور خسارے میں ہوگئی، میرا خیال تھا کہ عنقریب ایسے ہوگا، میں نے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی، (نماز سے فارغ ہو کر) آپ ﷺ اپنے ایک بالائی کمرے میں چلے گئے اور اس کے گوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں حصہ بنتی کے پاس چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حصہ بنتی تو رو رہی ہیں، میں نے پوچھا: کس بات سے رو رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ کیا تم کو آپ ﷺ نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھے معلوم نہیں ہے، آپ اس بالاخانے میں تشریف فرما ہیں پھر میں نکل کر منبر کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں اور بعض رو رہے ہیں، میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر میرا دل نہ رہ سکا اور میں اسی بالائی کونٹھری کے پاس، جس میں آپ ﷺ موجود تھے، آیا اور آپ کے حبشی غلام سے کہا: میرے لئے آپ ﷺ سے اجازت لو، غلام نے آپ ﷺ سے جا کر عرض کیا اور واپس آ کر کہا کہ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا اور تمہارا ذکر کیا، لیکن آپ ﷺ چپ ہو رہے، میں واپس آ کر پھر ان لوگوں ساتھ بیٹھ گیا، جو منبر کے پاس تھے پھر دل نے بے قرار

فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَنْتُمْ هُوَ فَمَزِغْتُ فَمَحَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ عَسَانُ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ نِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ هَذَا؟ أَطَلَّقُكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ إِذَا مُعْتَزَلَ فِي الْمَشْرُبَةِ فَحَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ لَهُ أَسْوَدٌ: اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَاَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ

کیا اور میں نے غلام سے جا کر کہا: میرے لئے اجازت مانگو، وہ جا کر پھر لوٹا اور کہا: میں نے آپ ﷺ سے تمہارا ذکر کیا ہے، مگر آپ ﷺ خاموش رہے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر میرا دل بے قرار ہوا اور میں نے جا کر غلام سے کہا: میرے لئے ایک مرتبہ پھر جا کر آپ ﷺ سے اجازت مانگو، غلام اندر گیا اور واپس آ کر مجھے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ سے تمہارا ذکر کیا ہے، مگر آپ خاموش ہو رہے ہیں، پھر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک غلام نے کہا: آپ ﷺ نے تم کو اجازت دے دی، جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ چھال بھرا تکیہ رکھے کھر دری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، جس سے آپ کے جسد اطہر پر نشان پڑ گئے ہیں، میں نے جا کر کھڑے ہی کھڑے کہا: السلام علیکم، اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ﷺ نے میری طرف آنکھ اٹھا کر فرمایا: نہیں، میں نے متعجب ہو کر کہا: اللہ اکبر، پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے دل بہلانے کے واسطے عرض کیا: کاش آپ میری طرف متوجہ ہوں، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، آپ ﷺ مسکرائے، پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ میرا حال سنیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر اس سے کہا: تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیری پڑوس یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کی محبوب بیوی ہے، پھر آپ ﷺ دوبارہ مسکرانے لگے، میں سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہنستے دیکھ کر بیٹھ گیا، آپ کے مکان کے اندر ہر طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا، بس اللہ کی قسم! وہاں تین کھالوں کے علاوہ مجھے اور کوئی

الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنَ لِعُمْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوَنِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَاذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ الرِّمَالُ بِجَنبِهِ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصْرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَغْرَنُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ أَوْ ضَأً مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصْرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ:

چیز نظر نہ آئی، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت پر کشادگی کرے، فارس اور روم پر تو ہر چیز کی فراوانی کی گئی ہے اور ان کے پاس بے حد دنیاوی سامان ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ پہلے آپ ﷺ تک لگائے بیٹھے تھے، یہ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ”اے ابن خطاب! کیا تم ابھی تک اس خیال کے بندے ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں ملتا ہے؟“ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ میرے لئے بخشش کی دعا فرمائیے، رسول اللہ ﷺ کسی بات کی وجہ سے جو کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ظاہر کر دی تھی، اپنی بیویوں سے انتیس دن تک الگ ہو گئے تھے اور آپ ﷺ نے غصے سے فرمایا: ”میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔“ جب انتیس دن گذر گئے، تو آپ پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے ایک ماہ تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی، ابھی تک تو انتیس دن ہوئے ہیں، میں مسلسل گن رہی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔“ چنانچہ وہ مہینہ انتیس کا ہی ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: پھر اللہ نے آیتِ تخمیر نازل فرمائی، سب بیویوں سے پہلے آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو اختیار کیا اور پھر آپ ﷺ نے سب بیویوں کو اختیار دیا، ان سب نے میری طرح کا جواب دیا۔“

فوائد: پیچھے تخمیر والی آیت گزر چکی ہے۔ آپ ﷺ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو شہد کی یا سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کو تزام کرنے کی خفیہ بات بتلائی تھی اور انھوں نے آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی تھی۔

(۸۸۰۵)۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَأَفَقْتُ "سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں

نے اپنے رب سے تین کاموں میں موافقت کی ہے یا میرے رب نے مجھ سے موافقت کی، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں تو یہ آیت نازل ہوگی ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾..... ”تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی عورتوں پر نیک اور بد سب داخل ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں پردہ کرنے کا حکم دے دیں تو بہتر ہے، پس پردہ والی آیت نازل ہوئی اور جب مجھے امہات المؤمنین کے متعلق ایک بات پہنچی میں نے ان کا معاملہ گہری دلچسپی سے دیکھا اور میں نے ان سے کہا: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا رویہ اپنانے سے باز رہو، وگرنہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے لیے تم سے بہتر بیویاں تبدیل کر دے گا، جو مسلمان ہوں گی، جب میں ان میں سے ایک ام المؤمنین کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: اے عمر! کیا تم رسول اللہ ﷺ کی بیویوں کو نصیحت کرتے ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ خود نہیں کر سکتے؟ پس میں رک گیا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر دیا: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسْلِمًا مِّنْ مِّنِّي قَبْلُ تَبِيتَ عِبْدَتِي سَمِيحَتِ تَبِيتَ وَأَبْكَرًا﴾..... ”اس کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔“

رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ اتَّخَذْتَ الْمَقَامَ مُصَلًّى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرہ: ۱۲۵] وَقُلْتُ: لَوْ حَجَبْتَ عَنِ امَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ امَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ فَاسْتَفْرَيْتُهُنَّ أَقُولُ لَهُنَّ لَتَكُفُنَّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَيُبَدِّلَنَّهُ اللَّهُ بِكُنَّ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسْلِمًا، حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى إِحْدَى امَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: يَا عُمَرُ! أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعْطُرُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعْطُرَهُنَّ، فَكَفَفْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسْلِمًا مِّنْ مِّنِّي قَبْلُ تَبِيتَ عِبْدَتِي سَمِيحَتِ تَبِيتَ وَأَبْكَرًا﴾ [التحریم: ۵] [الآیة۔ (مسند احمد: ۱۶۰)]

سُورَةُ الْمُلْكِ

سورة ملك

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا
سورة ملك کی فضیلت کا بیان

(۸۸۰۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اَنَّهُ قَالَ: ((اِنَّ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تُفَعِّلُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾))۔ (مسند احمد: ۸۲۵۹)

فرمایا: "قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کی تیس (۳۰) آیات ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے سفارش کی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، یہ سورت ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ یعنی سورة ملك ہے۔"

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

سورة نازعات

بَابُ مَا جَاءَ فِي ﴿الْعُتْلُ الزَّيْنِمِ﴾
﴿الْعُتْلُ الزَّيْنِمِ﴾ کے معانی کا بیان

(۸۸۰۷)۔ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: سئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُتْلِ الزَّيْنِمِ، فَقَالَ: ((هُوَ الشَّدِيدُ الْخَلْقِ الْمُصْحَحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْوَأَجْدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، الظُّلْمُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ))۔ (مسند احمد: ۱۸۱۵۴)

"سیدنا عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے "الْعُتْلُ الزَّيْنِمِ" کے بارے میں پوچھا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: "اس سے مراد جسمانی لحاظ سے سخت مضبوط، صحت مند، خوب کھانے پینے والا کھانے اور پینے کی وافر چیزوں والا اور لوگوں پر ظلم کرنے والا اور پیٹو ہے۔"

فوائد: اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں اور کہانہ ماننے والوں کی مذموم صفات بیان کر رہے ہیں، ایک خصلت یہ بیان کی: ﴿عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنِمٌ﴾ "وہ سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ بدنام بھی ہے۔" (سورة قلم: ۱۳)

(۸۸۰۶) تخريج: حسن لغيره - أخرجه ابوداود: ۱۴۰۰، وابن ماجه: ۳۷۸۶، والترمذی: ۲۸۹۱ (انظر: ۸۲۷۶)

(۸۸۰۷) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ۱۷۹۹۱)

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

سورة معارج

بَابُ: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ...﴾
 ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ...﴾ کی تفسیر
 (۸۸۰۸)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ
 قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا أَطْوَلَ هَذَا الْيَوْمَ،
 قَدَّرْتُ طَوِيلَ دُنْيَاكَ؟ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَے فرمایا: ”اس ذات
 كِي قَسْمِ جَسْمِكَ بَاتِحًا فِي مِيْرِي جَانِ هِيَ! يَهْمُ مَوْمِنٍ بِرَبِّهِ بَلَا
 هُوَ، بَسْ دُنْيَا فِي جَنَّةٍ دِيْرُوهُ فَرَضِ نَمَازِ كِي اَدَائِيْ كِي فِي لَكَ تَابِ،
 اس کو اتنا وقت محسوس ہوگا۔“
 (الدُّنْيَا) (مسند احمد: ۱۱۷۴۰)

فوائد:..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ...﴾
 ”فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، (وہ عذاب) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔“ (سورة معارج: ۴)

ان دن کی تعیین میں بہت اختلاف ہے، حافظ ابن کثیر نے کل چار اقوال ذکر کر کے اس درج ذیل قول کو ترجیح دی ہے: یہ قیامت کا دن ہے، اس آیت میں اس کی مقدار بیان کی گئی ہے، اس کی تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے:
 آپ ﷺ نے مانع زکوٰۃ کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا: ((حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ...))..... ”(کہ اس کا عذاب جاری رہے گا) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ایسے دن میں، جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی۔“ (صحیح مسلم)

بَابُ: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ کی تفسیر

(۸۸۰۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ شَدِيدَةَ ”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دنیا کی تختیوں
 (۸۸۰۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لهيعة، ولضعف رواية دراج عن ابى الهيثم - أخرجه ابويعلى: ۱۳۹۰، وابن حبان: ۷۳۳۴ (انظر: ۱۱۷۱۷)

(۸۸۰۹) تخریج: اسنادہ ضعیف، قابوس بن ابی ظبیان الکوفی ضعیف یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ (انظر: ۱۹۴۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں سے آخری تختی جو مومن پاتا ہے وہ موت کی تختی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ ... ”جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔“ یعنی تیل کے نیچے بیٹھنے والے تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا اور ﴿آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ سے مراد رات کا اندرونی وقت ہے، نیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ زمین سے علماء اٹھ جائیں گے۔“

يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ الْمَوْتُ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ [المعارج: ۸] قَالَ: كَدُرْدَى الزَّيْتِ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: ۱۱۳] قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ، وَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: هُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ- (مسند احمد: ۱۹۴۶)

سُورَةُ الْجِنِّ

سورة جن

بَابُ: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ...﴾
﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ...﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نہ تو جنوں پر تلاوت کی ہے اور نہ ہی انہیں دیکھا ہے، واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ کے ساتھ مل کر عکاظ کے بازار میں جانے کے لیے چلے۔ ادھر (آپ ﷺ کی آمد کی وجہ سے) آسمان کی خبر اور جنوں کے درمیان رکاوٹیں پیدا ہو چکی تھیں اور ان پر انگارے برسائے جانے لگے تھے، جب شیطان اپنی قوم کی طرف لوٹے، تو انھوں نے کہا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انھوں نے کہا: ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان اب رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، ہمارے اوپر انگارے برسائے جاتے ہیں، یہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ کسی حادثہ کی وجہ سے ہے، چلو زمین کے مشرق و مغرب

(۸۸۱۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَأَاهُمْ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوْقِ عَكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ قَالَ: فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالَ: فَقَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَأَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ

(۸۸۱۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۷۳، ۴۹۲۱، ومسلم: ۴۴۹ (انظر: ۲۲۷۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا۔ (مسند احمد: ۲۴۳۱)

رکوع کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور آپ ﷺ کے سجدہ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، جب انھوں نے آپ ﷺ کے سامنے صحابہ کی اطاعت شعاریاں دیکھیں تو وہ حیران رہ گئے اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہا: جب وہ اللہ کے بندے (یعنی آپ ﷺ) اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ بھیڑکی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔“

فوائد: اس آیت کے مزید بھی کوئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک مفہوم کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی کریم ﷺ کے حد درجہ اطاعت گزار تھے۔

سُورَةُ الْمَدَائِرِ

سورة مدثر

بَابُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ کی تفسیر

(۸۸۱۲)۔ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فِتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصْرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نَبِيَّ بَحْرَاءَ، الْآنَ قَاعِدٌ عَلَيَّ كُرْسِيٌّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمَلُونِي زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَرَمَلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا

” (دوسری سند) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پھر وحی رک گئی، پس ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، جب میں نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا، اب وہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، میں اس کے خوف سے کپکپانے لگا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھکا، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا: ”مجھے کبل اوڑھاؤ، مجھے کبل اوڑھاؤ، مجھے کبل اوڑھاؤ۔“ پس انہوں نے مجھے چادر اوڑھا دی، پس اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کیں: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾.....

”اے کبل اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا، پس ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر اور پلیدی کو چھوڑ دے۔“ ابو سلمہ نے کہا: پلیدی سے مراد بت ہیں، اس کے بعد وحی پے در پے اور کثرت سے نازل ہونے لگی۔“

الْمُدَّتْرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَتَبَابِكَ فَطَهَّرْ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ)) [المدثر: ۱-۵] قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: الرَّجْزُ الْأَوْثَانُ ثُمَّ حَمَى الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ. (مسند احمد: ۱۴۵۳۷) **فوائد:**..... دیکھیں حدیث نمبر (۸۳۳۳)

بَابُ: ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ﴾ ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ﴾ کی تفسیر

”قاسم بن ابی بزہ کہتے ہیں: ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ﴾..... ”اور (اس نیت سے) احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے۔“ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ تو کوئی چیز دے، اور پھر اس سے زیادہ طلب کر رہا ہو۔“

(۸۸۱۳)۔ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةٍ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَا تَمَنَّ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ۶] قَالَ: لَا تُعْطِ شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَهُ مِنْهُ. (مسند احمد: ۲۰۵۴۸)

فوائد:..... کسی پر احسان کرتے وقت یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے۔

بَابُ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ کی تفسیر

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾..... ”پس جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔“ اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں کیسے ناز و نعمت سے رہوں جبکہ صور والا فرشتہ صور کو منہ میں کراہتی پیشانی کو جھکا کر کھڑا ہو چکا ہے، یہ سننے کے لیے کہ کب اس کو صور میں پھونکنے کا حکم ملتا ہے، پس وہ صور پھونک دے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: ”اب ہم کون سا ذکر کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو: ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا“..... (ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا۔)“

(۸۸۱۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾ [المدثر: ۸] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقُرْنِ قَدِ اتَّقَمَ الْقُرْنُ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسْمَعُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ.)) فَقَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ: كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا.)) (مسند احمد: ۳۰۰۸)

(۸۸۱۳) تخریج: الاثر صحیح (انظر: ۲۰۲۸۲)

(۸۸۱۴) تخریج: حسن لغیرہ۔ أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۰ / ۳۵۲، والطبرانی: ۸ / ۲۹۰، والحاکم: ۴ / ۵۵۹

(انظر: ۳۰۰۸)

فوائد:..... جس فرشتے کے صورت پھونکنے پر دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت پیا ہو جائے گی، اگر اس کی یہ کیفیت ہے تو مسلمان اس دنیا میں دل لگا کر اور عیش و عشرت کی زندگی کیسے بسر کر سکے۔

بَابُ: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾

﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ کی تفسیر

(۸۸۱۵)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر: ۵۶] قَالَ: ﴿قَالَ رَبُّكُمْ: أَنَا أَهْلُ أَنْ تُتَّقَىٰ، فَلَا بُجْعَلُ مَعِيَ إِلَهٌ، فَمَنْ اتَّقَىٰ أَنْ يُجْعَلَ مَعِيَ إِلَهًا كَانَ أَهْلًا أَنْ أُغْفِرَ لَهُ.﴾ (مسند حمد: ۱۲۴۶۹)

”سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾..... ”وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس لائق بھی کہ وہ بخش دے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، پس میرے ساتھ کوئی معبود نہ بنایا جائے اور جو میرے ساتھ معبود بنانے سے ڈر گیا تو میں اس لائق ہوں کہ اس کو بخش دوں۔“

فوائد:..... اس حدیث میں آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کیا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے۔

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

سورة القیامہ

بَابُ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾

﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ کی تفسیر

(۸۸۱۶)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ۱۶] قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً فَكَانَ يُحَرِّكُ شَفْتَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أَحْرَكُ شَفْتَيْ كَمَا كَانَ

”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾..... ”(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔“ قرآن اترتے وقت نبی کریم ﷺ سخت محنت اٹھاتے تھے، منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے

(۸۸۱۵) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف سهيل اخي حزم - أخرجه ابن ماجه: ۴۲۹۹، والترمذی: ۳۳۲۸ (انظر: ۱۲۴۴۲)

(۸۸۱۶) تخريج: أخرجه البخاری: ۵، ۴۹۲۷، ۵۷۲۴، ومسلم: ۴۴۸ (انظر: ۳۱۹۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: میں ہونٹوں کو اس طرح ہلاتا ہوں، جس طرح آپ ﷺ ہلاتے تھے، سعید نے کہا: میں بھی اپنے ہونٹوں کو ایسے ہلاتا ہوں، جس طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہلاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی:

﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ”(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔“ یعنی قرآن کو آپ ﷺ کے سینہ مبارک میں جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ”ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔“ پس تو سنا کر اور خاموش رہا کر، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ”پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔“ پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، تو رسول اللہ ﷺ اس وحی کو اسی طرح پڑھ لیتے، جیسے جبرائیل نے پڑھی ہوتی۔“

”(دوسری سند) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ پر قرآن نازل ہوتا آپ ﷺ اس کو یاد کرتے (اور اس نیت سے (اپنی زبان کو جلدی جلدی ساتھ حرکت دیتے)، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ”(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔“

فوائد: جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْرِكُ، وَقَالَ لِي سَعِيدٌ: أَنَا أُحْرِكُ كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: جَمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ نَفَرُوهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ فَاسْتَمِعَ لَهُ وَأَنْصَتَ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ كَمَا أَرَأَاهُ۔ (مسند احمد: ۳۱۹۱)

(۸۸۱۶م)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُرْآنٌ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ [القيامة: ۱۶]۔ (مسند احمد: ۱۹۹۱۰)

جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ..... ”(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔“

درج ذیل آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے:

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾..... ”پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف اس کی وحی پوری کی جائے اور کہہ اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“ (سورہ طہ: ۱۱۳)

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سورہ مرسلات

بَابُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ کی تفسیر

(۸۸۱۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْنَا: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَلَا أُدْرِي بِأَيِّهَا حَتَمَ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ أَوْ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ سَبَقْتَنَا حَيَّةٌ فَدَخَلَتْ فِي جُحْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ وَوَقِيتُمْ شَرَّهَا وَوَقِيتُمْ شَرَّكُمْ)) (مسند احمد: ۳۵۷۴)

”سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار حراء میں تھے، آپ ﷺ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی، میں نے آپ ﷺ کے منہ مبارک سے یہ سورت حاصل کیا، جبکہ آپ ﷺ کا دہن مبارک اس کے ذریعے تر تھا، مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ ﷺ نے اس آیت ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا یا اس ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ کے ساتھ۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوا اور کسی بل میں داخل ہو گیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھا گیا اور اس کو تمہارے شر سے بچالیا گیا۔“

فوائد:..... سورہ مرسلات ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ والی آیت پر ختم ہوتی ہے، جیسا کہ متواتر قراءت

میں ہے۔

” (دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ پر سورہٴ مرسلات سانپ والی رات کو نازل ہوئی تھی، ہم نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! سانپ والی رات سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: ہم ایک دفعہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار حراء میں تھے، پہاڑ سے ایک سانپ نکل پڑا، آپ ﷺ نے ہمیں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، ہم اس کے پیچھے لگے، لیکن اس نے ہمیں عاجز کر دیا، آپ ﷺ فرمایا: ”اب اسے چھوڑ دو، اللہ نے اس کو تمہارے شر سے بچالیا اور تمہیں اس کے شر سے۔“

(۸۸۱۸)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ لَيْلَةَ الْحَيَّةِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: وَمَا لَيْلَةُ الْحَيَّةِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِجْرَاءِ لَيْلًا خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهَا فَطَلَبْنَاهَا فَأَعْجَزَتْنَا، فَقَالَ: ((دَعُوهَا عَنْكُمْ، فَقَدْ وَقَاهَا اللَّهُ شَرُّكُمْ، كَمَا وَقَاهُمْ شَرَّهَا)) (مسند احمد: ۴۳۷۷)

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

سورة التكویر

”سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جیسے یہ بات خوش کرے کہ وہ روز قیامت کو اس طرح دیکھے، جیسا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ سورہٴ تکویر، سورہٴ انفطار اور سورہٴ انشاق کی تلاوت کرے۔“ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے سورہٴ ہود کا ذکر بھی کیا تھا۔“

(۸۸۱۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ وَأَحْسَبُهُ أَنَّهُ قَالَ: سُورَةُ هُودٍ۔ (مسند احمد: ۴۸۰۶)

نوٹ:..... ان سورتوں میں قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان سورتوں کی تلاوت سے ان مناظر کا

تصور کر لینا آسان ہے۔

(۸۸۱۸) تخریج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۸۸۱۹) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه الترمذی: ۳۳۳۳ (انظر: ۴۸۰۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

سورة المطففين

(۸۸۲۰)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ۶] قَالَ: ((يَقُومُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمْ)) (مسند احمد: ۵۳۸۸)

”سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“ پھر فرمایا: ”لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے پسند ان کے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا۔“

(۸۸۲۱)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ۶] ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ۴] فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ)) (مسند احمد: ۵۹۱۲)

”(دوسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔“ اور ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ”فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، (وہ عذاب) ایک ایسے دن میں (ہوگا) جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گی۔“

سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ

سورة الانشقاق

بَابُ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ کی تفسیر

(۸۸۲۲)۔ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ﷺ ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۸۸۲۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۶۲ (انظر: ۵۳۸۸)

(۸۸۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۳۸، ومسلم: ۲۸۶۲ (انظر: ۵۹۱۲)

(۸۸۲۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۳۹، ومسلم: ۲۸۷۶ (انظر: ۲۴۲۰۰)

”روز قیامت جس کا بھی حساب لیا گیا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔“ میں (عائشہ) نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾..... ”عنقریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے مراد حساب نہیں ہے، یہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، روز قیامت جس کا حساب لیا گیا، اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔“

اللَّهِ ﷻ: ((مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْبًا))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَيْسَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ۸] قَالَ: ((لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحِسَابِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْبًا)) (مسند احمد: ۴/۲۴۷۰)

نوٹ:..... پیشی سے مراد یہ ہے کہ مومن کے اعمال پیش حوض پر پیش کیے جائیں گے، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ان کو معاف کر دے گا۔

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سورة البروج

بَابُ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾
﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ کی تفسیر

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آیت ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ کے میں فرمایا: شاہد سے مراد عرفہ کا دن ہے اور موعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔“

(۸۸۲۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: ۳] قَالَ: يَعْنِي لِلشَّاهِدِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْمَوْعُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسند احمد: ۷/۷۹۵۹)

”(دوسری سند) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن، مشہود سے مراد عرفہ کا دن اور موعود نے مراد قیامت کا دن ہے۔“

(۸۸۲۴)۔ (وَبِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ)۔ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَارًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ قَالَ: الشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)۔ (مسند احمد: ۷/۷۹۶۰)

(۸۸۲۳) تخريج: المرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، والموقوف على ابي هريرة لا بأس به، انظر الحديث الآتي - أخرجه الحاكم ۲/ ۵۱۹، والبيهقي ۳/ ۱۷۰ (انظر: ۷۹۷۲)

(۸۸۲۴) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، وانظر الحديث السابق کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد:..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾..... ”وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم؟ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم!“ موعود سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے، جمعہ کے دن کو شاہد کہا گیا ہے، کیونکہ اس دن میں جس نے جو عمل بھی کیا، یہ قیامت کے دن اس پر گواہی دے گا، اس طرح مشہود سے عرفے کا دن مراد ہے، جہاں حج والے لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔

سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

سورة الاعلیٰ

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَفْسِيرِ صَدْرِهَا
سورہ اعلیٰ کی فضیلت اور اس کے ابتدائی حصے کی تفسیر کا بیان

(۸۸۲۵)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾۔ (مسند احمد: ۷۴۲)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سورہ اعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔

(۸۸۲۶)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ [الاعلیٰ: ۱] قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ))۔ (مسند احمد: ۲۰۶۶)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ پڑھتے تو کہتے: ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ“۔“

(۸۸۲۷)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبَّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ۷۴] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ))، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ [الاعلیٰ: ۱] قَالَ: ((اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ))۔

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿سَبَّحَ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾..... ”اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو“ نبی کریم ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ”اس کے مضمون کو اپنے رکوع میں پڑھنے کے لئے مقرر کر لو۔“ اور جب یہ آیت اتری ﴿سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾..... ”اپنے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔“

(۸۸۲۵) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ثور بن ابی فاختہ - أخرجه البزار: ۷۷۵ (انظر: ۷۴۲) ذ

(۸۸۲۶) تخریج: صحیح، قاله الالبانی - أخرجه ابوداود: ۸۸۳ (انظر: ۲۰۶۶)

(۸۸۲۷) تخریج: اسنادہ محتمل للتحسين - أخرجه ابوداود: ۸۶۹، وابن ماجه: ۸۸۷ (انظر: ۱۷۴۱۴)

سُجُودِكُمْ)) (مسند احمد: ۱۷۵۴۹) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے مضمون کو اپنے سجدوں کے لیے مقرر کر لو۔“

سُورَةُ الْفَجْرِ

سورہ فجر

بَابُ: ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾
﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ کی تفسیر

(۸۸۲۸)۔ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ”سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالشَّفْعَ يَوْمَ النَّحْيِ.)) (مسند احمد: ۱۴۵۶۵) ذبح کا دن مراد ہے۔“

نوٹ: ”إِنَّ الْعَشْرَ“ سے مراد ﴿وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ میں ”لَيَالٍ“ کے الفاظ ہیں۔ ﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ ”قسم ہے فجر کی، اور دس راتوں کی اور جنت اور طاق کی۔“
(۸۸۲۹)۔ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ: ((هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وَتْرٌ.)) (مسند احمد: ۲۰۱۶۱) نماز طاق ہوتی ہیں۔“

بَابُ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ...﴾
﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ...﴾ کی تفسیر

(۸۸۳۰)۔ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ سَمِعَ ”ایک صحابی رسول سے مروی ہے، جس نے نبی کریم ﷺ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ﴾

(۸۸۲۸) تخریج: هذا اسناد لا بأس برجاله، و ابو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر - أخرجه النسائي في ”انكبرى“: ۴۱۰۱، والحاكم: ۴ / ۲۲۰ (انظر: ۱۴۵۱۱)

(۸۸۲۹) تخریج: اسنادہ ضعیف لابہام الراوی عن عمران - أخرجه الترمذی: ۳۳۴۲ (انظر: ۱۹۹۱۹)

(۸۸۴۰) تخریج: ضعیف الاسناد، قاله الالبانی - أخرجه ابوداود: ۳۹۹۶ (انظر: ۲۰۶۹۱)

أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿الفجر: ۲۵-۲۶﴾ يَعْنِي يُفْعَلُ بِهِ، قَالَ خَالِدٌ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ﴾ أَيُّ يُفْعَلُ بِهِ. (مسند احمد: ۲۰۹۶۷)

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿.....﴾ ”پس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔“ یعنی اس بندے کے ساتھ ایسے کیا جائے گا، خالد کہتے ہیں: میں نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ﴾ کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا: یعنی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔“

سُورَةُ الضُّحَىٰ

سورہ ضحیٰ

بَابُ: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ.....﴾
﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ.....﴾ کی تفسیر

(۸۸۳۱)۔ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: اشْتَكَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! لَمْ أَرَهُ قَرَبَكَ مِنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، (وَفِي لَفْظٍ: فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ، وَفِي لَفْظٍ: مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ بَطَأَ عَلَيْكَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ۱-۳]۔ (مسند احمد: ۱۹۰۰۸)

”سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بیمار پڑ گئے اور دو یا تین راتیں قیام نہ کر سکے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا: اے محمد! میں دیکھتی ہوں کہ تم نے دو تین دن سے قیام نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ تمہارا شیطان تجھے چھوڑ گیا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾..... ”قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اور قسم ہے رات کی، جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔“

چہرے کو مٹی میں لت پت کر دوں گا، پس ادھر رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے، ادھر سے آپ ﷺ کی گردن کو روندنے کے لیے ابو جہل بھی چل پڑا، لیکن اچانک اس نے ایڑھیوں کے بل ہٹنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنا بچاؤ کر رہا تھا، لوگوں نے اس سے پوچھا: تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا: میرے اور آپ (ﷺ) کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ہولنا کی اور پڑتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔“ پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں: ”سچ سچ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔“

”بھلا تو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، جبکہ وہ نماز ادا کرتا ہے، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو۔“ اس سے ابو جہل مراد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔“ یعنی وہ اپنی قوم کو بلائے، ”ہم بھی دوزخ کے طاقتور فرشتوں کو بلا لیں گے۔“

”خبردار! اس کا کہنا نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔“ راوی کہتا ہے: مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ ان آیات کا ذکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تھا، یا کسی اور سند سے اس کا ان کو علم ہوا تھا۔“

رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَّانَ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ
لَأَعْقُرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَاتَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لَيْطًا عَلَى
رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجَأَ هُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ
يَنْكُصُ عَلَى عَقْبِيهِ وَيَتَّقِي بِيَدِيهِ، قَالَ:
قَالُوا لَهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا
مِنْ نَارٍ وَهَوَلا وَأَجْنَحَةً، قَالَ: فَقَالَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ دَنَا مِنِّي لَخَطَفْتُهُ
الْمَلَائِكَةُ عَضُوعًا عَضُوعًا)) قَالَ فَأَنْزَلَ لَأَ
ذَرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَىءٌ بَلَّغَهُ
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطٌ لِيَظُنِّي أَنْ رَأَهُ اسْتَعْنَى﴾
﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَى
يَسْتِ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ
﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَه
لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ قَالَ يَدْعُو قَوْمَهُ ﴿سَنَدُّعُ
الزَّبَانِيَةَ﴾ قَالَ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ ﴿كَلَّا لَا
تُطْعَمُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (مسند احمد: 8817)

سُورَةُ ﴿لَمْ يَكُنْ...﴾

﴿لَمْ يَكُنْ...﴾ یعنی سورۃ البینہ کی تفسیر

بَابُ تَفْسِيرِهَا وَ مَنْقَبَةِ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ

سورۃ البینہ کی تفسیر اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی منقبت کا بیان

(۸۸۳۴)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ: ((إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة: ۱])). قَالَ: وَ سَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). (مسند احمد: ۱۳۹۲۱)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر سورۃ بینہ کی تلاوت کروں۔“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے میرا نام لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“ یہ سن کر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (خوشی سے) رونے لگے۔“

(۸۸۳۵)۔ عَنْ أَبِي حَبَةَ الْبَدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْ يَكُنْ، قَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يَا مُرُكُ أَنْ تُقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أُبَيُّ! إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ هَذِهِ السُّورَةَ)). (مسند احمد: ۱۶۰۹۶)

”سیدنا ابو حبیہ بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: جب سورۃ بینہ نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا: ”اے محمد! آپ ﷺ کے رب نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ سورت پڑھائیں۔“ پس آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابی! میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں فلاں سورت کی تجھ کو تعلیم دوں۔“ پس سیدنا ابی رو پڑے اور کہا: کیا وہاں میرا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

(۸۸۳۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۸۰۹، ۴۹۵۹، و مسلم: ۷۹۹ (انظر: ۱۳۸۸۴)

(۸۸۳۵) تخریج: صحيح غيرہ - أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۲۲ / ۸۲۳ (انظر: ۱۶۰۰۰)

سُورَةُ الزَّلْزَالِ

سورة الزلزال

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا

سورة زلزال کی فضیلت کا بیان

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورہ کافرون قرآن مجید کا چوتھائی حصہ ہے، سورہ زلزال بھی قرآن مجید کا ایک چوتھائی ہے اور سورہ نصر بھی ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔“

”سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے قرآن مجید کی تعلیم دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”آل سر والی سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھ لو۔“ اس آدمی نے کہا: میری عمر بڑی ہو چکی ہے دل سخت ہو چکا ہے، زبان موٹی ہے، (اس لیے مقدار تھوڑی کریں)، آپ ﷺ نے فرمایا: ”چلو پھر حم والی سورتیں پڑھ لو۔“ لیکن اس نے پہلے والا جواب دیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسیبحات سورتیں پڑھ لو۔“ اس نے کہ: اے اللہ کے رسول! کوئی ایک جامع سورت پڑھائیں۔ آپ ﷺ نے ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ والی سورت پڑھی، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو گئے، اب کی بار اس آدمی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق

(۸۸۳۶)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ رُبْعُ الْقُرْآنِ، ﴿وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ رُبْعُ الْقُرْآنِ، وَ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ رُبْعُ الْقُرْآنِ)) (مسند احمد: ۱۲۵۱۶)

(۸۸۳۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَقْرِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ لَهُ: أَقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَاتِ ﴿الر﴾، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَبِيرَتِ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَغَلِظَ لِسَانِي، قَالَ: فَأَقْرَأْ مِنْ ذَاتِ ﴿حَم﴾، فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى، فَقَالَ: أَقْرَأْ ثَلَاثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ، فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَلَكِنْ أَقْرِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ جَامِعَةً، فَأَقْرَأَهُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا، ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ

(۸۸۳۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف سلمة بن وردان - أخرجه الترمذی: ۲۸۹۳، وابن ماجه: ۳۷۸۸ (انظر: ۱۲۴۸۸)

(۸۸۳۷) تخریج: اسنادہ حسن - أخرجه ابوداود: ۱۳۹۹، ۲۷۸۹، والنسائی: ۷/ ۲۱۲ (انظر: ۶۵۷۵)

دے کر بھیجا ہے، میں اس میں اضافہ نہ کروں گا، پھر وہ آدمی منہ پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ آدمی کامیاب ہوا، یہ آدمی کامیاب ہوا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے میرے پاس لے آؤ، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے یومِضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔“ اس آدمی نے کہا: اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس صرف اپنے بیٹے کی ایک بکری ہو تو اس کی قربانی کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ تم (قربانی والے دن) اپنے بالوں کو کاٹو، ناخنوں کو تراشو، مونچھوں کو کاٹو اور زیر ناف بال مونڈو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری پوری قربانی ہوگی۔“

اللَّهُ ﷻ: ((أَفْلَحَ الرَّوَيْجِلُ أَفْلَحَ الرَّوَيْجِلُ-))، ثُمَّ قَالَ: ((عَلَىٰ بِهِ-)) فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: أُمِرْتُ بِیَوْمِ الْأَضْحَىٰ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ-)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِحَةَ ابْنِي أَفَأَضْحَىٰ بِهَا؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أَضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ-)) (مسند احمد: 6575)

فوائد: الر: یہ وہ سورتیں ہیں، جن کے شروع میں لفظ ”الر“ آتا ہے، یہ کل پانچ سورتیں ہیں: یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، حجر۔ حم: اس سے مراد وہ سورتیں ہیں، جن کے شروع میں لفظ ”حم“ آتا ہے، یہ کل سات سورتیں ہیں: غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف۔ مسبحات: ان سے مراد وہ سورتیں ہیں، جن کے شروع میں تسبیح والا لفظ ہو، جیسے سَبَّحَ، یُسَبِّحُ وغیرہ۔ یہ بھی کل سات سورتیں ہیں: اسراء، حدید، حشر، صف، جمعة، تغابن، اعلیٰ۔ چونکہ سورہ زلزال قیامت، دوبارہ جی اٹھنے اور جزاء و سزا کے احوال پر مشتمل ہے اور عمر رسیدہ آدمی کے لیے یہی سورت مناسب ہے۔ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جسمانی صفائی تھرائی کا خاص اہتمام کرے، عید والے دن اپنے بال اور ناخن تراشے، اپنی مونچھیں کاٹے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرے، یہ اہتمام اس کے لیے قربانی کے قائم مقام ہوگا۔

بَابُ: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾

﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ کی تفسیر

(۸۸۳۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا... ”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾... ”اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(۸۸۳۸) تخریج: اسنادہ ضعیف، یحییٰ بن ابی سلیمان، قال البخاری: منکر الحدیث۔ أخرجه الترمذی: ۲۴۲۹، ۳۳۵۳ (انظر: ۸۸۶۷)

﴿أَخْبَارُهَا؟﴾ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
 قَالَ: فَإِنِ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ
 وَأَمِيَّةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ
 عَمِلْتَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:
 فَهُوَ أَخْبَارُهَا.)) (مسند احمد: ۸۸۵۴)

”کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟“ لوگوں نے کہا: جی
 اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر مرد و زن نے اس پر جو عمل بھی کیا ہو
 گا، یہ بول کر اس پر گواہی دے گی اور کہے گی: تو نے میرے
 پشت پر فلاں فلاں دن یہ یہ عمل کیا تھا، یہی اس کی خبریں ہیں۔“

بَابُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...﴾
 ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ...﴾ کی تفسیر

(۸۸۳۹)۔ عَنْ صَغَصَةَ بِنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ
 الْفَرَزْدَقِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ:
 ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ۷-۸]
 قَالَ: حَسْبِي لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا۔
 (مسند احمد: ۲۰۸۶۹)

”سیدنا صغصہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ، جو فرزدق شاعر کے چچا ہیں،
 سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے
 نے اس پر یہ تلاوت کی: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ”جو ذرہ برابر
 بھلائی کا عمل کرے گا، وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی
 کرے گا، وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔“ میں نے کہا: مجھے یہی
 آیت کافی ہے، اس کے علاوہ نہ سننے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔“

فوائد: یہ دو آیات انتہائی جامع و مانع ہیں اور خیر و شر کے ہر پہلو پر شامل ہیں، فکر مند کو فکر دلانے کے لیے
 یہ دو آیات کافی ہیں۔

سُورَةُ ﴿الْهَآكِمِ﴾

﴿الْهَآكِمِ﴾ یعنی سورة التكاثر

بَابُ: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾
 ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ کی تفسیر

(۸۸۴۰)۔ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: لَمَّا
 (۸۸۳۹) تخريج: اسنادہ صحیح - أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۶۹۴، والطبرانی في "الكبير":
 ۷۴۱۱، والحاكم: ۳/ ۶۱۳ (انظر: ۲۰۵۹۳)
 (۸۸۴۰) تخريج: حديث حسن - أخرجه ابن ابى شيبه: ۱۳/ ۲۳۱، والطبری في "تفسیره": ۳۰/ ۲۸۸
 (انظر: ۲۳۶۴۰)

نَزَلَتْ ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ فَقَرَأَ هَا حَتَّى بَلَغَ لُتْسَاءُ لَنْ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر]
 نازل ہوئیں: ﴿أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ لُتْسَاءُ لَنْ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم سے کون سی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، بس پانی اور کھجور، یہ دو چیزیں تو ہماری خوراک ہے اور ہماری تلواریں ہماری گردنوں پر بچی ہوئی ہیں اور دشمن کا سامنا رہتا ہے، پس کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عنقریب یہ نعمتیں ہوں گی۔“ (مسند احمد: ۲۴۰۴۰)

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.﴾ ”تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا۔ یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ ہرگز نہیں، تم جلدی جان لو گے۔ پھر ہرگز نہیں، تم جلدی جان لو گے۔ ہرگز نہیں، کاش! تم جان لیتے، یقین کا جاننا۔ کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔“

زیادتی کی خواہش، یہ عام ہے، مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب کو شام ہے، ہر وہ چیز، جس کی کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے، یہاں اللہ تعالیٰ اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے، جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔

(۸۸۴۱)۔ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: وَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ۸] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ! أَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُمَا إِلَّا سَوْدَانِ الْمَاءِ وَالنَّمْرُ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ)) (مسند احمد: ۱۴۰۵)

”سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ ”پھر تم اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور سوال کئے جاؤ گے۔“ تو سیدنا زبیر نے کہا: اے اللہ کے رسول! کونسی نعمتیں ہیں، جن کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، اب تو ہمارے پاس صرف یہ دو کالے رنگ کی نعمتیں پانی اور کھجور ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! عنقریب وہ نعمتیں ہوں گی۔“

فوائد: جلد ہی آپ ﷺ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تھی اور امت مسلمہ کی اکثریت دنیاوی مال و اسباب میں غافل ہو گئی۔

سُورَةُ قُرَيْشٍ

سورة قریش

بَابُ تَفْسِيرِهَا وَقِصَّةِ قُرَيْشٍ
سورة قریش کی تفسیر اور قریش کے قصے کا بیان

(۸۸۴۲)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَلَافُ قُرَيْشٍ - إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ)) وَيَحْكُمُ يَا قُرَيْشُ! اعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَنَكُمْ مِنْ خَوْفٍ)) (مسند احمد: ۲۸۱۵۹)

”سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیات پڑھیں: ﴿لَا يَلَافُ قُرَيْشٍ - إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾..... ”قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے قریش! بہت افسوس ہے تم پر، اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔“

فوائد:..... قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں دو بار ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیائے تجارت لاتا، سردیوں میں یمن، جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف، جو ٹھنڈا تھا، خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے، اور دو سفر ہونے کی وجہ سے موسم کی سختیوں سے بھی محفوظ رہتے۔ اللہ تعالیٰ ان احسانات کی بنا پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قریشیوں کو چاہیے تھا کہ شرک نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔

سُورَةُ الْكَوْثَرِ

سورة کوثر

بَابُ تَفْسِيرِهَا وَصِفَةِ الْكَوْثَرِ
سورة کوثر اور کوثر کی صفت کا بیان

(۸۸۴۳)۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ ”عطاء بن سائب کہتے ہیں: محارب بن دثار نے مجھ سے کہا: تم

(۸۸۴۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف شہر بن حوشب۔ أخرجه الحاكم: ۲ / ۲۵۶ (انظر: ۲۷۶۰۷)

(۸۸۴۳) تخریج: حدیث قوی۔ أخرجه الحاكم: ۳ / ۵۴۳، والطیالسی: ۱۹۳۳ (انظر: ۵۹۱۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کوئی بات سنی ہے؟ انھوں نے کہا: جی انھوں نے کہا ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، محارب نے کہا: سبحان اللہ ابن عباس کی بات معتبر ہی ہوتی ہے، میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: جب ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثِرَ﴾ نازل ہوئی، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی تالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بالکل سچ کہا، اللہ کی قسم! یہ بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔“

لِىٰ مُحَارِبُ بْنُ دِنَارٍ: مَا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكُوْثِرِ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أَنْزَلْتَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثِرَ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ--)) قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ۔ (مسند احمد: ۵۹۱۳)

فوائد:..... سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: الْكُوْثِرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ۔ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ أَنَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ؟ وَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ۔..... کوثر سے مراد وہ خیر کثیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کی۔ ابو بشر نے کہا: میں نے سعید سے کہا: لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ انھوں نے جواباً کہا: جو نہر جنت میں ہے، یہ بھی اس خیر میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کی ہے۔ (صحیح بخاری: ۶۵۷۸)

”الْكُوْثِرُ“ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، ان مرفوع احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے، جو جنت میں آپ ﷺ کو عطا کی جائے گی، بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، اس حوض میں پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے ”خیر کثیر“ کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کو ملنے والی تمام نعمتیں شامل ہیں۔

”ابو عبیدہ بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کوثر کیا چیز ہے؟ انھوں نے کہا: یہ ایک نہر ہے، جو جنت کے درمیانی حصے میں واقع ہے، یہ آپ ﷺ

(۸۸۴۴)۔ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا الْكُوْثِرُ؟ قَالَتْ: نَهْرٌ أُعْطِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بُطْنَانَ الْجَنَّةِ، قَالَ:

قُلْتُ: وَمَا بَطْنَانُ الْجَنَّةِ، قَالَتْ: وَسَطُهَا حَافَتَاهُ دُرَّةٌ مُجَوَّفٌ. (مسند احمد: ۲۶۹۳۵)

کو دی گئی ہے، اس کے کناروں پر خول دار موتی ہیں۔

فوائد:..... بیچ میں راوی نے ”بطنان“ کا معنی دریافت کیا، سیدہ نے بتایا کہ اس کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔

(۸۸۴۵)۔ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: أَعْفَى النَّبِيُّ ﷺ إِغْفَاةً فَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، إِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمَّا قَالُوا لَهُ: لِمَ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ أَنْزَلَتْ عَلَيَّ آيَةً سُوْرَةَ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ حَتَّى خَتَمَهَا، قَالَ: ((هَلْ تَذْرُونَ مَا الْكُوْثَرُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، يَرُدُّ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آيَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ، يُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَذْرِي مَا أَحَدُنَا بَعْدَكَ.)) (مسند احمد: ۱۲۰۱۹)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اگلی سی آئی، پھر آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، لوگوں نے کہا: آپ ﷺ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ ﷺ نے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ مکمل سورت پڑھی اور پھر فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟“ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایک نہر ہے، جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس میں بہت زیادہ بھلائی ہے، میری امت قیامت والے دن اس پر میرے پاس آئے گی، اس نہر کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، لیکن کچھ بندے مجھ سے روک لئے جائیں گے، میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میری امت میں سے ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد (دین میں) کیا کیا اضافے کر دیئے تھے۔“

فوائد:..... حدیث مبارکہ کے آخر میں بدعت اور اہل بدعت کو متنبہ کیا گیا ہے۔

(۸۸۴۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ﴾ [الكوثر: ۱] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ.))، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((رَأَيْتُ نَهْرًا فِي الْجَنَّةِ

(۸۸۴۵) تخريج: أخرجه مسلم: ۴۰۰ (انظر: ۱۱۹۹۶)

(۸۸۴۶) تخريج: أخرجه البخاري: ۶۵۸۱ (انظر: ۱۲۶۷۵)

حَافَتَاهُ قِبَابُ السُّؤُلُوْءِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي اَعْطَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.)) (مسند احمد: ۱۲۷۰۴)

نہر دیکھی، اس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے، میں نے کہا: اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یہی وہ کوثر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔“

فوائد:..... احادیث مبارکہ اپنے مفہوم کو خود واضح کر رہی ہیں، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۱۳۱۳۳)

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

سورة کافرون

بَابُ تَفْسِيْرِهَا وَمَا جَاءَ فِيْ فَضْلِهَا
سورة کافرون کی تفسیر اور اس کی فضیلت کا بیان

(۸۸۴۷)۔ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ((قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴿ رَبُّعُ الْقُرْآنِ.)) (مسند احمد: ۱۲۵۱۶)

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورة کافرون قرآن مجید کا چوتھائی حصہ ہے۔“

فوائد:..... یہ سورت محض توحید پر مشتمل ہے، اس میں شرک سے بیزاری اور دین حق کو اپنانے کا بیان ہے۔

(۸۸۴۸)۔ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ شَيْخِ اَذْرَكِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾ قَالَ: ((أَمَا هَذَا فَقَدْ بَرَّءَ مِنْ الشُّرْكِ.)) قَالَ: وَإِذَا آخِرُ يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِهَا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.)) (مسند احمد: ۲۳۵۸۱)

”مہاجر ابو حسن، نبی کریم ﷺ کو پانے والے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ سورة کافرون پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ شرک سے بری ہو گیا ہے۔“ ایک دوسرا سورة اخلاص پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس سورت کے ذریعے اس آدمی کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے۔“

(۸۸۴۷) تخريج: اسنادہ ضعيف لضعف سلمة بن وردان - أخرجه الترمذی: ۲۸۹۳، وابن ماجه: ۳۷۸۸ (انظر: ۱۲۴۸۸)

(۸۸۴۸) تخريج: حديث صحيح - أخرجه الدارمی: ۲/ ۴۵۸، والنسائی فی الکبریٰ: ۸۰۲۸ (انظر: ۲۳۱۹۴)

”سیدنا نوفل اشجعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی مجھے دی اور فرمایا: ”تو میری بیٹی کو دودھ پلانے والی عورت کا خاوند ہے۔“ جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، وہ رہے، پھر جب میں آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”بچی کا کیا بنا؟“ میں نے کہا: جی وہ اپنی امی کے پاس ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اب کیوں آئے ہو؟“ میں نے کہا: آپ مجھے یہ تعلیم دیں کہ میں سوتے وقت کیا کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، جب یہ ختم ہو تو سو جایا کرو، یہ شرک سے بیزاری اور براءت کا اعلان ہے۔“

(۸۸۴۹)۔ عَنْ فَرْوَةَ بِنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنْتَ ظَنَرِي))، قَالَ: فَمَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ((مَا فَعَلْتِ الْجَارِيَةَ أَوْ الْجَوَابِرِيَّةَ))، قَالَ: قُلْتُ: عِنْدَ أُمَّهَا قَالَ: ((فَمَجِيئِي مَا جِئْتِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: تَعَلَّمْنِي مَا أَقُولُ عِنْدَ نَسَائِمِي، فَقَالَ: ((اقْرَأْ عِنْدَ مَنْ أَمَّاكَ)) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قَالَ: ثُمَّ نَمَّ عَلَيَّ حَاتِمَتَهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ))

(مسند احمد: ۲۴۲۱۷)

سُورَةُ النَّصْرِ

سورة النصر

بَابُ أَنَّهَا نَزَلَتْ لِنَعْيِ النَّبِيِّ ﷺ نَفْسَهُ

اس چیز کا بیان کہ سورہ نصر، نبی کریم ﷺ کی وفات کے اعلان کے لیے نازل ہوئی

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس میں میری موت کی اطلاع ہے، میں اس سال فوت ہونے والا ہوں۔“

(۸۸۵۰)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نُعِيْتُ إِلَيَّ نَفْسِي بِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ)) (مسند احمد: ۱۸۷۳)

”سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بدر والوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت

(۸۸۵۱)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْذَنُ لِأَهْلِ

(۸۸۴۹) تخریج: حدیث حسن - أخرجه ابوداود: ۵۰۵۵، والترمذی باثر الحدیث: ۳۴۰۳ (انظر: ۲۳۸۰۷) (۸۸۵۰) تخریج: اسنادہ ضعیف، عطاء بن السائب قد اختلط، ومحمد بن فضیل روی عنه بعد الاختلاط - أخرجه الطبرانی: ۱۱۹۰۷ (انظر: ۱۸۷۳)

(۸۸۵۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۲۹۴، ۴۹۷۰ (انظر: ۳۱۲۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دے رکھی تھی اور مجھے بھی ان کے ساتھ اجازت دی تھی، بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، حالانکہ اس جیسے ہمارے بیٹے بھی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان لوگوں کو بھی بلایا اور مجھے بھی اور ان سے سورہ نصر کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جب آپ ﷺ پر مکہ فتح ہو جائے، تو توبہ و استغفار کریں۔ مجھ سے کہا: اے ابن عباس! تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا: میں اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے اپنے نبی کو خبر دی ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کا وقت آچکا ہے، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ یعنی فتح مکہ، ﴿وَأُتِيَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ یہ آپ ﷺ کی موت کی علامت ہے، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: ہاں جی، تم یہ (ابن عباس علمی لیاقت) دیکھ کر مجھے کیسے ملامت کرتے ہو۔“

بَدْرٍ وَيَأْذُنَ لِي مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا ذَنْ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَمِنْ أَبْنَانِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَأَذَنْ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَذَنْ لِي مَعَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَقَالُوا: أَمْرَ نَبِيِّهِ ﷺ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فَتُح مَكَّةُ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ فَذَلِكَ عِلْمَةٌ مَوْتِكَ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَلُومُونِي عَلَى مَا تَرَوْنَ. (مسند احمد: ۳۱۲۷)

نوٹ: یہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی فقہت تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ نصر میں تحمید، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں آپ ﷺ کی وفات کی خبر بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کا مقصد پورا ہوتا ہوا بیان کیا گیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا وَتَسْبِيحِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نَزْوْلِهَا
سورہ نصر کی تفسیر اور اس کے نزول کے بعد نبی کریم کا تسبیح پڑھنے کا بیان

(۸۸۵۲)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾

(۸۸۵۲) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف سلمة بن وردان - أخرجه الترمذی: ۲۸۹۳، وابن ماجه: ۳۷۸۸ (انظر: ۱۲۴۸۸)

قرآن مجید کا چوتھائی حصہ ہے۔“

رُبْعُ الْقُرْآنِ)) (مسند احمد: ۱۲۵۱۶)

”سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر سورہ نصر نازل ہوئی تو زیادہ تر یہ ہوتا کہ جب بھی آپ ﷺ اس سورت کی تلاوت کرتے تو رکوع میں تین بار یہ دعا پڑھتے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔“ (اے اللہ! تو پاک ہے، اے ہمارے رب! اور تیری تعریف کے ساتھ، اے اللہ! مجھے بخش دے، بیشک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

(۸۸۵۳)۔ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿۱﴾ كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا وَرَكَعَ أَنْ يَقُولَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔)) ثَلَاثًا۔ (مسند احمد: ۳۶۸۳)

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب سورہ نصر نازل ہوئی تو میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے جو نماز بھی پڑھی، اس میں یہ ذکر کیا: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔“ (اے اللہ! تو پاک ہے، اور تیری تعریف کے ساتھ، اے اللہ! مجھے بخش دے۔“

(۸۸۵۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَنْزِلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ إِلَى آخِرِهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔)) (مسند احمد: ۲۶۴۵۴)

سُورَةُ الْمَسَدِ

سورة المسد

بَابُ سَبَبِ نَزْوْلِهَا وَتَفْسِيرِهَا

سورة مسد کے شان نزول اور اس کی تفسیر کا بیان

”سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾..... ”اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“ تو

(۸۸۵۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّفَا، فَصَعِدَ

(۸۸۵۳) تخريج: حسن لغيره - أخرجه ابويعلی: ۵۲۳۰، والبخاری: ۵۴۴، والطبرانی فی "الدعاء": ۵۹۸ (انظر: ۳۶۸۳)

(۸۸۵۴) تخريج: أخرجه البخاری: ۴۹۶۷، ومسلم: ۴۸۴ (انظر: ۲۵۹۲۸)

(۸۸۵۵) تخريج: أخرجه بنحوه البخاری: ۴۹۷۱، ومسلم: ۲۰۸ (انظر: ۲۸۰۱)

نبی کریم ﷺ صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور اس پر چڑھ کر یہ آواز دی: ”يَا صَبَا حَاهُ!“ پس لوگ آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی خود آ گیا اور کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے بنو عبدالمطلب! اے بنو فہر! اے بنو لوی! اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے، وہ تم پر شیخون مارنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر میں تم کو سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔“ یہ سن کر ابو لہب نے کہا: سارا دن تجھ پر ہلاکت پڑتی رہے، کیا تو نے ہمیں صرف اس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔“

فوائد: نبی کریم ﷺ کی ہلاکت کی بات کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا، جس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

سورة اخلاص

بَابُ سَبَبِ نَزُولِهَا وَتَفْسِيرِهَا

سورة اخلاص کی شان نزول اور اس کی تفسیر کا بیان

(۸۸۵۶)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: اِنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب مشرکوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا: آپ ہمارے لئے اپنے رب کا نسب بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

(۸۸۵۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابی سعد محمد بن میسر و ابی جعفر الرازی - أخرجه الترمذی:

۳۳۶۴، ۳۳۶۵ (انظر: ۲۱۲۱۹)

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿۲۱۵۳۸﴾ (مسند احمد: ۲۱۵۳۸) أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ. ”کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،

اس نے کسی کو جنائیں اور نہ ہی وہ جنائیاں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہے۔“

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهَا سورة اخلاص کی فضیلت کا بیان

(۸۸۵۷)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَيْلَى، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ بَيْنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ قَرَأَ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَكَانَ قَرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ)۔ (مسند احمد: ۲۱۵۹۷)

”سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما یا کسی انصاری صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے سورہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھی، گویا اس نے ایک تہائی قرآن مجید پڑھا۔“

فوائد: سورہ اخلاص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کی سب سے

بہترین تفسیر یہ ہے:

قرآن مجید تین اساسی مقاصد پر مشتمل ہے:

- (۱) اوامر و نواہی: اللہ تعالیٰ کے وہ عملی احکام جن میں واجبات، مستحبات، محرمات اور مکروہات کا ذکر ہے۔
- (۲) اخبار و قصص: سابقہ انبیاء و رسل اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات اور نیک و بد اعمال کی بنیاد پر وصول ہونے والے ثواب و عقاب کی تفصیل۔

(۳) علم التوحید: اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسما و صفات اور ان کے تقاضوں کی تفصیل۔

سورہ اخلاص مجمل طور پر تیسری قسم ”علم التوحید“ پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو قرآن کا تہائی حصہ قرار دیا گیا۔

(۸۸۵۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ كُلِّ لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، فَجَاءَ

”سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہما ایک مجلس میں تھے، انہوں نے کہا: کیا تم میں سے کوئی آدمی ہر رات کو ایک تہائی قرآن مجید کے ساتھ قیام کرنے کی طاقت نہیں پاتا؟ انہوں نے کہا: کیا کسی کو اتنی طاقت بھی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا: سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے،

(۸۸۵۷) تخریج: صحیح لعیبرہ - أخرجه النسائي في ”عمل اليوم والليلة“: ۶۸۵ (انظر: ۲۱۲۷۵)

(۸۸۵۸) تخریج: اسنادہ ضعيف لضعف ابن لهيعة، و حُجِّي بن عبد الله المعافري (انظر: ۶۶۱۳)

التَّيْبِيُّ ۖ وَهُوَ يَسْمَعُ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَدَقَ أَبُو أَيُّوبَ.)) (مسند احمد: ۶۶۱۳)

اتنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ نے ابویوب کو سن کر فرمایا: ”ابویوب سچ کہہ رہا ہے۔“

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۸۸۶۲، ۸۸۶۰)

(۸۸۵۹)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَقَالَ: ((أَوْجِبَ هَذَا أَوْ وَجِبَتْ لِهَذَا النَّجَّةُ.)) (مسند احمد: ۲۲۶۴۵)

”سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے۔“

(۸۸۶۰)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟)) قَالُوا: نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَزُ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزَأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.)) (مسند احمد: ۲۸۰۴۶)

”سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھے؟“ لوگوں نے کہا: ہم تو اس سے بہت کمزور اور بے بس ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تین اجزاء بنائے ہیں، ان میں سے ایک جزو سورہ اخلاص کو قرار دیا ہے۔“

(۸۸۶۱)۔ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.)) (مسند احمد: ۲۷۸۱۷)

حمید بن عبدالرحمن بن عوف اپنی امی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔“

(۸۸۶۲)۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَيَسْجَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.)) (مسند احمد: ۲۷۸۱۷)

”سیدنا ابویوب سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کرے، پس جس نے رات کو سورہ اخلاص

(۸۸۵۹) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۷۸۶۶ (انظر: ۲۲۲۸۹)

(۸۸۶۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۱۱ (انظر: ۲۷۴۹۸)

(۸۸۶۱) تخریج: حدیث صحیح۔ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۰۵۳۲، والطبرانی في "الكبير": ۲۵/

۱۸۲ (انظر: ۲۷۲۷۴)

(۸۸۶۲) تخریج: صحیح لغیرہ۔ أخرجه ۲۸۹۶ (انظر: ۲۳۵۵۴)

کی تلاوت کی، اس نے اس رات کو قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیا۔“

”سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میں اس سورہٴ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔“

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے ساری رات سورہٴ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی تلاوت کی، پھر جب اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ سورت قرآن مجید کے نصف یا ایک تہائی حصے کے برابر ہے۔“

”سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس سے بے بس ہو کہ ایک رات میں قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھ لو؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ بات گراں گزری اور انہوں نے کہا: اس عمل کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھ لیا کرو، پس یہ ایک تہائی قرآن ہی ہے۔“

”سیدنا ابوسعید بدری انصاری رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم ﷺ کی اسی طرح کی حدیث بیان کرتی ہیں۔“

أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ قَرَأَ اللَّيْلَتَيْنِذِ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ -)) (مسند احمد: ۲۳۹۵۰)

(۸۸۶۳)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حُبُّكَ إِيَّاهَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ -)) (مسند احمد: ۱۲۴۵۹)

(۸۸۶۴)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَاتَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ يَقْرَأُ اللَّيْلَ كُلَّهُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعْدِلُ يَصْفَ الْقُرْآنِ أَوْ ثُلُثَهُ -)) (مسند احمد: ۱۱۱۳۱)

(۸۸۶۵)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَيَعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟)) قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَهِيَ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ -)) (مسند احمد: ۱۱۰۶۸)

(۸۸۶۶)۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (بِعْنَى الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ - (مسند احمد: ۱۷۲۳۵)

(۸۸۶۳) تخريج: حدیث صحیح - أخرجه الترمذی: ۲۹۰۱، وأخرجه البخاری تعليقا: ۷۷۴ (انظر: ۱۲۴۳۲)

(۸۸۶۴) تخريج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لهیعة (انظر: ۱۱۱۱۵)

(۸۸۶۵) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۰۱۵ (انظر: ۱۱۰۵۳)

(۸۸۶۶) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸۹ (انظر: ۱۷۱۰۶)

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جمع ہو جاؤ، میں تم پر قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ تلاوت کرنے والا ہوں۔“ جب جمع ہونے والے جمع ہو گئے، تو آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی تلاوت کی، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے: کوئی آسمان سے خبر آئی ہے، اس کی وجہ سے گھر چلے گئے ہیں، پھر آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر قرآن مجید کا تیسرا حصہ تلاوت کروں گا، اور یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے (جو میں نے تم پر پڑھ دی ہے)۔“

”سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو سنا وہ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو مکمل کر لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”واجب ہو گئی ہے۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا واجب ہو گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”جنت واجب ہو گئی۔“ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ میں اس قاری کو خوشخبری دوں، لیکن میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کو ترجیح دی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے سے محروم نہ ہو جاؤں، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب میں اس آدمی کی طرف آیا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔“

”سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ یعنی سورہ اخلاص

(۸۸۶۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((احْسُدُوا فَيَأْتِي سَأْ قُرْأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ))، قَالَ: فَحَسَدَ مَنْ حَسَدَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: هَذَا خَيْرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِي أُدْخِلَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ((إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي سَأْ قُرْأَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) (مسند احمد: ۹۵۳۱)

(۸۸۶۸)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((الْجَنَّةُ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَأُبَشِّرُهُ فَأَثَرْتُ الْعَدَاءَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَرِئْتُ أَنْ يَقُوتِنِي الْعَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ۔ (مسند احمد: ۱۰۹۳۲)

(۸۸۶۹)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

(۸۸۶۷) تخريج: أخرجه مسلم: ۸۱۲ (انظر: ۹۵۳۵)

(۸۸۶۸) تخريج: اسنادہ صحیح - أخرجه الترمذی: ۲۸۹۷، والنسائی: ۱۷۱ / ۲ (انظر: ۱۰۹۱۹)

(۸۸۶۹) تخريج: صحیح، قاله الالبانی - أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۲۰ / ۳۹۷ (انظر: ۱۵۶۱۰)

((مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذْنًا سَتَكْثُرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ)) (مسند احمد: ۱۵۶۹۵)

آخر تک دس مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بھی بہت کثرت والا اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے۔“

فوائد:..... اس میں سورہ اخلاص کی فضیلت و عظمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والے تمام اسباب کی نشاندہی فرمادی ہے۔ دیکھئے! ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہیں۔

(۸۸۷۰)۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) (مسند احمد: ۱۷۲۳۵)

”سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔“

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ

سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت کا بیان

تنبیہ: سورہ فلق اور سورہ ناس کو ”الْمُعَوَّذَتَيْنِ“ یا ”الْمُعَوَّذَتَيْنِ“ کہتے ہیں، اول الذکر فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معانی ہیں: پناہ میں دینے والی دوسورتیں، اور مؤخر الذکر مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معانی ہیں: وہ سورتیں کہ جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔

اسم فاعل کے انداز میں معوذتین پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ ان سورتوں کو ”پناہ دینی والی سورتیں“ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو پڑھنے سے آدمی اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے۔ یہ بھی مجازی لحاظ سے ہے ورنہ اصل میں پناہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔

(۸۸۷۱)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَبْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: ((يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أَنْزَلَتْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ مجھے ملے، آپ ﷺ نے سلام کہنے میں پہل کی اور فرمایا: ”اے عقبہ بن عامر! کیا میں تجھے بہترین تین سورتوں کی تعلیم نہ دوں، جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں

(۸۸۷۰) تخريج: حديث صحيح - أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸۹ (انظر: ۱۷۱۰۶)

(۸۸۷۱) تخريج: حديث حسن (انظر: ۱۷۳۳۴)

نازل کی گئیں ہیں؟“ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے آپ ﷺ پر قربان کر دے، ضرور بتائیں، پھر آپ ﷺ نے مجھے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تعلیم دی اور فرمایا: ”اے عقبہ! انہیں نہیں بھولنا اور کوئی رات نہیں گزارنی، مگر ان میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔“ جب سے آپ ﷺ نے مجھے ان کو نہ بھولنے کی تلقین کی، اس وقت سے نہ میں ان کو بھولا ہوں اور میں نے کوئی رات نہیں گزاری، مگر اس میں ان کی تلاوت کی ہے۔“

”سیدنا عبداللہ بن خمیب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی، جبکہ اندھیرا بھی تھا اور ہم نبی کریم ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ آپ ﷺ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں، پس آپ ﷺ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: ”کہو۔“ میں خاموش رہا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”کہو۔“ میں نے کہا: جی میں کیا کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب شام اور صبح کرو تو تین تین بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، تمہیں ہر روز دو بار کفایت کریں گی۔“

وَالْفُرْقَانَ الْعَظِيمِ۔)) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: فَأَقْرَأْنِي ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُقْبَةُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا تَبْتَئِ لَيْلَةً حَتَّى تَقْرَأَهُنَّ۔)) قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَّ مِنْ مُنْذُ قَالَ لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بَتُّ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّى أَقْرَأَهُنَّ۔ (مسند احمد: ۱۷۴۶۷)

(۸۸۷۲)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَصَابَنَا عَطَشٌ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَخَرَجَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: ((قُلْ۔)) فَسَكْتُ قَالَ: ((قُلْ۔)) قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ((﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمَعْوَذَتَيْنِ جِئْنَ تُمْسِي وَجِئْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا تَكْفِيكَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ۔)) (مسند احمد: ۲۳۰۴۰)

نوٹ:..... تمام نسخوں کو دیکھا جائے تو اس حدیث کے آخر میں ”مَرَّتَيْنِ“ کا لفظ زائد معلوم ہوتا ہے، جب مزی نے مسند احمد کی سند سے روایت ذکر کی تو انھوں نے بھی اس لفظ کا ذکر نہیں کیا۔ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ (تجھے ہر چیز سے کفایت کریں گے)۔ یہ سورتیں کس چیز سے کفایت کریں گی؟ ہر قسم کے شر سے کفایت کریں گی، آدمی شرور سے محفوظ رہے گے، یہ بھی معنی ممکن ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے جتنے اوراد و وظائف کرتا ہے، یہ سورتیں ان سب سے کفایت کریں گی۔

(۸۸۷۲) تخريج: اسنادہ حسن - أخرجه ابو داود: ۵۰۸۲، والترمذی: ۳۵۷۵، والنسائی: ۸/ ۲۵۰ (انظر: ۲۲۶۶۴)

سُورَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ

سورة الفلق اور سورة الناس

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِهِمَا

سورة الفلق اور سورة الناس کی فضیلت کا بیان

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک پہاڑی سے گزرنے والے راستے سے چلا رہا تھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”اے عقبہ! تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟“ میں نے کچھ نہ کہا، دراصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان کے پیش نظر سوار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا: ”اے عقیب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے۔“ اب میں ڈر گیا کہ یہ نافرمانی ہی نہ ہو جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور میں کچھ دیر کے لئے سوار ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو گئے اور فرمایا: ”اے عقیب! کیا میں تمہیں سب سے بہترین دو سورتیں نہ سکھاؤں، جو لوگ پڑھتے ہیں؟“ میں نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول!، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تعلیم دی، اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس نماز میں ان ہی دو سورتوں کی تلاوت کی، پھر میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: ”اے عقیب! کیسا پایا (ان دو سورتوں کی فضیلت کو کہ میں نے ان کی تلاوت کر کے نماز پڑھا دی ہے)، جب بھی تو سوئے اور جاگے تو ان سورتوں کی تلاوت کر۔“

(۸۸۷۳)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النَّقَابِ إِذْ قَالَ لِي: ((يَا عُقْبَةُ أَلَا تَرَكِبُ؟)) قَالَ: فَأَجَلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُرَكِّبَ مَرْكَبَهُ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُقَيْبُ! أَلَا تَرَكِبُ؟)) قَالَ: فَأَشْفَقْتُ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْتُ هُنَيْئَةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ: ((يَا عُقَيْبُ! أَلَا أَعْلَمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ، قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأَقْرَأْنِي ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ مَرَّ بِي قَالَ: ((كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقَيْبُ! أَقْرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نَمَتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ لِنُجَيْهِئٍ۔ (مسند احمد: ۱۷۴۲۹)

فوائد:..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی وجہ سے عقبہ کو عقیب کے لفظ کے ساتھ پکارا، یہ عقبہ کی تفسیر ہے۔

(۸۸۷۴)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُنزِلَتْ عَلَيَّ سُورَتَانِ (وَفِي رِوَايَةٍ: أُنزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يَرَمِثْهُنَّ) فَتَعَوَّذُوا بِهِنَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَوَّذْ بِمِثْلِهِنَّ)) يَعْنِي الْمَعْوِذَتَيْنِ۔ (مسند احمد: ۱۷۴۳۲)

”سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے اوپر دو سورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک روایت میں ہے: مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل آیات نہیں پائی گئیں، ان کے ذریعے پناہ طلب کیا کرو، ان جیسی اور کوئی سورت نہیں، جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے۔“

فوائد:..... کسی بیماری یا شر یا شر والی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس بے مثال ہیں۔

(۸۸۷۵)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمَعْوِذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ (مسند احمد: ۱۷۹۴۵)

سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کروں۔

یہ جمع کا لفظ ہے اور اس سے مراد تین سورتیں (اخلاص، فلق اور ناس) مراد ہیں۔

(۸۸۷۶)۔ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اقْرَأْ بِالْمَعْوِذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا))۔ (مسند احمد: ۱۷۴۵۵)

”سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، ان سورتوں کی مثل کوئی چیز نہیں، جو تو پڑھے۔“

فوائد:..... دم اور پناہ طلب کرنے کے لیے یہ دو سورتیں بے مثال ہیں۔

(۸۸۷۷)۔ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قَلَةٌ، فَحَانَتْ نَزْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلْتِي فَلَحِقْنِي مِنْ بَعْدِي فَضْرَبَ مَنْكِبِي، فَقَالَ: ((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفْلِ))۔ ((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفْلِ))۔ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفْلِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ:

”ابو العلاء کہتے ہیں: ایک آدمی یعنی سیدنا عقبہ نے کہا: ہم سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اور سواریاں کم ہونے کی وجہ سے لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے، ادھر نبی کریم ﷺ کی اور میرے اترنے کی باری بھی آ گئی، پھر آپ ﷺ مجھے میرے پیچھے سے ملے اور آپ ﷺ نے میرے کندھے پر مارا اور فرمایا: ”پڑھ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفْلِ﴾۔“ میں نے پڑھا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفْلِ﴾، پس آپ ﷺ نے وہ

(۸۸۷۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۱۴ (انظر: ۱۷۲۹۹)

(۸۸۷۵) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۱۵۲۳، والنسائی: ۳/ ۶۸، والترمذی: ۲۹۰۳ (انظر: ۱۷۷۹۲)

(۸۸۷۶) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۷۳۲۲)

(۸۸۷۷) تخریج: اسنادہ صحیح (انظر: ۲۰۲۸۴)

((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ))، فَقَرَأَهَا سورت پڑھی اور میں نے آپ ﷺ کے ساتھ پڑھی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”پڑھ ((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ))۔“ پھر آپ ﷺ یہ مکمل سورت پڑھی اور میں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ پڑھی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: (۲۰۵۵۰)

”جب تو نماز پڑھے تو ان کی تلاوت کیا کر۔“

بَابُ رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَعُودَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَرَدَّ ذَلِكَ سَيِّدُنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِي رَأَى كَا بِيَان كَه مَعُودَتَيْنِ كِتَابِ اللَّهِ مِيْل سَه نِيْل هِي، نِيْز اِس رَاى كَه غِيْر مَقْبُول هُونَه كَا بِيَان

(۸۸۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْكُمُ الْمَعُودَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((فَقِيلَ لِي فَقُلْتُ)) (مسند احمد: ۲۱۵۰۷)

”عبد الرحمن بن يزيد سے مروی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مصحف سے معوذتین کو مٹا دیتے اور کہتے کہ یہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہیں۔ اعمش کہتے ہیں: عاصم نے ہم کو زور سے بیان کیا کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم نے نبی کریم ﷺ سے ان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے کہا گیا، پس میں نے کہہ دیا۔“

فوائد:..... آخری جملے کا مفہوم سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۸۸۸۰)

(۸۸۷۹)۔ عَنْ زُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ خَآكَ يَحْكُمُهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ فَلَمْ يُنْكِرْ فَيَلِ لِسْفِيَانِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَا بِمِ مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّذُ بِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ يَقْرَأُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، فَظَنَّ أَنََّّهُمَا عُوذَتَانِ، وَأَصْرَّ

”زور بن حیش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کے بھائی تو ان دونوں سورتوں کو مصحف سے کھرچ دیتے تھے، انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا۔ جب سفیان سے کہا کہ بھائی سے مراد سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا: جی ہاں اور یہ دو سورتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں نہیں تھیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دو دم ہیں، نبی کریم ﷺ ان کے ذریعے سیدنا حسن

(۸۸۷۸) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه الطبرانی: ۹۱۵۱، والبخاری: ۱۵۸۶ (انظر: ۲۱۱۸۸)

(۸۸۷۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۹۷۶، والشافعی فی "السنن المأثورة": ۹۴، والطحاوی فی "شرح

معانی الآثار": ۱۱۸، والبيهقي: ۲/ ۳۹۴، والنسائي فی "الكبرى" (انظر: ۲۱۱۸۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَلَى ظَنِّهِ، وَتَحَقَّقَ الْبَاقُونَ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَوْدَعُوهُمَا إِيَّاهُ۔ (مسند احمد: ۲۱۵۰۸)

اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، دراصل ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، پھر وہ اسی رائے پر مصر رہے، لیکن باقی افراد کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں، اس لیے انھوں نے ان کو قرآن مجید میں رکھا۔

فوائد:..... عُوذَةُ: دم، گھبراہٹ یا جنون یا کسی بیماری پر کیا جانے والے دم۔

”زر بن حوش کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابی بن کعب سے کہا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھتے، انھوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے یہ خبر دی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے کہا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، آپ ﷺ نے فرمایا: پس میں نے کہہ دیا، جبریل نے کہا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، پس میں نے کہہ دیا، سو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں، جیسے آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔“

(۸۸۸۰)۔ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَكْتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي مِصْحَفِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ فَقُلْتُهَا فَنَحْنُ نَقُولُ: مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ۔ (مسند احمد: ۲۱۵۰۵)

فوائد:..... اس مقام پر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت پر متفق تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کا حصہ ہیں، انھوں نے ان کو ان مصاحف میں لکھا تھا، جن کو ساری اسلامی خلافت میں بھیجا گیا تھا، نبی کریم ﷺ کا نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرنا ثابت ہے، صرف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے، ممکن ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ کو نماز میں ان کی تلاوت کرتے ہوئے نہ سنا ہو، جبکہ آپ ﷺ دم کے لیے اور پناہ مانگنے کے لیے ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو دم سے متعلق دعائیں سمجھ لیا ہو۔ امام بزار نے کہا: کسی صحابی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس رائے پر ان کی متابعت نہیں کی، جبکہ نبی کریم ﷺ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے نماز میں ان کی تلاوت کی ہے۔ دیگر شرعی مسائل میں بھی صحابہ کرام میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جو آدمی یہ بیان کرے کہ نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، ان کی تصدیق نہ کی جائے، جبکہ دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ مثبت کو منفی پر مقدم کیا جاتا ہے۔

پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ پڑھو۔“ آپ ﷺ نے دوبارہ اس سورت کو پڑھا، یہاں تک کہ اس (سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ) نے اس سورت کو پڑھ لیا، لیکن جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ میں اس سورت سے زیادہ خوش نہیں ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لگتا ہے، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، تو نے نماز میں اس جیسی سورت نہیں پڑھی ہوگی (یعنی یہ بے مثال سورت ہے، جس کو نماز میں پڑھا جائے)۔“

”سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک کے ساتھ چمٹ گیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھائیں، نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عقبہ! تو کوئی ایسی کوئی سورت نہیں پڑھی، جو ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیاری، بلیغ اور نتیجہ خیز ہو۔“ یزید راوی کہتے ہیں: ابو عمران اس سورت کی تلاوت کبھی نہ چھوڑتے تھے اور ہمیشہ اس کو نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔“

فوائد:..... سورۃ الفلق اور سورۃ ناس بہترین دم ہیں اور مخلوقات کے شر اور جادو اور نظر بد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں، ان کے نزول سے پہلے نبی کریم ﷺ مختلف الفاظ کے ساتھ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے، لیکن جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے ان کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔

(۸۸۸۳) تخریج: اسنادہ صحیح - أخرجه النسائي: ۸ / ۲۵۴، الدارمی: ۲۴۳۹، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۷ / ۸۶۲ (انظر: ۱۷۴۱۸)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْكِتَابِ: قِسْمُ التَّرْغِیْبِ
چوتھی قسم: ترغیب

كِتَابُ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ

نیت اور عمل میں اخلاص

بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّيَّةِ

نیت کے بارے میں باب

(۸۸۸۴)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((أَنَّ مَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) (مسند احمد: ۱۶۸)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، سو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، وہ اس کو پالے گا اور جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہوگی، وہ اس سے شادی کر لے گا، (غرضیکہ) مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی، جس کی نیت سے) وہ ہجرت کرے گا۔“

فوائد: یہ انتہائی اہم اور جامع حدیث ہے اور ہر نیکی کے کرنے اور ہر برائی سے بچنے میں اس حدیث مبارکہ کا دخل ہوگا، نیت کی دو قسمیں ہیں، ایک نیت اعمال صالحہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، مثلاً ظہر کی چار رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں، ان سے پہلے والی چار چار سنتیں، فرضی روزہ، نفلی روزہ وغیرہ، ہر عمل کو شروع کرتے وقت اس کو دوسرے اعمال سے ممتاز کیا جائے گا۔

نیت کی دوسری قسم عامل کے مقصد کا تعین کرتی ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کی غرض و غایت ریاکاری، نمود و نمائش یا کسی غیر اللہ کا ڈر خوف ہے۔

(۸۸۸۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۱، و مسلم: ۱۹۰۷ (انظر: ۱۶۸)

اس باب میں نیت کی دوسری قسم کو واضح کرنا مطلوب ہے، یہ دعویٰ کرنا ممکن ہے کہ سب سے مشکل عمل نیت اور ارادے کو اخلاص پر برقرار رکھنا ہے۔ جہاد، سخاوت اور حج جیسے بیش قیمت اعمال نیت کے فتور کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا: مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي، لِأَنَّهَا تَقَلَّبُ عَلَيَّ۔ میں نے کسی چیز کا علاج نہیں کیا، جو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو، ماسوائے نیت کے، یہ نیت تو مجھ پر الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔

امام عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا: رَبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُعْظِمُهُ النَّيَّةُ وَرَبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النَّيَّةُ۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ نیت ان کو بڑا بنا دیتی ہے اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت ان کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔

یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا: تَعَلَّمُوا النَّيَّةَ فَإِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَمَلِ۔ نیت کو بھی سیکھو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ اہمیت والی ہے۔

کسی نے نافع بن حبيب سے کہا: کیا آپ فلاں جنازے میں حاضر نہیں ہوں گے؟ انھوں نے کہا: ذرا ٹھہرو، میں نیت کر لو، پھر انھوں نے کچھ دیر سوچا اور کہا: جی چلے۔ (ان اقوال کے لیے ملاحظہ ہو: جامع العلوم والحکم: ۱/۱۳) (۸۸۸۵)۔ عَنِ ابْنِ مَرْيَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُبْعَثُ النَّاسُ)) وَرَبَّمَا قَالَ شَرِيكَ ((يُخْشِرُ النَّاسُ)) عَلَيَّ نِيَّاتِهِمْ۔ ((مسند احمد: ۹۰۷۹))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو (قیامت والے دن) ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔“

فوائد: اس حدیث کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوگی: سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس قوم کے سارے افراد اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔“

(صحیح بخاری: ۷۱۰۸، صحیح مسلم: ۲۸۷۹)

یعنی ایسے عذاب کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ ایسی بستی میں بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، بعض زیادہ برے، بعض کم برے، بعض مجبور، بعض رضامند، اس لیے ہر ایک کو قیامت والے دن اس کی عملی صلاحیت اور نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

(۸۸۸۶)۔ عَنِ ابْنِ الْجَوْنِيَّةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ سَيِّدَنَا مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَ مَرْوِيَّ بْنَ مَرْوِيٍّ يَقُولُ: ((وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ:))

(۸۸۸۵) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه: ۴۲۲۹ (انظر: ۹۰۹۰)

(۸۸۸۶) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۴۲۲ (انظر: ۱۵۸۶۰)

اپنے باپ اور دادا کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی، انھوں نے میرے لیے مٹھی کا پیغام بھیجا اور میرا نکاح بھی کر دیا۔ میں ان کے پاس جھگڑا لے کر گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے باپ سیدنا یزید رضی اللہ عنہ کچھ دیناروں کا صدقہ کرنے کے لیے نکلے اور مسجد میں ایک شخص کو دے کر آگئے (تاکہ وہ ان کی طرف سے صدقہ کر دے)، لیکن ہوا یہ ہے کہ میں نے اس سے وہ دینار لے لیے اور لے کر گھر آ گیا، پس انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے تجھے دینے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، پس میں یہ جھگڑا لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے یزید! تیرے لیے تیری نیت ہے اور اے معن! جو کچھ تو نے لے لیا ہے، وہ تیرے لیے ہے۔“

فوائد:..... سیدنا یزید رضی اللہ عنہ نے محتاج پر صدقہ کرنے کی نیت سے ایک آدمی کو وکیل بنا کر اپنے دینار اس کے پاس رکھ دیئے اور اس کو مطلق طور پر اجازت دے دی، جب وہی رقم بیٹے نے وصول کر لی تو آپ ﷺ نے اس کی وصولی کو نافذ کر دیا، کیونکہ وہ فقراء میں داخل تھا۔

مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق، معن نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ (بلوغ الامانی، زیر مطالعہ حدیث)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: اس جھگڑے سے مراد معن اور اس کے باپ یزید کے درمیان صدقہ کے حوالے سے ہونے والی بحث ہے۔ جس میں آپ نے معن کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اس کے صدقہ پکڑنے کو درست قرار دیا۔ (فتح الباری ج ۳، ص ۲۹۲) (عبداللہ رفیق)

(۸۸۸۷)۔ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عَمِّ لِي) مَا أَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ مِنْ إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ أَبْعَدَ بَيْتَا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، قَالَ: فَكَانَ يَخْضُرُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ:

(۸۸۸۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۶۶۳ (انظر: ۲۱۲۱۴)

لیکن اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ملا ہوا ہو، ایک روایت میں ہے: مجھے تو یہ بات بھی خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر اللہ کے نبی محمد ﷺ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی یہ بات مجھے سب سے زیادہ بری لگی، بہر حال میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ساری بات بتلا دی، پس جب آپ ﷺ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! (میں چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف) آؤں اور پھر اپنے اہل کی طرف واپس جاؤں تو میرے قدموں کے یہ سارے نشانات لکھے جائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سارا کچھ عطا کر دیا ہے۔“ ایک روایت میں ہے: ”بیشک اس شخص کے لیے ہر قدم کے بدلے درجہ ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”تیرے لیے وہی کچھ ہے، جو تو نے نیت کی ہے، یا آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس اجر کی تو نے نیت کی ہے، وہ تیرے لیے ہے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ سو رہے تھے کہ اچانک نیند میں ہی مسکرانے لگے، جب آپ ﷺ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرانے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے کچھ لوگ اس بیت اللہ (پر چڑھائی کرنے کا) قصد کریں گے، ان کا ہدف وہ قریشی شخص ہوگا، جو حرم میں پناہ لے چکا ہو گا، یہ لوگ جب بیدار مقام تک پہنچیں گے تو ان سب کو دھنسا دیا جائے گا، لیکن (قیامت والے دن) ان کے نکلنے کی جگہیں الگ الگ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کا ان کے نیتوں کے مطابق حشر کرے گا۔“ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے

لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرَكَبَهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَاءِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِ الْأَرْضِ) قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أَحَبُّ أَنْ بَيْتِي يَلْزُقَ بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ مَا يُسْرُنِي أَنْ بَيْتِي مُطْنَبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ كَلِمَةً أَكْرَهَ إِلَيَّ مِنْهَا) قَالَ: فَأَخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لِيَكِنَا يُكْتَبَ آثَرِي وَرَجُوعِي إِلَى أَهْلِي وَإِقْبَالِي إِلَيْهِ قَالَ: ((أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ)) وَفِي لَفْظٍ: ((أَنَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً)) وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ: ((لَكَ مَا نَوَيْتَ أَوْ قَالَ لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ)) (مسند احمد: ۲۱۵۳۳)

(۸۸۸۸)۔ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَائِمٌ إِذْ ضَحِكَ فِي مَنَامِهِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِمَّ ضَحِجْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّ أَنْاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمُونَ هَذَا الْبَيْتَ، لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدِ اسْتَعَاذَ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْبَيْدَاءَ حَسِيفَ بِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَاتِهِمْ)) قُلْتُ: وَكَيْفَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نِيَاتِهِمْ وَمَصَادِرُهُمْ شَتَّى؟ قَالَ: ((جَمَعَهُمْ

مطابق اٹھائے گا اور ان کی نکلنے کے مقامات الگ الگ ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک راستے پر جمع ہو گئے ہوں گے، وگرنہ ان میں بعض بصیرت والے ہوں گے، بعض مسافر ہوں گے اور بعض مجبور ہوں گے، لیکن سب ایک ہلاکت گاہ میں ہلاک ہو جائیں گے اور مختلف مقامات سے نکلیں گے۔“

الطَّرِيقُ، مِنْهُمْ الْمُسْتَبْصِرُ، وَابْنُ السَّيْلِ، وَالْمَجْبُورُ، يَهْلِكُونَ مَهْلِكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى. (مسند احمد: ۲۵۲۴۵)

فوائد:..... مسافر سے مراد وہ آدمی ہے، جو اس لشکر کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ویسے وہاں سے گزر رہا ہوگا یا راستہ ایک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ چل رہا ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظالم، باغی اور گمراہ لوگوں کی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ان کے برے اثر سے محفوظ رہا جاسکے، البتہ دین کی تبلیغ یا کسی اشد ضرورت کے وقت ان کے پاس جانا جائز ہے، لیکن مقصود پورا ہونے کے بعد واپس چلا جانا چاہیے۔

(۸۸۸۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا عَلَيَّ أَعْمَالِهِمْ)) (مسند احمد: ۵۸۹۰)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں، تو اس میں جو افراد بھی ہوں، سب اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔“

فوائد:..... دراصل ان احادیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾..... ”اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا، جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔“ (سورہ انفال: ۲۵) ان نصوص کا مفہوم یہ ہے کہ جب فرمانبردار لوگ عذاب کے آنے تک نافرمانوں میں ٹھہرے رہتے ہیں تو پھر وہ آنے والے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ہاں اگر وہ اس عذاب کے آنے سے پہلے نکل جائیں تو وہ بچ جائیں گے، یہ ایسے ہی ہے، جیسے سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں اپنے نبیوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ واللہ اعلم

(۸۸۹۰)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ((مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فَرَمَا: ”جَب كَوْنِي آدَمِي كَسَى جَسْمَانِي مَصِيبَتٍ فِي مِثْلَا هُوَ جَاتَا هَبْ“)) (مسند احمد: ۵۸۹۰)

(۸۸۸۹) تخريج: أخرجه البخاری: ۷۱۰۸، ومسلم: ۲۸۷۹ (انظر: ۵۸۹۰)

(۸۸۹۰) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۳ / ۲۳۰، والدارمی: ۲ /

۳۱۶، والحاکم: ۱ / ۳۴۸ (انظر: ۶۴۸۲)

تو اللہ تعالیٰ (نیکیاں) لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں: میرا بندہ جب تک میری (آزمائش کی) قید میں ہے، تم اس وقت تک اس کے شب و روز کے نیکیوں کے معمولات لکھتے رہو۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی رات کو کچھ وقت کے لیے قیام کرتا ہو، جب وہ اس قیام سے سوجائے تو اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اس پر صدقہ ہوتی ہے، جو صدقہ اس پر کرو دیا جاتا ہے۔“

يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ، فَقَالَتْ: أَكْتُبُوا لِعَبْدِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِي وَثَاقِي. ((مسند احمد: ٦٤٨٢))

(٨٨٩١). - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ) يَقُومُهَا فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً تُصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.)) (مسند احمد: ٢٤٨٤٥)

فوائد:..... سیدنا ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.))..... ”جو آدمی اپنے بستر پر آیا، جبکہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، لیکن اس کی آنکھ اس پر غالب آگئی، یعنی وہ سویا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس نے قیام کے بارے میں جو نیت کی تھی، اس کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، اور یہ نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔“ (ابن ماجہ: ٢٣٣)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی اتفاقاً آنکھ لگ گئی یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کا قیام رہ گیا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے کہتے ہیں: اے میرے رب! تیرا فلاں بندہ برائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جب کہ وہ زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، پس وہ کہتا ہے: انتظار کرو، اگر وہ اس برائی کا ارتکاب کرتا تو تم اس کے لیے ایک برائی لکھ لو اور اگر وہ اس کو ترک کر دے تو اس وجہ سے تم اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اس نے صرف میری وجہ سے اسے ترک کیا ہے۔“

(٨٨٩٢). - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فَقَالَ: أُرْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَكُتِبُوا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَكُتِبُوا لَهُ بِحَسَنَةٍ، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَأِي.)) (مسند احمد: ٨٢٠٣)

(٨٨٩١) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ١٣١٤، والنسائي: ٢٥٧/٣ (انظر: ٢٤٣٤١)

(٨٨٩٢) تخريج: أخرجه مسلم ١٢٩ (انظر: ٨٢١٩)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ وَمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ بِسَبَبِهِ

عمل میں اخلاص اور اس کی وجہ سے اجر کے بڑھ جانے کا بیان

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جس نے ایمان کے لیے دل میں اخلاص پیدا کر لیا اور اپنے دل کو صحیح و سالم، زبان کو سچا، نفس کو (اعمال صالحہ پر) ثابت قدم رہنے والا، اپنے طریقے کو راہ راست والا، اپنے کان کو سننے والا اور اپنی آنکھ کو دیکھنے والا بنا لیا۔ صورتحال یہ ہے کہ کان (دل کی معلومات کا) ذریعہ ہے اور آنکھ دل کے یاد کیے ہوئے امور کو برقرار رکھنے والی ہے، اور تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جو اپنے دل کو یاد کرنے والا بنا لیتا ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔“

(۸۸۹۳)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ بِإِيْمَانٍ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، وَخَلِيفَتَهُ مُسْتَوِيْمَةً، وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، وَعَيْنَهُ سَاطِرَةً، فَأَمَّا الْأُذُنُ فَتَمَعُ، وَالْعَيْنُ مُقَرَّةٌ مَا يُوعَى الْقَلْبُ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ وَاعِيًا.)) (مسند احمد: ۲۱۶۳۵)

(۸۸۹۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.)) (مسند احمد: ۷۸۱۴)

فوائد: تقویٰ، خلوص، مختلف جواہر اور معرفت کے خزانوں کا مرکز دل ہے، اسی طرح بندے کا کمال عمل صالح میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صورت اور مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

ابو عثمان کہتے ہیں: مجھے یہ بات موصول ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں: بیشک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے عوض دس لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ مجھے حج یا عمرہ کرنے کا موقع مل گیا، پس میں گیا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور ان سے کہا: مجھے تمہارے حوالے سے ایک حدیث

(۸۸۹۵)۔ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَوْ أَحْسَنَ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ، قَالَ: فَقَضَىٰ أَنِّي أَنْطَلَقْتُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَقِيْتُهُ

(۸۸۹۳) تخریج: اسنادہ ضعیف، بقیة بن الولید یدلس تدلیس التسویة، و خالد بن معدان کان یرسل، ولم یدکروا فی الرواة عن ابی ذر، ولم یصرح بسماعہ من ابی ذر، أخرجه البیهقی فی ”الشعب“: ۱۰۸، والطبرانی فی ”مسند الشامیین“: ۱۱۴۱ (انظر: ۲۱۳۱۰)

(۸۸۹۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۶۴ (انظر: ۷۸۲۷)

(۸۸۹۵) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان (انظر: ۱۰۷۶۰)

موصول ہوئی کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کی وجہ سے دس لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔“؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، (یہ حدیث تو میں نے بیان نہیں کی)، البتہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیس لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔“ اب کون ہے جو ”اجر عظیم“ کا اندازہ کر سکے۔

فَقُلْتُ: بَلَّغْنِي عَنْكَ حَدِيثَ أَنَّكَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ))؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيهِ أَلْفِي أَلْفِ حَسَنَةٍ)) ثُمَّ تَلَا: ﴿يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَقَالَ: إِذَا قَالَ ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَمَنْ يَقْدِرُ قَدْرَهُ. (مسند احمد: ۱۰۷۷۰)

فوائد: بہر حال اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھ کر اجر میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ”اللہ تعالیٰ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہوگی تو وہ اس کو بڑھا دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔“ (سورہ نساء: ۴۰)

(دوسری سند) اسی قسم کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: کس چیز نے تجھے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ پس اللہ کی قسم ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”بیشک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بیس لاکھ گنا تک بڑھا دیتا ہے۔“

(۸۸۹۶)۔ (وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِنَحْوِهِ وَفِيهَا) فَقَالَ (يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): وَمَا أَعْجَبَكَ؟ فَوَاللَّهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لِيُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفِي أَلْفِ حَسَنَةٍ)) (مسند احمد: ۷۹۳۲)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْمِ وَالنِّيَّةِ عَلَى الشَّرِّ

برائی کا عزم اور نیت کر لینے کا بیان

سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں آجاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔“ کسی نے کہا: یہ تو قاتل ہے، لیکن مقتول (کے جہنم میں جانے) کی کیا وجہ ہے؟

(۸۸۹۷)۔ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)) قِيلَ: هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((قَدْ أَرَادَ

(۸۸۹۶) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۸۸۹۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۱، ۶۸۷۵، ومسلم: ۲۸۸۸ (انظر: ۲۰۴۳۹)

قَتَلَ صَاحِبِهِ)) (مسند احمد: ۲۰۷۱) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔“

فوائد: جب آدمی گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے تو اس کی حیثیت اس طرح کے مجرم کی ہی ہوتی ہے، اگرچہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو پائے، ہاں اگر وہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہوگا۔

بَابِ إِحْسَانِ النَّيَّةِ عَلَى الْخَيْرِ وَمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِي الْعَزْمِ وَالْهَمِّ خَيْرٍ وَبَهْلَاوَى كَيْ لِي نِيَّةً كَوَاجِحًا كَرْنِي، اس کی وجہ سے اجر کے بڑھ جانے اور عزم اور ارادے کا بیان (۸۸۹۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)) (مسند احمد: ۸۲۰۱) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام میں حسن پیدا کر لیتا ہے تو اس کی ہر نیکی دس سے سات سو گنا تک لکھی جاتی ہے اور اس کی ہر برائی کو اس کی مثل ہی لکھا جاتا ہے، (یہ سلسلہ جاری رہتا ہے) یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے۔“

فوائد: اسلام کے حسن سے مراد یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن سے اور اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہو۔ (۸۸۹۹)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَجِمْ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَةٌ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ، أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا هَالِكٌ)) (مسند احمد: ۲۵۱۹) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: ”بیشک تیرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا تو اس کے لیے ایک نیکی تو لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے دس سے سات سو گنا تک، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو اس وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہلاک ہوگا، جس نے ہلاک ہی ہوتا ہے۔“

(۸۸۹۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۲، ومسلم: ۱۲۹ (انظر: ۸۲۱۷)

(۸۸۹۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۳۱ (انظر: ۲۵۱۹)

اے اللہ کے رسول! ہمیں ایسے ایسے خیالات آجاتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی بہ نسبت یہ چیز ہمیں زیادہ پسند ہے کہ ہم کوئلہ بن جائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اس شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے۔“ ایک راوی کے الفاظ یہ ہیں: ”سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے۔“

وَحَجَّاجٌ، قَالَا: تَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَحَدِّثُ أَنْفُسَنَا بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ أَحَدُنَا حُمَمَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَقْدِرْ مِنْكُمْ (بِغْيِ الشَّيْطَانِ) إِلَّا عَلَى الْوَسْوَسَةِ)) وَقَالَ الْآخَرُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ)) (مسند احمد: ۳۱۶۱)

(دوسری سند) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسے ایسے خیالات آجاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کلام کرنے کی بہ نسبت یہ چیز مجھے زیادہ پسند لگتی ہے کہ میں آسمان سے گر جاؤں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اس شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔“

(۸۹۰۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي لَأَنْ أَكُونَ آخِرُ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ)) (مسند احمد: ۲۰۹۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان امور کو بخش دیا ہے کہ جن کا ان کو خیال آتا ہے یا وسوسہ پڑ جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا ان کے بارے میں کلام نہ کرے۔“

(۸۹۰۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تُجَوِّزُ لِأُمَّتِي (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي) عَمَّا حَدَّثَتْ فِي أَنْفُسِهَا أَوْ وَسْوَسَتْ بِهِنَّ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ)) (مسند احمد: ۷۴۶۴)

فوائد:..... الْوَسْوَسَةُ لغوی معنی: محسوس نہ ہونے والی حرکت یا پوشیدہ آواز، جیسے زیور وغیرہ کی ہلکی جھنکار۔

(۸۹۰۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۸۹۰۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۲۸، ۶۶۶۴، ومسلم: ۱۲۷ (انظر: ۷۴۷۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اصطلاحی تعریف: شیطان کا انسان کو ورغلانے، بہکانے اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر ابھارنے کا نام ہے، یعنی وسوسہ شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں خدا کی طرف سے اسے دی گئی قدرت کے تحت پیدا کردہ شر اور معصیت کا خیال و ارادہ ہے، جو شیطان کی مسلسل جدوجہد کے باعث صرف ارادہ ہی نہیں رہتا، قصد محکم اور عزیمت جازمہ بن جاتا ہے، اس لیے تمام معصیتوں اور گناہوں کی جڑ یہی وسوسہ ہے، جس سے سورہ ناس میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ وسوسہ اس وقت تک معاف ہے، جب تک یہ محض خیال کی شکل میں رہے۔

ان احادیث مبارکہ کا تعلق حدیث نمبر (۸۹۰۰) میں بیان کیے گئے پہلے مرتبے سے ہے، ایسا خیال کفر اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔



کِتَابُ الْاِقْتِصَادِ

میانہ روی کے مسائل

بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي الْاَعْمَالِ

اعمال میں میانہ روی اور اعتدال کا بیان

تمام مذاہبِ عالم میں اسلام واحد دین ہے، جو میانہ روی اور اعتدال کے قوانین کا حامل ہے، اس میں خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا، یہ دین صرف دنیا کے لیے آزادی نہیں دیتا، بلکہ دنیوی معاملات کو خود ڈیل کرتا ہے، اسلام مکمل نظامِ حیات ہے، اس میں کسی پہلو میں تشنگی نہیں چھوڑی گئی، اس پہلو کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے، لیکن اہل اسلام کو یہ تعبیر کرنا بے حد ضروری ہے کہ اعتدال اور میانہ روی کا تعلق ان کے ذاتی فہم سے نہیں ہے کہ جیسے وہ ان الفاظ کو سمجھیں، ویسے استعمال کریں، بلکہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال و افعال میں اعتدال تھا، اس لیے ہر معاملے میں آپ ﷺ کی ہدایات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

لیکن دین اسلام کے معتدل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، جو عوام الناس نے سمجھ رکھا ہے، جب کسی کو فرضی نماز کی ترغیب دلانے کے لیے وعید والی آیات و احادیث سنائی جاتی ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ دین میں اس قدر سختی نہیں ہے، یہ دراصل اس کا حبشہ باطن ہے۔

(۸۹۰۵)۔ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيَّ جَعَلَتْ لَا أَنْحَاسُ لَهَا عَمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّوْمِ

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے باپ نے ایک قریشی عورت سے میری شادی کر دی، جب میں اس پر داخل ہوا تو میں نے اس کا کوئی اہتمام نہ کیا اور نہ اس کو دقت دیا، کیونکہ مجھے روزے اور نماز کی صورت میں عبادت کرنے کی بڑی قوت دی گئی تھی، جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی بہو کے پاس آئے اور اس سے پوچھا: تو نے

(۸۹۰۵) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه نحوه دون ذكر القراءة والشرعة، وقوله

”واصوم و افطر“ البخاری: ۱۹۸۰، ومسلم: ۱۱۵۹ (انظر: ۶۴۷۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپنے خاوند کو کیسا پایا ہے؟ اس نے کہا: وہ بہترین آدمی ہے، یا وہ بہترین خاوند ہے، اس نے نہ میرا پہلو تلاش کیا اور نہ میرے بچھونے کو پہچانا (یعنی وہ عبادت میں مصروف رہنے کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب تک نہیں گیا)۔ یہ کچھ سن کر میرا باپ میری طرف متوجہ ہوا اور میری خوب ملامت کی اور مجھے برا بھلا کہا اور کہا: میں نے حسب و نسب والی قریشی خاتون سے تیری شادی کی ہے اور تو اس سے الگ تھلگ ہو گیا اور تو نے ایسے ایسے کیا ہے، پھر وہ نبی کریم ﷺ کی طرف چلے گئے اور آپ ﷺ سے میرا شکوہ کیا، آپ ﷺ نے مجھے بلایا اور میں آپ ﷺ کے پاس پہنچ گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو دن کو روزہ رکھتا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور رات کو قیام کرتا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور حق زوجیت بھی ادا کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو ایک ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کیا کر۔“ میں نے کہا: میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ قوی پاتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر دس دنوں میں مکمل کر لیا کرو۔“ میں نے کہا: جی میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ قوت والا سمجھتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر تین دنوں میں ختم کر لیا کرو۔“ ایک روایت میں ہے: ”تو سات دنوں میں تلاوت مکمل کر لیا کر اور ہرگز اس سے زیادہ تلاوت نہ کر۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر ماہ میں تین روزے رکھا کر۔“ میں نے کہا: جی میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ ﷺ مجھے آگے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ فرمایا: ”ایک دن روزہ رکھ لیا

وَالصَّلَاةِ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَتَبِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكَ؟ قَالَتْ: خَيْرُ الرَّجَالِ، أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ، مِنْ رَجُلٍ، لَمْ يُفْتَشْ لَنَا كَنَفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَعَدَمَنِي، وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: أَنْكَحْتِكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَهَا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَانِي، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: ((أَتَصُومُ النَّهَارَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((لَكِنِّي أَصُومُ وَأَنْظِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمْسُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.)) قَالَ: ((أَفِرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ.)) قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((فَأَقْرَأْ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ.)) قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِمَّا حُصَيْنٌ وَإِمَّا مُغِيرَةُ، قَالَ: ((فَأَقْرَأْ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ.)) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ((فَأَقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَا تُزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ.)) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.)) قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي، حَتَّى قَالَ: ((صُمْ يَوْمًا وَأَنْظِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.)) قَالَ: حُصَيْنٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ

کر اور ایک دن افطار کر لیا کر، یہ افضل روزے ہیں اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر عبادت گزار میں حرص اور رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر ہر رغبت کے بعد آخرستی اور کمی ہوتی ہے، اس کا انجام سنت کی طرف ہوتا ہے یا بدعت کی طرف، پس جس کا انجام سنت کی طرف ہوتا ہے، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس کا انجام کمی اور شکل میں ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔“ امام مجاہد کہتے ہیں: جب سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کمزور اور بوڑھے ہو گئے تو وہ اسی مقدار کے مطابق روزے رکھتے تھے، بسا اوقات چند روزے لگاتا رکھ لیتے، پھر اتنے ہی دن لگاتا افطار کر لیتے، اس سے ان کا مقصد قوت حاصل کرنا ہوتا تھا، اسی طرح کا معاملہ اپنے حزب میں کرتے تھے، کسی رات کو زیادہ حصہ تلاوت کر لیتے اور کسی رات کو کم کر لیتے، البتہ ان کی مقدار وہی ہوتی تھی، یا تو سات دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے، یا تین دنوں میں۔ اور سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بعد میں کہا کرتے تھے: اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کی رخصت قبول کر لی ہوتی تو وہ مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے محبوب ہوتی، جس کا بھی اس سے موازنہ کیا جاتا، لیکن میں عمل کی جس روٹین پر آپ ﷺ سے جدا ہوا تھا، اب میں ناپسند کرتا ہوں کہ اس کی مخالفت کروں۔

فوائد:..... تلاوت کی وہ مقدار جس کو ہر رات کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے، اس کو حزب کہتے ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین سے کم دنوں میں قرآن مجید ختم نہیں کیا جاسکتا اور افضل روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، باقی مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کے ساتھ نرمی کی ہے، ان کو ان کی مصلحتوں کی طرف رہنمائی کی ہے، ان کو کم مقدار لیکن ہمیشگی والے عمل کی ترغیب دلائی ہے اور ان کو تکلف اور اکتاہٹ کا سبب بننے والی کثرت عبادت سے منع کر دیا ہے۔

(۸۹۰۶)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ) سَيِّدَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَ مَرُودِي هُوَ هُوَ كَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

نے فرمایا: ”میانہ روی اختیار کرو اور راہِ صواب پر چلتے رہو، پس بیشک صورتِ حال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔“ صحابہ نے کہا: اور نہ آپ کو اسے اللہ کے رسول!؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور نہ مجھے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔“ (مسند احمد: ۱۴۶۸۲)

فوائد:..... اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ﷺ نے فرمانا چاہتے ہیں کہ عذاب سے نجات اور اجر و ثواب کے ساتھ کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم پر ہے، عامل کے عمل کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کا ثواب دینا اللہ تعالیٰ پر فرض ہو گیا ہے اور وہ بندے کا ایسا حق بن گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا پڑے گا، جبکہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور اس کے اسباب بھی اسی نے مہیا کیے تھے، دراصل نیکی کا اجر و ثواب محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾..... ”اور تم خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔“ (الاعراف: ۵۶) لیکن اس حدیث مبارکہ سے یہ مفہوم کشید نہ کیا جائے کہ عمل کی وقعت ختم ہو گئی ہے، دراصل بندوں کو اس بات پر مطلع کیا جا رہا ہے کہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مکمل ہوگا، تاکہ وہ اپنے اعمال پر ناز کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ عمل کثیر کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج سمجھیں اور اس کے منتظر رہیں۔

اس طرح اس حدیث کا اس آیت سے کوئی تعارض نہیں ہے: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾..... ”اور تم کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا، ان اعمال کے سبب، جو تم کیا کرتے تھے۔“ (سورہ زخرف: ۷۲) خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمل کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن عمل کرنے والوں کو اپنا صلہ پانے اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔

(۸۹۰۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجَالٌ يَتَنَصَّبُونَ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ نَصَبًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تِلْكَ ضَرَاوَةٌ الْإِسْلَامِ وَشَرَّتُهُ، وَلِكُلِّ ضَرَاوَةٍ شَرَّةٌ، وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فِتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَا تَمَّ مَا هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى مَعَاصِي سَيِّئَاتِهِ فَتْرَتُهُ إِلَى مَعَادِيهَا))

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے صحابہ میں سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا، جو بڑی سختی سے عبادت کرنے میں گڑھے چکے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اسلام کا چسکہ، شدت اور حرص ہے اور ہر چسکے کی حرص اور اس میں افراط ہوتا ہے، لیکن ہر افراط کے بعد سستی اور تھماؤ بھی ہوتا ہے، پس جس کا تھماؤ کتاب و سنت کی طرف ہو اس نے سیدھے راستے کا قصد کیا اور جس کی سستی اللہ تعالیٰ کی

اللَّهُ فَذَلِكَ هُوَ الْهَالِكُ...)) (مسند احمد: 6۵۴۰) نافرمانیوں کی طرف ہوئی تو وہ ہلاک ہونے والا ہوگا۔“

فوائد:..... اس موضوع سے متعلقہ مزید ایک روایت یہ ہے:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((إِنَّ لِإِسْلَامٍ شِرَّةً، وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُمَا سَدَدًا وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَرْجُوهُ...)) ”اسلام کے لیے حرص، شدت اور رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے بعد سکون اور تہماؤ ہوتا ہے، (دیکھو) اگر نیک کام کی رغبت رکھنے والا راہ صواب پر چلتا ہے اور میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں امید رکھو (کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوگا) اور اگر (وہ عبادت میں اس قدر غلو کرے کہ) اس کی طرف انگلیوں کے ساتھ اشارے کیے جائیں تو اس کے بارے میں امید نہ رکھو (کہ وہ نیک آدمی ہوگا)۔“ (ترمذی: ۲۳۵۵، صحیحہ: ۲۸۵۰)

اگر کسی شخص کو دین اسلام کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ صاحب دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ حجت کو اسوہ حسنہ قرار دے اور افراط و تفریط سے بچے۔

”اور ہر رغبت کے بعد آخرستی اور کمی ہوتی ہے“ کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت میں مبالغہ کرنے والا بالآخر سخت پڑ جاتا ہے، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔

اس حدیث مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے:

۱..... نیک لوگ، جو اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں، بالخصوص ماں باپ، اہل و عیال اور اعزہ و اقارب کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ان کے معاملات میں تسلسل اور استقامت ہوتی ہے، ان کی عبادت میں اس قدر کثرت نہیں پائی جاتی کہ وہ اس بنا پر مشہور ہو جائیں، عام طور پر ایسے لوگ پر خلوص ہوتے ہیں اور اپنی مراد پر فائز ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے۔

۲..... اس کے برعکس کچھ لوگ عبادت اور نیکی میں اس قدر افراط اور غلو کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں، سب لوگوں میں ان کا بڑا شہرہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں بڑا عابد و زاہد، درویش کامل اور عالم و فاضل ہے۔ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ منگرا اور ریاکار نکلتے ہیں، ان کی غرض شہرت اور ناموری ہوتی ہے، افراط و تفریط میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بیوی بچوں اور ماں باپ کے حقوق پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔

اس میں جاہل درویشوں کا رڈ ہے، جو رات دن مراقبہ اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، سخت سخت ریاضت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو شریعت کا پابند ٹھہرنا چاہیے نہ کہ اپنی عقل کا اور جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرمان کے مطابق اپنے اعمال کو مخفی رکھنا چاہیے۔ ہر وقت یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھا جائے، ہمارے ماحول میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا بہانہ کر کے بندوں کے حقوق سے غفلت برت رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد کا بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل ہیں۔

بعض نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی خطیب کے خطاب یا کسی نیکو کار کی مجلس سے متاثر ہو کر عملی طور پر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہے اور ہفتہ عشرہ تک ان کا عمل جاری رہتا ہے، پھر ان پر غفلت اور سستی کا حملہ ہوتا ہے اور مزاج یکسر بدل جاتا ہے، اس وقت ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی روٹین کو برقرار رکھ کر شیطان کا مقابلہ کریں، یہاں تک کہ دوبارہ پھر رغبت پیدا ہوئے، یہ رغبت ان شاء اللہ دائمی ہوگی، جو لوگ غفلت والے اس پیریڈ میں اپنی روٹین کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی عبادات میں کبھی تسلسل اور دوام نہیں آسکتا، بلکہ وہ اپنی انسانیت کو سمجھنے سے ہی قاصر رہتے ہیں۔

(۸۹۰۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)) (مسند احمد: ۸۵۸۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اتنے عمل کی تکلیف اٹھاؤ، جس کی تم کو طاقت ہے، پس بیشک بہترین عمل وہ ہے، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔“

فوائد:..... تھوڑی مقدار والے قلیل عمل پر دوام اختیار کرنا، اس بڑی مقدار والے عمل سے بہتر اور افضل ہے، جس پر ہمیشگی نہ کی جائے۔

(۸۹۰۹)۔ عَنْ أَبِي صَالِحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلْتُ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتَا: مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ. (مسند احمد: ۲۴۵۴۴)

ابو صالح کہتے ہیں؛ سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پسند تھا، انہوں نے کہا: جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ کم ہو۔

(۸۹۱۰)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ نَسَانَ) عَنْ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: حَدِّثِيَنِي بِأَحَبِّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ،

(دوسری سند) اسود کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: مجھے ایسا عمل بیان کرو، جو رسول اللہ ﷺ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو، انہوں نے کہا: آپ ﷺ کو سب سے پسندیدہ وہ عمل تھا، جس پر آدمی ہمیشگی کرے، اگرچہ اس

(۸۹۰۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۴۲۴۰ (انظر: ۸۶۰۰)

(۸۹۰۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۸۵۶ (انظر: ۲۴۰۴۳)

(۸۹۱۰) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الأول

وَأَنَّ كَانَ يَسِيرًا۔ (مسند احمد: ۲۵۳۳۰) کی مقدار کم ہو۔

(۸۹۱۱)۔ عَنْ عَائِشَةَ ۷ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ نَيْسَىَ اللَّهُ ۷ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا فُلَانَةٌ لِامْرَأَةٍ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ: ((مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، إِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ)) (مسند احمد: ۲۴۷۴۹)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب نبی کریم ﷺ میری پاس تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس فلاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”رہنے دو، تم اپنے اوپر اتنا عمل لازم کرو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں اکتاتا، جب تک تم نہ اکتا جاؤ، بیشک اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دین وہ ہے، جس پر آدمی ہمیشگی اختیار کرے۔“

فوائد:..... یہ خاتون سیدہ حولاء بنت ثویت رضی اللہ عنہا تھیں۔

اکتانے اور نہ اکتانے سے مراد یہ ہے کہ جب تک تم مستعدی کے ساتھ عمل جاری رکھو گے، وہ اجر و ثواب اور نزول رحمت کا سلسلہ جاری رکھے گا اور جب تم عمل ترک کر دو گے تو وہ اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾..... ”انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔“ (سورہ توبہ: ۶۷)

(۸۹۱۲)۔ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ۷ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ ثُوَيْتٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا تَصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَاةً كَثِيرَةً، فَإِذَا غَلَبَهَا النَّوْمُ ارْتَبَطَتْ بِحَبْلِ فَتَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ۷: ((فَلْتَصِلْ مَا قَوِيَتْ عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِذَا نَعَسَتْ فَلْتَنِّمْ)) (مسند احمد: ۲۶۸۴۰)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سیدہ حولاء بنت ثویت، رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزریں، تو آپ ﷺ کو بتلایا گیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ خاتون رات کو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے اور جب اس پر نیند غالب آنے لگتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کر لٹکتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو چاہیے کہ جب تک اس کو طاقت ہو، یہ نماز پڑھے، لیکن جب اونگھنے لگے تو سو جائے۔“

(۸۹۱۳)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۷ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۷ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: لِزَيْنَبَ فَإِذَا كَيْسَلَتْ أَوْ فَرَّتْ

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے، جبکہ وہاں دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی، آپ ﷺ نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے کہا: یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ہے، جب وہ ست پڑتی

(۸۹۱۱) تخريج: أخرجه البخاري ۴۳، ومسلم: ۷۸۵ (انظر: ۲۴۲۴۵)

(۸۹۱۲) تخريج: انظر الحديث السابق

(۸۹۱۳) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۱۵۰، ومسلم: ۷۸۴ (انظر: ۱۱۹۸۶)

ہے تو اس کے ساتھ لگتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو کھول دو، چاہیے یہ کہ آدمی پھرتی اور مستعدی کی حالت میں نماز پڑھے، جب وہ ست پڑ جائے تو قیام ترک کر دے۔“ ایک روایت میں ہے: ”اس کو چاہیے کہ جب تک اس کو سمجھ آ رہی ہو، نماز پڑھے اور جب وہ (نیند کی وجہ) مغلوب ہو جائے تو سو جائے۔“

فوائد: انسان پر جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی سکون ملنا چاہیے، لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے رات کے قیام کا اہتمام نہ کیا جائے۔

(۸۹۱۴)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: ((لِمَنْ هَذَا؟)) قَالُوا: لِحِمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فَإِذَا عَجَزَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ: ((لَتُصَلَّ مَا أَطَاقَتْ، فَإِذَا عَجَزَتْ فَلْتَقْعُدْ.)) (مسند احمد: ۱۲۹۶۶)

سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے دوستوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی اور پوچھا: ”یہ کس کی ہے؟“ صحابہ نے کہا: یہ سیدہ حمنہ بنت جحش کی ہے، جب وہ (نماز پڑھتے پڑھتے) عاجز آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ لگتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھے، پس جب وہ عاجز آ جائے تو (نماز ترک کر کے) بیٹھ جائے۔“

(۸۹۱۵)۔ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.)) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ دَاوَمٍ عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ۲۳] (مسند احمد: ۲۵۰۴۷)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اتنے عمل کا اہتمام کرو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا، حتیٰ کہ تم نہیں اکتا جاؤ گے۔“ سیدہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ وہ نماز پسند تھی کہ جس کو آپ ﷺ دوام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔“

(۸۹۱۴) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابویعلی: ۳۸۳۱ (انظر: ۱۲۹۱۶)

(۸۹۱۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۸۶۱، ومسلم: ۷۸۲ (انظر: ۲۴۵۴۰)

فوائد: ہیئتگی والا عمل، یہی وہ خصلت ہے، جس کی وجہ سے خالق و مخلوق کے مابین تعلق میں مضبوطی آتی ہے اور عبادت میں شیرینی اور لذت محسوس ہوتی ہے، اس وقت مسلمان کلی طور پر ایسے اعمال سے غافل ہیں، الا ماشاء اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ہماری روٹین کی محتاج ہیں، اگر وقت ملا تو نماز کا اہتمام ہوگا، اگر رات کو سونے میں دیر ہو گئی تو فجر کی نماز کو داؤ پر لگا دیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز فجر کی خاطر رات کو جلدی سو جائیں، مغرب کی ایک، دو یا تین رکعتیں رہ جائیں، ہم پہلے پر تکلف افطاری کرتے ہوئے خوب کھائیں گے، اگر بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچا تو غریب کو دیا جائے گا، اگر اپنے گھر کی الجھنوں سے نکلے تو تب ہمسائے کا حق ادا کیا جائے گا، اگر سکول کی تعلیم سے وقت بچا تو تب بچے کو قرآن مجید پڑھایا جائے گا، ہماری زندگی کا ہر شعبہ ان مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ کاش ہم اسلام کو اصل سرمایہ سمجھ لیتے، دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا اور دنیا بھی ہماری تابع ہو جاتی۔

(۸۹۱۶)۔ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنِ الْكَافِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ،
وَلَكِنْ سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا)) (مسند احمد: ۱۸۰۱۱)

سیدنا حکم بن حزن کافی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! بیشک تم کو جن جن امور کا حکم دیا گیا ہے، تم سب کی ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے، البتہ راہِ صواب پر چلتے رہو اور خوشخبری حاصل کرو۔“

(۸۹۱۷) عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمْرَهُمْ بِمَا يُطِيقُونَ مِنَ الْعَمَلِ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَتْ: فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ۔ (مسند احمد: ۲۴۷۹۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ صحابہ کو عمل کا حکم دیتے تو اتنا حکم فرماتے، جس کی وہ طاقت رکھتے، لیکن جب وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول! بیشک ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں، یہ سن کر آپ ﷺ غصے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک میں غصے کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔

فوائد: اس باب کی پہلی حدیث میں ایک مثال بیان ہو چکی ہے۔

قارئین کرام! دین کے معاملے میں انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہے، یہ بات اس دین کے شانیاں شان نہیں ہے کہ خیال آگیا تو اجر و ثواب کے بڑے بڑے کام کر دیئے اور خیال نہ آیا تو نہ رنجی اختیار کر لی، سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بڑی مصلحت اور حکمت کی بھی ضرورت ہے، اس ضمن میں مساجد کے ائمہ و خطباء پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان سے

(۸۹۱۶) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه ابويعلى: ۶۸۲۶، وابن خزيمة: ۱۴۵۲، والبيهقي: ۳/ ۲۰۶ (انظر: ۱۷۸۵۶)

(۸۹۱۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰ (انظر: ۲۴۲۸۹)

گزارش ہے کہ وہ اپنے منصب کو سمجھیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے ہر فرد پر نظر رکھیں اور اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی رہنمائی کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیں، بسا اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اطاعت کا بڑا عمل سرانجام دینا چاہتا ہو، لیکن حالات و واقعات کو دیکھ اہل علم حکمت و بصیرت سے کام لیں اور غور کریں کہ اس آدمی کو اس عمل سے روکنا بہتر ہے یا نہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے بعض صحابہ کو بعض اعمال صالحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

(۸۹۱۸)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَيَدُنَا انس بن مالك رضي الله عنه مروى ہے کہ رسول اللہ ﷺ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا الدُّبْنَ مَتِينٌ، نَعَى فِيهِ دِينَ مَضْبُوطٌ هُوَ، تَمَّ اس مِىنْ زَمِى كَسَا تَهْ فَآوْ غَلُّوْا فِيْهِ بِرَفِىْقِىْ)) (مسند احمد: ۱۳۰۸۳) داخل ہو جاؤ۔“

فوائد:..... اگر ایک آدمی میں کسی تقریر یا ذاتی مطالعہ کی وجہ سے تلاوت کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک ایک پاؤ یا نصف نصف پارے کی تلاوت سے اپنے عمل کا آغاز کرے، پھر مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے، اگر کسی آدمی میں ہمسایوں کے حقوق کے پورا کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک گھر والوں کے حقوق ادا کر کے اپنی رغبت کو برقرار رکھے، پھر آہستہ آہستہ اپنی صلاحیت اور وقت کے مطابق اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ ہر عبادت کے بارے میں یہی قانون ہے، ما سوائے فرض عبادات کے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب لوگوں میں کسی نہ کسی طرح رغبت پیدا ہو جاتی ہے تو اتنی بڑی مقدار میں عمل شروع کرتے ہیں کہ چوتھے پانچویں موقع پر بوریٹ اور آکٹا ہٹ میں جتا ہو کر مکمل عمل کو ترک کر دیتے ہیں۔

قارئین کرام! آپ غور کریں گے کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی لوگوں میں اعمال صالحہ کی بڑی رغبت پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر پانچ نمازوں اور نماز تراویح کی، لیکن رمضان کی پانچ چھ تاریخ تک اکثر لوگوں اور بالخصوص نوجوانوں میں وہ رغبت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ نرمی کے ساتھ رسوخ حاصل نہیں کیا جاتا، لوگ اچانک اعمال صالحہ کی بڑی مقدار پر حملہ تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت اور فطرت اس قدر اہل نہیں ہوتی کہ وہ ان کا ساتھ دے، سو چار پانچ دنوں کے بعد وہی گندی فطرت غالب آجاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں پر مایوسی چھا گئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شامل حال نہیں ہے۔

(۸۹۱۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ)) (مسند احمد: ۱۶۰۳۲) مشتمل ہو۔“

(۸۹۱۸) تخریج: حسن بشواہدہ (انظر: ۱۳۰۵۲)

(۸۹۱۹) تخریج: اسنادہ حسن (انظر: ۱۵۹۳۶)

دن کسی ضرورت کے لیے نکلا، اچانک نبی کریم ﷺ سے میری ملاقات ہو گئی، آپ ﷺ میرے سامنے چل رہے تھے، آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم دونوں اکٹھے چلنے لگے، اچانک ہم نے اپنے سامنے ایسا آدمی دیکھا جو بہت زیادہ رکوع و سجود کر رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا اس کے بارے میں تیرا یہ خیال ہے کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے؟“ میں نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے اوپر نیچے کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ ”میانہ روی والا طریقہ لازم پکڑو، اعتدال والے انداز کا اہتمام کرو، میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جو دین میں تکلف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آجاتا ہے۔“ ایک روایت میں ہے: پس آپ ﷺ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تطبیق دے کر ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو کندھوں کے برابر تک اٹھانے اور پھر نیچے کرنے لگے اور فرمانے لگا: ”میانہ روی والے طریقے کو لازمی پکڑو، تین دفعہ فرمایا، کیونکہ جو آدمی زور آمائی کرے گا، دین اس پر غالب آجائے گا۔“

خَرَجْتُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ يَدِي، فَأَنْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَتَرَاهُ يُرَائِي؟)) فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَصُوبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: ((عَلَيْكُمْ هَدِيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدِيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَدِيًا قَاصِدًا، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ (وَفِي لَفْظٍ) فَأَرْسَلَ يَدِي ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ فَجَمَعَهُمَا وَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا بِحِيَالٍ مَنكَبِيهِ يَضَعُهُمَا وَيَقُولُ: ((عَلَيْكُمْ هَدِيًا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَ الدِّينَ يَغْلِبُهُ.)) (مسند احمد: 23351)

فوائد: ”جو دین میں تکلف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آجاتا ہے۔“ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی طاقت سے بڑھ کر اور تکلف کر کے نیک عمل کرے گا، وہ بالآخر عمل کی کمی کرے گا اور فرائض تک کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا تحقیق اور حکمت و بصیرت والے اہل علم سے رابطہ ہو، وہ اپنی اہلیت اور مصروفیت کو دیکھ کر ان سے شریعت کی روشنی حاصل کریں اور اپنے لیے اعمالِ صالحہ کا معتدل سامع اختیار کریں، نیز ان کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ جب رغبت زیادہ ہو تو کون سا عمل کرنا چاہیے۔

(۸۹۲۲)۔ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَجَاهِدٌ كَيْتَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَجَعَلُوا يَضَعُونَ يَدَيْهِمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُونَ: عَلَيْكُمْ هَدِيًا قَاصِدًا. وَبِخَيْرِ بْنِ جَعْدَةَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ

(۸۹۲۲) سخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الطحاوی فی ”شرح مشکل الآثار“: ۱۲۳۹، والطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۱۸۶ (انظر: ۲۳۴۷۴)

رسول اللہ ﷺ کے پاس بنی عبدالمطلب کی ایک لونڈی کا اس طرح ذکر کیا کہ وہ رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، پس جس نے میری پیروی کی، وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، وہ مجھ سے نہیں ہے، ہر عمل کی حرص، شدت اور افراط تو ہوتی ہے، لیکن پھر سکون اور تہماؤ بھی ہوتا ہے، پس جس کا تہماؤ بدعت کی طرف لے جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا اور جس کا تہماؤ سنت کی طرف لے جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔“

(مسند احمد: ۲۳۸۷۰)

فوائد: حدیث مبارکہ کے آخری حصہ کی وضاحت حدیث نمبر (۸۹۰۷) میں ہو چکی ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: کچھ لوگ بڑی سخت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم ﷺ نے ان کو منع کیا اور فرمایا: ”اللہ کی قسم! بیشک تم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم اتنے عمل کا اہتمام کرو، جتنے کی طاقت رکھتے ہو، پس بیشک اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا، حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے۔“

(۸۹۲۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَنْسَا كَانُوا يَتَعَبَّدُونَ عِبَادَةً شَدِيدَةً، فَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((وَاللَّهِ! إِنِّي لَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ)) وَكَانَ يَقُولُ: ((عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا))

(مسند احمد: ۲۵۴۲۵)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”راہِ صواب پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور آسانی پیدا کرو، پس کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔“ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کا عمل بھی نہیں کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور میں بھی ایسے ہی ہوں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور جان لو کہ

(۸۹۲۴)۔ عَنْهَا أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَدُّوْا وَقَارِبُوا وَيَسِّرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ)) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحْمَةً، وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ

(۸۹۲۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۸۶۱، ومسلم: ۷۸۲ (انظر: ۲۴۹۱۲)

(۸۹۲۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۴۶۴، ومسلم: ۲۸۱۸ (انظر: ۲۴۹۴۱)

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، جس پر بیشکی کی جائے، اگرچہ وہ کم ہو۔“

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.)) (مسند احمد: ۲۵۴۵۴)

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۸۹۰۲)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: سیدہ خویلہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا میرے پاس آئیں، وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، جب رسول اللہ ﷺ نے اس کی پرانگندہ حالت دیکھی تو فرمایا: ”عائشہ! کس چیز نے خویلہ کی حالت کو اتنا بگاڑ دیا ہے؟“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس عورت کا کوئی خاوند نہیں، اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا خاوند دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے اور (اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا) تو یہ ایسی ہی ہو گئی کہ اس کا کوئی خاوند ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بلایا، پس جب وہ آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عثمان! کیا میری سنت سے اعراض کر رہے ہو؟“ انھوں نے کہا: جی نہیں، اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول! بلکہ میں آپ کی سنت کا ہی طلبگار ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس بیشکی میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان! اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، پس بیشکی تجھ پر تیرے اہل کا بھی حق ہے، اس لیے روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر اور نماز بھی پڑھ اور سویا بھی کر۔“

(۸۹۲۵)۔ وَعَنْهَا أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بِنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ السُّلَمِيَّةِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَاذَةَ هَيْبَتِهَا، فَقَالَ لِي: ((يَا عَائِشَةُ! مَا أَبَدَ هَيْبَةَ خُوَيْلَةَ؟)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا، فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا، قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: ((يَا عُثْمَانُ، أَرَعْبَةَ عَنْ سُنَّتِي؟)) قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: ((فَإِنِّي أَنَا وَأَصْلِي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّبِعِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ! فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأُفْطِرْ، وَصَلِّ وَتَمَّ.)) (مسند احمد: ۲۶۸۳۹)

فوائد: ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تمام عبادات اور معاملات کو سامنے رکھا جائے، ایک طرف آپ ﷺ جہادی لشکر ترتیب دیتے وقت جہاد میں شرکت کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، دوسری طرف اس لشکر میں شرکت کے خواہشمند کو یہ حکم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جہاد میں شرکت کرنے کے بجائے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے۔

(۸۹۲۵) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابو داود: ۱۳۶۹ (انظر: ۲۶۳۰۸)

یقین مانیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی میں دین کامل پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق، حج و عمرہ کے تقاضے، جہاد میں شرکت، والدین کا حق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، حصول رزق کے لیے محنت، مہمان کی میزبانی کے لیے وقت اور خرچ، فوٹکیوں اور شادیوں کے معاملات.....

ایک دن ایک اچھا خاصا دین دار اور باشرع آدمی اپنے بھائی کے ویسے میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ نماز عصر فوت ہو گئی، ایک دن ایک مستقل نمازی ایک نماز میں غائب تھا، جب اس سے سب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ درحقیقت یہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے سے عاری ہیں، ہماری زندگیاں بیت گئیں اور ہم اپنے اسلامی نظام الاوقات مقرر نہ کر سکے، وہ ولیمہ کرنے کی توفیق ہی ہوئی، جو کئی لوگوں کی نماز عصر سے محرومی کا سبب بنی، جن مہمانوں کی وجہ سے نمازیں متاثر ہو جائیں، وہ مہمان ہوتے ہیں یا شیطان۔ کیا ولیمہ اور میزبانی کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز سے غفلت برت کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر دی جائے۔

(۸۹۲۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں۔“ تین بار فرمایا۔

(۸۹۲۷)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ آیا، ان میں سے کسی نے کہا: میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا: میں نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا: میں روزے رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، پس جس نے سُئِنِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (مسند احمد: ۳۶۵۵)

(۸۹۲۸)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) إِنَّ نَاسًا سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عِبَادَتِهِ فِي

(۸۹۲۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۷۰ (انظر: ۳۶۵۵)

(۸۹۲۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۴۰۱ (انظر: ۱۳۵۳۴)

(۸۹۲۸) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

السَّرَّ، قَالَ: فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: ”لوگوں ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَسْأَلُونَ عَمَّا أَصْنَعُ..)) فَذَكَرَ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان (مخفی امور عبادت) کے بارے میں الْحَدِيثِ۔ (مسند احمد: ۱۳۷۶۳) سوال کرنے لگ گئے جو میں کرتا ہوں،.....“ الحدیث

فوائد: دراصل یہ حدیث اوپر والی حدیث کا حصہ ہے، نبی کریم ﷺ کے مخفی امور عبادت کے بارے میں سوال کرنا قابل تعریف بات ہے، لیکن اگر نظریہ یہ ہو کہ سوال کرنے والا آپ ﷺ سے بڑھ کر عمل کرے گا تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا۔

بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْاِخْذِ بِالرُّخْصَةِ وَعَدَمِ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ
دین میں رخصت کو قبول کرنے اور سختی نہ کرنے کے مستحب ہونے کا بیان

رخصت: لغوی معنی: سہولت اور آسانی

اصطلاحی معنی: وہ چیز ہے جس کو شارع ﷺ نے ضرورت کے پیش نظر مکلفین سے تخفیف کرتے ہوئے جائز قرار دیا ہو۔ جیسے تیم، عذر کے وقت بیٹھ کر یا لیٹ کر فرضی نماز ادا کرنا اس کے مقابلے کی چیز عزیمت ہے۔

عزیمت: لغوی معنی: پکا عزم کرنا

اصطلاحی تعریف: وہ چیز ہے جس کو شارع ﷺ نے عمومی طور پر طلب کیا ہو۔ جیسے وضو، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔

(۸۹۲۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ رخصتوں پر عمل کرنے کو اس طرح پسند کرتا ہے، جیسے وہ نافرمانیوں کو ناپسند کرتا ہے۔“ (مسند احمد: ۵۸۷۳)

فوائد: دیکھیں حدیث نمبر (۳۸۳۰)، اس مقام پر روزہ کی رخصت کے بارے میں حاصل گفتگو کی گئی ہے، اس سے مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ مزید ایک مثال درج ذیل ہے: سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ والے سال ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلے، آپ ﷺ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور لوگوں نے بھی، جب آپ ﷺ کراغ غمیم کے مقام پر پہنچے تو آپ ﷺ کو بتلایا کہ روزے کی وجہ سے بڑی مشقت میں ہیں، پس آپ ﷺ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اتنا بلند کیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا، پھر آپ ﷺ نے وہ پانی پی لیا، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، لیکن پھر جب آپ ﷺ کو بتلایا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أَوْ لَيْتِكَ الْعَصَاةُ))..... ”یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔“ (صحیح مسلم: ۱۸۷۸)

(۸۹۲۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البزار: ۹۸۸، وابن حبان: ۳۵۶۸، والبیہقی: ۱۴۰ / ۳ (انظر: ۵۸۷۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس حدیث مبارکہ میں مذکورہ بالا حدیث کا معنی واضح کر دیا گیا ہے کہ جب رخصت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ خواہ مخواہ کی مشقت میں پڑ رہا ہو، بلکہ اس کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوگا اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اگر کوئی اشد ضرورت کے وقت بھی رخصت کے معاملے میں تردد میں پڑا رہے تو وہ نافرمان ہوگا۔ بطور مثال چند ایک رخصتیں درج ذیل ہیں:

تیمم کی رخصت، موزوں یا جرابوں پر مسح کرنے کی رخصت، اشارے سے نماز پڑھنے کی رخصت، فرض نماز بیٹھ کر ادا کرنے کی رخصت، بارش اور سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت، بارش کے دوران مسجد میں نہ جانے کی رخصت، مالی استطاعت رکھنے والے بیمار کے لیے یہ رخصت کہ وہ خود حج کے لیے نہ جائے، کسی بندے کو بھیج دے، سفر اور بیماری کی وجہ سے روزے اور نماز کی مخصوص رخصتیں، انتہائی مجبوری میں حرام کھانے کی رخصت وغیرہ، دراصل رخصتیں اسلام کا حسن ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ رخصتوں پر عمل کرنے والوں کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کی نظر میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ جرم کر رہے ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کی کج فہمی ہے، شریعت کسی کے فہم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کا نام ہے، اگر حضر میں نماز ظہر کی دس رکعتیں ہیں تو سفر میں صرف دو، حالانکہ سفر میں دس رکعتوں کی ادائیگی کوئی وبال جان تو نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کا فیصلہ ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، کتنی خوبصورت بات کہی امام زہری رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں: **عَلَى اللَّهِ الْبَيَانُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ**۔..... اللہ تعالیٰ پر واضح کرنا ہے، رسول پر پہنچانا ہے اور ہم پر تسلیم کرنا ہے۔

رخصت کی اقسام:

- ا: بوقت ضرورت حرام چیز کو جائز قرار دینا، جیسے زندگی بچانے کے لئے مجبوراً امر دار کھانا، خون پینا۔
 - ب: واجب کو وقتی طور پر ترک کرنے کی رخصت دینا، جیسے مسافر اور مریض کے لئے رمضان کے روزے۔
 - ج: عام اصول و قواعد سے ہٹ کر بعض تجارتی معاملات کی اجازت دینا، جیسے بیع سلم، جس میں اصل چیز موجود نہیں ہوتی۔
- رخصت کا حکم: رخصت کا اصل حکم تو مباح کا ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد لوگوں سے مشقت کو دور کرنا ہے، جیسے مسافر یا مریض کے لئے رمضان میں روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے۔
- بعض اوقات رخصت کی بہ نسبت عزیمت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے قتل جیسی مجبوری کے وقت زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز تو ہے، لیکن حق پڑے رہنا زیادہ بہتر ہے۔
- کبھی کبھی رخصت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے بھوک کی وجہ سے موت کے خطرے کو ٹالنے کے لئے حرام چیزیں کھا لینا۔

کیونکہ جان بچانا ضروری اور فرض ہے قرآن مجید میں ہے: ﴿لَا تَلْقُوا بآيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة) اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(۸۹۳۰)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ)) (مسند احمد: ۱۷۵۸۷)

سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کی رخصت قبول نہ کی، اس پر عرفہ کے پہاڑوں کی مانند گناہ ہوں گے۔“

(۸۹۳۱)۔ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرِ، فَتَنَزَّ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ، حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ قَوْمٍ يَرْعَبُونَ عَمَّا رَخَّصَ لِي فِيهِ، فَوَاللَّهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَشَدَّهُمْ لَهُ خَشْيَةً)) (مسند احمد: ۲۴۶۸۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک کام میں کوئی رخصت دی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے گریز کیا، پھر جب آپ ﷺ کو یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ اتنے غصے ہو گئے کہ آپ ﷺ کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز سے اعراض کر رہے ہیں، جس میں مجھے (بھی) رخصت دی گئی ہے، اللہ کی قسم! لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا میں ہوں۔“

نوٹ: نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھنے والے اور اس معرفت کے تقاضے پورے کرنے والے تھے، اس لیے آپ ﷺ کے تمام افعال و اعمال و اقوال سر آنکھوں پر۔ یہ خطرناک چیز ہے کہ آپ ﷺ رخصت دیں اور لوگ اس کے بارے میں تردد میں پڑ جائیں۔

بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ

وعظ ونصيحت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

(۸۹۳۲)۔ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ يُدْكَرُ كُلَّ حَمِينٍ، أَوْ ائْتِنِينَ، الْآيَامَ، قَالَ: فَقُلْنَا أَوْ فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّا لَنُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنُشْتَهِيهِ، وَوَدِدْنَا أَنَّكَ

ابو وائل کہتے ہیں: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات یا سوموار کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، ہم نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہم آپ کی گفتگو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کریں، جواب میں سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ

(۸۹۳۰) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة رزق الثقفی، وابن لهيعة سبىء الحفظ وقد اضطرب فى اسناده، أخرجه الطبرانی فى "الاوسط": ۴۵۳۲ (انظر: ۱۷۴۵۰)

(۸۹۳۱) تخریج: أخرجه البخارى: ۶۱۰۱، ۷۳۰۱، ومسلم: ۲۳۵۶ (انظر: ۲۴۱۸۰)

(۸۹۳۲) تخریج: أخرجه البخارى: ۷۰، ومسلم: ۲۸۲۱ (انظر: ۴۴۳۹)

نے کہا: مجھے اس سے روکنے والی چیز یہ ہے کہ میں تمہیں اکتا دینے کو ناپسند کرتا ہوں اور میں نصیحت سے تمہاری ایسے ہی نگہداشت کرتا ہوں، جیسے رسول اللہ ﷺ ہماری کرتے تھے۔

تَدَّكْرْنَا كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ، وَإِنِّي لَا تَخْوَلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا. (مسند احمد: ٤٤٣٩)

شقیق کہتے ہیں: ہم مسجد میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے پاس آنا تھا، اتنے میں یزید بن معاویہ نخی آ گئے اور کہا: کیا میں خود ان کی طرف چلا جاؤں اور ان کو دیکھوں، اگر وہ گھر میں ہوئے تو ان کو تمہاری طرف لے آنا میری ذمہ داری ہوگی، پس سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہما آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر کہا: مجھے تمہارا مقام و مرتبہ یاد آ رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس لیے تمہارے پاس نہیں آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ، رسول اللہ ﷺ ہمارے اکتا جانے کو ناپسند کرتے ہوئے وعظ و نصیحت کرنے میں ہمارا خیال رکھتے تھے۔

(٨٩٣٣)۔ عَنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، يَخْرُجُ عَلَيْنَا فَجَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي النَّخَعِيَّ قَالَ: فَقَالَ: أَلَا أَذْهَبُ فَاَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ لَعَلِّي أَنْ أُخْرِجَهُ إِلَيْكُمْ، فَجَاءَنَا فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ لَيَدَّكُرُنِي مَكَانُكُمْ فَمَا آتَيْكُمْ كَرَاهِيَةً أَنْ أُمْلِكُمْ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا. (مسند احمد: ٣٥٨٧)

فوائد: نبی کریم ﷺ ہر روز خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ وعظ و نصیحت کے معاملے میں سامعین کی دلچسپی اور اکتاہٹ کا خیال رکھتے تھے، موجودہ دور کے مصلح حضرات اور واعظین اس قسم کی مصلحت اور دانائی کا لحاظ نہیں کرتے اور پھر عوام سے یہ شکوہ رکھتے ہیں کہ شرعی مسائل سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔

اگرچہ احوال و اشخاص میں فرق ہوتا ہے، پھر بھی خطباء حضرات کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مستعدی اور شوق کا خیال رکھیں۔

لیکن عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی طرح قرآن و حدیث کے بیانات سننے کا شوق پیدا کریں اور ایسے دروس کی تلاش اور حرص میں رہیں۔

سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ اس قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں یہ بھی ہے: عبید اللہ تواریری کہتے ہیں: میں ناصح بن علاء کے پاس سے گزرتا تھا اور وہ مجھے

(٨٩٣٤)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ

(٨٩٣٣) تخریج: أخرجه البخاری: ٦٨، ٦٤١١، و مسلم: ٢٨٢١ (انظر: ٣٥٨٧)

(٨٩٣٤) تخریج: صحيح لغيره (انظر: ٢٠٦٢١)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مِثْلَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ
الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ أَمْرًا بِنَاصِحٍ فَيُحَدِّثُنِي
فَإِذَا سَأَلْتُهُ الزِّيَادَةَ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُ ذَا
وَكَانَ ضَرِيرًا۔ (مسند احمد: ۲۰۸۹۷)

احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب میں ان سے مزید کا سوال
کرتا تو وہ کہتے: میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ
ناپیدا آدمی تھے۔

بَابُ الْإِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيشَةِ

معیشت میں میانہ روی اختیار کرنا

(۸۹۳۵)۔ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ،
قَرَأْتُ عَلَيَّ أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ
الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجْرِيُّ ، عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَا عَالَ مَنْ
اِقْتَصَدَ))۔ (مسند احمد: ۴۲۶۹)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میانہ روی اختیار کی، وہ محتاج نہیں ہوگا۔“

فوائد: یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن عملی طور پر یہ ایک سنہری اصول ہے کہ معاملات دینی ہوں یا دنیوی، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوگا۔

(۸۹۳۶)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ((مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ
فِي مَعِيشَتِهِ))۔ (مسند احمد: ۲۲۰۳۸) یعنی اعتدال اختیار کرے۔“

سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ آدمی کی سمجھداری کی علامت ہوگی کہ وہ معیشت میں نرمی

فوائد: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ”اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں اور (ان کا خرچ) اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔“ (سورہ فرقان: ۶۷)

(۸۹۳۵) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابراہیم الہجری لین الحدیث، وسکین بن عبد العزیز مختلف فیہ، أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۱۰۱۱۸ (انظر: ۴۲۶۹)
(۸۹۳۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابی بکر بن عبد اللہ، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۳ / ۳۱۳، والبیہقی فی ”الشعب“: ۶۵۶۴ (انظر: ۲۱۶۹۵)

کِتَابُ التَّرْغِيبِ فِي صَالِحِ الْأَعْمَالِ

اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے کے مسائل

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان

سیدنا ابو درداء سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو منبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾..... ”اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی؟ آپ ﷺ نے دوسری دفعہ فرما دیا کہ ”اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔“ میں نے بھی دوسری دفعہ کہہ دیا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ ﷺ نے تیسری دفعہ وہی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا: ”اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات ہیں۔“ ادھر میں نے بھی تیسری دفعہ وہی سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں اور اگرچہ ابو درداء کا ناک خاک آلود ہو جائے۔“

(۸۹۳۷)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْضُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ يَأْرَسُوَلَّ اللَّهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾. فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾. فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾. فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَأْرَسُوَلَّ اللَّهُ! قَالَ: ((نَعَمْ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ)). (مسند احمد: ۸۶۶۸)

فوائد:..... اس حدیث میں اللہ کے خوف کی فضیلت بیان کی گئی ہے، زنا اور چوری کی اجازت نہیں دی گئی، بہتر یہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں کسی چیز کی فضیلت یا مذمت بیان ہو رہی ہو تو اس کے موضوع کو سمجھ کر فضیلت والی چیز کو اپنایا جائے اور مذمت والی چیز سے اجتناب کیا جائے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۵۴۲۸)

اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیتِ الہی ہی ایسا تصور ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کو سرانجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، سینکڑوں آیات و احادیث میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کا درس دیا گیا ہے، ذیل میں اللہ تعالیٰ کے خوف پر آمادہ کرنے والے چند ایک خوبصورت اقوال بیان کیے جاتے ہیں، یہ اقوال (جامع العلوم والحکم: ۱/۱۶۲) سے نقل کیے گئے ہیں:

وہب بن ورد رضی اللہ عنہ نے کہا: خَفِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَ قُدْرَتِهِ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيِي مِنْهُ عَلَى قَدْرِ قُرْبِهِ مِنْكَ..... اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر، جتنی اس کو تجھ پر قدرت حاصل ہے اور اس سے اتنا شرم، جتنا وہ تیرے قریب ہے۔ ایک آدمی نے وہب بن ورد رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ مجھے نصیحت کریں، انہوں نے کہا: اِتَّقِ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ أَهْوَنَ النَّاطِرِينَ إِلَيْكَ..... اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے ڈر جا کہ تجھے دیکھنے والوں میں سے سب سے کم وقعت والا اللہ تعالیٰ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو تو برائی کرنے سے بچے اور جب تو اکیلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ رکھے بغیر اس برائی کا اجتناب کر دے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اہمیت لوگوں کو دی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دی جا رہی۔

سلف صالحین میں سے ایک نے کہا: ابْنُ آدَمَ إِنْ كُنْتَ حَيْثُ رَكِبْتَ الْمَعْصِيَةَ لَمْ تَصِفْ لَكَ مِنْ عَيْنِي نَاطِرِيَةَ إِلَيْكَ فَلَمَّا خَلَوْتَ بِاللَّهِ وَخَدَهُ صِفْتَ لَكَ مَعْصِيَتَهُ وَلَمْ تَسْتَحْيِ مِنْهُ حَيَاءَكَ مِنْ بَعْضِ خَلْقِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا أَحَدٌ رَجُلَيْنِ إِنْ كُنْتَ ظَنَنْتَ أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ وَإِنْ كُنْتَ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَرَاكَ فَلَمْ يَمْنَعَكَ مِنْهُ مَا مَنَعَكَ مِنْ أَضْعَفِ خَلْقِهِ لَقَدْ اجْتَرَأْتَ..... اے ابن آدم! جب تو نے برائی کا ارتکاب کرنا چاہا تو دیکھنے والی آنکھ کی وجہ سے وہ تجھ سے سرزد نہ ہو سکی، لیکن جب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہوا تو اس کا ارتکاب کر دیا اور اللہ سے اتنی بھی شرم نہیں کی، جتنی اس کی مخلوق کے بعض افراد سے کی۔ تو نہیں ہے، مگر دو آدمیوں میں سے ایک، اگر تو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ نہیں رہے تو تو کافر ہو گیا اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ تجھ دیکھ رہا ہے تو یہ چیز تیرے لیے رکاوٹ نہ بن سکی، جبکہ کمزور ترین مخلوق رکاوٹ بن گئی تھی، تو یقیناً تو نے اللہ تعالیٰ پر جرات کی۔

کسی نے رات کو ایک بدو خاتون سے برائی کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے کہا: مَا يَرَانَا إِلَّا الْكَوَاكِبُ..... اب تو ہمیں صرف ستارے دیکھنے والے ہیں، اس نے آگے سے جواب دیا: أَيْنَ مُكُونِكُمْهَا؟..... ستاروں کو چمکانے والا کہاں ہے؟

امام احمد رضی اللہ عنہما یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبٌ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنْ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ

”جب تو کسی وقت خلوت میں ہو تو یہ نہ کہہ کہ میں علیحدہ ہو گیا ہوں، بلکہ کہہ کہ مجھ پر نگہبان موجود ہے۔“
کبھی یہ گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ کسی لمحے غافل ہو جاتا ہے اور نہ یہ خیال کر کہ جو چیزیں تجھ پر مخفی ہے، وہ اس سے بھی

غائب ہیں

ابن سہاک رحمہ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

يَا مُذْمِنَ الذَّنْبِ أَمَا تَسْتَحْيِي وَاللَّهُ فِي الْخَلْوَةِ ثَانِيكََا
عَرَّكَ مِنْ رَبِّكَ إِمَهَالَهُ وَسِتْرُهُ طَوْلَ مَسَاوِيكََا

”گناہوں پر ہمیشگی کرنے والے کیا تو شرماتا نہیں ہے، جبکہ خلوت میں تیرا دوسرا اللہ ہوتا ہے۔“

تیرے پروردگار کے مہلت دینے نے تجھے دھوکہ دے رکھا ہے اور اس چیز نے کہ اس نے تیری برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔

سید مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث سننے کے بعد اب اس وقت تک کسی شخص کے بارے میں خیر یا شر کا فیصلہ نہیں کرتا، جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ کس عمل پر اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، کسی نے کہا: کون سی حدیث تو نے سنی ہے؟ میں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”ابن آدم کا دل اس ہڈیا سے بھی زیادہ الٹ پلٹ ہونے والا ہے، جو ساری کی ساری اٹل رہی ہو۔“

(۸۹۳۸)۔ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: قَالَ الْمُقَدَّادُ بْنُ الْأَسْوَدِ: لَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ خَيْرًا وَلَا شَرًّا حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُخْتَمُ لَهُ، يَغْنَى بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنْ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيَا)) (مسند احمد: ۲۴۳۱۷)

فوائد: پہلے دور کے لوگ رسوخ والے اور اپنے اپنے نظریوں پر قائم رہنے والے ہوتے تھے، عمر حاضر میں اقرار، متانت اور شجیدگی جیسی صفات نایاب ہوتی جا رہی ہیں، اسی کی ایک شق یہ ہے کہ لوگوں کا نیکیوں سے برائیوں کی طرف اور برائیوں سے نیکیوں کی طرف منتقل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلتا، زیادہ غالب چیز یہی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت اور محبت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدعملی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔

(۸۹۳۹)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَدِنَا نَسْ بِن مَالِكِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يَا كَثْرَتِ سَيِّئَاتِكُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقُلُوبَ!)) (مسند احمد: ۲۴۳۱۷)

(۸۹۳۸) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الطبرانی: ۶۰۳ / ۲۰، والحاكم: ۲ / ۲۸۹ (انظر: ۲۳۸۱۶)

(۸۹۳۹) تخریج: اسنادہ قوی علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۲۱۴۰، وابن ماجه: ۳۸۳۴ (انظر: ۱۲۱۰۷)

مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.))
 فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَاهْلُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 اتَّخَفُفْ عَلَيْنَا؟ وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ
 بِهِ، قَالَ: ((إِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 يُقَلِّبُهَا.)) (مسند احمد: ۱۲۱۳۱)

ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ (اے دلوں کو الٹ پلٹ کر دینے والے! میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا)۔“
 آپ ﷺ کے صحابہ اور اہل وعیال نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے، جبکہ ہم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یشک تمام دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔“

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے ایک آدمی کے مال و دولت میں بڑی برکت عطا کی تھی، یہاں تک کہ اس کا زمانہ گزر گیا اور نیا زمانہ آنے لگا، پس جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے کہا: تم نے مجھے کیسا باپ پایا؟ انھوں نے کہا: بہترین باپ، اس نے کہا: کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، اس نے کہا: دیکھو، جب میں مر جاؤں تو تم نے مجھے اتنا جلانا ہے کہ میں کوئلے بن جاؤں۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! انھوں نے ایسے ہی کیا۔“ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا: ”پھر مجھے ہاون دستے سے کوٹ دینا۔ انھوں نے ایسے ہی کیا، پھر مجھے (یعنی میری راکھ کو) ہوا والے دن سمندر میں اڑا دینا، ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے چھپ جاؤں۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”پس اللہ کی قسم! انھوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قبضے میں کر کے پوچھا: اے آدم کے بیٹے! تجھے یہ کاروائی کرنے پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا: اے میرے رب! تیرا ڈر تھا، پس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوتاہی کو معاف کر دیا۔“

(۸۹۴۰)۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَعَسَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَالًا وَوَلَدًا، حَتَّى ذَهَبَ عَصْرُهُ وَجَاءَ عَصْرٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَيُّ بَنِي! أَيُّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُ آبٍ، قَالَ: أَنْتُمْ مُطِيعِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: انظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ أَنْ تُحَرِّقُونِي حَتَّى تَدَعُونِي فَحَمًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَفَعَلُوا وَاللَّهِ! ذَلِكَ)) ثُمَّ أَهْرَسُونِي بِالْمَهْرَاسِ يَوْمِي بِيَدِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَفَعَلُوا وَاللَّهِ! ذَلِكَ)) ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ رِيحٍ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.)) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَفَعَلُوا وَاللَّهِ! ذَلِكَ)) فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى، فَقَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَيُّ رَبِّ مَخَافَتِكَ، قَالَ: فَتَلَا فَاَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا.)) (مسند احمد: ۲۰۲۶۱)

سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: ”پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کر لیا اور کہا: تو نے ایسے کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا: تیرے ڈر کی وجہ سے، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔“ عقبہ بن عمرو نے کہا: میں نے سنا ہے کہ وہ کفن چور تھا۔

(۸۹۴۱)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: ((فَجَمَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ)) قَالَ عَقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ، وَكَانَ بَاشًا. (مسند احمد: ۲۳۷۴۵)

فوائد:..... ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ اس آدمی کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اس کی میت کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾..... ”بیشک نہ زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر مخفی ہے اور نہ آسمان میں۔“ (سورہ آل عمران: ۵)

نیز اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس آدمی کے نظریہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی راکھ خواؤں اور سمندروں میں اڑادی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرنے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔

اس سوال کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں، تین درج ذیل ہیں:

- ۱۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتا تھا، لیکن کسی فترہ کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے اس کو کسی نبی کی مکمل تعلیمات کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور ایمان کی تمام شرائط سے ناواقف تھا۔
- ۲۔ ممکن ہے کہ اس آدمی نے یہ وصیت اس وقت کی ہو، جب دہشت اور خوف کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔
- ۳۔ ممکن ہے کہ یہ آدمی خلوص کے ساتھ کسی شریعت کا تابع ہو، لیکن مکمل معلومات حاصل کرنے سے پہلے انتقال کر گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کر جلا دینا اور کوئلہ بنا دینا، پھر پیس دینا اور ہوا والے دن سمندر میں اڑا دینا، انھوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اچانک وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا: تجھے کسی چیز نے اس کارروائی پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا:

(۸۹۴۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا التَّوْحِيدَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ، فَخُدُّونِي وَاحْرُقُونِي، حَتَّى تَدْعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ رَاحٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ،

(۸۹۴۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۴۵۲، ۳۴۷۹ (انظر: ۲۳۳۵۳)

(۸۹۴۲) تخریج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ۵۱۰۵، والطبرانی في "الكبير": ۱۰۴۶۷ (انظر: ۳۷۸۴)

قَالَ: فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.)) قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ۔ (مسند احمد: ۳۷۸۴)

فوائد: سابقہ حدیث کے فوائد ملاحظہ فرمائیں۔

(۸۹۴۳)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ۔ (مسند احمد: ۱۱۱۱۲)

(۸۹۴۴)۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالَا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟) فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَالَ: ((أَنْتَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا إِتَّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ.)) (مسند احمد: ۲۱۰۱۹)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

ابوقتادہ اور ابو دہماء سے مروی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے، وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ ہم ایک دیہاتی آدمی کے پاس آئے اور کہا: کیا تو نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ اس بدو نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بعض وہ چیزیں سکھائیں، جن کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔“

فوائد: کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، مسلمان کی زندگی کے لمحہ لمحہ کو شامل ہے، یہ فرمانِ عالی شان اس قابل ہے کہ ہر اقدام سے پہلے اس کو مدنظر رکھا جائے، زندگی حقیقی لذتوں سے بھر جائے گی۔

بَابُ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ مُطْلَقًا

مطلق طور پر نیکی اور اطاعت کے اعمال کرنے کی ترغیب دلانے کا بیان

(۸۹۴۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَى مَا سَأَلْتُكُمْ)) (مسند احمد: ۲۱۰۱۹)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں واضح دلائل اور ہدایت کی روشنی میں سے جو

(۸۹۴۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۴۷۸، ۶۴۸۱ (انظر: ۱۱۰۹۶)

(۸۹۴۴) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه البيهقي: ۳۳۵ / ۵ (انظر: ۲۰۷۳۹)

(۸۹۴۵) تخریج: اسنادہ ضعيف لضعف قزعة بن سويد الباهلي، أخرجه الحاكم: ۴۴۳ / ۲ (انظر: ۲۴۱۵)

چیزیں تمہارے پاس لایا ہوں، ان پر تم سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، مگر اتنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرو اور اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرو۔“

أَتَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهَدَىٰ أَجْرًا، إِلَّا أَنْ تَوَدُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنْ تَقْرَبُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ. ((مسند احمد: ۲۴۱۵))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کہا: اے آدم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غسلی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا تو تیرے سینے کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو پورا نہیں کروں گا۔“

(۸۹۴۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا بَنِي آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غَنَى، وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفَعَّلَ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرَكَ.)) (مسند احمد: ۸۶۸۱)

فوائد:..... اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور دنیوی معاملات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہوئے اس پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ مثلاً معاملات کے سلسلے میں صرف ان چیزوں کا کاروبار کیا جائے، جن کی تجارت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور ان اشیاء کی خرید و فروخت سے مکمل اجتناب کیا جائے، جو شریعت کی روشنی میں حرام ہیں۔ مثلاً سگریٹ، نسوار، ہیروئن، چرس، شیو کرنا، بالوں کو کالا رنگ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی کا کوئی سرکاری یا پرائیویٹ کام ہو تو امانت و دیانت سے متصف ہو کر اور نگران کی موجودگی و عدم موجودگی کی پرواہ کئے بغیر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے اور نماز فجر، نماز عشاء کے وقت یا تعطیل کی صورت میں کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر اور تلاوت قرآن کے ذریعے روح میں پیدا ہونے والی آلودگی کو صیقل و زائل کیا جائے۔

اس سلسلے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کاروبار، کھیتی باڑی اور دفتری کام کے دوران اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے فوراً پورا کیا جائے۔ مثلاً نماز کا وقت، کسی تنگدست کی معاونت، کسی بیمار کی تیماری داری، کسی مہمان کی میزبانی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ کسی دنیوی پہلو کو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر ترجیح نہ دی جائے اور حسب استطاعت نقلی عبادت کا بھی اہتمام کیا جائے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہونے سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ موجود رہے۔

(۸۹۴۷)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: سَيَدْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانًا كَرْتِي هِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ

(۸۹۴۶) تخريج: اسنادہ محتمل للتحسين، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۰۷، والترمذی: ۲۴۶۶ (انظر: ۸۶۹۶)

(۸۹۴۷) تخريج: اسنادہ ضعيف، صدقة بن موسى ضعفوه، أخرجه الطيالسي في "مسندہ": ۲۵۸۶،

والبزار: ۶۶۴ (انظر: ۸۷۰۸)

فرمایا: ”تمہارے رب نے کہا: اگر میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو میں ان پر رات کو بارش نازل کروں گا اور دن کو سورج کو نکال دوں گا اور انہیں گرج کی آواز تک نہیں سناؤں گا۔“

سیدنا عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور پھر فرمایا: ”اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔“ پھر آپ ﷺ مردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”بیٹک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور درست بات کہا کرو۔“ پھر آپ ﷺ بیچوں بیچ سے عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا: ”بیٹک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ حکم دوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور درست بات کہا کرو۔“ پھر آپ ﷺ مردوں کے پاس واپس تشریف لے آئے اور فرمایا: ”جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں داخل ہو اور تمہارے پاس نیزہ ہو تو اس کے پھلکے کو پکڑ کر رکھو تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو مار دو اور اس طرح اس کو تکلیف پہنچاؤ یا زخمی کر دو۔“

سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس میں عاجزی پیدا کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ پر تمنا کرنے لگے۔“

((قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطْرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ.)) (مسند احمد: ۸۶۹۳)

(۸۹۴۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ ابْتُؤُوا.)) ثُمَّ أَتَى الرَّجَالَ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرْكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ، وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.)) ثُمَّ تَخَلَّلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرْكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.)) قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى أَتَى الرَّجَالَ فَقَالَ: ((إِذَا دَخَلْتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَسْوَاقَهُمْ، وَمَعَكُمْ النَّبْلُ، فَخُذُوا بِنُصُولِهَا، لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فِتْوَذُوهُ أَوْ تَجْرَحُوهُ.)) (مسند احمد: ۱۹۷۱۷)

(۸۹۴۹)۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.)) (مسند احمد: ۱۷۲۵۳)

(۸۹۴۸) تخريج: قوله منه: ”إذا دخلتم مساجد..... إلى آخر الحديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف

ليث بن ابي سليم (انظر: ۱۹۴۸۸)

(۸۹۴۹) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي بكر بن ابي مریم أخرجه الترمذی: ۲۴۵۹، وابن ماجه:

۴۲۶۰ (انظر: ۱۷۱۲۳)

فوائد:..... بہر حال عقل مند ہی یہی کہ آخرت کو ترجیح دی،

(۸۹۵۰)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيْقَةٌ قَدْ خَفَقَتْهُ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَأَنْفَكَتْ حَلَقَةً ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى ، فَأَنْفَكَتْ حَلَقَةً أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ)) (مسند احمد: ۱۷۴۴۰)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے، جس نے گلے کو دبا دینے والی تنگ زرہ پہن رکھی ہو، پھر جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا کھل جاتا ہے، پھر جب وہ کوئی اور نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا کھل جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ زمین پر گر جاتی ہے۔“

فوائد:..... برائیاں آدمی کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں، لیکن برآ آدمی نیکیوں والی راحت سے اس قدر محروم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس تنگی کو محسوس تک نہیں کر سکتا، اس کے برعکس نیکیوں سے انشراح صدر ہوتا ہے اور دل و دماغ کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔

(۸۹۵۱)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاؤُهُ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ حَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا بُشْرِكَ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً ، مَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتِيَهُ هَرَوَلَةً)) (مسند احمد: ۲۱۶۸۷)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کہتا ہے: جس نے نیکی کی، میں اس کو دس گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا اور جس نے برائی کی، تو اس کا بدلہ اسی کی مثل ہو گا یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جس نے زمین بھرنے کے بقدر گناہ کیے اور پھر مجھے اس حال میں ملا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اس کو اس کے گناہوں کے بقدر بخشش عطا کر دوں گا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوا، میں دو بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہو جاؤں گا اور جو میری طرف چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔“

فوائد:..... توبہ سے ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، بشرطیکہ وہ خالص ہو۔

(۸۹۵۰) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۱۷ / ۷۸۳ (انظر: ۱۷۳۰۷)

(۸۹۵۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۸۷ (انظر: ۲۱۳۶۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "بیشک اللہ تعالیٰ نے کہا: جب میرا بندہ ایک باشت میرے قریب ہو کر مجھے ملتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو کر اسے ملتا ہوں، اسی طرح اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب وہ دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے جلدی اس کے قریب ہوتا ہوں۔"

سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ فسطاط میں منبر پر بیان کر رہے تھے، سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جو آدمی ایک باشت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دو بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہے، جو چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا اور بہت بڑے جلال والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا اور بہت بڑے جلال والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا اور بہت بڑے جلال والا ہے۔"

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کا ردیف تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: "اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟" میں نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ حق یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔" پھر

(۸۹۵۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ بِأَسْرَعٍ)) (مسند احمد: ۸۱۷۸)

(۸۹۵۳)۔ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْفُسْطَاطِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شِبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شِئَا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مُهْرًا وَلَا، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ)) (مسند احمد: ۲۱۷۰۲)

(۸۹۵۴)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)) قَالَ: ((فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا

(۸۹۵۲) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۷۵ (انظر: ۸۱۹۳)

(۸۹۵۳) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۱۶۴۶ (انظر: ۲۱۳۷۴)

(۸۹۵۴) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ۴۲۹۶ (انظر: ۲۲۰۰۶)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم یہ جانتے ہو کہ جب بندے یہ حق ادا کر دیں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہوتا ہے؟“ میں نے کہا: جی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس چیز کی لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”رہنے دو، تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔“

هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) زَادَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((دَعَهُمْ يَعْمَلُوا)) (مسند احمد: ۲۲۳۵۶)

فوائد: اس میں امت مسلمہ کے شرف کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی

رحمت کا مستحق قرار دیا ہے۔

اس حدیث مبارکہ کا آخری جملہ انتہائی قابل غور ہے، یعنی زیادہ اجر و ثواب والے اعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مزید عمل کرنا ترک کر دے، دیکھیں اس قسم کی احادیث کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، لیکن انھوں نے ان کی وجہ سے کسی عمل کو ترک کرنا گوارا نہ کیا، نیز اگلی حدیث پر غور کریں۔

اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی نیکی کو حقیر نہ جان، پس اگر کچھ دینے کے لیے تیرے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے بھائی کو ہنس مکھ اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیا کر۔“

(۸۹۵۵) - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالِقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقِ)) (مسند احمد: ۲۱۸۵۲)

فوائد: کسی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، ہر معاشرے میں اس کو معمولی نیکی سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے

اس معاملے میں غفلت کرنے والے زیادہ افراد نظر آتے ہیں، لیکن آپ ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر ترک نہ کیا جائے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو تو شہ آخرت تیار کیا جائے۔

سابق حدیث کا لب لباب یہ تھا کہ بڑے عمل کی وجہ سے دوسرے اعمال صالحہ سے غفلت نہ برتی جائے اور اس حدیث میں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ترک نہ کیا جائے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا نعمان بن قوئل رضی اللہ عنہ،

(۸۹۵۶) - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى

(۸۹۵۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۲۶ (انظر: ۲۱۵۱۹)

(۸۹۵۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵ (انظر: ۱۴۳۹۴)

عمل کی تعلیم دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ تو نے بات تو مختصر کی ہے، لیکن مسئلہ بڑا پیش کر دیا ہے، جواب یہ ہے کہ تو مکمل غلام آزاد کر یا کسی غلام کی آزادی میں کچھ حصہ ڈال دے۔“ میں نے کہا: کیا ”عِنْتُقُ النَّسَمَةَ“ اور ”فَكُّ الرِّقَبَةِ“ ایک ہی چیز نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، ”عِنْتُقُ النَّسَمَةَ“ سے مراد یہ ہے کہ تم خود مکمل غلام کو آزاد کرو اور ”فَكُّ الرِّقَبَةِ“ یہ ہے کہ تم کسی غلام کی آزادی میں کچھ حصہ ڈال دو، زیادہ دودھ والے جانور کا عطیہ دینا، ظالم رشتہ دار پر مہربانی کرنا اور اس سے نیکی کرنا، پس اگر تم کو اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اور اگر تم کو اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنی زبان کو روک لینا، ما سوائے امور خیر کے۔“

يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: ((لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتَقِ النَّسَمَةَ، وَفَكِّ رَقَبَةً.)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّ عِنْتُقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفْرَدَ بِعِنْقِهَا، وَفَكُّ الرِّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِنْقِهَا، وَالْمِنْحَةَ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّجْحِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَاطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفِّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ.)) (مسند احمد: ۱۸۸۵۰)

نوٹ: معلوم ہوا کہ خیر کا کم از کم مرتبہ یہ ہے آدمی اپنے زبان کا غلط استعمال نہ کرے، کیونکہ اگر کسی آدمی میں کوئی عمل کرنے کی طاقت نہ ہو تو یہ تو اس کے بس کی بات ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، ہاں اگر خیر کی بات ہو تو وہ کرے۔

لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوگوں بڑے بڑے عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔

سیدنا عبد اللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، ایسا جہاد کہ جس میں کوئی خیانت نہ ہو اور حج میرور۔“ کسی نے کہا: کون سی نماز افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لمبا قیام کرنا۔“ کسی نے کہا: کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کم مایہ آدمی کی طاقت کے بقدر۔“ کسی نے کہا:

(۸۹۶۰)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَشِيِّ ن لِحَنْعَمِي ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُنِلَ أَيُّ لَأَعْمَالٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.)) قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طَوْلُ الْقُنُوتِ.)) قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جَهْدُ الْمُقِلِّ.)) قِيلَ: فَأَيُّ

(۸۹۶۰) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه مختصراً ومطولاً ابوداود: ۱۳۲۵، ۱۴۴۹، والنسائی: ۵ / ۵۸ (انظر: ۱۵۴۰۱)

کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی نے اللہ کے حرام کردہ امور کو ترک کر دیا، اس کی یہ ہجرت (یعنی حرام کاموں کو چھوڑ دینا) افضل ہے۔“ کسی نے کہا: کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مال و جان سمیت مشرکین سے جہاد کرنا۔“ پھر یہ سوال کیا گیا کہ کون سا قتل (یعنی شہادت) بلند مرتبہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس میں مجاہد کا خون بہا دیا جائے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں۔“

الْهِجْرَةَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ)) قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ)) قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: ((مَنْ أُهْرِيَقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ)) (مسند احمد: ۱۵۴۷۶)

فوائد:..... حج مبرور وہ ہے جس میں حاجی اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ و سالم رہتا ہے۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سی نماز افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لجے قیام والی۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور جس کا خون بہا دیا جائے۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور کو ترک کر دیا۔“ اس نے کہا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“

(۸۹۶۱)۔ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((طَوَّلُ الْقُنُوتِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُرِيَقَ دَمُهُ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ هَجَرَ مَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْمُوَجِّبَاتُ؟ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)) (مسند احمد: ۱۵۲۸۰)

فوائد:..... حقیقی مجاہد اور مہاجر وہی ہے جو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ترک کر

دئے اگر ایک انسان ہجرت (یعنی ترک وطن) اور جہاد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے پرہیز نہیں کرتا تو ایسی ہجرت اور جہاد کا کیا فائدہ جو اس کے نفس میں ہی نیکی کا رجحان پیدا نہ کر سکے؟ ہجرت اور جہاد تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے اوامرو نواہی کی پابندی کی جائے وہ پابندی اپنا وطن چھوڑنے کی صورت میں ہو یا اسلام کی سر بلندی کے لئے اللہ کے دشمنوں سے بچنے آزمانی کرنے کی صورت میں یا شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کی صورت میں۔

سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جو کہ یکتا ذیگانہ ہے، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، یہ عمل تو باقی اعمال سے اس طرح فضیلت لے جاتا ہے، جیسے سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان فاصلہ ہے۔“

سیدنا جریر بن عبد اللہ نخعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھ پر کوئی شرط لگاؤ، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرضی نمازیں ادا کرو، فرضی زکوٰۃ ادا کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو اور کافر سے بری ہو جاؤ۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا: کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو مالکوں کے ہاں سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ قیمت والی ہو۔“ میں نے کہا: اگر مجھ میں یہ عمل

(۸۹۶۲)۔ عَنْ مَا عِزِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيَّنَّ مَطْلَعَ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا.)) (مسند احمد: ۱۹۲۱۹)

(۸۹۶۳)۔ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اشْتَرِطْ عَلَيَّ؟ قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِ، وَتَبْرَأَ مِنَ الْكَافِرِ.)) (مسند احمد: ۱۹۳۶۶)

(۸۹۶۴)۔ عَنْ أَبِي مُرَّوْحٍ، عَنِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ.)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَعْلَاهَا ثَمَنًا.)) قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ؟

(۸۹۶۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر" ۲۰ / ۸۱۱ (انظر: ۱۹۰۱۰)

(۸۹۶۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه النسائی: ۷ / ۱۴۷ (انظر: ۱۹۱۵۳)

(۸۹۶۴) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۱۸، ومسلم: ۸۴ (انظر: ۲۱۳۳۱)

قَالَ: ((تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأُخْرَقَ-))
 وَقَالَ: فَإِن لَّمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: ((كُفَّ أَذَاكَ
 عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَنْ
 نَفْسِكَ-)) (مسند احمد: ۲۱۶۵۷)

کرنے کی طاقت نہ ہو تو؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ”تو
 کسی ہنرمند کی معاونت کر دیا کرو یا کسی بے ہنر انسان کا کوئی
 کام کر دیا کرو۔“ میں نے کہا: اگر میں یہ کار خیر کرنے سے بھی
 عاجز رہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم لوگوں کو اپنے شر
 سے محفوظ رکھو یہ بھی تمہارا اپنے آپ پر صدقہ ہوگا۔“

فوائد:..... خیر کام از کم مرتبہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، جبکہ آج بڑی بڑی نیکیوں کا دعویٰ

کرنے والے اس کم سے کم مرتبے سے محروم ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی
 کریم ﷺ سے سوال کیا اور کہا: اے اللہ کے نبی! کون سا
 عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟..... پھر اوپر والی
 حدیث کی طرح ذکر کیا۔

(۸۹۶۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا
 آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ
 الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَهُ. (مسند احمد:
 ۹۰۲۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: ”کیا میں تمہیں بہترین مخلوق کے بارے میں بتلا نہ
 دوں؟“ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول!
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی ہے جس اللہ تعالیٰ کے راستے
 میں گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو، جب کبھی کہیں سے کوئی
 خوفناک آواز آتی ہے تو وہ اس پر سوار ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔
 اب کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں بھی نہ بتلا دوں،
 جس کا مرتبہ اس سے کچھ کم ہے۔“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں،
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے ایک ریوڑ
 میں ہو اور نماز ادا کرتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو۔ اب کیا میں تمہیں بد
 ترین آدمی کے بارے میں نہ بتلا دوں؟“ انھوں نے کہا: جی
 کیوں نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ہے، جس سے اللہ
 تعالیٰ کے نام پر سوال کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتا۔“

(۸۹۶۶)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ! ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ؟))
 قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((رَجُلٌ
 آخِذٌ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
 كُلَّمَا كَانَتْ هَيْعَةً، اسْتَوَى عَلَيْهِ- أَلَا
 أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ؟)) قَالُوا: بَلَى، قَالَ:
 ((الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ مِنْ غَنَمِهِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟))
 قَالُوا: بَلَى قَالَ: ((الَّذِي يُسْتَلُّ بِاللَّهِ وَلَا
 يُعْطَى بِهِ-)) (مسند احمد: ۹۱۳۱)

(۸۹۶۵) تخريج: اسنادہ حسن، أخرجه البخاری فی ”خلق افعال العباد“: ۱۵۵ (انظر: ۹۰۳۸)

(۸۹۶۶) تخريج: حدیث صحیح، أخرجه مسلم: ۱۸۸۹ دون قوله: ”ألا أخبركم بشر البرية.....“ (انظر: ۹۱۴۲)
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد:..... اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنا، اس کی مفصل حقیقت جاننے کے لیے ملاحظہ ہو: حدیث نمبر (۳۵۵۲)

(۸۹۶۷)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتُهَا))، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ))، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))، قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي۔ (مسند احمد: ۳۸۹۰)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔“ میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔“ میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“ آپ ﷺ نے مجھے یہ امور بیان کیے اور اگر میں آپ ﷺ سے زیادہ کا مطالبہ کرتا تو آپ ﷺ نے بھی مجھے زیادہ بتلانا تھا۔

(۸۹۶۸)۔ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ))۔ (مسند احمد: ۲۷۱۳۴)

سیدہ شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا، جو کہ مہاجر صحابیات میں سے تھیں، سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج مبرور ادا کرنا۔“

(۸۹۶۹)۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔ (مسند احمد: ۷۵۸۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے اس قسم کی حدیث بیان کی ہے۔

(۸۹۷۰)۔ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَأَ أَمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ لِنَاسٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى الْجُدْعَاءِ وَأَضَعُ رِجْلَهُ فِي عَرْزِ الرَّحْلِ يَتَطَاوَلُ يَقُولُ: ((أَلَا تَسْمَعُونَ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آخِرِ الْقَوْمِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ((اعْبُدُوا رَبَّكُمْ،

سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جبکہ آپ ﷺ جدعاء اونٹنی پر سوار تھے، اپنا پاؤں رکاب میں رکھا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر اونچے ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم سن رہے ہو؟“ لوگوں کے پیچھے سے ایک آدمی نے کہا: آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے

(۸۹۶۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۷، ۵۹۷۰، ومسلم: ۸۵ (انظر: ۳۸۹۰)

(۸۹۶۸) تخریج: صحيح لغيره، أخرجه الطبرانی: ۲۴ / ۷۹۱ (انظر: ۲۷۰۹۴)

(۸۹۶۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۶، ۱۵۱۹، ومسلم: ۸۳ (انظر: ۷۵۹۰)

(۸۹۷۰) تخریج: اسنادہ صحيح علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۶۱۶ (انظر: ۲۲۱۶۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرمایا: ”اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پانچ نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ میں نے کہا: اے ابوامامہ! تم نے یہ حدیث کب سنی تھی؟ انھوں نے کہا: اس وقت سنی تھی، جب میری عمر تیس سال تھی۔

(۸۹۷۱)۔ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ) وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتِقُهَا.)) (مسند احمد: ۲۲۵۱۴)

فوائد: صدقہ، صدقہ کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ منافق عدم ایمان کی وجہ سے صدقہ و خیرات سے اجتناب کرتا ہے۔

جو صبر شریعت میں محبوب ہے، وہ مراد ہے، یعنی نیکیوں کی ادائیگی اور برائیوں سے اجتناب پر صبر کرنا اور اسی طرح جسمانی اور روحانی پریشانیوں پر صبر کرنا۔

ہر صبح کو ہر انسان اپنے جسم کا سوا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کو بیچتا ہے اور جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور کوئی غفلت میں پڑھ کر اور شیطان کے پیچھے چل کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس معاملے میں انسانوں کی یہ دو ہی قسمیں ہیں، ہر انسان آسانی سے اپنی ذات کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

(۸۹۷۲)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَيِّدُنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانِ كَرْتِهِ هِيَ كَرْتُهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(۸۹۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۳ (انظر: ۲۲۹۰۸)

(۸۹۷۲) تخریج: اسنادہ حسن ان كان ابن معانق سمعه من ابي مالك، لكن له شواهد، أخرجه الطبرانی فی

”الكبير“: ۳، ۴۶۷، وابن خزيمة: ۲۱۳۷، وعبد الرزاق: ۲۰۸۸۳، والبيهقي: ۴ / ۳۰۰ (انظر: ۲۲۹۰۵) كتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے فرمایا: ”بیشک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر سے ان کے باہر کے سماں کو اور باہر سے ان کے اندر کے منظر کو دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے تیار کیا ہے، جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم کلام کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔“

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَالآنَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامًا.)) (مسند احمد: ۲۳۲۹۳)

فوائد:..... آخر میں رات کے قیام کا بیان ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے لیے جو نرم کلام کرتا ہے، کھانا کھلاتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہوئے رات گزارتا ہے، جبکہ اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔“

(۸۹۷۳)۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَفِيهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامًا.)) (مسند احمد: ۶۶۱۵)

سیدہ درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، جبکہ آپ ﷺ منبر پر تھے، اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔“

(۸۹۷۴)۔ وَعَنْ دُرَّةِ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ ﷺ: ((خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَتْقَاهُمْ، وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْتَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمٍ.)) (مسند احمد: ۲۷۹۸۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ

(۸۹۷۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا

(۸۹۷۳) تخریج: حدیث حسن لغیرہ، أخرجه الحاكم، ۱ / ۳۲۱ (انظر: ۶۶۱۵)

(۸۹۷۴) تخریج: اسنادہ ضعیف أخرجه ابن ابی شیبہ: ۸ / ۵۳۹، والطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۴ / ۶۵۷ (انظر: ۲۷۴۳۴)

(۸۹۷۵) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه البخاری فی ”خلق افعال العباد“: ۱۵۴ (انظر: ۱۰۸۷۸)

کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کون سائل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔“ اس نے کہا: اگر مجھ میں اتنا کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر اپنے نفس کو شتر سے روکے رکھنا، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہوگا جو تو اپنے نفس پر کرے گا۔“

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے پانچ نمازیں ادا کیں، حرمت والے گھر کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، وہ اس کی راہ میں ہجرت کرے یا اسی علاقے میں سکونت اختیار کیے رکھے، جس میں پیدا ہوا تھا۔“ راوی کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس حدیث میں آپ ﷺ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا یا نہیں، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس حدیث کی خبر دے دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”معاذ! رہنے دو اور لوگوں کو نہ بتلاؤ (تاکہ وہ دوسرے نیک عمل بھی کرتے رہیں) کیونکہ جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ اور ممتاز درجہ فردوس ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں، اس لیے جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔“

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ، قَالَ: ((إِحْسِنْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ)) (مسند احمد: ۱۰۸۹۱)

(۸۹۷۶)۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَصَامَ رَمَضَانَ، وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا) كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا)) فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَأَخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((ذَرِ النَّاسَ، يَا مُعَاذُ! فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ مِائَةٌ سَنَةٍ، الْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَأَوْسَطُهَا وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) (مسند احمد: ۲۲۴۳۷)

فوائد: اس حدیث مبارکہ میں ایک خوبصورت نقطے کا بیان ہے اور وہ یہ کہ جتنی احادیث میں آسان عمل پر بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے نیک اعمال سے غفلت برتی جائے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس حدیث کا علم بھی ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ نے ایک خاص مصلحت کی وجہ سے اس حدیث کو بیان کرنے سے منع فرمایا تھا۔

جنت کے درجوں کے حصول کے لیے اجتہاد اور محنت کی ضرورت ہے۔

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، جبکہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آیا اور بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟“ میں نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اٹھو اور نماز پڑھو۔“ پس میں نے نماز پڑھی اور پھر بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی بالکل۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! نماز کے بارے میں کچھ فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بہترین چیز ہے، جس کو بنایا گیا ہے، جو چاہے کم پڑھ لے اور جو چاہے زیادہ پڑھ لے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! روزہ، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ ایسا فرض ہے کہ اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید بھی بہت کچھ ہے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! صدقہ، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کم مایہ آدمی کی طاقت کے بقدر یا کسی فقیر کو چپکے سے دے دینا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! سب سے پہلا نبی کون تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدم علیہ السلام۔“ میں نے کہا: کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں، نبی تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! سرملین کی تعداد کتنی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین سواہر پندرہ سولہ کے لگ بھگ۔“

(۸۹۷۷)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، هَلْ صَلَّيْتَ؟)) قُلْتُ: لَا، قَالَ: ((قُمْ فَصَلِّ)) فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! تَعَوَّذِ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلِلْإِنْسِ شَيَاطِينٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلَاةُ، قَالَ: ((خَيْرٌ بَوْضُوعٍ مِنْ شَاءَ أَقَلٍّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّوْمُ، قَالَ: ((فَرَضٌ مَجْزِيٌّ وَعِنْدَ اللَّهِ مَزِيدٌ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَالصَّدَقَةُ، قَالَ: ((أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جَهْدٌ مِنْ مِقْلٍ أَوْ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِنْبِيَاءِ كَانَ أَوْلَى؟ قَالَ: ((آدَمُ)) قُلْتُ: وَنَبِيًّا كَانَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمِ الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ: ((ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ)) وَقَالَ: ((مَرَّةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّمَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((آيَةُ الْكُرْسِيِّ)) وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) (وفى رواية: حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ) (مسند احمد: ۲۱۸۷۹)

(۸۹۷۷) تخريج: اسنادہ ضعیف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش، ولضعف ابى عمر الدمشقى، وقال الدارقطنى: المسعودى عن ابى عمر الدمشقى متروك، أخرجه النسائى: ۸/ ۲۷۵ (انظر: ۲۱۵۴۶)

ایک روایت میں ہے: ”تین سو پندرہ ہے، جم غفیر ہیں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ پر کون سی عظیم ترین چیز اتاری گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آیۃ الکرسی ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پوری آیت تلاوت کی۔

فوائد: بعض انسان شیطان ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ ناس میں بھی ہے، جو آدمی دوسرے کو گمراہ کرے، وہ شیطان ہے۔

انبیاء و رسل کی تعداد کے بارے میں دو طرق کے ساتھ مروی درج ذیل حدیث پر غور کریں:

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَبِيٌّ كَانَ آدَمَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، مُعَلِّمٌ، مُكَلِّمٌ)) قَالَ: كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: ((عَشْرَةٌ قُرُونٌ)) قَالَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: ((عَشْرَةٌ قُرُونٌ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ كَانَتْ الرُّسُلُ؟ قَالَ: ((ثَلَاثٌ مِئَةٌ وَخَمْسَةٌ عَشْرًا، جَمًّا غَفِيرًا)) ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کلام بھی کیا گیا تھا۔“ اس نے کہا: ان کے اور نوح علیہ السلام کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دس صدیاں (یا دس زمانے)۔“ اس نے کہا: نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دس صدیاں۔“ پھر صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کل کتنے رسول ہو گزرے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین سو پندرہ، جم غفیر ہے۔“

(حاکم: ۲۶۲/۲، معجم کبیر للطبرانی: ۱۳۹/۸، صحیحہ: ۳۲۸۹)

شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ایک موقوف شاہد ذکر کرتے ہوئے کہا: سیدنا عبد اللہ بن عباس نے کہا: نوح اور آدم کے مابین دس صدیاں تھیں، سارے لوگ شریعتِ حقہ پر تھے، پھر اختلاف پڑ گیا، پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، تاکہ وہ خوشخبریاں دیں اور ڈرائیں، عبد اللہ بن مسعود کی قراءت یوں تھی: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ (تفسیر طبری: ۱۹۴/۲، حاکم: ۵۴۶/۲)

اس میں ایک اہم فائدے کا بیان ہے کہ لوگ شروع میں ایک امت تھے، خالص توحید ان کا مذہب تھا، پھر بعد میں ان پر شرک کے آثار طاری ہوئے۔ اس سے ان فلسفیوں اور ملحدوں کا رد ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اصل میں شرک تھا، بعد میں توحید کو وجود ملا۔ (صحیحہ: ۳۲۸۹)

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے کہا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَبِيًّا كَانَ آدَمَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ مُكَلِّمٌ)) قَالَ: كَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: ((عَشْرَةٌ قُرُونٌ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ كَانَتْ

الرُّسُلُ؟ قَالَ: ((ثَلَاثُ مِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ...)) ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آدم ﷺ نبی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔“ اس نے کہا: ان کے اور نوح ﷺ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دس صدیاں۔“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کل کتنے رسول تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین سو پندرہ۔“ (معجم اوسط للطبرانی: ۱/۲۴/۲، ۳۹۸، معجم کبیر للطبرانی: ۸/۱۳۹، حاکم: ۲/۲۶۲، صحیحہ: ۲۶۶۸)

شیخ البانی رحمہ اللہ نے شواہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث کا ایک اقتباس یہ ہے: میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! پہلا نبی کون تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدم ﷺ۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! کیا آدم نبی تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں ہاں، وہ نبی تھے، جن سے کلام بھی کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر ان سے کہا: آدم! پتلا بن جا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے، ان میں رسولوں کی تعداد (۳۱۵) تھی، جم غفیر ہے۔“ (احمد: ۵/۲۶۵)

(۸۹۷۸)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اِحْتَبَسَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ عَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاتِي قَرْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيعًا فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، وَصَلَّى وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((كَمَا أَنْتُمْ عَلَى مَصَافِكُمْ)) ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: ((إِنِّي سَأَحَدُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْعَدَاةَ، أَنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي عَزَّوَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَتَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ! قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ! فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک صبح کو نماز فجر سے اتنی دیر تک رکے رہے کہ قریب تھا کہ سورج کا کنارہ نظر آجاتا، بہر حال پھر آپ ﷺ جلدی جلدی تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ ﷺ نے مختصر سی نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو فرمایا: ”جیسے ہو، اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔“ پھر آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”بیشک میں تم کو بیان کرتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے روک رکھا، میں رات کو کھڑا ہوا اور جتنی نصیب میں تھی، نماز پڑھی، ابھی میں نماز میں ہی تھا کہ اونگھ آگئی، پھر جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا: اے محمد! مقرب فرشتے کن امور میں بحث مباحثہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! میں تو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا: مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! مجھے تو علم

نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پر میرے کندھوں کے درمیان رکھی، مجھے اپنے سینے میں اس کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی اور مجھے معرفت حاصل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: اے محمد! (اب بتاؤ کہ) مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: کفارات میں، اس نے کہا: کفارات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: جماعتوں کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور ناپسند امور کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا: کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا اور اس وقت نماز ادا کرنا، جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: سوال کرو، میں نے کہا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَانْ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ، وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِیْ قَوْمٍ فَتَوَقَّفْنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنَ، وَاَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِیْ یُقَرِّبُنِيْ اِلَیْ حُبِّكَ۔ (اے اللہ! میں تجھ سے نیکی کے کام نیکیاں کرنے، برائیوں کو ترک کرنے، مسکینوں سے محبت کرنا، مجھے بخشنے اور مجھ پر رحم کرنے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا اور میں تجھ سے تیری محبت کا، تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت کا اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے)۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ حق ہے، لہذا اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔“

بَيْنَ كَيْفَى حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ اَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدْرِيْ فَتَجَلَّى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكُفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: نَقْلُ الْاَفْذَامِ اِلَى الْجُمُعَاتِ وَجُلُوْسُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَاَسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عِنْدَ الْكِرِيْهَاتِ، قَالَ: وَمَا الدَّرَجَاتُ؟ قُلْتُ: اِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامًا، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَانْ تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ، وَاِذَا اَرَدْتَ فِتْنَةً فِیْ قَوْمٍ فَتَوَقَّفْنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنَ، وَاَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِیْ یُقَرِّبُنِيْ اِلَیْ حُبِّكَ۔)) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((اِنَّهَا حَقٌّ فَاذْرُسُوْهَا وَتَعَلَّمُوْهَا۔)) (مسند احمد: ۲۲۴۶۰)

فوائد:..... اگلی حدیث کے فوائد ملاحظہ ہوں۔

(۸۹۷۹)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک

(۸۹۷۹) تخریج: انظر الحديث السابق (انظر: ۲۳۲۱۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صبح کو رسول اللہ ﷺ صحابہ کے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ ﷺ خوشگوار موڈ میں تھے اور آپ ﷺ کے چہرے پر سفیدی یا چمک محسوس ہو رہی تھی، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آج تو ہم آپ کو بڑے عمدہ موڈ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر سفیدی یا چمک بھی محسوس کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بھلا مجھے کون سی چیز اس سے محروم کر سکتی ہے، بات یہ ہے کہ آج رات میرا رب سب سے خوبصورت شکل میں میرے پاس آیا اور کہا: اے محمد! میں نے کہا: جی میرے رب! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا: مقرب فرشتے کس موضوع پر بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! میں تو نہیں جانتا، ایسے دو تین دفعہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلیاں میرے کندھوں پر کے درمیان رکھیں، مجھے اپنے سینے میں ان کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور آسمان و زمین کی ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿وَكَذَلِكَ نُسِرِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾..... ”اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔“ (سورۃ النعام: ۷۵) پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: اے محمد! مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: کفار میں، اللہ تعالیٰ نے کہا: کفار سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا: جماعتوں کی طرف پیدل چل کر جانا، نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور ناپسند حالتوں کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ پھر فرمایا: ”جس نے یہ امور سرانجام دیئے، اس نے خیر کے ساتھ زندگی گزاری اور خیر کے ساتھ فوت ہوا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا،

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ غَدْوَةٍ وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ، مُسْفِرَ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقُ لُوجِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرَاكَ طَيِّبَ لِنَفْسِ، مُسْفِرَ الْوَجْهِ، أَوْ مُشْرِقَ الْوَجْهِ، فَقَالَ: ((وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَتَانِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نَلِسْتُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي أَى رَبٍّ!، قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْ فَوَجَدَتْ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى تَجَلَّتْ لِي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا الْكُفَّارَاتُ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَفْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافَ الصَّلَوَاتِ، وَإِبْلَاقُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، قَالَ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنَ الدَّرَجَاتِ طَيِّبُ الْكَلَامِ، وَبِذُلِّ السَّلَامِ، وَأَطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ،

جیسے اس دن تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، اور درجات یہ ہیں: اچھا کلام کرنا، سلام پھیلانا، کھانا کھلانا اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: اے محمد! جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا کیا کرو: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔"..... "اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کو کرنے، برائیوں کو ترک کرنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور یہ کہ تو مجھ پر رجوع کر اور جب تو لوگوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔"

وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ (مسند احمد: ۲۳۵۹۷)

فوائد:..... ان دو احادیث مبارکہ کے متن پر غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ جن اعمال کی ہمارے معاشرے میں کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنے اہم ہیں۔ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ملاقات ہوئی تو جہانوں کے پروردگار اور بشریت کے سردار کی باتوں کا موضوع کیا تھا، یہ کتنی پاکیزہ مجلس تھی، یہ کتنا بابرکت کلام تھا، یہ سوالات و جوابات کی کتنی عمدہ نشست تھی، سبحان اللہ۔ قارئین سے گزارش ہے کہ ان دو احادیث میں جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو حرزِ جان بنائیں اور ان پر دوام اختیار کریں۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔

(۸۹۸۰)۔ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((سَأَلْتُكَ بِأَبْوَابِ مِنَ الْخَيْرِ، الصَّوْمِ جُنَّةً، وَالصَّدَقَةِ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَفِيَّامِ الْعَبْدِ مِنَ اللَّيْلِ)) نُمَّ قَرَأَ ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [الآية- [السجدة: ۱۶] (مسند احمد: ۲۲۴۸۴)

سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں تجھے خیر و بھلائی کے دروازوں کے بارے میں بتلاتا ہوں، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور رات کو بندے کا قیام کرنا۔" پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

فوائد: پوری آیت یہ ہے: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾..... ”ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ بھارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ (سورہ سجدہ: ۱۶)

(۸۹۸۱)۔ وَعَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ اتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ قَالَ: أَنْتَ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) قَالَ: فَلَا مَ تَدْعُوا؟ قَالَ: ((أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، مَنْ إِذَا كَانَ بِكَ دُسرٌ فَدَعَوْتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةِ فَدَعَوْتُهُ أَنْتَ لَكَ، وَمَنْ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ فَرِيضٍ فَاصْلَلْتَ فَدَعَوْتُهُ رَدَّ عَلَيْكَ)) قَالَ: فَاسْلَمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ لَهُ: ((لَا تَسْبَنَّ نَيْسًا أَوْ قَالَ: أَحَدًا)) ((شَكَ الْحَكْمُ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ شَيْئًا بَعِيرًا وَلَا شَاةً مِنْذُ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ((وَلَا تَزْهَدْ فِي الْمَعْرُوفِ وَلَوْ بَسَطَ وَجْهَكَ إِلَى آخِيكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، وَأَفْرِغْ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِيَاءِ الْمُسْتَسْقَى، وَأَتَزِرْ إِلَى نَصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ آبَيْتَ فِإِلَى الْكُعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَاسْبَالَ الْإِرَارِ قَالَ: فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ)) (مسند احمد: ۱۶۷۳۳)

ابو تیممہ اپنی قوم کے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، یا اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا، جبکہ میں آپ ﷺ کے پاس موجود تھا، اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں یا آپ محمد (ﷺ) ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ اس نے کہا: آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس یکتا و یگانہ رب کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر تجھ پر کوئی تکلیف آ پڑے گی اور تو اس کو پکارے گا تو وہ تیری تکلیف کو دور کر دے گا، جب تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کو پکارے گا تو وہ تیرے لیے انگوریاں اگانے کے لیے (بارش نازل کرے گا) اور جب تو بے آب و گیاہ زمین میں اپنی سواری کھو بیٹھے گا اور اس کو پکارے گا تو وہ تیری سواری کو واپس تیرے پاس لے آئے گا۔“ پس وہ آدمی مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے نصیحت فرمائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کو گالی نہ دینا، (یعنی برا بھلا نہ کہنا)۔“ اس آدمی نے کہا: جب سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ نصیحت کی اس وقت سے میں نے کسی چیز، وہ اونٹ ہو یا بکری، کو گالی نہیں دی۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی نیکی سے بے رغبتی اختیار نہ کر، اگرچہ وہ اپنے بھائی سے بات کرتے وقت اس کے سامنے خندہ پیشانی کا اظہار کرنے کی صورت میں ہو، پانی مانگنے کے ڈول میں پانی ڈال اور نصف پنڈلی تک اپنے ازار کو اٹھا کے رکھ، پس اگر تو اس قدر عمل نہ کر سکے تو ٹخنوں تک رکھ لے، خبردار چادر کو

نخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔“

فوائد:..... ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ((وَيَا أُمَّرُؤُا شَتَمَكَ وَعَمِيرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعِيرَهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ...))..... ”اور اگر کوئی آدمی تجھے برا بھلا کہے اور تیرے کسی عیب کی وجہ سے تجھے عار دلائے تو تو نے اس کو اس عیب کی وجہ سے عار نہیں دلانی جو تو جانتا ہے، کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا۔“ اس حدیث کے آخری جملے سے معلوم ہوا کہ چادر اور شلوار کو نخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے، خواہ دل میں تکبر پیدا ہو یا نہ ہو، اس لیے ہر وقت ہر مرد کو کم از کم اپنے نخنوں کو ننگا رکھنا چاہیے، اگر نصف پنڈلی تک رکھ لے تو افضل ہوگا۔

چند افراد کے علاوہ تمام مسلمان لباس کے اس ادب کا خیال نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ ادب اس کے لیے ہے، جو تکبر کرے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی کج فہمی ہے، کیونکہ مرد کا نخنوں کو چھپانا تکبر ہی کی علامت ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا ہے، اس نظریہ کے حاملین سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام اپنے نخنوں کو ننگا کیوں رکھتے تھے؟ کیا ان میں تکبر پیدا ہو جانے کا شبہ پایا جاتا تھا؟ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔

(۸۹۸۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ:
 سَأَلْتُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ
 قَبْلِكَ، أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ
 شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ
 الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ
 الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي
 الْأَرْضِ۔ (مسند احمد: ۱۱۷۹۶)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا: مجھے کوئی وصیت کریں۔ میں نے کہا: تو نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، میں نے تجھ سے پہلے یہی سوال رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا (اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا): ”میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، جہاد کو لازم پکڑ کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کر، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعثِ رحمت اور زمین میں تیرے لیے باعثِ تذکرہ ہیں۔“

فوائد:..... اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کی بنیاد تقویٰ اور اللہ کے خوف پر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ما مورات پر عمل کیا جائے اور منہیات سے اجتناب۔

(۸۹۸۳)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۸۹۸۲) تخریج: صحیح، قالہ الالبانی، أخرجه ابویعلی: ۱۰۰۰ (انظر: ۱۷۷۴)

(۸۹۸۳) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ فی روایة زبان عنه، أخرجه

الطبرانی فی "الکبیر": ۲۰ / ۴۳۱ (انظر: ۱۵۶۱۸)

نے فرمایا: ”سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ تو اس سے صلہ رحمی کر جو تجھ سے قطع رحمی کرے، اس کو دے جو تجھ کو محروم کرے اور اس سے درگزر کر جو تجھے گالیاں دے۔“

أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ مَنَعَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ)) (مسند

احمد: ۱۵۷۰۳)

شیدہ حضری کہتے ہیں: ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عروہ بن زبیر نے ہم کو بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، جس آدمی کا اسلام میں حصہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس آدمی کی طرح نہیں کرے گا، جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ تین چیزیں یہ ہیں: (۱) اسلام کے تین حصے ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ، (۲) یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک آدمی سے محبت رکھے اور پھر قیامت کے دن اس کو کسی کے سپرد کر دے، (۳) بندہ جن لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ ہی کر دے گا، اور اگر میں چوتھی چیز پر بھی قسم اٹھا لوں تو مجھے امید ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں کسی شخص پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر پردہ ڈالے گا۔“ یہ حدیث سن کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا: جب تم ایسی حدیث سنو جس کو عروہ سیدہ عائشہ سے اور نبی کریم ﷺ سے بیان کر رہی ہوں تو اس کو یاد کر لیا کرو۔

(۸۹۸۴)۔ عَنْ شَيْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((ثَلَاثٌ أَخْلَفُ عَلَيْهِنَّ، لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ لَهْ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، فَأَسْهَمُ الْإِسْلَامُ ثَلَاثَةً: الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُؤَلِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَعَهُمْ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آتَمَّ، لَا يَسْتَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ مِثْلِ عُرْوَةَ يَرُوهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاحْفَظُوهُ۔ (مسند احمد: ۲۵۶۳۴)

فوائد: اس باب کی احادیث مبارکہ میں مختلف نیکوں اور برائیوں کا ذکر ہوا ہے، قارئین الفاظ سے ہی نبی کریم ﷺ کا مقصود سمجھ سکتے ہیں، اس لیے زیادہ شرح نہیں کی گئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فہم و عقل کی روشنی میں معمولی اور غیر معمولی حسنت و سیئات کا تعین نہ کریں، بلکہ شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں۔



کِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

نیکی اور صلہ رحمی کے مسائل

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْرِيفِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

نیکی اور گناہ کی تعریف کا بیان

سیدنا وابصہ بن معبد الاسدی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میرا ارادہ یہ تھا کہ نیکی اور گناہ کی ہر صورت کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال کروں، مسلمانوں کی ایک جماعت آپ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ مختلف سوال کر رہے تھے، میں ان کی گردنیں پھلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، انھوں نے مجھے کہا: وابصہ! رسول اللہ ﷺ سے دور ہٹ جا، لیکن میں نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں آپ ﷺ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ﷺ مجھے تمام لوگوں میں محبوب ترین ہیں، اتنے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”وابصہ کو چھوڑ دو، وابصہ! آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔“ دو تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا، پس میں آپ ﷺ کے قریب ہوا اور آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وابصہ! میں از خود تمہیں کچھ بتلا دو یا تم سوال کرو گے؟“ میں نے کہا: جی نہیں، آپ خود کچھ فرمادیں، آپ ﷺ

(۸۹۸۵)۔ عَنْ وَابِصَةَ يَغْنِي ابْنَ مَعْبِدِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ، فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ، فَقَالُوا: إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ! عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: دَعُونِي فَأَدْنُو مِنِّي فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُو مِنِّي، فَقَالَ: ((دَعُوا وَابِصَةَ، أَدْنُ يَا وَابِصَةُ!)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ((يَا وَابِصَةُ! أَخْبِرْكَ أَوْ تَسْأَلْنِي؟)) قُلْتُ: لَا بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: ((جِئْتُ تَسْأَلْنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟)) فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَا مِلَّهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ:

(۸۹۸۵) تخریج: اسنادہ ضعیف من اجل الزبير ابی عبد السلام، ثم هو منقطع بينه وبين ايوب، أخرجه الدارمی: ۲۵۳۳، وابو یعلیٰ: ۱۵۸۶ (انظر: ۱۸۰۰۶)

نے فرمایا: ”تم نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے ہو، میں نے کہا: جی ہاں، پس آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور وہ میرے سینے پر لگانے لگے اور فرمایا: ”وابصہ! اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، تین بار فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو نفس کھٹکے اور اس کے بارے میں سینے میں تردد پیدا ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتوے پر فتوے دیتے رہیں۔“

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: میں نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟“ میں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نیکی وہ ہے، جس پر تجھے انشراح صدر ہو جائے اور گناہ وہ ہے، جو تیرے سینے میں کھٹکنے لگ جائے، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیتے رہیں۔“

فوائد: جب کسی کام کے بارے میں انشراح صدر نہ ہو، بلکہ شک و شبہ سا پیدا ہو رہا ہو اور اس کے گناہ

سیدنا ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلائیں جو میرے لیے حلال اور مجھ پر حرام ہیں، نبی کریم ﷺ نے اس کی طرف نگاہ بلند کی اور پھر پست کی اور فرمایا: ”نیکی وہ ہے جس پر نفس کو تسکین ملے اور دل کو اطمینان ہو اور برائی وہ ہے کہ جس پر نہ نفس کو سکون ملے اور نہ دل مطمئن ہو، اگرچہ فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے رہیں۔“ آپ ﷺ نے مزید

((يَا وَابِصَهُ! اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - الْبِرُّ مَا اطمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ افْتَاكَ النَّاسُ (وَأَفْتَوْكَ)) (مسند احمد: ۱۸۱۶۹)

(۸۹۸۶)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: ((جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟)) فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: ((الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ افْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ)) (مسند احمد: ۱۸۱۶۲)

ہونے کا وہم پڑ رہا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔

(۸۹۸۷)۔ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِمَا يَجِلُّ لِي وَيُحَرِّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَصَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِي النَّظَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْبِرُّ مَا سَكَنتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ افْتَاكَ الْمُفْتُونَ)) وَقَالَ:

(۸۹۸۶) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۸۹۸۷) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۲ / ۵۸۵ (انظر: ۱۷۷۴۲)

(لَا تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا ذَانِبٍ مِّنَ السَّبَاعِ) ((مسند احمد: ۱۷۸۹۴))
 (۸۹۸۸)۔ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ ؟ فَقَالَ: ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ۱۷۷۸۳)

فرمایا: ”گھریلوں گدھے کے گوشت اور کچلی والے درندے کے قریب نہ جا۔“

سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا اور آپ ﷺ نے ان کو یہ جواب دیا: ”نیکی تو حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے، جو تیرے سینے میں کھلے اور یہ بات تجھے ناپسند لگے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔“

فوائد: مطلع ہونے والے لوگوں سے مراد معاشرے کے وہ باوقار اور فاضل لوگ ہیں، جن سے شرم محسوس کی جاتی ہے۔

بلاشک و شبہ شریعت اسلامیہ میں نیکی اور گناہ والے امور کا وضاحت کے ساتھ تعین کر دیا گیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں جو قانون پیش کیا گیا ہے، یہ انتہائی سلیم الفطرت اور خدا شناس لوگوں سے متعلقہ ہے، نہ کہ عوام الناس سے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس اتنی معرفت الہی یا اتنا شعور یا اتنا ذوق ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نفس کی روشنی میں نیکی یا برائی کا تعین کر سکیں۔ جیسا کہ علامہ عبید اللہ مبارکپوری رحمہ اللہ نے کہا: اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے، جن کے باطن آلائشوں سے صاف اور دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ حدیث عوام الناس سے متعلقہ نہیں ہے، بالخصوص گنہگار لوگ، کیونکہ وہ بیچارے تو بسا اوقات گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ (مرعاۃ المفاتیح: ۱/ ۱۱۷) عصر حاضر میں لوگوں کی کیفیت نے مبارکپوری صاحب کے مفہوم کی بہت حد تک تائید کی ہے۔ ہر ایک نے اپنی زندگی کے لیے نیکی و بدی کے خود ساختہ معیار بنا رکھے ہیں، جو عالم ان کی کسوٹی کی مخالفت میں فتویٰ یا دلائل پیش کرے گا، اسے یا تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جائے گی کہ اس کی بات پر توجہ کی جائے یا پھر اسے کہا جائے گا کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔

ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بہت کم بولتا تھا، دوسروں کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا ہے اور بے ضرر سا انسان تھا، لیکن بے نماز تھا، تلاوت کلام پاک سے بعید تھا، عورتوں کے پردے والے معاملات کی پابندی نہیں کرتا تھا، ہلکا ہلکا نشہ بھی کرتا تھا اور داڑھی موٹا تھا۔ صرف اس کی خاموشی کو دیکھ کر دنیوی سطح کے مطابق پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ وہ تو کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ یہ کسی کو نیک یا بد کہنے کا عوام الناس کا معیار ہے کہ بے نماز کو فرشتہ کہا جا رہا ہے، جائز حد تک خاموشی اچھا وصف ہے، لیکن سارے کا سارا اسلام اسی خصلت میں پنہاں نہیں ہے۔

عوام الناس کے لیے معیار قرآن اور حدیث ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نیکیوں اور گناہوں کو سمجھیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تقاضے پورے کریں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ وَحُقُوقِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ

والدین کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے حقوق اور ان امور کی ترغیب دلانے کا بیان

اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کا حق سب سے مقدم ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کی الوہیت و عبودیت کا حکم دیا گیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین بھی کی گئی۔ مسلمان والدین کے احترام و اکرام کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر والدین مشرک اور کافر بھی ہوں، تب بھی ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾..... ”دنیا کے کاموں میں بطریق احسن ان کا ساتھ دینا۔“ (سورہ لقمان: ۱۵)

اگر اس سلسلے میں شریعت خاموش ہی رہتی تب بھی عقل و شعور کا فیصلہ یہی ہوتا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا مروّت نہیں اور ذوقِ سلیم اور وجدان بھی یہی کہتا اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہوتا کہ جن پاک نفوس نے بچپن میں اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیا، اولاد کو بھی چاہئے کہ وہ ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ کے تحت ان کے سامنے عاجزی و فرمانبرداری کے بازو بچھا دے۔

حسن سلوک، صلہ رحمی، شفقت و محبت اور احترام و اکرام کے سب سے زیادہ مستحق آدمی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن میں والدین کو فوقیت و برتری حاصل ہے، لیکن آجکل اکثر لوگوں نے اپنے اپنے معیار کے مطابق دوست بنا لیے ہیں، دوستی نبھانے کے لیے مال و دولت تو کیا، قریب سے قریب تر رشتہ داروں کو بھی داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے، والدین اپنے پر دیسی بچوں کی ملاقاتوں اور ان کی مجلسوں کو ترستے رہتے ہیں، لیکن ان کی اولین ترجیح ان کے دوست ہوتے ہیں، اسی طرح باروزگار بچے اپنی آمدنی کو غیروں کی خوشی غمی پر صرف کرتے ہیں، لیکن والدین اور بہن بھائیوں کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ شرعی احکام سے دوری کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کا حق سب سے مقدم رکھا ہے۔

(۸۹۸۹)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَجْمَهُ.)) (مسند احمد: ۱۳۴۳۴) سے نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔“

فوائد:..... عمر بڑھنے سے مراد برکت ہے، مزید دیکھیں حدیث نمبر (۹۰۴۹)

(۸۹۹۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.)) (مسند احمد: ۷۵۶۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بچہ اپنے باپ یا ماں کو بدلہ نہیں دے سکتا، الا یہ کہ وہ اس کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔“

فوائد: اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے غلام بھی میت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اس کی آزادی اس کی زندگی کی طرح ہے، پس جس آدمی نے اپنے باپ کو آزاد کیا، تو گویا اس نے اپنے باپ کو زندہ کر دیا، جیسے اس کا باپ اس کی زندگی کا سبب بنا تھا، گویا اس نے باپ کے احسان کا جواب دے دیا۔

(۸۹۹۱)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَاهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ (مِنْهَا) ((وَلَا تَعَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.)) (مسند احمد: ۲۲۴۲۵)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو دس کلمات کی وصیت کی، ان میں سے ایک سے وصیت یہ تھی: ”اور تو نے ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی نہی کرنی، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنے اہل اور مال سے دور ہو جائے۔“

(۸۹۹۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: جِئْتُ لِأُبَايِعُكَ (زَادَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى عَلَى الْهَجْرَةِ) وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ بَيْنَكِيَانِ، قَالَ: ((فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا.)) وَابِي أَنْ يُبَايِعَهُ. (مسند احمد: ۶۸۳۳)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں ہجرت پر آپ کی بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ رورہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر تو ان کی طرف لوٹ جا اور جیسے تو نے ان کو رلایا ہے، اسی طرح ان کو ہنسا۔“ اور آپ ﷺ نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔

(۸۹۹۳)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْ هَذَا الشَّعْبِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس درخت کے نیچے دیکھا، اچانک ایک آدمی اس گھاٹی سے آیا اور آپ ﷺ کو سلام کہا

(۸۹۹۰) (تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۱۰ (انظر: ۷۵۷۰)

(۸۹۹۱) (تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر لم يدرك معاذًا، أخرجه بنحوه ابن ماجه: ۳۳۷۱، ۴۰۳۴ (انظر: ۲۲۰۷۵)

(۸۹۹۲) (تخریج: حدیث حسن، أخرجه النسائي: ۱۴۳ / ۷ (انظر: ۶۸۳۳)

(۸۹۹۳) (تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۴۹ (انظر: ۶۵۲۵)

اور کہا: میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت کے گھر کو حاصل کرنا ہے، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تیرے والدین میں کوئی ایک زندہ ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! دونوں زندہ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر تو لوٹ جا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر۔“ پس وہ جہاں سے آیا تھا، اُدھر ہی لوٹ گیا۔

اللَّهُ ﷻ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْذَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ: ((هَلْ مِنْ أَبِيكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟)) قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كِلَاهُمَا، قَالَ: ((فَارْجِعْ إِبْرُرْ أَبِيكَ)) قَالَ: فَوَلَّى رَاجِعًا مَنْ حَيْثُ جَاءَ۔ (مسند احمد: 6525)

فوائد: جہاد اہم فریضہ اسلام اور بڑا مشکل عمل ہے، لیکن جہاد کی رغبت رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے

امیر کو اپنے گھر والوں کی صورتحال سے آگاہ کرے۔

(دوسری سند) ایک اُمی جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر ان کی خدمت کر کے جہاد کر۔“

(۸۹۹۴)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: ((أَحَى وَالِدَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ)) (مسند احمد: 6544)

فوائد: اس حدیث کو بعض اہل علم نے صحیح اور بعض نے حسن کہا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ابن لہیعہ راوی

ضعیف ہے اور دراج، ابو الہیثم سے بیان کرتا ہے اور یہ سند بھی اہل علم کے ہاں ضعیف ہوتی ہے۔ ہاں بعض میں ابن لہیعہ نہیں ہے۔ بہر حال اگر یہ روایت صحیح یا حسن ہے تو مذکورہ وجہ ضعف کا انجبار ہونا چاہیے ورنہ اسے صحیح یا حسن کہنا ٹھیک نہیں۔ (عبداللہ رفیق)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے یمن سے رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کی، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”تو نے شرک کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی تک جہاد باقی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یمن میں تیرے والدین زندہ ہیں؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”انھوں نے تجھے اجازت دی ہے؟“ اس نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر تو اپنے والدین کی طرف لوٹ جا اور ان سے

(۸۹۹۵)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَجَرْتَ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ، هَلْ بِالْيَمَنِ أَبَوَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَذِنَا لَكَ؟)) قَالَ: لَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ارْجِعْ إِلَى أَبِيكَ فَاسْتَأْذِنَهُمَا فَإِنْ فَعَلَا وَإِلَّا

(۸۹۹۴) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۸۹۹۵) تخریج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ۲۵۳۰ (انظر: ۱۱۷۲۱)

اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے ساتھ ہی نیکی کرتے رہنا۔“

سیدنا معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، رسول اللہ ﷺ نے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں اور اب آپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تیری ماں زندہ ہے؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر تو اسی کے ساتھ رہ، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔“ پھر راوی نے دوسری اور تیسری دفعہ مختلف مجلسوں میں یہ حدیث اسی طرح ہی بیان کی۔

فوائد:..... اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں اس کے پاؤں کے نیچے روندی جانے

والی مٹی بن جا، یعنی ماں کی جائز خواہش کو دوسری مخلوقات کی خواہشات سے مقدم سمجھ کر پہلے اس کو پورا کیا جائے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔“ میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔“ میں نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“ آپ ﷺ نے مجھے یہ امور بیان کیے اور اگر میں آپ ﷺ سے زیادہ کا مطالبہ کرتا تو آپ ﷺ نے بھی مجھے زیادہ بتلانا تھا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود

فَبَرَّهْمَا۔)) (مسند احمد: ۱۱۷۴۴)

(۸۹۹۶)۔ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَدْتُ الْعَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ؟ فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: ((الزَّمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا۔)) ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّلَاثَةَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى كَمِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ۔ (مسند احمد: ۱۵۶۲۳)

(۸۹۹۷)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقِيَّتَهَا۔)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُ الْوَالِدَيْنِ۔)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔)) قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي۔ (مسند احمد: ۳۸۹۰)

(۸۹۹۸)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ أَنْفُ رَغِمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ:))

(۸۹۹۶) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه النسائي: ۶ / ۱۱، وابن ماجه: ۲۷۸۱ (انظر: ۱۵۵۳۸)

(۸۹۹۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۷، ۵۹۷۰، ومسلم: ۸۵ (انظر: ۳۸۹۰)

(۸۹۹۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۵۱ (انظر: ۸۵۵۷)

ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت پایا، لیکن انھوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا۔“

فوائد:..... یہ بڑی محرومی ہے کہ آدمی اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔

سیدنا ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو پایا، لیکن پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہلاک کر دے۔“

سیدنا مقدم بن معدیکرب کندی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بعد دیگر قریب سے قریب تر رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔“

سیدنا خدش بن سلامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کے غلام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، جو اس کی خدمت کر رہا ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اس پر کوئی ایسی تکلیف آ پڑے، جو واقعی اسے تکلیف دے۔“

أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا بَعْدَهُ الْكَبِيرُ لَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةُ، (وَفِي لَفْظٍ) فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةُ.)) (مسند احمد: ۸۵۳۸)

(۸۹۹۹)۔ عَنْ أَبِي بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ.)) (مسند احمد: ۱۹۲۳۶)

(۹۰۰۰)۔ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْأَقْرَبِ.)) (مسند احمد: ۱۷۳۱۹)

(۹۰۰۱)۔ عَنْ خِدَاشِ بْنِ سَلَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((أَوْصِيْ امْرَأَةً بِأُمِّهِ، أَوْصِيْ امْرَأَةً بِأُمِّهِ، أَوْصِيْ امْرَأَةً بِأَبْنَيْهِ، أَوْصِيْ امْرَأَةً بِأَبْنَيْهِ، أَوْصِيْ امْرَأَةً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ إِذَاتُ تُؤْذِيهِ.)) (مسند احمد: ۱۸۹۹۷)

(۹۰۰۲)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبْرُ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ)) ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: ((ثُمَّ أُمَّكَ)) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثُمَّ مَنْ قَالَ: ((أُمَّكَ)) ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: ((ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلِأَقْرَبٍ)) (مسند احمد: ۲۰۲۸۱)

سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کس سے نیکی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی ماں سے۔“ میں نے کہا: اس کے بعد کس سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی ماں سے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کس سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی ماں سے۔“ میں نے کہا: پھر کس سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اپنے باپ سے اور پھر قریب سے قریب تر رشتہ داروں سے۔“

فوائد:..... اگرچہ باپ پورے کنبے کا کفیل ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن بچے کے سلسلے میں جو شفقت بھری خدمات ماں کو سرانجام دینا پڑتی ہیں، وہ کسی کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں۔ نو ماہ تک حمل کی صعوبتیں، ولادت کے کٹھن مراحل، بچے کو اپنی چھاتی سے خوراک مہیا کرنا، دن رات اس نگہداشت اور صفائی ستھرائی کے حقوق ادا کرنا، اس کی تکلیف پر بے چین ہو جانا اور بچے کی ہر قسم کی تکلیف کو رفع کرنے میں اپنا سکون سمجھنا، جبکہ ہر مرحلے میں ماں شفقت کرتی ہے، بوجہ نہیں سمجھتی، اللہ اکبر۔ اگر رات کی گہری نیند والی گھڑیوں میں بچہ کسی چیز کا مطالبہ کر دے تو جو ہستی بچے کے مطالبے کو پورا کرنے میں اپنا سکون سمجھے گی، اسی کو ماں کہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے ماں کے حقوق کو مقدم رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی خدمت کا لحاظ نہ رکھا جائے۔

(۹۰۰۳)۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ أَلَا قَوْلَهُ: ((ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَأَلَا قْرَبٍ)) (مسند احمد: ۸۳۲۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں درج ذیل الفاظ نہیں ہیں: ”پھر زیادہ قریبی رشتہ دار اور ان کے بعد مزید قریبی۔“

(۹۰۰۴)۔ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلَاهُمْ ، قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ

صحابی رسول سیدنا ابواسید ساعدی رضی اللہ عنہ، جو کہ بدری تھے اور ان کے مولیٰ تھے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انصاری آدمی آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میرے والدین کی وفات کے

(۹۰۰۲) تخریح: صحیح لغیرہ، أخرجه ابوداود: ۵۱۳۹، والترمذی: ۱۸۹۷ (انظر: ۲۰۰۲۸)

(۹۰۰۳) تخریح: أخرجه البخاری: ۵۹۷۱، ومسلم: ۲۵۴۸ (انظر: ۸۳۴۴)

(۹۰۰۴) تخریح: اسنادہ ضعيف لجهالة حال علي بن عبيد، أخرجه ابوداود: ۵۱۴۲، وابن ماجه: ۳۶۶۴

(انظر: ۱۶۰۵۹)

بعد کوئی ایسی چیز پہنچی ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کر سکوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی بالکل، چار چیزیں ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کے لیے بخشش طلب کرنا، ان کے وعدوں کو نبھانا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور ان لوگوں سے صلہ رحمی کرنا، جو صرف ان کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہوں، یہ امور ہیں کہ جو ان کی وفات کے بھی تجھ پر باقی ہیں۔“

الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَا بِهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بَرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا.)) (مسند احمد: ۱۶۱۵۶)

فوائد:..... وعدوں کو نبھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر والدین نے کسی سے مدد کرنے یا کوئی اور نیکی کرنے کا وعدہ

کر رکھا ہے تو اس کو نبھانا چاہیے۔

ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو اس کی ماں نے یا باپ نے یا دونوں نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس نے طلاق دینے پر سوغلاموں کو آزاد کرنے کی نذر مان لی، پھر وہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جبکہ وہ طوالت کے ساتھ نماز چاشت ادا رہے تھے، انھوں نے ظہر اور عصر کے درمیان بھی نماز پڑھی، اس آدمی نے ان سے سوال کیا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا: اپنی نذر پوری کر اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو اپنے والد کی حفاظت کر یا ضائع کر دے۔“

(۹۰۰۵)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَتْهُ امْرَأَتُهُ، أَوْ أَبُوهُ، أَوْ كِلَاهُمَا، نَالَ: شُعْبَةُ، يَقُولُ: ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، نَجْعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَآتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الصُّحْحَى يُطِيلُهَا، فَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَدْرِكَ، وَبِرِّ وَالِدَيْكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ بَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظٌ عَلَى الْوَالِدِ، أَوْ أَتْرُكٌ.)) (مسند

احمد: ۲۲۰۶۰)

فوائد:..... سوغلاموں کی آزادی کی نذر ماننے سے اس کا مقصود والدین کو ڈرانا تھا تاکہ وہ طلاق کا حکم دینے

سے باز آجائیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ ثابت ہوا۔

(۹۰۰۵) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابن ماجه: ۲۰۸۹ (انظر: ۲۱۷۱۷)

(دوسری سند) ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں: ایک آدمی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: میری بیوی میری پچا زاد ہے اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن میری والدہ مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دو، انہوں نے کہا: نہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو اس کو طلاق دے دے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے والدین کی نافرمانی کر، البتہ میں تجھے وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں، جو میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک والدہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، پس تو اس دروازے کو روک لے اور اگر چاہتا ہے تو چھوڑ دے۔“

(احمد: ۲۲۰۶۹)

(تیسری سند) وہ کہتے ہیں: ہم میں ایک آدمی تھا، اس کی ماں اس بات پر اصرار کرتی رہی کہ وہ شادی کرے، بالآخر اس نے شادی کر لی، پھر اسی ماں نے اس کو یہ حکم دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے، وہ آدمی شام میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا: پہلے میری ماں میری شادی کرانے پر مصر رہی، یہاں تک کہ میں نے شادی کر لی، لیکن اب وہ مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے کہا: میں نہ تو تجھے طلاق دینے کا حکم دوں گا اور نہ یہ حکم دوں گا کہ اس کو روک رکھے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، پس تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کیے رکھ۔“ یہ حدیث سن کر وہ لوٹا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔

(۹۰۰۶)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَيْضًا قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّرَأَتِي بِنْتُ عَمِّي وَأَنَا أُحِبُّهَا، وَإِنَّ وَالِدَتِي تَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: لَا أَمْرُكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا وَلَا أَمْرُكَ أَنْ تَعْصِيَ وَالِدَتِكَ، وَلَكِنْ أَحَدْتُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ الْوَالِدَةَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ)) (مسند

(۹۰۰۷)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَرَحَلَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّي لَمْ تَزَلْ بِي حَتَّى تَزَوَّجَتْ ثُمَّ أَمَرْتَنِي أَنْ أَفَارِقَ، قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْرُكَ أَنْ تُفَارِقَ وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَمْرُكَ أَنْ تُمْسِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاصْغُرْ ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ احْفَظْ)) قَالَ: فَرَجَعْتُ وَقَدْ فَارَقْتُهَا. (مسند احمد: ۲۸۰۶۱)

(۹۰۰۶) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۰۰۷) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری ایک بیوی تھی، میں اس کو پسند کرتا تھا، جبکہ میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے انھوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی، پس وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے بیٹے عبداللہ کی ایک بیوی ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عبداللہ! اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔“ پس انھوں نے اس کو طلاق دے دی، ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے باپ کی بات مان لے۔“

(۹۰۰۸)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَطْلُقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَأَبَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللَّهِ! طَلَّقْ امْرَأَتَكَ.)) فَطَلَّقَهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَيْضًا) فَقَالَ: ((أَطِيعْ أَبَاكَ.)) (مسند احمد: ۵۰۱۱)

فوائد:..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت، نفس کی خواہش پر مقدم ہے، جب ان کا حکم دین کے زیادہ موافق نظر آ رہا ہو، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ناپسندی کی وجہ عورت کی قلت دین ہوگی۔

اس حدیث میں والدین کی اطاعت کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، امام مبارکپوری نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا: یہ واضح دلیل تقاضا کرتی ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دے تو وہ ان کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اگرچہ اس کو اپنی بیوی سے محبت ہو، کیونکہ یہ محبت والدین کے حکم کے سامنے عذر نہیں بن سکتی، اس حدیث میں صرف باپ کا ذکر ہے، لیکن ماں کے حکم کی بھی یہی حیثیت ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے دوسری حدیث میں یہ وضاحت فرمادی ہے کہ بیٹے پر اس کے باپ کی بہ نسبت اس کی ماں کا حق زیادہ ہے۔ (تحفۃ الاحوذی) ہاں اگر والدین کے حکم کی بنیاد دینی و اخلاقی بنیادوں پر نہ ہو تو ادب و احترام سے ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں اور خواہ مخواہ عورت پر بھی ظلم نہ ہو، وگرنہ والدین کے حکم کو بیوی پر ترجیح دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے۔

لیکن افسوس کہ آج کل لوگوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا بدسلوکی سے پیش آنے کے لیے اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کو معیار قرار دیا ہے، اپنے بیوی کے ہر قسم کے نازنخرے پورے کئے جاتے ہیں، لیکن والدین پر ہونے والے اخراجات کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ان کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔

سیدنا عیاض بن مرشد یا مرشد بن عیاض رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ایک بندے سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟“ اس نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر پانی پلا۔“ اس نے کہا: میں کیسے پانی پلاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب لوگ حاضر ہوں تو پانی کے آلات کے سلسلے میں ان کو کفایت کر اور اگر وہ غائب ہوں تو اٹھا کر ان کی طرف لے جا۔“

فوائد:..... والدین کے حق کو واضح کرنے اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے سوال دوہرایا گیا۔

سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میری ماں میرے پاس آئی، جبکہ وہ مشرک تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، جب قریشیوں نے رسول اللہ ﷺ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: میری ماں میرے پاس آئی ہے، اسے مجھ سے کچھ تعاون کی رغبت تھی، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کر۔“

(دوسری سند) سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا: میری ماں میرے پاس آئی، یہ اس مدت کی بات ہے، جب رسول اللہ ﷺ اور قریشیوں کے درمیان معاہدہ تھا، میری ماں مشرک تھی اور محتاج تھی، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: اے اللہ

(۹۰۰۹)۔ عَنْ عِيَاضِ بْنِ مَرْتَدٍ، أَوْ مَرْتَدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: ((هَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ مِنْ أَحَدٍ حَيٍّ؟)) قَالَ لَهُ: مَرَاتٍ- قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَاسْقِ الْمَاءَ-)) قَالَ: كَيْفَ أَسْقِيهِ؟ قَالَ: ((إِكْفِهِمْ آتَهُ إِذَا حَضَرُوهُ وَاحْمِلُهُ إِلَيْهِمْ إِذَا غَابُوا عَنْهُ-)) (مسند احمد: ۲۳۵۱۲)

(۹۰۱۰)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمْتُ أُمِّي، (وَفِي لَفْظٍ: أَتَيْتِي أُمِّي) وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ-)) (مسند احمد: ۲۷۴۵۴)

(۹۰۱۱)۔ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) قَالَتْ: قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي فِي مُدَّةِ قُرَيْشٍ (وَفِي لَفْظٍ: فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) مُشْرِكَةٌ وَهِيَ

(۹۰۰۹) تخریج: اسنادہ ضعیف، عیاض بن مرثد مجهول، أخرجه البخاری فی "التاریخ الکبیر": ۷/

۲۵، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۷/ ۱۰۱۴ (انظر: ۲۳۱۲۴)

(۹۰۱۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۶۹۱۵)

(۹۰۱۱) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الأول

رَاغِبَةٌ يَعْنِي مُحْتَاجَةً، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: ((صِلِي أُمَّكِ...)) (مسند احمد: ۲۷۴۷۸)

کے رسول! میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہ مشرکہ ہے اور تعاون کی رغبت رکھتی ہے، کیا میں اس سے صلحی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اپنی ماں سے صلحی کر۔“

فوائد: ثابت ہوا کہ اگر والدین کافر اور مشرک ہوں، تب بھی وہ اپنی اولاد کے حسن سلوک کے مستحق قرار پاتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ ”اور اگر وہ (والدین) تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔“ (سورہ لقمان: ۱۵)

غور فرمائیں کہ مشرک اور مشرک پر مجبور کرنے والے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے، مسلمان والدین کے مقام و مرتبہ کا خود اندازہ لگائیں۔ یہ آیت والدین کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

عبد اللہ بن دینار سے مروی ہے کہ ایک بدو سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا اور ہم لوگ حج کے راستے میں تھے، انھوں نے اس بدو سے کہا: کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، پس سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہما اس گدھے کی طرف گئے، جس پر اونٹ کی سوار سے تھک جانے کے بعد کچھ راحت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، اور وہ پگڑی لی، جس سے اپنا سر باندھتے تھے، پھر یہ دونوں چیزیں بدو کو دے دیں، جب وہ آدمی چلا گیا تو ہم میں سے بعض افراد نے سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے کہا: آپ اپنے گدھے پر آرام کرتے تھے اور پگڑی سے سر کو باندھ لیتے تھے، لیکن اب آپ نے یہ دونوں چیزیں بدو کو دے دی ہیں، اس نے تو ایک درہم پر راضی ہو جاتا تھا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”بے شک سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی محبت والے لوگوں سے صلحی کی جائے۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتَ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى حِمَارٍ كَأَنَّ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَ رَاجِلَتُهُ، وَعِمَامَةٍ كَأَنَّ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَذَفَعَهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُمَا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ، وَاتَّمَا كَانَ يَرْضَى بِدِرْهِمٍ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَدُأْبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ...)) (مسند احمد: ۵۶۵۳)

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میرا باپ میرے مال کو اجازت چاہتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اور تیرا مال تیرے والدین کا ہے، سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے اور تمہاری اولاد کے مال بھی تمہاری اپنی کمائی میں سے ہیں، لہذا اس کو خوشگوار انداز میں کھالیا کرو۔“

(۹۰۱۳)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدَيْكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُّوهُ هَيْئًا...)) (مسند احمد: ۶۶۷۸)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیٹک تمہاری اولاد تمہاری بہت پاکیزہ کمائی میں سے ہے، اس لیے اپنی اولاد کی کمائی کھالیا کرو۔“

(۹۰۱۴)۔ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُّوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ...)) (مسند احمد: ۲۴۶۳۶)

فوائد: ان دو احادیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کی کمائی میں والدین کا حق ہے، لیکن اس ضمن میں درج ذیل

روایت مد نظر رکھنا ضروری ہے:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ هَيَبٌ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْسَانًا وَهَيَبٌ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)) [الشوری: ۴۹] فَهَمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا اخْتَجْتُمْ إِلَيْهَا... ”بیٹک اللہ نے تمہیں تمہاری اولادیں بہہ کی ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔“ (سورہ شوری: ۴۹) وہ اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں، جب تمہیں ان کی ضرورت پڑے۔“ (حاکم: ۲۸۴/۴، بیہقی: ۴/۷، صحیح: ۲۵۶۳)

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کو والدین کی ضروریات پوری کرنی چاہئیں۔ لیکن ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جب والدین کا مقصد محض یہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے مال پر قبضہ کر لیں یا اس کو تلف کر دیں، جس کی مثالیں موجود ہیں، تو وہ اپنا مال روک سکتا ہے، لیکن ایسے حالات کے باوجود اولاد، والدین سے انتقامی کارروائی نہیں کر سکتی اور ضروری ہے کہ پھر بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔

شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس حدیث میں بڑا اہم فقہی فائدہ ہے کہ والدین، اولاد کا مال اس وقت لے سکتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہو۔ اس فرمان رسول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اپنے اطلاق پر باقی نہیں ہے: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ...)) ”تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔“ (ارواء الغلیل: ۸۳۸)

(۹۰۱۳) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابو داود: ۳۵۳۰، وابن ماجه: ۲۲۹۲ (انظر: ۶۶۷۸)

(۹۰۱۴) تخریج: حدیث حسن لغیرہ، أخرجه النسائي: ۷/۲۴۱ (انظر: ۲۴۱۳۵)

معلوم ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ باپ جیسے چاہے اور جب چاہے، اپنی اولاد کے مال میں تصرف کرتا کر سکتا ہے، بلکہ اسے حاجت و ضرورت کے بقدر مال لینے کی اجازت ہے۔ (صحیحہ: ۲۵۶۴)

بَابُ فِي بَرِّ الْأَوْلَادِ وَالْأَقْرَابِ الْأَقْرَبِ فَلَا اقْرَب

اولاد اور پھر قریب سے قریب تر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا

(۹۰۱۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی فقیر ہو تو وہ اپنے آپ سے ابتدا کرے، اگر مال بچ جائے تو اپنے بچوں پر خرچ کرے، اگر پھر بھی مال زائد ہو تو اپنے دوسرے رشتہ داروں پر صرف کرے اور اگر پھر بھی مال بچ جائے تو ادھر ادھر یعنی دوسرے لوگوں پر خرچ کرے۔“

فَأَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ أَوْ قَالَ: عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا.)) (مسند احمد: ۱۴۳۲۴)

فوائد:..... صدقہ و خیرات باعث اجر و ثواب عمل ہے، لیکن عام صدقہ سے پہلے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ والدین، اولاد، بیوی اور دوسرے قریب رشتہ داروں کی ضروریات کو مقدم کرنا چاہیے، آج کل لوگ بیوی بچوں پر تو تکلف کی حد تک خرچ کرتے ہیں، لیکن دوسرے رشتہ داروں سے مکمل بے رخی اختیار کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار کسی کو دے دیں تو وہ دوبارہ جان نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگوں کا یہ نظریہ غلط ہے، اگر کوئی رشتہ دار دوبارہ آجائے اور گنجائش ہو تو بار بار اس کے آنے کو محسوس نہیں کرنا چاہیے اور اگر گنجائش نہ ہو تو اچھے طریقے سے معذرت کر لینی چاہیے۔

بہر حال عام خیراتی اداروں اور ہسپتالوں میں صدقہ دینے سے پہلے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد مزید صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔

(۹۰۱۶)۔ عَنِ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو تو اپنے آپ کو کھلائے گا، وہ تیرے لیے صدقہ ہوگا، جو تو اپنی اولاد کو کھلائے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا، جو تو اپنی بیوی کو کھلائے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا اور جو تو اپنے خادم کو کھلائے گا، وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔“

فَأَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.)) (مسند احمد: ۱۷۳۱۱)

(۹۰۱۵) تخريج: أخرجه مسلم: ۹۹۷ (انظر: ۱۴۲۷۳)

(۹۰۱۶) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۲۱۳۸ (انظر: ۱۷۱۷۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے زیادہ فضیلت والا دینار وہ ہے، جو بندہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنے چوپائے پر خرچ کرے۔“ پھر ابو قلابہ نے اپنی طرف سے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا: اور کون سا آدمی اجر و ثواب میں اس شخص سے بڑا ہو سکتا ہے، جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے پاکدامن بنائے رکھتا ہے۔

فوائد: جو آدمی کمانے کے قابل نہ ہو، اس کا سہارا بننا بڑی نیکی ہے، بالخصوص اگر وہ فرد چھوٹی عمر میں ہو اور وہ بھی اولاد نہ ہو تو اس کی ضروریات پوری کرنا والدین کی سعادت ہوگی، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اجر و ثواب کی نیت سے اپنے بچوں کی ضروریات پوری کیا کریں، لیکن تکلف سے بچیں اور دوسرے غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں۔

سیدنا مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کی ہے اور پھر ان سے جو ان کے بعد ہوں۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی، رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا امکان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟“ اس نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیری کوئی خالہ ہے؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر اسی سے نیکی کر۔“

فوائد: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ”بیشک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں“ (سورہ ہود: ۱۱۳)

(۹۰۱۷)۔ عَنِ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَنِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ مَنْ قَبْلِهِ بِرَّ بِالْعِيَالِ، قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ صَغَارًا يُعْفَهُمُ اللَّهُ بِهِ۔ (مسند احمد: ۲۲۸۲۰)

(۹۰۱۸)۔ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوَصِّيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْأَقْرَبِ)) (مسند احمد: ۱۷۳۱۶)

(۹۰۱۹)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَثِيرًا، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَيْكَ وَالِدَانُ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَلَيْكَ خَالَةٌ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَبَرِّهَا إِذَا)) (مسند احمد: ۴۶۲۴)

(۹۰۱۷) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۲۲۴۵۳)

(۹۰۱۸) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۳۶۶۱ (انظر: ۱۷۱۸۴)

(۹۰۱۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه الترمذی: ۱۹۰۴ (انظر: ۴۶۲۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی قانون بیان کیا گیا ہے۔

(۱۹۲۰)۔ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ :
أَعْتَقْتُ جَارِيَةً لِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ بِعَيْتِقِهَا ، فَقَالَ : ((أَجْرَكَ اللَّهُ ، أَمَا
إِنَّكَ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ
لِأَجْرِكَ)) (مسند احمد: ۲۷۳۵۴)

زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا، پھر جب آپ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ کو اس کی آزادی کی بارے میں بتلایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا کرے، لیکن اگر تو اپنے ماموؤں کو دے دیتی تو اس میں تیرے لیے زیادہ اجر ہوتا۔“

فوائد:.....محتاج رشتہ دار پر خرچ کرنا، غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ باعثِ ثواب ہے۔

(۱۹۲۱)۔ عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ : أَسَمِعْتَ أَنَسًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
لِلنُّعْمَانِ بْنِ مِقْرَانَ ، ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)) ؟ قَالَ : نَعَمْ (مسند احمد: ۱۲۲۱۱)

امام شعبہ کہتے ہیں: میں نے معاویہ بن قرہ سے کہا: کیا تم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ”لوگوں کا بھانجا ان میں سے ہی ہے۔“ انھوں نے کہا: جی ہاں۔

فوائد:.....صلہ رحمی اور معاونت کا سلسلہ دوسرے رشتہ داروں کی طرح بھانجے کو بھی حاصل ہے

(۱۹۲۲)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَبِرَ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي ، وَكَثُرَتْ مُوتِي ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسَقَا مِنْ طَعَامٍ فَأَفْعَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((نَفْعَلْ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ :

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں، سیدہ فاطمہ، سیدنا عباس اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم، رسول اللہ کے پاس جمع ہوئے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اب میری عمر بڑی ہو چکی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور مشقت بھی کافی کر لی ہے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے اتنے وقت اناج کا حکم دے دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم اس طرح کر دیں گے۔“ پھر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے مجھے ایک زمین دی تھی، وہ میری گزران کا ذریعہ تھی، لیکن پھر آپ نے

(۱۹۲۰) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۱۶۹۰ (انظر: ۲۶۸۱۷)

(۱۹۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۵۲۸، ۶۷۶۱ (انظر: ۱۲۱۸۷)

(۱۹۲۲) تخریج: اسنادہ ضعیف، الحسين بن ميمون الخندقي ليس بمعروف قل من روى عنه، أخرجه

ابوداود: ۲۹۸۳ (انظر: ۶۴۶)

واپس لے لی ہے، اگر آپ مناسبت سمجھتے ہیں تو دوبارہ مجھے دے دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم اس طرح کریں گے۔“ پھر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ مناسبت سمجھیں کہ آپ مجھے اس حق کا والی بنا دیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے خمس کی صورت میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، میں اس کو آپ کی زندگی میں تقسیم کروں گا، تاکہ آپ کے بعد کوئی آدمی مجھ سے جھگڑا نہ کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم ایسے ہی کریں گے۔“ پس آپ ﷺ نے مجھے اس کا والی بنا دیا، میں نے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں اس کو تقسیم کیا، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کا والی بنایا، میں نے ان کی زندگی میں بھی اس کو تقسیم کیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کا والی بنایا اور میں نے ان کی زندگی میں اس کو تقسیم کیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری سال تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ مال آیا تھا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضًا كَانَتْ مَعِيشَتِي مِنْهَا، ثُمَّ قَبَضْتَهَا، فَإِن رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَاَفْعَلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَفْعَلُ ذَلِكَ)) قَالَ: فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِن رَأَيْتَ أَنْ تُؤَلِّبَنِي هَذَا الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنْ هَذَا الْخُمْسِ، فَاَقْسِمُهُ فِي حَيَاتِكَ، كَيْ لَا يَنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَفْعَلُ ذَلِكَ)) قَوْلَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّيْتُهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلَّيْتُهُ عُمَرُ، فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ فَإِنَّهُ آتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ. (مسند احمد: ٦٤٦)

فوائد: یعنی آپ ﷺ نے اپنے قرابتداروں کا خیال رکھا تھا۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، نبی کریم ﷺ نے ان سے کوئی چیز خریدی اور اس پر کچھ اوقیے نفع کمایا اور پھر ان کو بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا: ”آئندہ میں ایسی چیز نہیں خریدوں گا، جس کی میرے پاس قیمت نہیں ہوگی۔“

(١٩٢٣)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمْتُ عَيْرَ الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرِيبَ أَوَاقِي، فَقَسَمَهَا فِي أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: ((لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ)) (مسند احمد: ٢٠٩٣)

فوائد: ایسی چیز خریدنے سے اجتناب کا درس دیا جا رہا ہے، جس کی بندے کے پاس قیمت نہ ہو، کیونکہ ممکن

ہے کہ آدمی مقروض ہی فوت ہو جائے اور اس کی طرف سے ادا ایگی بھی نہ کی جائے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مدینہ منورہ کے انصاریوں میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ

(١٩٢٤)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ

(١٩٢٣) تخریج: اسنادہ ضعیف، شریک بن عبد اللہ القاضی سیء الحفظ، وسماک فی روایتہ عن عکرمة اضطراب، أخرجه ابوداود: ٣٣٤٤ (انظر: ٢٠٩٣)

(١٩٢٤) تخریج: أخرجه البخاری: ١٤٦١، ٢٣١٨، ومسلم: ٩٩٨ (انظر: ١٢٤٣٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مالدار تھے اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحاء باغ تھا، یہ مسجد کے سامنے تھا، نبی کریم ﷺ اس میں داخل ہوتے اور اس کا بیٹھا پانی پیتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾..... ”تم جب تک پسندیدہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچو گے۔“ تو سیدنا ابو طلحہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ اور میرا سب سے پسندیدہ مال بیرحاء ہے، لہذا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے ہاں اس کی نیکی اور ذخیرہ ہونے کی امید کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول! جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”واہ واہ! یہ تو نفع بخش مال ہے، یہ تو نفع بخش مال ہے، تحقیق میں نے تیری بات سن لی ہے، میرا خیال ہے کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔“ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اسی طرح ہی کروں گا، پھر انھوں نے وہ مال اپنے رشتہ داروں اور چچا زادوں میں تقسیم کر دیا۔

مَا لَا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ أَنبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا دَلِيْبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِيهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَبَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ- وَقَدْ سَمِعْتُ، وَأَنَا أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ-)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ-

(مسند احمد: ۱۲۴۶۵)

فوائد:..... اولاد، والدین اور بیوی کا تو آدمی پر حق ہے، سب سے پہلے ان کو ہی ترجیح دینی چاہیے، ان کی ضروریات کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس قانون، کا مطلب موجودہ زمانے کا پر تکلف نظام نہیں ہے، جائز اخراجات ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَرَةِ الْأَوْلَادِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَادِيهِمْ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ
اولاد کے فوائد اور ان کی تربیت کرنے اور ان پر نرمی کرنے کی ترغیب کا بیان

(۱۹۲۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ سَيِّدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيَانٍ كَرْتُمْ هِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فِيهِمْ فَرَمَا: ”جَبْ ابْنِ آدَمَ مَرْتَابَةً تُوَاسِ كَعْمَلِ كَالسَّلْسَلَةِ بَعْمَلِ مَنْقَطِعِ هُوَ جَاتَا هَ، مَاسَوَائِي تَمِنِ أَعْمَالِ كَع، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ سَ، يَاعْلَمُ

يُتَفَعُّ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.)) سے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ (مسند احمد: ۸۸۳۱)

فوائد:..... صدقہ جاریہ کی کسی قسم کا انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن جو خیر اپنے ورثے میں نیک اولاد کو چھوڑ کر جانے میں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانانِ عصر حاضر نے اپنی اولاد کی ترقی کے مختلف حقوق ادا کیے ہیں، ماسوائے نیک تربیت کے۔

(۱۹۲۶)۔ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدٍ كِنَسَةَ فَقَالَ لِي: ((هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟)) قُلْتُ: غُلَامٌ وَوَلَدٌ لِي فِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ مِنْ ابْنَةِ جَمْدٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنْ مَكَانَهُ شَبَعَ الْقَوْمُ، قَالَ: ((لَا تَقُولَنَّ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهِمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، وَأَجْرًا إِذَا قَبِضُوا، ثُمَّ وَلَيْتَ قُلْتُ ذَلِكَ إِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ، إِنَّهُمْ لَمَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ.)) (مسند احمد: ۲۲۱۸۳)

سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں کندہ کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”کیا تیری اولاد ہے؟“ میں نے کہا: ابھی جب میں آپ کی طرف نکل رہا تھا، اس وقت میرا ایک بچہ بنت جمد کے بطن سے پیدا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی بجائے لوگ ہی سیر ہو کر کھانا کھا لیتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز اس طرح نہ کہو، کیونکہ بعض بچے آنکھ کی ٹھنڈک بنتے ہیں اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو اجر ملتا ہے، پھر بھی اگر تو یہ بات کہتا ہے تو یہ بچے بزودی اور غم کا سبب بنتے ہیں، بیشک یہ بزودی اور غم کا سبب بنتے ہیں۔“

فوائد:..... بچوں کی فکر انسان کو بزول اور بخیل بنا دیتی ہے، ہر کوئی زندگی کا حریص ہوتا ہی ہے، لیکن جب بچے ہو جائیں تو ان کی خدمت اور نگہداشت کی خاطر انسان اپنی زندگی کو زیادہ قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے اور جہاد جیسے عظیم عمل میں شرکت کرتے وقت بھی فکر مند ہو جاتا ہے۔ بہر حال اولاد ایک نعمت ہے، ان کی خدمت میں شرف ہے، لیکن دوسرے شرعی احکام متاثر نہیں ہونے چاہئیں۔

(۱۹۲۷)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: رَزَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُحْتَضِنًا أَحَدَ ابْنَيْ أَبِيهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((وَاللَّهِ! إِنَّكُمْ لَتُجَبِّنُونَ))

عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں: ایک عورت سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بیٹی کے دو بیٹوں میں سے ایک کو گود میں لے کر نکلے اور آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”اللہ کی قسم! تم بزول اور بخیل بناتے ہو، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی

(۱۹۲۶) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی: ۶۴۶، والحاكم: ۴ / ۲۳۹ (انظر: ۲۱۸۴۰)

(۱۹۲۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لا تقطاعه، عمر بن عبد العزيز لا يعرف له سماع من خولة، ولجهالة ابن

ابی سويد، أخرجه الترمذی: ۱۹۱۰ (انظر: ۲۷۳۱۴)

وَتُبْحَلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطْأَتِهَا اللَّهُ
يُوجَّحُ)) وَقَالَ سَفِيَانُ مَرَّةً: إِنَّكُمْ لَتُبْحَلُونَ
وَإِنَّكُمْ لَتُجَبَّنُونَ. (مسند احمد: ۲۷۸۵۷)

فوائد:..... غزوة طائف، نبی کریم ﷺ کا آخری قتال تھا، اگرچہ غزوة تبوک اس کے بعد پیش آیا، لیکن اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔

(۱۹۲۸)۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَزْرِيُّ، عَنْ نَاصِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
رِمَالِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ
وَلَدَهُ، أَوْ أَحَدَكُمْ وَلَدَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ)) قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُخْرَجْهُ أَبِي فِي
مُسْنَدِهِ مِنْ أَجْلِ نَاصِحٍ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي
الْحَدِيثِ وَأَمْلَاهُ عَلِيُّ فِي النَّوَادِرِ. (مسند
احمد: ۲۱۲۰۶)

(۱۹۲۹)۔ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:
أَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمِ الْمُزْنِيِّ، ثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ، قَالَ: أَوْ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ
أَدَبٍ حَسَنٍ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(۱۹۲۸) تخريج: اسنادہ ضعیف لضعف ناصح، أخرجه الترمذی: ۱۹۵۱ (انظر: ۲۰۹۰۰)
(۱۹۲۹) تخريج: اسنادہ ضعیف لضعف عامر بن صالح، ولارسالة عمرو بن سعيد بن العاص، جد
ايوب بن موسى ليس له صحبة، وموسى بن عمرو تفرد بالرواية عنه ابنه ايوب أخرجه الحاكم: ۴ /
۲۶۳، والبيهقي في "الشعب": ۱۶۷۳ (انظر: ۱ / ۱۵۴۰۳)

حَدَّثَنَا بِهِ خَلْفُ بْنُ هِشَامِ الْبَرَّارُ وَالْقَوَارِيرِيُّ
 قَالَا: نَسَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَ
 مِثْلَهُ. (مسند احمد: ۱۵۴۷۸)

فوائد:..... یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ حسن ادب اور اچھی تربیت

ہے، اولاد کو اس قابل بنا دینا چاہیے کہ وہ دین کو بھی سمجھے اور دنیا سے بھی غافل نہ ہونے پائے۔

(۹۰۳۰)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَاهُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ
 (مِنْهَا) ((وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ،
 وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا، وَأَخْفِهِمْ فِي
 اللَّوْءِ)) (مسند احمد: ۲۲۴۲۵)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دس باتوں کی وصیت کی تھی، ان میں سے تین یہ تھیں: ”اور اپنی مالی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، ان کو ادب کی تعلیم دینے کے لیے ان سے لاشی کو دور نہ کر اور ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف دلا کے رکھ۔“

فوائد:..... دوسری نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت بیوی بچوں کو سزا دی جاسکتی ہے۔

(۹۰۳۱)۔ عَنِ السُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 قَالَ إِنَّ أَسِيَّ بَشِيرًا وَهَبَ لِي هَبَةً، فَقَالَتْ
 أُمِّي: أَشْهَدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَآخَذَ
 بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي حَتَّى آتَيْنَا رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا
 الْغُلَامِ سَأَلْتَنِي أَنْ أَهَبَ لَهُ هَبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ،
 فَقَالَتْ: أَشْهَدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
 فَآتَيْتُكَ لِأَشْهَدُكَ، فَقَالَ: ((رُؤْيُكَ، أَلَّا
 وَلَدٌ غَيْرُهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((كُلُّهُمْ
 أَعْطِيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ:
 ((فَلَا تُشْهَدْنِي إِذَا، إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى
 جَوْرٍ، إِنَّ لِيْبَيْتِكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے باپ سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک چیز ہبہ کی، میرے ماں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو اس ہبہ پر گواہ بنا لیں، چنانچہ انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس بیچے کی ماں نے پہلے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس کو کوئی ہبہ دوں، اور اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس پر گواہ بناؤں، اس لیے آپ کو گواہ بنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ذرا ٹھہرو، کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر کیا تم نے ان میں سے ہر ایک کو یہ ہبہ دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ

(۹۰۳۰) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، عبد الرحمن بن جبیر لم يدرك معاذًا أخرجه بنحوه ابن ماجه:
 (۳۳۷۱، ۴۰۳۴) (انظر: ۲۲۲۰۷۵)

(۹۰۳۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۸۷، ومسلم: ۱۶۲۳ (انظر: ۱۸۳۶۹)

نے فرمایا: ”تو پھر مجھے گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تم پر تمہارے بیٹوں کا یہ حق ہے کہ تم ان کے مابین انصاف کرو۔“

(بینہم۔) (مسند احمد: ۱۸۵۵۹)

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تمہاری اولاد تم سے برابر برابری کی کرے؟“ انہوں نے کہا: جی کیوں نہیں۔ ایک روایت میں ہے: ”تم پر تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم ان کے مابین انصاف کرو، جیسا کہ ان پر تمہارا حق ہے کہ وہ سب تم سے نیکی کریں۔“

(۹۰۳۲)۔ (وَفِي لَفْظٍ) فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ((فَأَشْهَدُ غَيْرِي)) ثُمَّ قَالَ: ((الْيَسَّ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟)) قَالَ: بَلَى، وَفِي لَفْظٍ: ((إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبْرُوكَ)) (مسند احمد: ۱۸۵۵۶)

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے بیٹوں کے مابین برابری کرو۔“ ایک روایت میں ہے: ”اپنے بیٹوں کے مابین انصاف کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، اپنی بچوں اور بچیوں کے مابین برابری کا رویہ اختیار کرو۔“

(۹۰۳۳)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَارِبُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ يَعْنِي سَوُوا بَيْنَهُمْ)) وَفِي لَفْظٍ: ((اعْدِلُوا بَيْنَ بَنَائِكُمْ، اِعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ، اِعْدِلُوا بَيْنَ بَنَائِكُمْ)) (مسند احمد: ۱۸۶۴۲)

فوائد:..... والدین کسی ایک بچے کے ساتھ کسی اعتبار سے امتیازی سلوک نہیں کر سکتے، بعض آباء کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے بعض بچے ہمیشہ ان کے غیظ و غضب اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنتے ہیں اور بعض لاڈ پیار کے مستحق ٹھہرتے ہیں، سی طرح جب بچوں پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اسی امتیاز کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنا ضلالت و گمراہی ہے، نبوی منج سے بھگ جانے کی علامت ہے اور بچوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی علامت ہے۔ بچوں اور بچیوں کی شادیوں پر بھی مساوات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: كَانَ رَجُلٌ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ فَأَخَذَهُ فَقَبَلَهُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، وَجَاءَتْ ابْنَةٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَا عَدَلَتْ بَيْنَهُمَا؟)) يَعْنِي: بَيْنَ ابْنِهِ وَبِنْتِهِ فِي تَقْبِيلِهِمَا۔..... ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھالیا، اس کے بعد اس کی بیٹی آئی، اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تو نے ان کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا۔“ یعنی بیٹے کا بوسہ لیا اور بیٹی کا نہیں لیا۔

(مسند بزار: ۱۸۹۳/۳۷۸/۲، شعب الایمان للبیہقی: ۶/۴۱۰/۸۷۰، صحیحہ: ۲۸۸۳، ۲۹۹۴)

(۹۰۳۲) تخریج: انظر الحديث السابق

(۹۰۳۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۳۵۴۴، والنسائی: ۶/۲۶۲ (انظر: ۱۸۶۵۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ اولاد کے مابین مساوات کا معیار ہے کہ محبت کے ظاہری تقاضوں میں بھی کسی بیشی نہیں ہونی چاہئے۔ یہ ممکن ہے کہ والدین کے دل میں کسی ایک بیٹے کا لحاظ یا اس کی محبت دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہو، اور اس میں مضائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن مساوات کے ظاہری تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔

(۹۰۳۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ الْأَفْرَعُ يُقْبَلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِيْ عَشْرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطًّا! قَالَ: ((إِنَّهُ مَن لَّا يَرْحَمُ لَّا يَرْحَمُ)) (مسند احمد: ۷۲۸۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا افرع رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اور کہا: میرے دس بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

(۹۰۳۵)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: دَخَلَ عَيْنَةُ بْنُ حِضْنٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَاهُ يُقْبَلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: لَا تُقْبَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ وُلِدَ لِيْ عَشْرَةٌ مَا قَبَلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مَن لَّا يَرْحَمُ لَّا يَرْحَمُ)) (مسند احمد: ۷۱۲۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عیینہ بن حِضْنٍ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا بوسہ لے رہے تھے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان کا بوسہ نہ لیں، میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

فوائد: بندے کا رحمدل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرے گا، اگر کوئی آدمی بہت ہی سخت طبیعت کا مالک ہو تو اس کو چاہیے کہ تکلف کرتے ہوئے اپنی اولاد کے معاملے میں نرمی کر لیا کرے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِيْ اِكْرَامِ الْاِنَاثِ مِنَ الْاَوْلَادِ وَفَضْلِ تَرْبِيَّتِهِنَّ وَالْبِعْطِفِ عَلَيْهِنَّ
بیٹیوں کا اکرام کرنے کی ترغیب اور ان کی تربیت اور ان پر نرمی کرنے کی فضیلت کا بیان

(۹۰۳۶)۔ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُكْرَهُ هُوَ الْبَنَاتِ فَاِنَّهُنَّ الْمُؤَنَسَاتُ الْعَالِيَاتُ)) (مسند احمد: ۱۷۵۰۸)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور خاندانوں سے محبت کرنے والی ہیں۔“

فوائد: بہر حال بیٹیوں کو نکاح پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، ان کی اپنی رضامندی ضروری ہے۔

(۹۰۳۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۱۸ (انظر: ۷۲۸۹)

(۹۰۳۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۹۹۷ (انظر: ۷۱۲۱)

(۹۰۳۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لسوء حفظ ابن لهیعة، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۱۷ / ۸۵۶ (انظر: ۱۷۳۷۳)

عکرمہ کہتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں زید بن علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابوسعید خدری نامی ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انھوں نے کہا: اے ابوسعید! کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا: امیر المؤمنین کے پاس سے، میں نے ان کو ایک حدیث بیان کی اور انھوں نے کہا: اگر یہ حدیث واقعی ثابت ہے تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوگی، پھر انھوں نے لوگوں کو وہ حدیث بیان کی اور کہا: میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور پھر وہ جب تک اس کے ساتھ رہیں، یا وہ ان کے ساتھ رہے تو وہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: درج بالا حدیث کی طرح ہے، البتہ یہ الفاظ اس میں زیادہ ہیں: ”تو اس آدمی کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ دو ہوں۔“ پھر لوگ ایک

(۹۰۳۷)۔ عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ شُرْحَيْبِلُ أَبُو سَعْدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعْدٍ، مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ أَبِي الْمَوْمِنِينَ، حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ، فَقَالَ: لِأَنَّ يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حَقًّا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ، قَالَ: حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَذَرُكَ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلْتَاهُ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۳۴۲۴)

(۹۰۳۸)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَيَتَّقِي اللَّهَ فِيهِنَّ، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۱۱۴۰۴)

(۹۰۳۹)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَزَادَ: ((وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.)) قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ كَانَتِ ابْنَتَيْنِ؟ قَالَ: ((وَأِنْ كَانَتِ ابْنَتَيْنِ.)) قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ

(۹۰۳۷) تخریج: حسن لغیرہ، أخرجه ابويعلى: ۲۴۵۷، والحاكم: ۱۷۸ / ۴ (انظر: ۳۴۲۴)

(۹۰۳۸) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه ابوداود: ۵۱۴۸، والترمذی: ۱۹۱۲ (انظر: ۱۱۳۸۴)

(۹۰۳۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۵۵۰ / ۸، والبزار: ۱۹۰۸، وابويعلى: ۲۲۱۰،

والطبرانی فی "الوسط": ۵۱۵۳ (انظر: ۱۴۲۴۷)

دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر ایک کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ ﷺ نے کہہ دینا تھا کہ ”اگر چہ ایک ہو۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے دو بیٹیوں، یا تین بیٹیوں، یا دو بہنوں، یا تین بہنوں کی پرورش کی اور ان کے ضروری اخراجات کا ذمہ دار بنا، یہاں تک کہ وہ وفات پاگئیں یا وہ خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ شخص ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔“ ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے انشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔

(دوسری سند) سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی تین بیٹیوں اور تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کی نگہبانی کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔“ ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے چار انگلیوں سے اشارہ بھی کیا۔

سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اے سراقہ! کیا میں سب سے بڑے صدقے کی طرف تیری رہنمائی نہ کر دوں؟“ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیری بیٹی جو تیری طرف لوٹا دی جائے اور تیرے علاوہ اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو۔“

فوائد:..... ”تیری بیٹی جو تیری طرف لوٹا دی جائے۔“ اس سے مراد بیٹی کا طلاق ملنے یا بیوہ ہو جانے کی وجہ سے

قَالُوا لَهُ: وَاحِدَةٌ، لَقَالَ وَاحِدَةٌ. (مسند احمد: ۱۴۲۹۷)

(۹۰۴۰)۔ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ)) وَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (مسند احمد: ۱۲۵۲۶)

(۹۰۴۱)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ اتَّقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا)) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ. (مسند احمد: ۱۲۶۲۱)

(۹۰۴۲)۔ عَنْ سُرَّاقَةَ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا سُرَّاقَةُ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟)) قَالَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِنْتِكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَأْسِبٌ غَيْرُكَ)) (مسند احمد: ۱۷۷۲۹)

(۹۰۴۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۱ (انظر: ۱۲۴۹۸)

(۹۰۴۱) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۰۴۲) تخریج: ضعيف، على بن رباح لم يسمعه من سراقه، أخرجه ابن ماجه: ۳۶۶۷ (انظر: ۱۷۵۸۶)

اپنے باپ کے پاس گھر واپس آ جانا ہے، عام طور پر ایسی بیٹیوں کی کفالت کو بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن خبردار! ایسی بے آسرا بیٹی اور بہن کا آسرا بننا بڑی سعادت کی بات ہوگی، ایک شفقت والا بھائی مجھے یاد آ رہا ہے، جس نے اپنی دکھی بہن سے کہا تھا: بہن! تیری اور تیرے بچے کی کفالت کی خاطر میں شادی نہیں کروں گا۔ کتنا محبت بھرا انداز ہے، بہن کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی۔

سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی تین بیٹیاں، یا تین بہنیں، یا دو بیٹیاں، یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کے ساتھ احسان کرے، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کی بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ اسے زندہ درگور کرے، نہ اس کی توہین کرے اور نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔“

سیدنا عبد المطلب مخزومی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، انھوں نے کہا: اے پیارے بیٹا! کیا میں تجھے وہ حدیث بیان نہ کروں، جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، اے اماں جان! انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جو آدمی دو بیٹیوں، یا دو بہنوں، یا دو رشتہ دار لڑکیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ

(۹۰۴۳)۔ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ بَنَاتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ اتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّى يَبِينَ أَوْ يَمُتَنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۴۴۹۱)

(۹۰۴۴)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَنْدِهَا، وَلَمْ يُهِنِّهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، يَغْنِي الدَّكْرَ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ)) (مسند احمد: ۱۹۵۷)

(۹۰۴۵)۔ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا بِنْتِي! أَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهُ! قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتِنِ قَرَابَةٍ،

(۹۰۴۳) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی: ۱۸ / ۱۰۲، والبيهقي في "الشعب": ۸۶۷۹ (انظر: ۲۳۹۹۱)

(۹۰۴۴) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابن حدیر لایعرف، أخرجه ابو داود: ۵۱۴۶ (انظر: ۱۹۵۷)

(۹۰۴۵) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف محمد بن ابی حمید الانصاری المدنی، أخرجه الطبرانی في

"الكبير": ۲۳ / ۹۳۸ (انظر: ۲۶۵۱۶)

اللہ تعالیٰ ان دو بچیوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے یا ان کو کفایت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تنگدستی اور خوشحالی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔“ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو بیٹیاں ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں۔“ اس نے پھر کہا: اور اگر ایک ہو اے اللہ کے رسول!؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ ایک بھی ہو۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، میں نے اس کو ایک کھجور دی اور اس نے اس کھجور کو اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، پھر جب میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بتلائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ان بیٹیوں کے ذریعے آزما گیا، لیکن اس نے ان کے ساتھ احسان کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس نے دو بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو تین کھجوریں دیں، اس نے ہر ایک بیٹی کو ایک کھجور دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ کی طرف اٹھائی، لیکن اس کی دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور بھی اس سے لینا چاہی،

يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.)) (مسند احمد: ۲۷۰۵۱)

(۹۰۶۶)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَضَرَائِهِنَّ، وَسَرَائِهِنَّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ.)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أَوْ ثِنْتَانِ.)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ وَاحِدَةً؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أَوْ وَاحِدَةً.)) (مسند احمد: ۸۴۰۶)

(۹۰۶۷)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، قَالَتْ: فَأَعْطَيْتُهَا تَمْرَةً فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ ابْتَلَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.)) (مسند احمد: ۲۴۵۵۶)

(۹۰۶۸)۔ وَعَنْهَا أَيْضًا، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ نِسْوَةٌ مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَيَّ فِيهَا تَمْرَةً لِيَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ

(۹۰۶۶) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الحاكم: ۴ / ۱۷۶، وابن أبي شيبة: ۵۵۲ / ۸ (انظر: ۸۴۲۵)

(۹۰۶۷) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۴۱۸، ومسلم: ۲۶۲۹ (انظر: ۲۴۰۵۵)

(۹۰۶۸) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۰ (انظر: ۲۴۶۱۱)

الْتَمَرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا،
قَالَتْ: فَأَعَجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ وَاعْتَقَهَا
بِهَا مِنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۵۱۱۸)

پس اس نے اس کھجور کے ٹکڑے کیے اور ان دونوں کو دے
دیے، مجھے اس کی اس کاروائی نے تعجب میں ڈال دیا اور جب
میں نے اس کا عمل رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو
جنت میں داخل کر دیا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔“

فوائد:..... سبحان اللہ! اگر بچیاں یا بہنیں مل جائیں تو جنت کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔

بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، ان کا رحمت ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ باپ ان کے ساتھ حسن صحبت کی
وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بلاشک و شبہ ہر معاشرے میں اور ہر دور میں بیٹوں کی تمنائیں کی جاتی رہیں، لیکن
اگر ان خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنی تمنا سے زیادہ حکمت و دانائی والا سمجھ کر بیٹیوں پر مکمل
رضامندی کا اظہار کیا جانا چاہیے۔

ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹیوں کا اتنا لحاظ نہ کیا جائے کہ انھیں وقت ضائع کرنے کے
لیے اور ان کے طبعی شرم و حیا کو متاثر کرنے کے لیے انٹرنیٹ، کیبل نیٹ ورک، وی سی آر، موبائل اور سی ڈی پلیئر کی
صورت میں بے حیائی کے تمام مواقع مہیا کئے جائیں۔ والدین کا امتیاز اس میں ہے ان کی بیٹیاں نیکی و پارسائی اور تقویٰ
و طہارت میں اپنی مثال آپ ہوں۔

اگر یہ ایجابات کسی بچی کی ضرورت بن جائیں تو اس کی تربیت کرنا، اس کے نقصان دہ پہلو سے اس کو آگاہ کرنا اور
حسب استطاعت اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے، کوئی مانے یا مانے نیٹ لیکن یہ حقیقت ہے کہ موبائل کی وجہ سے کئی لڑکے
اور لڑکیاں بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي صَلَاةِ الرَّحِمِ صلہ رحمی کی ترغیب کا بیان

تَنْبِيْهُهُ:..... صلہ رحمی یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کو خیر پہنچانے کے لیے اور ان سے شر کو رفع کرنے کے لیے ہر ممکنہ
کوشش کی جائے، یہ عمل جتنا اہم اور ضروری تھا، عصر حاضر میں اس سے اتنی ہی غفلت برتی گئی۔ مسلمان کو ظاہر پرستی اور
جلد بازی نے بہت نقصان دیا ہے، اس نے حقوق العباد سے متعلقہ نیکیوں کا معیار بندے کی ذات کو سمجھ لیا ہے، یہی وجہ
سے کہ مسکراہٹوں کے تبادلے کو صلہ رحمی سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ شرعی تقاضا یہ نہیں تھا، نبی مہربان ﷺ نے تو کافر رشتہ داروں
کے بھی صلہ رحمی سے متعلقہ حقوق کی ادائیگی کی۔

حدیث نمبر (۹۶۸۹) والے باب میں قطع رحمی کی خوب مذمت کی گئی ہے۔

(۹۰۴۹)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُوسَعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.)) (مسند احمد: ۱۲۱۳)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے دفع کر دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔“

فوائد: ایک طرف تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾..... ”اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آجاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔“ (سورہ اعراف: ۳۴)

دوسری طرف یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تقویٰ اور صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، جمع و تطبیق کی درج ذیل دو صورتیں ہیں:

۱۔ عمر کی زیادتی سے مراد بابرکت زندگی ہے، یعنی تقویٰ اختیار کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا مسلمان اپنی مختصر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی اطاعت کے اتنے امور سرانجام دے لیتا ہے کہ عام لوگ اتنا کچھ کر سکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔

۲۔ زیادتی سے مراد زیادتی ہی ہے، لیکن اس کا تعلق عمر سے متعلقہ فرشتے سے ہے، یعنی اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں آدمی صلہ رحمی اختیار کرے تو اس کی عمر نوے برس ہوگی، وگرنہ ساٹھ برس، جبکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس بندے نے صلہ رحمی اختیار کرنی ہے یا نہیں۔

(۹۰۵۰)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند احمد: ۱۳۴۳۴)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

(۹۰۵۱)۔ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ۔

مولائے رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

(۹۰۵۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَةَ الرَّجِيمِ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے نسبوں کے بارے میں اتنا علم تو حاصل کر لو کہ جس کے ذریعے آپس میں صلہ رحمی اختیار کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے

(۹۰۴۹) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه البزار: ۶۹۳ (انظر: ۱۲۱۳)

(۹۰۵۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۳۴۰۱)

(۹۰۵۲) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الترمذی: ۱۹۷۹ (انظر: ۸۸۶۸)

مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنَشَأَةٌ قَرَابَتِ دَارُونَ فِي مَحَبَّتٍ بَيِّدَا هَوْتِي هِي، مَالٌ فِي بَرَكْتٍ هَوْتِي هِي أَثْرِهِ۔)) (مسند احمد: ۸۸۵۵) اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

فوائد:..... نب کے علم کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ کون قریبی رشتہ دار ہے اور کون دور کا۔

(۹۰۵۳)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمَكُمُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَالرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔)) (مسند احمد: ۶۴۹۴)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے، رحم (رشتہ داری) رحمن کی شاخ ہے، جو اس کو ملاتا ہے، میں اس کو ملاتا ہوں اور جو اس کو کاٹتا ہے، میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔“

فوائد:..... آسمانوں والوں سے مراد فرشتے ہیں اور ان کی رحمت سے مقصود رحمت کی دعا کرنا ہے۔ (عبد اللہ رفیق)

(۹۰۵۴)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاوِصِلُ بِالْمُكَافِيءِ، وَلَكِنَّ الْوَاوِصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا۔)) (مسند احمد: ۶۵۲۴)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، جو بدلے میں یہ عمل کر رہا ہو (اصل اور کامل درجے میں)، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کا رشتہ کٹ رہا ہو تو وہ اس کو جوڑ رہا ہو۔“

فوائد:..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ

تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ))..... ”رشتہ داری عرش کے ساتھ معلق ہے اور وہ کہتی ہیں: جس نے مجھے ملایا، اللہ تعالیٰ اس کو ملا لے اور جس نے مجھے توڑا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔“ (صحیح مسلم: ۴۶۳۵)

(۹۰۵۵)۔ عَنِ عَمْرٍو وَبْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ، أَصِلْ وَيَسْفُطْعُونِي، وَأَعْفُو وَيَظْلَمُونِي، وَأُحْسِنُ وَيُسَيِّئُونَ،

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں،

(۹۰۵۳) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الترمذی: ۱۹۲۴ (انظر: ۶۴۹۴)

(۹۰۵۴) تخريج: اسنادہ صحيح، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۵۳۹/۸، وابن حبان: ۴۴۵ (انظر: ۶۵۲۴)

(۹۰۵۵) تخريج: حسن لغيره (انظر: ۶۷۰۰)

لیکن وہ مجھ سے برے طریقے سے ہی پیش آتے ہیں، اب میں ان کو ان امور کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی نہیں، پھر تو تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا، تم فضیلت والے عمل کا اہتمام کرو اور ان سے صلہ رحمی کرو، پس بیشک تو جب تک اس روٹین پر برقرار رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار ہوگا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ قرابت دار ہیں، میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں اور میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ جہالت برتتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر بات ایسے ہی ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے اور جب تک تو اس عمل پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت میں تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مددگار ہوگا۔“

فوائد:..... گرم راکھ چبوانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس برتاؤ کی وجہ سے گویا شدید نفسیاتی اور معاشرتی تکلیف سے دوچار کرنے کا انداز ہے۔

سیدہ ذرہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچا، جب کہ آپ ﷺ منبر پر تھے اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ تقویٰ والے، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والے، سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔“

أَفَاكَافِئْتُهُمْ؟ قَالَ: ((لَا، إِذَا تُشْرَكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْتُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ..)) (مسند احمد: 6700)

(۹۰۵۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونَ، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، قَالَ: ((لَيْنَ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ كَأَنَّمَا تُسْفِهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ، مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ..)) (مسند احمد: ۷۹۷۹)

(۹۰۵۷)۔ عَنِ ذُرَّةِ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ، قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ ﷺ: ((خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَتْقَاهُمْ، وَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُم لِلرَّحِمِ..)) (مسند احمد: ۲۷۹۸۰)

(۹۰۵۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۵۸ (انظر: ۷۹۹۲)

(۹۰۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۵۳۹ / ۸ (انظر: ۲۷۴۳۴)

سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے صدقات کے بارے میں سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس رشتہ دار پر جو دل میں عداوت چھپانے والا ہو۔“

سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کرتے ہیں۔

سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو، نبی کریم ﷺ کے سامنے آیا اور آپ ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی، جبکہ آپ ﷺ کسی سفر میں تھے، اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یا اس نے کہا: اے محمد! مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔“

سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسکین پر صدقہ کرنے میں صرف صدقے کا ثواب ہوتا ہے اور رشتہ دار پر کرنے سے دو ثواب ہوتے ہیں، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو فرمایا: ”جس کو نرمی عطا کی گئی، اُس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا

(۹۰۵۸)۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ)) (مسند احمد: ۱۵۳۹۴)

(۹۰۵۹)۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۔ (مسند احمد: ۲۳۹۲۷)

(۹۰۶۰)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ فَأَخَذَ بِحِطَامِ نَاقَتِهِ ، أَوْ بِرِمَامِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ بِأُمِّ مُحَمَّدٍ ، أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) (مسند احمد: ۲۳۹۳۵)

(۹۰۶۱)۔ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ النَّضْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((صَدَقْتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) (مسند احمد: ۱۸۰۲۹)

(۹۰۶۲)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنَ الرَّفْقِ ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَصِلَةٌ

(۹۰۵۸) تخريج: حدیث صحیح، أخرجه الدارمی: ۱/ ۳۹۷، والطبرانی فی "الکبیر": ۳۱۲۶ (انظر: ۱۵۳۲۰)

(۹۰۵۹) تخريج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۴۰۱۵، وفی "الاوسط": ۳۳۰۳ (انظر: ۲۳۵۳۰)

(۹۰۶۰) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۹۸۳، ومسلم: ۱۳ (انظر: ۲۳۵۳۸)

(۹۰۶۱) تخريج: صحیح لغيره، أخرجه ابو داود: ۲۳۵۵، والترمذی: ۶۵۸، وابن ماجه: ۱۸۴۴،

والنسائی: ۵/ ۹۲ (انظر: ۱۷۸۷۲)

(۹۰۶۲) تخريج: اسنادہ صحیح، أخرجه مختصر ابو یعلی: ۴۵۳۰ (انظر: ۲۵۲۵۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرَّحِيمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَحُسْنُ الْجَوَارِ (جیسے امور خیر) گھروں (اور قبیلوں) کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔“
(مسند احمد: ۲۵۷۷۳)

فوائد: عمر میں اضافہ ہونے کے دو مفایم ہیں: (۱) حقیقی طور پر عمر بڑھ جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی معلق تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (۲) عمر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے اور صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی کا ہر پہلو فوائد سے یوں لبریز ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کام لمبی لمبی عمروں میں سرانجام نہیں دے سکتے، یہ لوگ اپنی مختصر عمروں میں ان سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ،
وَمَسْحِ رَأْسِهِ وَالشَّهْرِ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ

یتیم کی کفالت کرنے، اس کے ساتھ احسان کرنے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور بیواؤں اور مسکینوں کی حفاظت و نگرانی کرنے کی ترغیب کا بیان

(۹۰۶۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَفَالُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلِيَاؤُهُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ)) وَأَشَارَ مَالِكٌ (أَحَدَ الرَّوَاةِ) بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى۔ (مسند احمد: ۸۸۶۸)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے یا کسی اور کے یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔“ ساتھ مالک راوی نے انشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔

(۹۰۶۴)۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبْوَيْنِ مُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنَى عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۰۵۹۷)

سیدنا مالک بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو جانے والے یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں اپنے ساتھ ملا لیا، یہاں تک کہ وہ یتیم اس سے غنی ہو گیا تو ایسے آدمی کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی اور جس نے مسلمان غلام آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا، اس غلام کا ہر عضو آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آگ سے کفایت کرنے والا ہوگا۔“

(۹۰۶۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۸۳ (انظر: ۸۸۸۱)

(۹۰۶۴) تخریج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ۵۸۷ (انظر: ۲۰۳۳۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زرارہ بن اوفیٰ اپنی قوم کے مالک یا ابن مالک نامی صحابی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان نے مسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو جانے والے بچے کو اپنے کھانے پینے میں اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو غنی کر دیا تو اس کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی، جس مسلمان نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو یہ آگ سے اس کی آزادی کا باعث بنے گا اور جس آدمی نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو پایا اور پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میں دو کمزوروں یتیم اور عورت کے حقوق کو ممنوع اور حرام قرار دیتا ہوں۔“

فوائد: ویسے تو ہر مسلمان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں، بہر حال یتیم اور عورت جیسے بے آسرا افراد کے

حقوق کی ادائیگی میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔

قابل غور بات ہے کہ بیوی کو ”ضعیف“ کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشک اس کا تعلق امیر گھرانے سے ہوگا، لہٰذا شادی کے بعد وہ خاوند کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اگر وہی بد اخلاق ہو تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور بیوی کے والدین اور بھائیوں کی محبت اور دولت کی وجہ سے اس کی بے سکونی میں کمی نہیں آتی۔ ایسی بیچاری خاتون کو نہ طلاق لینے میں فائدہ نظر آتا ہے اور نہ نکاح میں سکون ملتا ہے۔ ہم نے کئی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے خاوندوں کے غریب ہونے کی وجہ سے بچوں کا خرچہ بھی اپنے والدین سے لاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے خاوند کا رویہ کسی ظالم و جابر سے کم نہیں ہوتا۔ کیا ایسی بنات آدم کا یہی قصور ہے کہ انھوں نے نکاح کے وقت ان ناعاقبت اندیشوں کو اپنا خاوند تسلیم کر لیا تھا؟ کیا ہے کوئی ترس کھانے والا؟

(۹۰۶۷)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَجُلًا شَكِي سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے

(۹۰۶۵) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۱۹ / ۶۷۰ (انظر: ۲۰۳۳۰)

(۹۰۶۶) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه ابن ماجه: ۳۶۷۸ (انظر: ۹۶۶۶)

(۹۰۶۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، بین ابی عمران و بین ابی ہریرة رجل مبهم سقط من هذا

الاسناد، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۱۱۰۳۴ (انظر: ۹۰۱۸)

نبی کریم ﷺ سے اپنی دل کی سختی کی شکایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔“

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرے گا، اس کو اتنے بالوں کے بقدر نیکیاں ملیں گی اور جس نے یتیم بچے یا بچی کے ساتھ احسان کیا تو میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔“ ساتھ ہی آپ ﷺ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یا رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔“

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَوَّاهُ قَلْبَهُ، فَقَالَ: ((اَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسْكِينَ.)) (مسند احمد: ۹۰۰۶)

(۹۰۶۸)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ، أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ.)) وَفَرَّقَ بَيْنَ إِضْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (مسند احمد: ۲۲۵۰۵)

(۹۰۶۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ.)) (مسند احمد: ۸۷۱۷)

فوائد:..... تمام احادیث مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہیں۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْجَارِ

ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے اور جو

(۹۰۷۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَعْنَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَافِيَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

(۹۰۶۸) تخریج: صحیح لغیرہ دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس اليتيم، وهذا اسناد ضعيف جدا، فيه على بن يزيد الالهامي الدمشقي، وهو واهي الحديث، وعبيد الله بن زحر الضمري ضعيف يعتبر به، أخرجه الطبراني في ”الكبير“: ۸۷۲۱ (انظر: ۲۲۱۵۳)

(۹۰۶۹) تخریج: أخرجه البخاري: ۵۳۵۳، ومسلم: ۲۹۸۲ (انظر: ۸۷۳۲)

(۹۰۷۰) تخریج: أخرجه البخاري: ۶۱۳۶، ۶۰۱۸، ومسلم: ۴۷ (انظر: ۹۹۶۷)

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ
 لَيْسَ كُنْتُ)) (مسند احمد: ۹۹۶۸)
 والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔“

فوائد: آج کے مفاد پرستانہ اور ابن الوقتی دور میں ہمسائیوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی تو کجا، سرے سے ان کی شناخت ہی نہیں کی جاتی۔ گلی کے ایک کونے میں صف ماتم کچھی ہوتی ہے تو دوسرے کونے پہ شادی کی رسومات رقص کننا ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سائے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

(۹۰۷۱)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 مِثْلَهُ إِلَّا إِنْ فِيهِ: ((فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
 "بِذَلْ" يَسْكُتُ)) (مسند احمد: ۲۴۹۰۸)
 (۹۰۷۲)۔ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ بنِ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَاليَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا
 أَوْ لِيَصْمُتْ)) (مسند احمد: ۱۶۴۸۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی کریم ﷺ کی اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں "لَيْسَ كُنْتُ" کی بجائے "لِيَصْمُتْ" کے الفاظ ہیں۔ (دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔) سیدنا ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ، جن کو صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا، سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر و بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔"

(۹۰۷۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 قَالَ: ((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ،
 وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ)) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
 قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْجَارُ
 لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟
 قَالَ: ((شُرُّهُ)) (مسند احمد: ۷۸۶۵)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کی قسم! وہ بندہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم! وہ بندہ مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم! وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔" تین مرتبہ فرمایا، صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور وہ کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ شخص کہ جس کا ہمسایہ اس کے شر سے امن میں نہ ہو۔" انھوں نے کہا: "یٰٰمُؤْمِنُ" سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کا شر۔"

(۹۰۷۱) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه البزار: ۳۵۷۵ (انظر: ۲۴۴۰۴)

(۹۰۷۲) تخریج: أخرجه بنحوه البخاری: ۶۰۱۹، ۶۴۷۶، ومسلم: ۴۸ (انظر: ۱۶۳۷۰)

(۹۰۷۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ۱۰/۱ (انظر: ۷۸۷۸)

کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خیر و بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔“

ایک انصاری آدمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کو ملنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، پس جب میں آپ ﷺ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی آپ پر متوجہ تھا، میں نے سمجھا کہ ان دونوں کی کوئی ضرورت ہوگی، اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ اتنی دیر کھڑے رہے کہ مجھے آپ ﷺ پر ترس آنے لگا، بہر حال جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس آدمی نے آپ کو اتنی دیر کھڑے رکھا کہ مجھے تو آپ پر ترس آنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے اس کو دیکھا تھا؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتا ہے کہ وہ کون تھا؟“ میں نے کہا: جی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے ہمسائے کے بارے اتنی وصیتیں کیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ تو اس کو عنقریب وارث بھی بنانے لگے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو ان کو سلام کہتا تو وہ تیرے سلام کا جواب دیتے۔“

(۹۰۷۴)۔ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ حَقًّا، أَوْ لَيْسَ كُنْتُ)) (مسند احمد: ۲۰۵۵۱)

(۹۰۷۵)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَبَيْرِزٌ، قَالَ: أَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: بَيْرِزٌ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةٌ، قَالَ: فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَاللَّهِ! لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ قَامَ بِكَ الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ، قَالَ: ((وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَدْرِي مَنْ هُوَ؟)) قُلْتُ: لَا، قَالَ: ((ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ)) (مسند احمد: ۲۰۶۱۸)

(۹۰۷۴) تخریج: اسنادہ صحیح (انظر: ۲۰۲۸۵)

(۹۰۷۵) تخریج: اسنادہ صحیح (انظر: ۲۰۳۵۰)

(۹۰۷۶)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ)) (مسند احمد: ۲۴۷۶۴) لگے ہیں۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر نصیحتیں کیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ تو اس کو وارث بھی بنانے لگے ہیں۔“

فوائد: میراث صرف قریبی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، لیکن جب ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں آپ ﷺ کو تاکید کی گئی تو آپ ﷺ کو یوں لگا کہ یہ تو میراث کے بھی حقدار قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حق ہیں اور ان میں ہمسائیوں کے حقوق کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس دور کا مسلمان مکمل اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک اپنی ذات کے لیے چند اعمال کا تعین کر کے اسی کو کافی سمجھ بیٹھا ہے۔

(۹۰۷۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ)) أَوْ قَالَ: ((حَشِيئَةُ أَنْ يُورَّثَهُ)) (مسند احمد: ۵۵۷۷) سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر نصیحتیں کیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ تو اس کو وارث بھی بنانے لگے ہیں۔“ ایک روایت میں ہے: ”میں تو ڈرنے لگا کہ یہ تو اس کو وارث بھی قرار دینے لگے ہیں۔“

(۹۰۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَثَلَهُ۔ (مسند احمد: ۶۴۹۶) سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے اس قسم کی حدیث بیان کی ہے۔

(۹۰۷۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ۔ (مسند احمد: ۷۵۱۴) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

(۹۰۸۰)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ((يُوصِيَنِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ)) (مسند احمد: ۲۲۶۵۴) سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی نصیحتیں کرتا ہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے کہ اس کو میرا وارث بنانے لگا ہے۔“

(۹۰۷۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۰۱۴، ومسلم: ۲۶۲۴ (انظر: ۲۴۲۶۰)

(۹۰۷۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۰۱۵، ومسلم: ۲۶۲۵ (انظر: ۵۵۷۷)

(۹۰۷۸) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداؤد: ۵۱۵۲، والترمذی: ۱۹۴۳ (انظر: ۶۴۹۶)

(۹۰۷۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۵۴۶ / ۸، والبزار: ۱۸۹۸ (انظر: ۷۵۲۲)

(۹۰۸۰) تخریج: صحیح لغيره، أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۷۶۳۰ (انظر: ۲۲۲۹۸)

(۹۰۸۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ)) (مسند احمد: ۶۵۶۶)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہے، جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے، جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔“

فوائد:..... دنیا میں اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حق میں اچھا ثابت ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کا پڑوس نصیب ہوگا۔

(۹۰۸۲)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ فَأَكْثِرِ الْمَرْقَةَ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، أَوْ أَقْسِمَ بَيْنَ جِيرَانِكَ)) (مسند احمد: ۲۱۶۵۲)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس کا شوربا زیادہ کر کے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو یا (آپ ﷺ نے یہ فرمایا) اپنے ہمسایوں کے مابین تقسیم کیا کرو۔“

(۹۰۸۳)۔ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ)) (مسند احمد: ۳۹۰)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہمسائے کے علاوہ بندہ سیر نہیں ہوتا۔“

فوائد:..... ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾..... اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والے کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر (کے ساتھ) اور (ان کے ساتھ بھی) جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ (سورہ نساء: ۳۶)

ہر وہ شخص آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے، جس سے کسی نہ کسی انداز میں آپ کا واسطہ پڑے، مثلاً ہم جماعت، ہم سفر اور ایک دفتر میں کام کرنے والے لوگ، وغیرہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مختلف قسم کے انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور پڑوسیوں کی تین قسمیں ذکر کیں: (۱) رشتہ دار پڑوسی، (۲) اجنبی پڑوسی اور (۳) پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا۔

(۹۰۸۱) تخریج: اسنادہ قوی علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۱۹۴۴ (انظر: ۶۵۶۶)

(۹۰۸۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۲۵ (انظر: ۲۱۳۲۶)

(۹۰۸۳) تخریج: رواية عبایة بن رفاعة عن عمر مرسله (انظر: ۳۹۰)

اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ قرابت دار ہوں یا نہ ہوں، خواہ مسلمان ہوں یا یہود و نصرانی ہوں۔

أَبْوَابُ الضِّيَافَةِ وَآدَابِهَا

ضيافت اور اس کے آداب کے ابواب

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ ذَلِكَ وَبَرَكَتِهِ

مہمان کا اکرام کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت و برکت کا بیان

(۹۰۸۴)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه ، سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضي الله عنه سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلى الله عليه وسلم سے کہا: "تیرا کھانا کھانا اور سلام کہنا ہر شخص کو، علی من عرفت ومن لم تعرف۔" (مسند احمد: ۶۵۸۱)

فوائد:..... مہمان کے اکرام کی بنیاد ذاتی معرفت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا رویہ بن چکا ہے، آج کل دو چیزوں کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے، ایک ذاتی معرفت اور ایک سرمایہ داری، جس مہمان میں یہ دو صفات نہ ہوں، اس کے ساتھ تو دعا سلام لینا گوارا نہیں کیا جاتا، یہ فرق اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔

(۹۰۸۵)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْفَظْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقَلِّ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔)) (مسند احمد: ۶۶۲۱)

(۹۰۸۶)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، سیدنا ابو سعید خدری رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔" آپ صلى الله عليه وسلم نے یہ بات

(۹۰۸۴) تخریج: أخرجه البخاری ۱۲، ۲۸، ۶۲۳۶، ومسلم: ۳۹ (انظر: ۶۵۸۱)

(۹۰۸۵) تخریج: صحيح لغيره (انظر: ۶۶۲۱)

(۹۰۸۶) تخریج: صحيح لغيره (انظر: ۱۱۷۲۶)

ثَلَاثًا، قَالُوا: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.)) (مسند احمد: ۱۱۷۴۹)

تین بار ارشاد فرمائی، لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مہمان کا اکرام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین دن، اور اس کے بعد بھی اگر وہ بیٹھا رہے تو ضیافت اس پر صدقہ ہوگی۔“

۹۰۸۷۔ عَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضَيِّفُ.)) (مسند احمد: ۱۷۵۵۵)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے، جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔“

فوائد: اسلام انسانیت کی تکریم اور نگرانی کا خواہاں ہے، اسی خواہش کا تقاضا ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے، اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا جائے، حسب استطاعت اور خوش دلی سے اس کی مہمانی کی جائے اور اس کے آرام و راحت کا خیال رکھا جائے۔ اسلام نے نہ صرف مہمانی پر زور دیا، بلکہ اس کے تمام آداب مقرر کر دیے اور جہاں مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا قرار دیا، وہاں مہمان کو بھی تنبیہ کر دی کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنا نہ ٹھہرے کہ وہ اس سے تنگ آجائے۔

بہر حال مہمان نوازی سے جی چرانا خیر و بھلائی سے محرومی کا باعث ہے، مہمان خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، جب سیدنا ابوطحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے خود کو اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر رسول اللہ ﷺ کے مہمان کی میزبانی کا حق ادا کیا تو ان کے انداز میزبانی پر اللہ تعالیٰ مسکرائے اور یہ آیات نازل فرمادیں: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنِ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورہ حشر: ۹) ”اور وہ (دوسرے حاجتمندوں کو) اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو سخت بھوک ہو اور جو لوگ نفسوں کی بخیلی سے بچ گئے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔“ (الصحيحه: ۳۲۷۲)

اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل پر تعجب کرے اور مسکرائے اور رہتی دنیا تک اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کر دے۔ لہذا ہمیں خوشنودی الہی کے حصول کے لیے، فقر و فاقہ سے نہ ڈرتے ہوئے فراخ دلی سے مہمان کی خدمت کرنی چاہئے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ غور فرمائیں کہ میزبانی کے وصف سے محروم شخص کو نبی کریم ﷺ نے بے برکتا اور خیر سے محروم قرار دیا ہے۔

قارئین کرام! یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ہم لوگ معرفت اور عدم معرفت کو سامنے رکھ کر مہمانوں کی میزبانی میں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مہمان کی پر تکلف خدمت کی، ایک کو ”صلح صلح“ پہ ٹال دیا، ایک کو اتنا کتر سمجھا کہ اسے چائے وائے کا ”ست“ کرنا بھی گوارا نہ کیا اور کسی کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی مناسب نہ سمجھا اور بچے یا خادم کے ذریعے اسے کوئی پیغام بھیج دینا ہی کافی سمجھ لیا۔

احباب! یہ فرق کیوں ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ پہلے سے جناب کی دوستی تھی، دوسرے سے کچھ دعا و سلام تھا اور تیسرا اجنبی تھا۔

کیا ایسی میزبانی میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا نام دکھائی دیتا ہے؟ کیا اسلام کے رشتے کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ کیا مہمان کی یہ خدمتیں بطور مہمان ہیں یا ذاتی تعلق کی بنا پر؟ میزبانی کے ایسے انداز سے ہمیں باز آ جانا چاہئے، یہ مسکراہٹوں کے تبادلے اور نیا داری ہے۔

(۹۰۸۸)۔ عَنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ نَزَلَتْ بِهِ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يَكْرِمْنِي ثُمَّ نَزَلَ بِي أَقْرَبِيهِ أَوْ أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ قَالَ: ((بَلْ أَقْرَبِيهِ)). (مسند احمد: ۱۵۹۸۶)

سیدنا مالک بن نضله رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے نہ میری ضیافت کی اور نہ میری عزت کی، پھر اگر وہی آدمی میرے پاس آجائے تو کیا میں اس کی ضیافت کروں یا اس کو اس کے کیے کا بدلہ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ تو اس کی ضیافت کر۔“

(۹۰۸۹)۔ عَنِ سِنَانِ بْنِ سَنَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ)). (مسند احمد: ۱۹۲۲۳)

صحابی رسول سیدنا سنان بن سناء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شکر یہ ادا کرنے والے کھانے والے کا اجر روزہ رکھنے والے اور صبر کرنے والے کی طرح ہے۔“

فوائد:..... بندے کو ہر حالت میں شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اگر مال دار، کھاتا پیتا ہے تو اللہ کی ممتیں استعمال کر کے شکر ادا کرے اور اس کی فرمانبرداری میں لگا رہے اور اگر تنگی ترشی ہے تو اللہ کے لیے صبر کرے، اس کی تقسیم پر راضی رہے، اس طرح دونوں حالتوں میں آدمی اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَمِ التَّكْلِيفِ لِلصَّيْفِ مہمان کے لیے تکلف نہ کرنے کا بیان

(۹۰۹۰)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عبد الله بن عبید کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک گروہ

(۹۰۸۸) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الطيالسي: ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، والطبرانی في "الكبير": ۱۹ / ۶۰۸، والحاكم: ۱ / ۲۴ (انظر: ۱۵۸۹۱)

(۹۰۸۹) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۱۹۰۱۴)

(۹۰۹۰) تخریج: اسنادہ ضعیف، عبید اللہ بن الولید الوصافی متفق علی ضعفه، وقد اضطرب فی اسناد هذا الحديث، لكن الحديث من ابتداءه الى قوله: "نعم الا دام الخل" صحیح بطرقه، أخرج الصحيح منه ابوداود: ۳۸۲۰، والترمذی: ۱۸۳۹، ۱۸۴۲ (انظر: ۱۴۹۸۵)

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انھوں نے روٹی اور سرکہ پیش کیا اور کہا: کھاؤ، یہ چیز پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”بہترین سالن سرکہ ہے، اس میں آدمی کی ہلاکت ہے کہ اس کے پاس اس کے بھائیوں کا ایک گروہ جائے اور وہ گھر میں موجودہ چیز کو بطور ضیافت پیش کرنے کو حقیر سمجھے اور اس میں لوگوں کی ہلاکت ہے کہ جو چیز ان کی میزبانی میں پیش کی جائے، وہ اس کو حقیر سمجھیں۔“

سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا، انھوں نے ضیافت میں ماحضر پیش کیا اور کہا: اگر رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا یا اگر ہم کو اپنے ساتھی کے تکلف کرنے سے منع نہ کیا جاتا تو ہم تمہارے لیے تکلف کرتے۔

قَالَ: دَخَلَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكُ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخَلَ عَلَيْهِ النَّفْرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قَدَّمَ إِلَيْهِمْ.)) (مسند احمد: ۱۵۰۴۸)

(۹۰۹۱)۔ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا، أَوْ لَوْ لَا أَنَا نُهَيْنَا أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ.)) (مسند احمد: ۲۴۱۳۴)

فوائد:..... اس حدیث کا ایک متن اس طرح روایت کیا گیا ہے:

سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِصَاحِبِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.))..... ”کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے۔“ (صحیح: ۲۳۳۰)

اسلام سادگی اور حقیقت پر مبنی مذہب ہے، اس میں تکلف و تصنع اور خوشامد و چالپوسی کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں شریعت نے مہمان کی میزبانی کو فرض قرار دیا ہے، وہاں تکلف سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے، تاکہ کوئی آدمی مہمان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے اور میزبان کے غریب ہونے کی صورت میں گھر کے افراد کے کھانے پینے کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔

شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انھوں نے (بطور میزبانی) روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی اور کہا: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ. فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ، فَبَعَثَ بِمَطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَالِ، فَرَهْنَهَا، فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ، فَأَلْقَاهُ فِيهِ، فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا. فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رَزَقْتَ لَمْ تَكُنْ مَطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَالِ. اگر رسول اللہ ﷺ نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر تکلف

(۹۰۹۱) تخریج: حدیث محتمل للتحسين، أخرجه البزار: ۵۹۳۱، والطبرانی: ۶۰۸۴، والحاكم: ۴/

۱۲۳ (انظر: ۲۳۷۲۳)

کرتا۔ میرے دوست نے کہا: اگر نمکین ڈش میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا (تو بہت اچھا ہوتا)۔ انھوں نے کوئی لوٹا نما رتن بطور گروی سبزی فروش کی طرف بھیجا اور پودینہ منگوایا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا: ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی جو اس نے ہمیں دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تو نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ پڑا ہوتا۔ (مستدرک حاکم: ۱۲۳/۴، صحیحہ: ۲۳۹۲)

آپ ﷺ نے تکلف کرنے سے منع فرمایا، صحابہ کرام اس کا منہوم یہ سمجھے تھے کہ گھر میں جو موجود ہے، اسے مہمان کی میزبانی کے لیے کافی سمجھا جائے اور مہمان کو چاہیے کہ ماحضر پر قناعت کرے اور اپنی پسند کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں اگر اصرار کے ساتھ کسی سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا جائے تو اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

ہم لوگ حقیقی باہمی محبت سے محروم ہیں، قرابتداروں کے حقوق سے غافل ہیں اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ”شرموکوشرمی“ کا ضابطہ ترک کر دیں اور مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان تعلق رکھیں اور ہر معاملے میں اعتدال برتیں۔ مثلاً اگر گرمی کے موسم میں آنے والے مہمان کو بازار سے قیمتی مشروب خرید کر پلانے کی استطاعت نہ ہو، تو گھر میں تیار کی جانے والی شلخیں وغیرہ پلا دی جائے، تاکہ مہمان بھی سیراب ہو جائے اور میزبانی کا حق بھی پورا ہو جائے۔ یہی معاملہ کھانے وغیرہ کا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَدَّةِ الضِّيَافَةِ وَمَا لِلضَّيْفِ مِنَ الْحَقِّ وَمَا عَلَيْهِ

ضيافت کی مدت اور مہمان کے حق اور اس کی ذمہ داری کا بیان

(۹۰۹۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.))

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ضيافت کا حق تین دن ہے، اس کے بعد مہمان جو کچھ پائے گا، وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔“

(مسند احمد: ۱۰۹۲۰)

(۹۰۹۳)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. (مسند احمد: ۱۱۰۴۵ م)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ ﷺ کی اسی طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں۔

(۹۰۹۴)۔ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ))

سیدنا ابوشریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ضيافت تین ایام ہے اور مہمان کا جائزہ ایک دن رات

(۹۰۹۲) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشيخین، أخرجه الطيالسي: ۵۲۶۰، والبزار: ۱۹۳۰،

وابويعلی: ۶۵۹۰ (انظر: ۱۰۹۰۷)

(۹۰۹۳) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۱۱۰۴۵)

(۹۰۹۴) تخریج: کتاب وصیئہ منہجہ ۴۸ (انظر: ۱۱۲۷) والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تک ہے، اور کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس اس قدر ٹھہرے کہ اسے گنہگار کر دے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ اسے گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی صورت یہ ہے کہ مہمان اس کے پاس ٹھہرے، جبکہ اس کے پاس ضیافت کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو۔“

أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْتِمَهُ.))
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ؟ قَالَ: ((يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُقْرِئِهِ.))
(مسند احمد: ۱۶۴۸۴)

فوائد:..... جائزہ سے مراد طاقت کے مطابق بہترین کھانا ہے، ویسے ضیافت تین دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد مہمان پر صدقہ ہوگا۔“

معلوم ہوا کہ مہمان کے لیے پہلے عمدہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، لیکن تکلف سے بچنا ضروری ہے، اس کے بعد دو دن مزید معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے، تین دنوں کے بعد میزبانی بطور صدقہ ہوگی۔

آج کل لوگ معرفت والے مہمانوں کے لیے بہت تکلف کرتے ہیں، بلکہ ایک ایک دسترخوان پر چھ سات سات ڈشیں سج جاتی ہیں، بعض لوگ تو ایسی ضیافت کے لیے قرض بھی لے لیتے ہیں اور بعض کو دیکھا ہے کہ وہ ایسی میزبانی کر کے اپنے مہینے کے روٹین خرچ کو خراب کر دیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ اجنبی مہمان کو ایک قسم کا کھانا کھلانے میں ہر آدمی کے لیے دشوار نظر آتا ہے۔ یہ تمام امور مسنون ضیافت کا تقاضا نہیں ہیں۔

ابو عثمان نہدی کہتے ہیں: میں سات دنوں تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا رہا، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ میں کھجوریں تقسیم کیں، میرے حصے میں سات کھجوریں آئیں، ان میں ایک رڈی کھجور بھی تھی، جبکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، اس کو بڑے زور سے چبانا پڑا۔

(۹۰۹۵)۔ عَنِ الْعَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ النَّهْدِيَّ، يَقُولُ: تَضَيَّفْتُ أَبَاهُ رَيْرَةَ سَبْعًا، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابَنِي سَبْعَ تَمْرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشْفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ مَضَاغِي۔

(مسند احمد: ۹۳۶۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کوئی کھانا کھلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھالے اور

(۹۰۹۶)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطَعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ

(۹۰۹۵) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۵۷، والترمذی: ۲۴۷۴ (انظر: ۹۳۷۳)

(۹۰۹۶) تخريج: حدیث حسن، أخرجه ابو یعلیٰ: ۶۳۵۸، والحاکم: ۴/۱۲۶ (انظر: کتاب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز)

مِنْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ ، فَإِنْ سَقَاهُ اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اس طرح اگر وہ کوئی شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ، مشروب پلائے تو وہ پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ۔)) (مسند احمد: ۹۱۷۳) کرے۔“

فوائد: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے کھانے کو حلال سمجھ کر کھالیا جائے اور خواہ مخواہ کے شبہات میں پڑ کر اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، ہاں اگر حرام کی علامات و اسباب واضح ہوں تو پھر معاملہ اور ہوگا۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس حدیث مبارکہ کا مصداق وہ مسلمان بھائی ہوگا، جس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے اور وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والا ہے، وگرنہ ضیافت میں پیش کی گئی چیزوں کی حلت و حرمت کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو مسلمان بلاؤ کفر میں سکونت پذیر ہیں اور وہ کھانے کے لیے گوشت پیش کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس جانور کا گوشت ہے اور آیا اس کو اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا ویسے ہی قتل کر دیا گیا (جیسا کہ بعض ممالک میں تکمیر کے بغیر اور بجلی کے کرنٹ سے جانور کو قتل کر کے کھایا جاتا ہے)۔ (صحیحہ: ۶۲۷)

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ الحدیث کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے:

عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ أُخْبِتُ شَدَادُ بْنُ أَوْسٍ: أَنَّهَا بَعَثَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدْحٍ لَبَنٍ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَذَلِكَ فِي طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولُهَا: ((أَنْتِ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟)) فَقَالَتْ: مِنْ شَاةٍ لِي ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولُهَا: ((أَنْتِ لَكَ هَذِهِ الشَّاةُ؟)) قَالَتْ: اِشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَشَرِبَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدَاةِ أَتَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مُرْتَبَةً لَكَ مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ ، فَرَدَدْتَنِي إِلَى فِيهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَرْتُ الرَّسُولَ قَبْلِي أَلَّا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَحْمِلَ إِلَّا صَالِحًا۔)) (الزهد للإمام احمد، مستدرک الامام حاکم، الصحیحہ: ۱۱۳۶)

حضرت ام عبد اللہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قاصد کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ (پوچھ کر آؤ کہ) یہ دودھ کہاں سے لیا؟ اس نے جواب بھیجا کہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ (یہ پوچھ کر آؤ کہ) وہ بکری کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا: میں نے اپنے مال سے خریدی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اتنی چھان بین کے بعد) وہ پی لیا۔ دوسرے دن ام عبد اللہ رضی اللہ عنہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے

طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ پر ترس کھاتے ہوئے (کل) دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے میرے قاصد کو میری طرف (کچھ پوچھنے کے لیے) پلٹا دیا، (ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی)؟۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب (یعنی حلال) چیز کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔“

سیدنا مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مہمان کی (پہلی) رات کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ میزبان کے ملحقہ صحن میں اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اس حق سے محروم رہتا ہے تو یہ اس پر قرض ہوگا، مہمان چاہے تو اس کو تقاضا کر لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔“

(دوسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو مسلمان کسی قوم کا مہمان بنا، لیکن اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے حق سے محروم رہا، تو ہر مسلمان پر حق ہوگا کہ وہ اس مہمان کی مدد کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے میزبان کی کھیتی اور مال سے اپنی اس رات کی مہمانی کا حق وصول کر لے۔“

فوائد:..... میزبانی، مہمان کا حق ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور حسب استطاعت اور خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کرے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مہمان کسی قوم کے پاس اترا، لیکن اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے حق سے محروم رہا تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنی میزبانی کے بقدر چیز لے لے، اس میں اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔“

(۹۰۹۷)۔ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَيْئَانِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ افْتِضَاءُهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.)) (مسند احمد: ۴/۱۷۳)

(۹۰۹۸)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَصَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنْ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقَرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ.)) (مسند احمد: ۱۰/۱۷۳۱)

(۹۰۹۹)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قَرَاهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.)) (مسند احمد: ۵/۸۹۳۵)

(۹۰۹۷) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین سوی صحابیة، أخرجه ابوداود: ۳۷۵۰، وابن ماجه: ۳۶۷۷ (انظر: ۱۷۱۷۲)

(۹۰۹۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة ابن المهاجر، أخرجه ابوداود: ۳۷۵۱ (انظر: ۱۷۱۷۸)

(۹۰۹۹) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الطحاوی فی ”شرح مشکل الآثار“: ۲۸۱۶ (انظر: ۸۹۴۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں بعض علاقوں کی طرف بھیجتے ہیں، جب ہم بعض ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں، جو ہماری ضیافت نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم بعض ایسے لوگوں کے پاس اترو اور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دیں، جو مہمان کے لیے مناسب ہو، تو تم اس چیز کو قبول کرو، اور اگر وہ ایسے نہ کریں تو تم ان سے مہمان کا وہ حق وصول کرو جو ان کا ادا کرنا بنتا تھا۔“

(۹۱۰۰)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَفْقَرُونَ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)) (مسند احمد: ۱۷۴۷۸)

فوائد: والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی طرح مہمان کی ضیافت بھی ایک حق ہے، جیسے جب خاوند اپنی بیوی کی جائز ضروریات پوری نہ کر رہا ہو تو اس کی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مال سے اپنا حق چوری کر لیا کرے، ایسے ہی مہمان کا معاملہ ہے کہ میزبان اس کی ضیافت کا حق ادا نہیں کر رہے تو وہ ان سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ یہ دراصل اسلام کا حسن ہے کہ ایک آدمی اپنے علاقے اور اہل و عیال سے دور ہے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی میزبانی کا حق ادا کریں۔

بَابُ اشْتِرَاكِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعَاوُنِهِمْ فِي قِرَى الْأَضْيَافِ إِذَا كَثُرُوا
جب مہمان زیادہ ہو جائیں تو ضیافت کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا اور باہمی تعاون کرنا

حارث بن عبد الرحمن کہتے ہیں: میں ابوسلمہ بن عبد الرحمن کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بنو غفار کا ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا، یہ سیدنا عبد اللہ بن طہفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، ابوسلمہ نے اس آدمی سے کہا: کیا تو ہمیں اپنے باپ کا واقعہ نہیں بتلائے گا؟ اس نے کہا: میرے باپ سیدنا عبد اللہ بن طہفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس مہمان زیادہ ہو جاتے تو آپ ﷺ فرماتے: ”ہر آدمی ایک مہمان کو اپنے گھر لے

(۹۱۰۱)۔ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي غَفَّارٍ ، ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَهْفَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَلَا تُخْبِرُنَا عَنْ خَبْرِ أَبِيكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَهْفَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَثُرَ الضَّيْفُ عِنْدَهُ ، قَالَ:

(۹۱۰۰) تخريج: أخرجه البخاری: ۲۴۶۱، ۶۱۳۷، ومسلم: ۱۷۲۷ (انظر: ۱۷۳۴۵)

(۹۱۰۱) تخريج: اسنادہ ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن طهفة، أخرجه البخاری في "تاريخه الكبير": ۴/

۳۶۶، في "اللاوسط": ۱/ ۱۵۲ (انظر: ۲۳۶۱۶)

جائے۔“ ایک رات بہت زیادہ مہمان جمع ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر آدمی اپنے ہم نشین کے ساتھ چلا جائے۔“ میں عبد اللہ بن طہفہ ان لوگوں میں تھا، جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ گئے تھے، جب آپ ﷺ گھر میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! کھانے کی کوئی چیز ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، حویسہ (کھجور، پنیر اور گھی سے تیار شدہ کھانا) ہے، میں نے آپ کی افطاری کے لیے تیار کیا تھا، پھر وہ ایک چھوٹے پیالے میں لے کر آگئیں، پہلے رسول اللہ ﷺ نے خود اس کو پکڑا، اس سے کچھ تناول کیا اور پھر فرمایا: ”اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ۔“ پس ہم نے اس سے کھایا، یہاں تک کہ ہم (زیادہ سیر ہو جانے کی وجہ سے) اس کو دیکھ نہیں رہے تھے، پھر آپ ﷺ نے سیدہ سے فرمایا: ”کیا کوئی مشروب ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، تھوڑا سا دودھ ہے، میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو لے آؤ۔“ پس وہ لے کر آئیں، آپ ﷺ نے اس کو پکڑا، اپنی منہ کی طرف اٹھایا اور اس سے تھوڑا سا پیا اور پھر فرمایا: ”اللہ کے نام کے ساتھ پیو۔“ پس ہم نے پیا، یہاں تک کہ اللہ کی قسم! ہم (کثرت سیرابی کی وجہ سے) اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، پھر ہم وہاں سے نکل کر مسجد میں آگئے اور میں چہرے کے بل لیٹ گیا، رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کے لیے فرمانے لگے: نماز، نماز، اور جب آپ ﷺ باہر نکلتے تھے تو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے، جب آپ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا: جی میں عبد اللہ بن طہفہ ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹک اللہ تعالیٰ لیٹنے کے

((لَيَنْقَلِبُ كُلُّ رَجُلٍ بِضَيْفِهِ-)) حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ ضَيْفَانٌ كَثِيرٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيَنْقَلِبُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ جَلِيسِهِ-)) قَالَ: فَكُنْتُ مِمَّنْ انْقَلَبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ: ((يَاعَائِشَةُ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، حَوَيْسَةٌ كُنْتُ أَعَدَدْتُهَا لِافْطَارِكَ، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا فِي فُعْيَةٍ لَهَا، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا قَيْلًا فَآكَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ-)) فَآكَلْنَا مِنْهَا حَتَّىٰ مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَرَابٍ-)) قَالَتْ: نَعَمْ، لُبَيْبَةٌ كُنْتُ أَعَدَدْتُهَا لَكَ، قَالَ: ((هَلُمِّيَهَا-)) فَجَاءَتْ بِهَا فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ فَشَرِبَ قَلِيلًا، ثُمَّ قَالَ: ((اشْرَبُوا بِسْمِ اللَّهِ-)) فَشَرِبْنَا حَتَّىٰ وَاللَّهِ مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا، فَاتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ وَجْهِی، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُوقِظُ النَّاسَ ((الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ)) وَكَانَ إِذَا خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، فَمَرَّ بِي وَأَنَا عَلَىٰ وَجْهِی، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَهْفَةَ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ ضَيْجَعَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-)) (مسند

احمد: ۲۴۰۱۵)

اس انداز کو ناپسند کرتا ہے۔“

فوائد:..... اگر آپ ﷺ خود ضیافت نہ کر سکتے تو صحابہ کرام کو حکم فرماتے کہ وہ مہمانوں کو لے جائیں۔

سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے، رسول اللہ ﷺ نے ایک بار فرمایا: ”جس کے پاس دو افراد کا کھانا ہو، وہ تیسرا بندہ لے جائے، جس کے پاس چار افراد کا کھانا ہو، وہ پانچواں اور چھٹا بندہ لے جائے۔“ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، پس نبی کریم ﷺ اس افراد کو اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تین افراد کو لے گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: گھر میں میں، میرے باپ، میری ماں اور ہمارے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک خادم تھا، راوی کو یہ یاد نہیں رہا کہ انھوں نے بیوی کا ذکر کیا تھا یا نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس شام کا کھانا کھالیا، پھر وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ میں نے نماز کی عشاء پڑھی، پھر وہ واپس لوٹ گئے اور آپ ﷺ کے پاس ہی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کو اوجھ آنے لگی، پھر وہ رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد گھر واپس آئے، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا: کس چیز نے آپ کو اپنے مہمانوں سے روک رکھا؟ انھوں نے کہا: کیا تم نے ان کو شام کا کھانا نہیں کھلایا؟ انھوں نے کہا: انھوں نے آپ کی آمد تک انکار کر دیا، ہم نے ان کو کھانا پیش کیا تھا، لیکن ان کا انکار ہم پر غالب آیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں وہاں سے نکلا اور چھپ گیا، انھوں نے کہا: اے عُثْمَرُ! یا اے عُثْمَرُ! پس انھوں نے مجھے بد عادی اور برا بھلا کہا، اور مہمانوں سے کہا: کھاؤ، خوشگوار نہ ہو، اللہ کی قسم! میں بالکل نہیں کھاؤں گا، ادھر مہمان نے بھی قسم اٹھالی کہ وہ ابھی اس وقت

(۹۱۰۲)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَا سَا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ-)) أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ فَاِنطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرَةِ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةِ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: وَامْرَأَتِي، وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنِ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوَا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْنَهُمْ فَنَعَلْبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، قَالَ: يَا عُثْمَرُ أَوْ يَا عُثْمَرُ، فَجَدَعْتُ، وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُّوْا لَا هَيْبًا، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَحَلَفَ الضَّيْفُ أَنْ لَا يَطْعَمَهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

(۹۱۰۲) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرج بنحوه وبالاختصار البخاری: ۶۱۴۰،

ومسلم: ۲۰۵۷ (انظر: ۱۷۱۲)

کتاب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں کھائے گا، جب تک ابو بکر نہیں کھائیں گے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، پھر انہوں نے کھانا منگوا لیا اور کھا لیا اور کہا: اللہ کی قسم! ہم جو لقمہ پڑتے تھے، اس کے نیچے سے اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ پڑا تھا، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کھانا تو اسی مقدار میں پڑا ہوا، بلکہ اس سے زیادہ ہے، پس انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: اے بنو فراس کی بہن! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم! یہ تو پہلے سے زیادہ لگ رہا ہے، انہوں نے یہ بات تین بار دوہرائی، پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کھایا اور کہا: یہ قسم تو شیطان کی طرف سے تھی، پھر انہوں نے لقمہ کھایا اور پھر وہ کھانا اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کی طرف لے گئے اور وہ کھانا صبح کے وقت آپ ﷺ کے پاس تھا، عبد الرحمن کہتے ہیں: ہمارے اور لوگوں کے مابین معاہدہ تھا اور وہ مدت گزر گئی تھی، پس ہم نے بارہ نقیب بنائے، ہر نقیب کے ساتھ کچھ لوگ تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی کتنی تھی، بہر حال ان کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، پس ان سب نے اس کھانے سے کھایا تھا۔

فوائد:..... صحیح بخاری کی ایک روایت میں اصحاب صفہ کو "أَصْيَافُ الْإِسْلَامِ" یعنی اسلام کے مہمان قرار

دیا گیا۔

أَبْوَابُ تَعْظِيمِ حُرْمَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی حرمتوں کی عظمت کے ابواب

وَيَأْنُ حُقُوقِهِمْ وَالشَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ وَالنُّصْحَ لَهُمْ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِهِمْ وَسِتْرَ عَوْرَاتِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ۔
مسلمانوں کے حقوق، ان پر شفقت کرنے، ان کی خیر خواہی کرنے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے وغیرہ کا بیان۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ

مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۰۳)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ)) (مسند احمد: ۳۲۸۱)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی ہے۔“ صحابہ نے کہا: کس کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے۔“

(۹۱۰۴)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَنْ؟ قَالَ: ((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلَا ئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ)) (مسند احمد: ۷۹۴۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی ہے۔“ تین بار فرمایا، کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کس کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب اور مسلمانوں کے لیڈروں کے لیے۔“

(۹۱۰۵)۔ عَنِ تَمِيمِ بْنِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَنَّمَا الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)) قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: ((لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) (مسند احمد: ۱۷۰۶۴)

سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔“ تین دفعہ فرمایا، ایک روایت میں ہے: ”صرف اور صرف دین خیر خواہی کا نام ہے۔“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کس کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔“

فوائد: اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھا جائے اور خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے، رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے اور اس کے اوامر و نواہی کے تقاضے پورے کیے جائیں، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ امور حق میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بغاوت نہ کی جائے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی مصلحتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔

(۹۱۰۳) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی: ۱۱۱۹۸، والبزار: ۶۱، ابویعلی: ۲۳۷۲ (انظر: ۳۲۸۱) (۹۱۰۴) تخریج: متن الحدیث صحیح، وقد تكلم بعض اهل العلم على الاختلاف الذي وقع في الاسناد، أخرجه السائي: ۱۵۷ / ۷ (انظر: ۷۹۵۴) (۹۱۰۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۵، وعلقه البخاری في ”صحيحه“ في باب قول النبي ﷺ: ”الذين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم“ (انظر: ۱۶۹۴۰)

(۹۱۰۶)۔ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((دَعُوا النَّاسَ فَلْيَصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَصَحَّ رَجُلٌ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ)) (مسند احمد: ۱۸۴۷۱) کرے۔

ایک صحابی رسول نبی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ بعض بعض سے نفع حاصل کر سکے، ہاں جب کوئی کسی سے نصیحت طلب کرتے تو وہ نصیحت کرے۔“

فوائد:..... لوگوں کو چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو چھوڑ دو، وہ آپس میں سودا کر لیں گے، تم بیچ میں آ کر قیمتوں کے مشورے نہ دو اور دلالی نہ کرو، ہاں جب کوئی آدمی مشورہ طلب کرے تو ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر اس کی خیر خواہی کر دی جائے۔

(۹۱۰۷)۔ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ: ((النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) (مسند احمد: ۱۹۳۷۴)

سیدنا جریر بنی ﷺ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا: ”ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنی ہوگی۔“

(۹۱۰۸)۔ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وَقَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَشْتَرَطَ عَلَيَّ ((وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنَ الْكَافِرِ)) قَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبُّ هَذَا

زیاد بن علاقہ کہتے ہیں: جس دن سیدنا مغیرہ بن شعبہ بنی ﷺ فوت ہوئے، اس دن سیدنا جریر بن عبد اللہ بنی ﷺ نے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا: تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیا امیر آنے تک وقار اور سکینت اختیار کرو، بس وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر کہا: اپنے امیر سیدنا مغیرہ بنی ﷺ کے لیے معافی کا سوال کرو، کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتے تھے۔ ایک حدیث بھی سن لو، اَمَّا بَعْدُ! میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور کہا: میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، پھر آپ ﷺ نے مجھ پر یہ شرط لگائی کہ ”میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں۔“ ایک روایت میں ہے: ”اور تو ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرے اور کافر سے براءت کا اظہار کرے۔“ اس مسجد کے رب کی قسم! میں نے اسی چیز پر آپ ﷺ کی بیعت کی،

(۹۱۰۶) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه البخاری فی "التاریخ الكبير" ۳/ ۱۵ (انظر: ۲۸۲۸۲)

(۹۱۰۷) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۹۱۶۱)

(۹۱۰۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۸، ومسلم: ۵۶ (انظر: ۱۹۱۵۳)

تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور کرے گا، جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، جو فرد کسی تنگدست اور بد حال پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی تائید و نصرت میں لگا رہتا ہے، اور جو علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کی طرف جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے، جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی ایک دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان ہستیوں میں کرتا ہے، جو اس کے پاس ہیں اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکے گا۔“

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِغْ بِهِ نَسَبُهُ.)) (مسند احمد: ۷۴۲۱)

فوائد:..... آخری جملے کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اعلیٰ نسب اور آباء و اجداد کی عظمت کام نہیں آئے گی، جس کا عمل ناقص ہوگی، اس کی قدر نہیں ہوگی۔

سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، جو آدمی کسی معصوم اور پریشان حال کو نجات دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزِ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا اور جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔“

(۹۱۱۲)۔ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَانَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ.)) (مسند احمد: ۱۷۰۸۴)

فوائد:..... جب کسی مسلمان کے شتر سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا واضح خطرہ ہو تو ایسے میں دوسرے

مسلمان کو متنبہ کرنے کے لیے محدود حد تک پردہ پوشی کا قانون توڑ دینا چاہیے، یہ بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔

(۹۱۱۳)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ اَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسند احمد: ۵۶۴۶)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے درپے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس نے کسی مسلمان سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر پردہ ڈالے گا۔“

فوائد: ”لَا يُسْلِمُهُ“ کے معانی ہیں: بے یار و مددگار چھوڑنا، دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔

(۹۱۱۴)۔ عَنِ سَلَامِ بْنِ عَمْرٍو الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اِخْوَانُكُمْ اَحْسِنُوا اِلَيْهِمْ، اَوْ فَاصِلِحُوا اِلَيْهِمْ وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلٰى مَا غَلَبَكُمْ، وَاعِينُوهُمْ عَلٰى مَا غَلَبَهُمْ)) (مسند احمد: ۲۳۵۳۵)

ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور جو چیز تم کو مغلوب کر دے، تم اس کے معاملے میں اپنے بھائیوں سے مدد طلب کرو اور جو چیز ان پر غالب آجائے، تو اس کے معاملے میں ان کی مدد کرو۔“

(۹۱۱۵)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: جَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا، فَوَجَدَ نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ فِيهِ اَخْلَافًا، فَقَالَ لَهُ: ((اَلَا تَسْتَاكُلُ!)) فَقَالَ: اِنِّي لَا فَعَلْتُ وَلٰكِنِّي لَمْ اَطْعَمْ طَعَامًا

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، ان کی ضرورت ایک ہی تھی، ان میں سے ایک نے جب گفتگو کی تو آپ ﷺ نے اس کے منہ سے بدبو محسوس کی اور فرمایا: ”کیا تو مسواک نہیں کرتا؟“ اس نے کہا: جی میں ضرور کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تین

(۹۱۱۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۴۴۲، ۶۹۵۱، ومسلم: ۲۵۸۰ (انظر: ۵۶۴۶)

(۹۱۱۴) تخریج: صحيح لغيره، أخرجه أبو يعلى: ۹۲۰، والبخاری في "الادب المفرد": ۱۹۰ (انظر: ۲۳۱۴۸)

(۹۱۱۵) تخریج: اسنادہ ضعيف، قابوس بن ابی ظبيان لین، یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، أخرجه

الطبرانی: ۱۲۶۱۱، والبيهقي: ۱/ ۳۹ (انظر: ۲۴۰۹)

مَنْدُ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَجُلًا فَاوَاهُ، وَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ۔ (مسند احمد: ۲۴۰۹)

دووں سے کھانا نہیں کھایا، پھر آپ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا، پس وہ اس کو لے گیا اور اس کی ضرورت پوری کی۔

بَابُ التَّرْعِيبِ فِي شِدَّةِ أَرْزِ الْمُؤْمِنِ وَوُدِّهِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَالتَّالِمِ لِأَلِمِهِ

مسلمان کی پشت پناہی کرنے، اس سے محبت کرنے، اس پر شفقت کرنے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے کی رغبت کا بیان

(۹۱۱۶)۔ عَنِ السُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِي تَوَادِّيهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى))۔ (مسند احمد: ۱۸۵۷۰)

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک دوسرے سے محبت کرنے، باہم ہمدردی کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

فوائد:..... ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا ایسا احساس ہونا چاہیے، جیسے تکلیف میں مبتلا اپنے عضو میں ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو تو جسم کا باقی حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ساری رات بیدار رہتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو دوسرے مسلمانوں کو اس سے مس نہ ہو، یہ قطعی طور پر اہل اسلام کا رویہ نہیں ہے، جبکہ عصر حاضر میں لاپرواہی اور لاپرواہی پن کا ایسا غلبہ ہے کہ مسلمان مفاہد پرست ہو کر رہ گیا ہے، اسلام کا دعویٰ تو ہے، لیکن روح اسلام اور تقاضہ اسلام سے محرومی ہے۔

(۹۱۱۷)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ))۔ (مسند تاحمد: ۱۸۶۲۵)

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سارے مومن ایک آدمی کی مانند ہیں، جب اس کا سر تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں پڑ جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارے کا سارا جسم دکھنے لگتا ہے۔“

(۹۱۱۸)۔ عَنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))۔ (مسند احمد: ۱۹۸۵۶)

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔“

(۹۱۱۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۶ (انظر: ۱۸۳۸۰)

(۹۱۱۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۶ (انظر: ۱۸۴۳۴)

(۹۱۱۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۵ (انظر: ۱۹۶۲۵)

سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یشک اهل ایمان لوگوں سے مؤمن کا تعلق وہ ہے جو جسم سے سر کا ہوتا ہے، مؤمن دوسرے اہل ایمان کی خاطر ایسے ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسے سر کی بیماری کی وجہ سے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔“

(۹۱۱۹)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ)) (مسند احمد: ۲۳۲۶۵)

خالد بن عبد اللہ قسری نے کہا، جبکہ وہ منبر پر خطاب کر رہے تھے: میرے باپ نے میرے دادے سے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو جنت کو پسند کرتا ہے؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔“

(۹۱۲۰)۔ عَنْ سَيَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيَّ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُحِبُّ الْجَنَّةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأَحِبِّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ)) (مسند احمد: ۱۶۷۷۲)

فوائد: مسلمان کو جو خیر و بھلائی اپنے لیے پسند ہو، وہ ان ہی امور خیر کو دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرے اور عملی طور پر حتی الوسع اپنے وسائل بروئے کار لاتے ہوئے کوشش بھی کرے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جیسے گھر کے سربراہ کے ذمے گھر کے افراد کے حقوق ہیں، اسی طرح اس پر رشتہ دار اور غیر رشتہ دار مسلمانوں کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ خیر و بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔“

(۹۱۲۱)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ)) (مسند احمد: ۱۳۶۶۴)

فوائد: عام طور پر اس حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) اور یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، اس حدیث میں ”مِنَ الْخَيْرِ“ کے الفاظ کی زیادتی اس حدیث کے معنی و مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ ”الْخَيْرِ“ کے کلمے میں بڑی جامعیت پائی جاتی ہے، یہ کلمہ احکام

(۹۱۱۹) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۵۷۴۳، وفي "الوسط": ۴۶۹۳ (انظر: ۲۲۸۷۷)

(۹۱۲۰) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الحاكم: ۴ / ۱۶۸ (انظر: ۱۶۶۵۵)

(۹۱۲۱) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه الطیالسی: ۲۰۰۴، و ابویعلی: ۲۸۸۷،

وابو عوانة: ۱ / ۳۳ (انظر: ۱۳۶۲۹)

شریعت کی تعمیل اور دنیوی و اخروی مباحات پر مشتمل ہے اور شریعت کے منع کردہ امور کو خارج کرتا ہے۔ یعنی مسلمان کا کامل اخلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو دنیوی خیر و منفعت اور اخروی خیر و بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے اپنے اسلامی بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور جس بری چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسے اپنے بھائی کے حق میں بھی ناپسند کرے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي نُصْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَالرَّدِّ عَنْ عَرُضِهِ

مؤمن کی مدد کرنے اور اس کی عزت کا دفاع کرنے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۲۲)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: ((تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ)) وَفِي لَفْظٍ: ((تَحْجِزُهُ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نُصْرَةٌ)) (مسند احمد: ۱۳۱۱۰)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کو ظلم سے منع کرو۔“ ایک روایت میں ہے: ”تم اس کو ظلم سے روکو، یہ دراصل اس کی مدد ہوگی۔“

فوائد: مسلمان کو امور خیر کی تعلیم دینا، ہر جائز معاملے میں اس کی مدد کرنا اور اس کو معصیت والے کاموں

سے روکنا، یہ سب اس کی تائید و نصرت کی شکلیں ہیں۔

(۹۱۲۳)۔ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِمُهَاجِرِينَ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَدْعُوا الْجَاهِلِيَّةَ؟)) فَقَالُوا: لَا، وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ غُلَامَيْنِ كَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ لِنُصْرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّ لَهُ

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لڑکے لڑ پڑے، ایک کا تعلق مہاجرین سے تھا اور دوسرے کا انصار سے، اول الذکر نے آواز دی: او مہاجر جو! آخر الذکر نے یوں للکارا: او انصار یو! یہ سن کر رسول اللہ ﷺ باہر آگئے اور فرمایا: ”کیا جاہلیت والی پکار پکاری جا رہی ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: جی نہیں، اللہ کی قسم! بس ایک لڑکے نے دوسرے کی دُمر پر ہاتھ یا پاؤں مار دیا ہے، (اس وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چلو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چاہیے یہ کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے، وہ ظالم ہو یا مظلوم، اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے منع

(۹۱۲۲) تخريج: أخرجه البخاري: ۲۴۴۳ (انظر: ۱۳۰۷۹)

(۹۱۲۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۴ (انظر: ۱۴۴۶۷)

نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ.)) کرے، یہ اس کے لیے مدد ہوگی اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی تائید و نصرت کرے۔“ (مسند احمد: ۱۴۵۲۱)

فوائد:..... مہاجرین اور انصار اچھے لقب ہیں، یہ القاب شریعتِ اسلامیہ کے منتخب ہیں، لیکن جب ان کو غلط جگہ

پر استعمال کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان کو ناپسند کیا۔

سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کی موجودگی میں مومن کو ذلیل کیا گیا اور اس نے اس کی مدد نہ کی، جبکہ وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو تو اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا۔“

(۹۱۲۴)۔ عَنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: ۱۶۰۸۱)

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ روزِ قیامت آگ کو اس کے چہرے سے ہٹا دے۔“

(۹۱۲۵)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ رَدَّ عَنِ عَرَضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: ۲۸۰۸۶)

فوائد:..... سبحان اللہ! یہ مومن کی شان ہے، غور سے پڑھیں اور اپنے معاملات پر غور کریں۔

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مومن کو کسی ایسے منافق سے بچایا جو اس کی عیب جوئی کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ نازل کریں گے، جو روزِ قیامت اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس نے مومن کو عیب دار قرار دینے کے لیے کسی معیوب چیز کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کبھی ہوئی بات سے نکل جائے۔“

(۹۱۲۶)۔ عَنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَعْيبُهُ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْئَهُ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.)) (مسند احمد: ۱۵۷۳۴)

(۹۱۲۴) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لہیعہ، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۵۵۵۴ (انظر: ۱۵۹۸۵)

(۹۱۲۵) تخریج: حسن لغیرہ، أخرجه الترمذی: ۱۹۳۱ (انظر: ۲۷۵۳۶)

(۹۱۲۶) تخریج: اسنادہ ضعیف، اسماعیل بن یحییٰ المعافری فیہ جہالۃ، وذكر الذهبی هذا الحدیث من غرائبہ، ویحییٰ بن ایوب، مختلف فیہ، حسن الحدیث، الا ان له غرائب و مناکیر یجتنبها اصحاب الصحاح، أخرجه ابوداود: ۴۸۸۳ (انظر: ۱۵۶۴۹)

چلا کہ ایک دوسرا صحابی رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ ”جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔“ پس اس آدمی نے رختِ سفر باندھا، جبکہ وہ دوسرا آدمی مصر میں تھا، بہر حال وہ اس کے پاس پہنچا اور اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، اس نے جواباً کہا: جی ہاں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔“ یہ حدیث میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی۔

مکحول کہتے ہیں: سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مسلمہ بن مخلد کے پاس مصر میں گئے، ایک روایت میں ہے: سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، جبکہ وہ مصر کے امیر تھے، ان کے اور پہرے دار کے مابین کوئی تکرار ہو گیا، سیدنا مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خود آواز سن لی اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی، انھوں نے کہا: میں اس بار تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں نہ اپنی کسی ضرورت کے لیے، بات یہ ہے کہ کیا تمہیں وہ دن یاد ہے، جس دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”جس کو اپنے بھائی کی کسی برائی کا پتہ چلا، لیکن اس نے اس پر پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس پر پردہ ڈالے گا۔“ انھوں نے کہا: جی ہاں، مجھے یاد ہے، انھوں نے کہا: جی میں اس مقصد کے لیے آیا تھا۔

سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب دُحَیْن کہتے ہیں: میں نے

رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَرَحَلَ وَهُوَ بِمِصْرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (مسند احمد: ۱۶۷۱۳)

(۹۱۲۹)۔ عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُقْبَةَ أَمِيٍّ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ بِمِصْرَ (وَفِي رِوَايَةٍ رَكِبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى مِصْرَ) وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُؤَابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً فَسَتَرَهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِهَذَا جِئْتُ - (مسند احمد: ۱۷۰۸۵)

(۹۱۳۰)۔ عَنْ دُحَيْنِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،

(۹۱۲۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۱۹ / ۱۰۶۷ (انظر: ۱۶۹۶۰)

(۹۱۳۰) تخریج: اسنادہ ضعیف لاضطراب فی اسنادہ، ولجهالة ابی الهیثم، أخرجه ابوداود: ۴۸۹۲

(انظر: ۱۷۳۹۵)

سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ہمارے بعض پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں ان کے لیے پولیس کو بلاتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں، لیکن انہوں نے کہا: ایسا نہ کر، البتہ ان کو وعظ و نصیحت کر اور ڈرا، اس نے ایسے ہی کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، سو دُخین دوبارہ آ گیا اور کہا: بیشک میں نے ان کو منع کیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے، اس لیے اب میں ان کے لیے پولیس والوں کو بلانے لگا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں، سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تجھ پر افسوس ہے، ایسے نہ کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو گویا کہ اس نے کسی درگور کی جانے والی بیٹی کو زندہ کر دیا۔“ ایک روایت میں ہے: ”وہ اس شخص کی مانند ہوگا، جو درگور کی جانے والی بیٹی کو قبر سے زندہ کر دے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ بھی دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔“

فوائد:..... اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں اسلام کا اظہار کرنے والے وجود کے اکرام کا اندازہ لگائیں، کسی کی پردہ پوشی کرنا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا صبر کر کے زبان کو کنٹرول کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن صد افسوس امت مسلمہ مسلمان کی اس شان کو پہچاننے سے قاصر ہے اور ہر کوئی دوسرے کی عیب جوئی کر کے اپنے آپ کو کامل مسلمان ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ذات کے منفی پہلو اور دوسروں کے مثبت پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا اور پھر اپنی ذات کو دوسروں کے مثبت پہلوؤں سے متصف کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ثابت ہوا اور ہر ایک نے اپنے مثبت پہلو کے زعم میں دوسرے کے منفی پہلوؤں پر خوب کچڑا اچھالا، یہ گناہ والا کام تو ہے ہی سہی، لیکن اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کی اصلاح کا موقع نہیں ملا اور ان کے مزاجوں میں فساد آ گیا۔

قَالَ: قُلْتُ: لِعُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطَ فَيَأْخُذُوهُمْ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدِّدْهُمْ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَلَمْ يَنْتَهُوْا، قَالَ: فَجَاءَهُ دُخَيْنٌ، فَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشَّرْطَ، فَيَأْخُذُوهُمْ، فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ، لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْوُودَةَ مِنْ قَبْرِهَا.)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَأَنَّ كَمَنْ أَحْيَا مَوْوُودَةَ مِنْ قَبْرِهَا.)) (مسند احمد: ۱۷۵۳۰)

(۹۱۳۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: ۹۲۳۷)

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْهُدَى وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَيْهَا وَالشَّفَاعَةَ وَأَصْلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ

ہدایت اور اعمالِ خیر کی طرف دعوت دینے اور ان پر رہنمائی کرنے اور سفارش کرنے اور آپس کی اصلاح کرنے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۳۲)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)) (مسند احمد: ۹۱۴۹)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، جبکہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس طرح جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہوں جتنا گناہ ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“

فوائد:..... مسلمان کو امورِ صالحہ کا سبب بنا چاہیے، نہ کہ برے کاموں کا۔

(۹۱۳۳)۔ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّقَصَّ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّقَصَّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)) (مسند احمد: ۱۹۳۶۹)

سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی، جبکہ ان عاملوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح جس نے اسلام میں برا طریقہ وضع کیا، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کو اپنانے والوں کا گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“

فوائد:..... اچھا طریقہ وہ ہے، جس کا شریعت میں اچھے ہونے کا تعین ہو چکا ہے، اس حدیث مبارکہ میں اچھے طریقے کو جاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی نیکی کی ایسے انداز میں ابتدا کرے کہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہو اور وہ بھی وہی نیکی شروع کر دیں، چونکہ ابتدا کرنے والا لوگوں کے اس نیک عمل کا سبب بنا، اس لیے وہ اس عمل کی بنا پر تمام لوگوں کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، مذکورہ بالا حدیث درج ذیل موقع پر بیان کی گئی، اس واقعہ سے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے:

(۹۱۳۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۷۴ (انظر: ۹۱۶۰)

(۹۱۳۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۰۱۷ (انظر: ۱۹۱۵۶)

سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَتَهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِبِلَالٍ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ وَالآيَةُ الَّتِي فِي الْحَشْرِ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ نُوبِهِ مِنْ صَاعٍ بَرُّهُ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلَّ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ)) ہم دن کے شروع میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے تو ایک قوم ننگے پاؤں ننگے بدن چڑے کی عبا میں پہنے تلوراؤں کو لٹکائے ہوئے حاضر ہوئی ان میں سے اکثر بلکہ سارے کے سارے قبیلہ مضر سے تھے، رسول اللہ ﷺ کا چہرہ اقدس ان کے فاقہ کو دیکھ کر متغیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے پھر تشریف لائے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان اور اقامت کہی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر پورا نگہبان ہے۔“ (سورہ نساء: ۱) اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيْرِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔“ (سورہ حشر: ۱۸)، پس آدمی اپنے دینار اور درہم اور اپنے کپڑے اور گندم کے صاع سے اور کھجور کے صاع سے صدقہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہو پھر انصار میں سے ایک آدمی تھیلی اتنی بھاری لے کر آیا کہ اس کا ہاتھ اٹھانے سے عاجز ہو رہا تھا، پھر لوگوں نے اس کی پیروی کی یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر کپڑوں اور کھانے کے دیکھے اور رسول اللہ ﷺ

کا چہرہ اقدس کندن کی طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی، جبکہ ان عاملوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح جس نے اسلام میں برا طریقہ وضع کیا، اس کو اس کا گناہ بھی ملے گا اور اس کے بعد اس کو اپنانے والوں کا گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“ (صحیح مسلم: ۱۶۹۱)

جس آدمی نے زیادہ مقدار میں صدقہ کیا تھا، آپ ﷺ نے اس کے عمل کو سراہا ہے، کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں رغبت پیدا ہوئی۔

یہی معاملہ برے عمل کا ہے، جو آدمی دوسرے لوگوں کی برائیوں کا سبب بنے گا، تو اس کو ان کی برائیوں کا گناہ ملے گا، جب کہ کسی کی وجہ سے کسی کے گناہ میں کمی واقع نہیں ہوگی۔

(۹۱۳۴)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا آعَطَاهُ ، فَأَعْطَى الْقَوْمَ ، فَقَالَ لِنَبِيِّ ﷺ: ((مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِنْ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُتَّقِصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ شَرًّا فَاسْتَنَّ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِنْ أَوْزَارِ مَنْ تَبِعَهُ غَيْرَ مُتَّقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)) (مسند احمد: ۲۳۶۷۸)

سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک آدمی نے عہد نبوت میں سوال کیا، لوگوں نے اسے کچھ نہ دیا، پھر ایک آدمی نے اس کو کوئی چیز دی اور اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے بھی اس کو کچھ نہ کچھ دیا، یہ صورتحال دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور پھر اس کو اپنایا گیا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا بھی، جبکہ ان کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے برا طریقہ وضع کیا اور پھر اس کو اپنایا گیا تو اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا اور اس طریقے کو اپنانے والوں کا بھی، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔“

نوائد:..... اس حدیث مبارکہ سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اچھے طریقے کو جاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس انداز میں نیک عمل کی ابتداء کی جائے، جس سے دوسرے لوگوں میں رغبت پیدا ہو اور وہ بھی وہی عمل کرنا شروع کر دیں۔

(۹۱۳۵)۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَبْدِعُ بِي فَأَحْمِلْنِي؟ قَالَ: ((مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكَ سَيِّئًا)) (مسند احمد: ۲۳۶۷۸)

سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: میری سواری تھک گئی ہے، لہذا آپ مجھے کوئی سواری دیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

(۹۱۳۴) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه البزار: ۲۹۶۴، والطبرانی فی "اللاوسط": ۳۷۰۵، والحاكم: ۲/ ۵۱۶ (انظر: ۲۳۲۸۹)

(۹۱۳۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۹۳ (انظر: ۱۷۰۸۴)

”میرے پاس تو سواری نہیں ہے، البتہ تو فلاں کے پاس جا، (وہ تجھے سواری دے دے گا)۔“ پس وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اس نے واقعی اس کو سواری دے دی، پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کو اس کے بارے میں خبر دی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو نیکی پر دلالت کرتا ہے، اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔“

عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَنْتِ فُلَانَا)) فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)) (مسند احمد: ۱۷۲۱۲)

فوائد:..... نیکی کا سبب بنا بھی نیکی ہے۔

(دوسری سند) اسی قسم کی حدیث بیان کی گئی ہے، البتہ اس میں ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔“ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں ایسے شخص کی طرف اس کی رہنمائی نہ کروں، جو اس کو سواری دے دے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو نیکی پر دلالت کرتا ہے، اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔“

(۹۱۳۶)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) نَحْوُهُ وَفِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ عِنْدِي)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)) (مسند احمد: ۲۲۶۹۵)

سیدنا بریدہ السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پاس آنے والے ایک آدمی سے فرمایا: ”تو جا، پس بیشک نیکی پر دلالت کرنے والا اس کو کرنے والے کی طرح ہے۔“

(۹۱۳۷)۔ عَنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ آتَاهُ: ((إِذْهَبْ، فَإِنَّ الدَّلَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ)) (مسند احمد: ۲۳۴۱۵)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ! اللہ تعالیٰ کا تیرے ذریعے کسی مشرک کو ہدایت دے دینا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔“

(۹۱۳۸)۔ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا مُعَاذُ، أَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) (مسند احمد: ۲۲۴۲۴)

(۹۱۳۶) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۱۳۷) تخريج: اسنادہ صحیح (انظر: ۲۳۰۲۷)

(۹۱۳۸) تخريج: اسنادہ ضعیف جدا، بقیہ بن الولید ضعیف معتبر بہ، وهو يدلّس تدلیس التسوية،

وشیخہ ضبارة مجهول، ودوید بن نافع فلیس بذاك القوی (انظر: ۲۲۰۷۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد:..... دنیا میں ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے، جو دائمی اور ابدی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔

(۹۱۳۹)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی نے سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سفارش کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہتا ہے، حکم دیتا ہے۔“ (مسند احمد: ۱۹۸۱۳)

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ کی فقہ یہ ہے کہ محتاج کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے سفارش کرنی چاہیے، اگر سفارش قبول ہوگئی تو بہت خوب، بصورت دیگر سفارش کرنے کا ثواب تو ملے گا۔ دوسرے حصے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے یا نہ کرنے میں سے جو کچھ چاہا، وہی یا الہام کے ذریعے اپنے نبی کی زبان پر ظاہر کر دے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾..... ”جو کوئی سفارش کرے گا، اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی سفارش کرے گا، بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ (سورہ نساء: ۸۵)

(۹۱۴۰)۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو نماز، روزے اور صدقے کی بہ نسبت زیادہ فضیلت والے درجے کی خبر نہ دوں؟“ لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”قرابت کی اصلاح کرنا اور رشتوں میں فساد ڈالنا تو (دین کو) موٹہ دینے والی چیز ہے۔“ (مسند احمد: ۲۸۰۵۸)

فوائد:..... اہل اسلام بھائی بھائی ہیں، انسانی لغزشوں کی وجہ سے کبھی کبھی یہ رشتہ اخوت متاثر ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر پورے مسلم معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے صلح کروانے کو عظیم صدقہ شمار کیا گیا ہے، جو بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حق میں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

(۹۱۳۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۴۳۲ (انظر: ۱۹۵۸۴)

(۹۱۴۰) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه ابو داود: ۴۹۱۹، والترمذی: ۲۵۰۹ (انظر: ۲۷۵۰۸)

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (سورہ حجرات: ۹)..... ”اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کروا دیا کرو۔“ عہد نبوی میں عمرو بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، ان کے مابین صلح صفائی کروانے کے لیے رسول اللہ ﷺ خود کچھ صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے تھے۔ (بخاری، مسلم) معلوم ہوا کہ جب بعض مسلمان جھگڑ پڑیں تو دوسرے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ ان کے مابین صلح کروادیں۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَإِرْشَادِ الصَّالِحِ

راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے اور راہ بھولے کی رہنمائی کرنے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۴۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَتْ شَجْرَةٌ تُؤْذِي أَهْلَ الطَّرِيقِ ، فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَتَحَاهَا عَنِ الطَّرِيقِ ، فَأَدْخَلَ بِهَا الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۸۰۲۶)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک درخت سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، پس ایک آدمی نے اس کو کاٹ کر راستے سے دور کر دیا اور اس وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔“

(۹۱۴۲)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِجَذَلٍ شَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَا مِيطَنَ هَذَا الشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ أَنْ لَا يَعْقِرَ رَجُلًا مُسْلِمًا ، قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ.)) (مسند احمد: ۸۴۷۹)

(دوسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک مسلمان آدمی کا ایسے راستے سے گزر ہوا، جس پر کانٹوں والا تنہ تھا، اس نے کہا: میں ضرور ضرور ان کانٹوں کو راستے سے ہٹا دوں گا، تاکہ کوئی مسلمان زخمی نہ ہو جائے، پس اس وجہ سے اس کو بخش دیا گیا۔“

(۹۱۴۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((دَخَلَ عَبْدُ الْجَنَّةِ بَعْضِنِ شَوْكٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَاطَهُ عَنْهُ.)) (مسند احمد: ۹۲۳۵)

(تیسری سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی خاردار شاخ کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، (اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے راستے پر تھی اور اس نے اس کو ہٹا دیا تھا۔“

(۹۱۴۴)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ رَابِعٍ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى طَرِيقٍ ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ ، فَقَالَ: لَا رَفْعَنَ

(چوتھی سند) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک آدمی کسی راستے پر جا رہا تھا، وہاں اس نے کانٹے دار شاخ پائی اور کہا: میں اس کو ضرور ضرور دور کروں گا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے

(۹۱۴۱) تخریج: أخرجه مسلم: ص ۲۰۲۱ (انظر: ۸۰۳۹)

(۹۱۴۲) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۱۴۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۱۴۴) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

مجھے بخش دے، پس اس نے اس کو ہٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔“

هَذَا، لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَغْفِرُ لِي فَرَفَعَهُ، فَعَفَّرَ اللَّهُ لَهُ بِهِ، وَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۱۰۲۹۴)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، پس ایک آدمی آیا اور اس کو لوگوں کی گزرگاہ سے ہٹا دیا، پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پس تحقیق میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ جنت میں اس درخت کے سائے میں حسبِ منشا زندگی گزار رہا تھا۔“

(۹۱۴۵)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ شَجَرَةً فِي طَرِيقِ النَّاسِ تُؤْذِي لِنَّاسٍ، فَاتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بِتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ.)) (مسند احمد: ۱۲۵۹۹)

سیدنا ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عبد العزی بن خطل کو قتل کیا، جبکہ وہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسا عمل بتائیں، جس سے میں فائدہ حاصل کر سکوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”راستے سے تکلیف وہ چیز کو ہٹا دیا کر، یہ تیرے لیے صدقہ ہوگا۔“

(۹۱۴۶)۔ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَيْ بْنِ خَطْلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ وَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مُرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ (وَفِي رِوَايَةٍ) عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، فَقَالَ: ((أَمِطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.)) (مسند احمد: ۲۰۰۴۰)

(ایک روایت میں ہے): میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایسی چیز کی خبر دیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”دیکھو، جو چیز لوگوں کو تکلیف دے رہی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دو۔“

(۹۱۴۷)۔ (وَفِي لَفْظٍ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ، فَقَالَ: ((أَنْظُرْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فَأَعِزِّلْهُ عَنْ طَرِيقِهِمْ.)) (مسند احمد: ۲۰۰۲۷)

(ایک روایت میں ہے) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے ایسے عمل کی نشاندہی کرو، جو مجھے جنت میں داخل

(۹۱۴۸)۔ (وَفِي لَفْظٍ آخَرَ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ

(۹۱۴۵) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابو یعلیٰ: ۳۰۵۸ (انظر: ۱۲۵۷۱)

(۹۱۴۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۱۸ (انظر: ۱۹۸۰۲)

(۹۱۴۷) تخریج: انظر الحديث السابق

(۹۱۴۸) تخریج: انظر الحديث السابق

کردے یا جس سے میں فائدہ حاصل کر سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔“ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے میرے امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، میں نے اچھے اعمال میں راستے سے ہٹا دی جانے والی تکلیف دہ چیز کو اور برے اعمال میں مسجد میں پڑی ہوئی اس بگم کو دیکھا، جس کو دفن نہیں کیا گیا۔“

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسے چیز کو ہٹا دیا، جو ان کو تکلیف دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھے گا اور جس کے لیے نیکی لکھ دی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔“

موسیٰ بن ابی عیسیٰ کہتے ہیں: ایک دن مریم رضی اللہ عنہا نے عیسیٰ علیہ السلام کو گم پایا اور ان کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگیں، وہ ایک جولاہے کو ملیں، لیکن اس نے ان کی رہنمائی نہیں کی، پس انھوں نے اسے بد دعا دی، یہی وجہ ہے کہ تو ان کو بے قدر دیکھتا تھا، پھر وہ ایک درزی کو ملیں، اس نے ان کی رہنمائی کی، پس انھوں نے اس کو بد دعا دی، اسی سبب سے تو دیکھتا ہے کہ درزی سے مانوس ہوا جاتا ہے، یعنی لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔

فوائد: ان احادیث میں بھی دراصل مسلمان کی فضیلت کا بیان ہے، جس کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا

باعث اجر و ثواب ہے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔



(۹۱۴۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۵۳ (انظر: ۲۱۵۴۹)

(۹۱۵۰) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الطبرانی فی "الوسط": ۳۲ (انظر: ۲۷۴۷۹)

(۹۱۵۱) تخریج: هذا اثر مقطوع، وليس فی السنة ما يشهد له (انظر: ۲۳۲۳۹)

کِتَابُ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

اخلاقِ حسنہ اور ان سے متعلقہ امور کے مسائل

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ

اخلاقِ حسنہ کی ترغیب دلانے کا بیان

حسنِ اخلاق سے مراد وہ تہذیب و شائستگی، شفقت و الفت، نرمی و گدازی، امانت و دیانت، شرافت و صداقت، حلم و بردباری، صبر و تحمل، مسرت و مسکراہٹ اور دیگر اخلاقی خصلتیں ہیں، جن سے نبی کریم قبل از نبوت اور بعد از نبوت بدرجہ اتم و اکمل متصف تھے۔

درج ذیل اور اس موضوع سے متعلقہ بے شمار روایات میں مختلف پیرایوں میں اخلاقِ حسنہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، حسنِ اخلاق انتہائی عظیم وصف ہے، جہاں نبی کریم ﷺ خود مکارمِ اخلاق سے متصف تھے، وہاں آپ ﷺ نے دوسروں پر بھی خوش خلقی کو اپنانے کے لیے بہت زور دیا ہے۔ اس صفت کے حاملین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب اور ایمان و ایقان کے لحاظ سے کامل و اکمل قرار دیا۔ اس عمل کو بعثتِ نبوی کا مقصد اور موجب جنت ٹھہرایا گیا، یہ حسنِ اخلاق ہی ہے جس کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کے مراتب تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی دس سال تک خدمت کی، لیکن اس طویل عرصے میں آپ ﷺ نے کبھی اف تک نہیں کہا، اگر کوئی کام کر دیا گیا تو اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے اور اگر کوئی کام رہ گیا تو اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا گیا۔ آپ کا یہ عمل حسنِ اخلاق کا عظیم النظر، بے مثال اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ کاش! امت مسلمہ بھی اپنے پیغمبر کے ان مکارمِ اخلاق کو اختیار کر لیتی۔

حسنِ اخلاق روزِ قیامت سب سے زیادہ مفید ثابت ہوگا کیونکہ یہ دیگر تمام اعمال سے زیادہ بھاری ہوگا، ایمان اور حسنِ اخلاق میں تلازم ہے، یعنی جو اخلاق میں جتنا کامل ہوگا، ایمان میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ گویا کمالِ ایمان کے لیے حسنِ اخلاق میں کمال ضروری ہے۔

احادیث مبارکہ میں اخلاقِ حسنہ کے حاملین کو اللہ کے محبوب، محبوب رسول، لوگوں میں سب بہتر اور کامل ایمان، رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل اور بعثتِ نبوی کا مقصد ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جن اعمالِ خیر کی وصیتیں فرمائیں، ان میں حسنِ اخلاق بھی داخل ہے۔ ان احادیث میں جن دوسرے امورِ خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی وضاحت اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ (ان شاء اللہ) نبی کریم ﷺ سے منقول ایک دعائے استفتاح میں حسنِ اخلاق کے لیے یوں رہنمائی طلب کی گئی ہے: ((وَاهْدِنِي لَاحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِاِحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ)) (صحیح مسلم)..... ”اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا مگر تو ہی اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے پھیر سکتا ہے۔“

(۹۱۵۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟)) فرمایا: ”کیا میں تمہیں پسندیدہ لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟“ لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور اخلاق اچھے ہوں۔“ (مسند احمد: ۹۲۲۴)

فوائد:..... دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا واحد ذریعہ ہے، اربوں انسان آئے اور اپنا کردار ادا کر کے اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گئے، ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد آنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ ماضی ہو یا حال و مستقبل، سعادت مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر جنت کے زیادہ سے زیادہ اسباب جمع کرے۔

سیدنا عبد اللہ بن بسر مازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو بدو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ((طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ)) (صحیحہ: ۱۸۳۶)..... ”اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہوں۔“ جو انسان اس صفت سے محروم رہے گا، وہ دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے محروم رہے گا، ایسا انسان دن بدن اللہ تعالیٰ کا مقروض ہوتا جائے گا، ایسا بیچارہ نہ تو زندہ ہے کہ وہ زندگی سے فائدہ اٹھا سکے اور نہ مردہ ہے کہ نیک اعمال ترک کرنے اور برے اعمال کا ارتکاب کرنے پر اسے ملامت نہ کیا جائے۔

(۹۱۵۳)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ)) فرمایا: ”مؤمنوں میں ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ

(۹۱۵۲) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابى شيبه: ۱۳ / ۲۵۴، والبزار: ۱۹۷۱ (انظر: ۹۲۳۵)

(۹۱۵۳) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابو داود: ۴۶۸۲ (انظر: ۷۴۰۲)

لوگ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں، جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ آگ میں گھسیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَجْوَانُ، یعنی منہ اور شرمگاہ۔“ پھر آپ ﷺ سے یہ سوال کیا کہ کس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”حسنِ اخلاق۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقِ صالحہ کی تکمیل کروں۔“

فوائد: ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے عرب سب سے اچھے اخلاق والے تھے، لیکن بعد میں کفر و شرک کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، نبی کریم ﷺ کو ان کی سابق اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیشک میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو اس شخص کے بارے میں بتلا دوں جو روزِ قیامت مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب ہو گا؟“ لوگ خاموش رہے، آپ ﷺ نے دو تین دفعہ اسی بات کو دہرایا، پھر لوگوں نے

خُلِقْنَا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لَيْسَانِهِمْ۔)) (مسند احمد: ۷۳۹۶)

(۹۱۵۴)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَلِجُ النَّاسُ بِهِ النَّارَ؟ فَقَالَ: ((الْأَجْوَانُ: أَلْفَمٌ وَالْفَرْجُ)) وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَلِجُ بِهِ النَّاسُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حُسْنُ الْخُلُقِ)) (مسند احمد: ۷۸۹۴)

(۹۱۵۵)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ)) (مسند احمد: ۸۹۳۹)

(۹۱۵۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)) (مسند احمد: ۶۷۶۷م)

(۹۱۵۷)۔ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَاعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ

(۹۱۵۴) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۴۲۴۶، والترمذی: ۲۰۰۴ (انظر: ۷۹۰۷)

(۹۱۵۵) تخریج: صحیح، أخرجه البزار: ۲۷۴۰، والبيهقی: ۱۰ / ۱۹۱ (انظر: ۸۹۵۲)

(۹۱۵۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۷۵۹، ۶۰۲۹ (انظر: ۶۷۶۷م)

(۹۱۵۷) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه البخاری فی ”الادب المفرد“: ۲۷۲ (انظر: ۶۷۳۵)

يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا))
 کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو
 اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔“ (مسند احمد: ۶۷۳۵)

(۹۱۵۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ
 الْمُسْلِمَ الْمُسَدَّدَ لِيُذْرِكَ دَرَجَةَ الصَّوَامِ
 الْقَوَامِ بِآيَاتِ اللَّهِ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وَكَرَمِ
 ضَرِيَّتِهِ)) (مسند احمد: ۶۶۴۸)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
 فرمایا: ”بیشک (اعتدال اور دوام کے ساتھ) راہ صواب پر چلنے
 والا مسلمان اپنے حسن اخلاق اور طبعی عفو و درگزر کی وجہ سے اس
 آدمی کا درجہ پالیتا ہے جو بہت زیادہ روزے رکھنے والا ہو اور
 اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بہت زیادہ قیام کرنے والا ہو۔“

فوائد: حسن اخلاق اور عفو و درگزر میں نفس کو ضبط کرنا پڑتا ہے اور ان اعمال سے دل کو تسکین ملتی ہے، مسلم
 معاشرے میں بہترین ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔

(۹۱۵۹)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ الرَّجُلَ
 لِيُذْرِكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ
 (وَفِي لَفْظٍ) دَرَجَاتٍ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ
 النَّهَارِ)) (مسند احمد: ۲۵۵۲۷)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”بیشک آدمی حسن اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے
 اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔“

فوائد: جس آدمی نے حسن اخلاق کو اپنایا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے آسان عمل حسن اخلاق اور لوگوں کے
 ساتھ اچھے موڈ میں رہنا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اہل اسلام کی اکثریت کو سرے سے حسن اخلاق کے تقاضوں کا شعور
 ہی نہیں ہے۔

(۹۱۶۰)۔ عَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ) كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ
 أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي)) (مسند
 احمد: ۲۵۷۳۶)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کیا
 کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ
 خُلُقِي۔“ اللہ! تو نے میری تخلیق کو خوبصورت بنایا، پس
 میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔

فوائد: جس حدیث میں اس دعا کو آئینہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اس کو ابن سنی نے روایت کیا ہے، لیکن
 وہ روایت ضعیف ہے۔ لہذا یہ دعا تو ثابت ہے، لیکن اس کا کسی موقع کے ساتھ خاص کرنا ثابت نہیں ہے، یہ الگ بات
 ہے کہ اپنی تخلیق کے حسن کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔

(۹۱۵۸) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی في "الكبير" و"اللاوسط" (انظر: ۶۶۴۸)

(۹۱۵۹) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه ابو داود: ۴۷۹۸ (انظر: ۲۵۰۱۳)

(۹۱۶۰) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطيالسی: ۳۷۴، والبيهقي في "الشعب": ۸۵۴۳ (انظر: ۲۵۲۲۱)

سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئندہ ہونے والے امور کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم سنو کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا ہے تو تصدیق کر لو، لیکن جب تم سنو کہ کسی آدمی کا اخلاق تبدیل ہو گیا ہے تو اس بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ وہ عنقریب اسی اخلاق کی طرف لوٹے گا، جس پر اس کی فطرت بنائی گئی ہے۔“

فوائد: عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کی عملی اور علمی کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ان کے اخلاق اور مزاج تبدیل نہیں ہوتے، کئی افراد کو دیکھا کہ ان کی عبادت کی روٹین بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کا خلاف مزاج امور سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ بد اخلاق، زبان دراز، سخت گو اور گالی گلوچ کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔

سیدنا ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوں اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے، فضول بولنے والے، تکبر کرنے والے اور گفتگو کے لیے باجھوں کو موڑنے والے ہوں۔“

فوائد: اس حدیث میں حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور غیر ضروری، غیر محتاط اور تصنع و بناوٹ سے گفتگو کرنے اور اس کے ذریعے سے دوسروں پر رعب و برتری جتانے سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا کم بولنا اور سادگی سے گفتگو کرنا پسندیدہ ہے اور اس کے برعکس زیادہ بولنا اور وہ بھی دوسروں پر ہیکٹر جمانے کے لیے گفتگو میں تیزی و طراری اور تصنع اختیار کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔

(۹۱۶۳)۔ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سَيِّدِنَا اسامه بن شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمَانِ كَرْتِي هِي كِه اِيك بَدْو ،

(۹۱۶۱) تخريج: اسنادہ ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يدرك ابا الدرداء (انظر: ۲۷۴۹۹)

(۹۱۶۲) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ابى شيبة: ۸ / ۵۱۵ ، وابن حبان: ۴۸۲ ، والطبراني في الكبير: ۲۲ / ۵۸۸ (انظر: ۱۷۷۳۲)

(۹۱۶۳) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۴۷۸ (انظر: ۱۸۴۵۶) كتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول اللہ ﷺ کی طرف آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہوں۔“

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں نبی کریم ﷺ بھی تشریف فرما تھے اور میرے باپ سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک بدگوئی اور بدزبانی، اسلام سے نہیں ہے اور اسلام کے لحاظ سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔“

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ! برائی کے بعد نیکی کیا کرو، تاکہ وہ اس کو مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بدی کے بعد نیکی کرو، تاکہ وہ اس کو مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔“ معاذ راوی نے کہا: میں نے اپنی کتاب میں ”عَنْ أَبِي ذَرٍّ“ کے الفاظ پائے اور یہی پہلا سماع تھا۔

فوائد:..... برائی کے بعد نیکی کرنے سے برائی کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور اس سوچ اور فکر سے آہستہ آہستہ اور بالآخر مزاج میں اتنی ترقی پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔

(۹۱۶۴) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۸ / ۵۱۴، وابویعلی: ۷۴۶۸، والطبرانی: ۲۰۷۲ (انظر: ۲۰۸۳۱)

(۹۱۶۵) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الترمذی: ۱۹۸۷ (انظر: ۲۱۹۸۸)

(۹۱۶۶) تخریج: حسن لغیرہ، أخرجه الترمذی: ۱۹۸۷ (انظر: ۲۱۳۵۴)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.)) (مسند احمد: ۱۸۶۴۷)

(۹۱۶۴) - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وَأَيُّ سَمُرَةَ جَالِسٍ أَمَامِي - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْفُحْشَ وَالْتَفَحْشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.)) (مسند احمد: ۲۱۱۲۰)

(۹۱۶۵) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((يَا مُعَاذُ! اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنًا.)) (مسند احمد: ۲۲۳۳۷)

(۹۱۶۶) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سَفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنًا.))

قَالَ وَكِيعٌ:، وَقَالَ: سَفْيَانُ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ: فَوَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ السَّمَاعُ الْأَوَّلُ - (مسند احمد: ۲۱۶۸۱)

(۹۱۶۷)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ أَفْضَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي بَكْبَرٍ : أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْخُلُقُ الْحَسَنُ)) (مسند احمد: ۲۸۰۴۴)

سیدنا ابو برداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت والے دن ترازو میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور ایک روایت کے مطابق سب سے زیادہ وزن والی چیز حسن اخلاق ہوگی۔“

(۹۱۶۸)۔ عَنِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ ((مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ ، أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ)) (مسند احمد: ۲۸۱۰۴)

سیدہ ام برداء رضی اللہ عنہا، سیدنا ابو برداء رضی اللہ عنہ سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو نرمی کا فراخی کے ساتھ حصہ دیا گیا، اس کو اس کا خیر کا حصہ دے دیا گیا اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے، جو ترازو میں حسن اخلاق کی بہ نسبت زیادہ وزنی ہو۔“

فوائد: حسن اخلاق تعلیمات اسلامیہ کے سلسلے کا ایک اہم باب ہے، اس کو اپنانے کے لیے تعلیم، مصلحت اور حکمت کی ضرورت ہے، تمام احادیث کو غور سے پڑھنے کے بعد حسن اخلاق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي كَظْمِ الْغَيْظِ وَعَدَمِ الْغَضَبِ غصے کو پی جانے اور غصے نہ ہونے کی ترغیب کا بیان

(۹۱۶۹)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَنَ حَدِيثِ طَوِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((مَا مِنْ جَرَعَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَرَعَةِ غَيْظٍ بَكَظْمِهَا عَبْدٌ ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا)) (مسند احمد: ۳۰۱۷)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کے اس گھونٹ سے پسندیدہ ہو، جس کو بندہ پی جاتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے گھونٹ کو پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔“

فوائد: اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظْمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ سبکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورہ آل عمران: ۱۳۳)

(۹۱۶۷) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۰۰۲، ۲۰۱۳ (انظر: ۲۷۴۹۶)

(۹۱۶۸) تخریج: انظر الحديث السابق

(۹۱۶۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطیالسی: ۲۷۲۶، والطبرانی: ۱۲۲۱۷ (انظر: ۳۰۱۷)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہو غصے کے اس گھونٹ سے، جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔“

(۹۱۷۰)۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرَعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرَعَةٍ غَيْظٍ، يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءً وَجِهَ اللَّهِ تَعَالَى)) (مسند احمد: ۶۱۱۴)

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص غصے کو پی جائے، حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور عین کو پسند کرتا ہے، اس کو لے لے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے ہوئے اچھا لباس نہیں پہنا، حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی جو پوشاک پسند کرتا ہے، وہ پہن لے۔“

(۹۱۷۱)۔ عَنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَّصِرَ، دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعَيْنِ أَيُّهُنَّ شَاءَ، وَمَنْ تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُلِيِّ الْإِيمَانِ أَيُّهُنَّ شَاءَ)) (مسند احمد: ۱۵۷۰۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہت پچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ اصل طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالیتا ہے۔“

(۹۱۷۲)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) (مسند احمد: ۷۲۱۸)

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم زبردست پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟“ ہم نے کہا: وہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ نہ پچھاڑ سکتے ہوں، آپ ﷺ نے

(۹۱۷۳)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تُعْدُونَ فِيكُمْ الصُّرْعَةُ؟)) قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ، قَالَ:

(۹۱۷۰) تخريج: حديث صحيح، أخرجه بنحوه ابن ماجه: ۴۱۸۹ (انظر: ۶۱۱۴)

(۹۱۷۱) تخريج: حديث حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۲۰ / ۴۱۵، والبيهقي في "الشعب": ۶۱۱۴ (انظر: ۱۵۶۱۹)

(۹۱۷۲) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۰۹ (انظر: ۷۲۱۹)

(۹۱۷۳) تخريج: أخرجه البخاري: ۶۴۴۲، ومسلم: ۲۶۰۸ (انظر: ۳۶۲۶)

فرمایا: ”نہیں، زبردست پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔“

ابن حصہ یا ابو حصہ ایک ایسے صحابی سے بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کے خطاب کے وقت موجود تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ بڑا پہلوان کون ہے؟“ انھوں نے کہا: پچھاڑنے والا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سارے کا سارے پہلوان، بڑے سے بڑا پہلوان وہ آدمی ہے جسے غصہ آتا ہے، پھر اس کا غصہ سخت ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے اور رو ٹگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اور بیشک آگ کو پانی کے ذریعے ہی بجھایا جاتا ہے۔“

فوائد:..... لوگ جسمانی لحاظ سے تو مند اور طاقتور شخص کو پہلوان سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اصل پہلوان وہ ہے جو غیظ و غضب کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کرتا، جس پر اسے بعد میں ندامت ہو۔ جیسے عام لوگ غصے کی حالت میں شیطانی اور دیوانی جذبات سے سرشار ہو کر اپنا بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں اور پھر ندامت کے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، درج ذیل حدیث سے غصہ پی جانے کی اہمیت کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی نفع بخش بات بتلاؤ، لیکن وہ مختصر ہونی چاہیے، تاکہ میں اس کو یاد کر سکوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو غصے نہ ہوا کر۔“ پھر آپ ﷺ نے کئی دفعہ یہ بات دوہرائی اور ہر بار یہی فرماتے رہے کہ ”تو غصہ نہ کر۔“

قَالَ: ((لَا وَلَكِنَّ الصُّرْعَةَ الَّتِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.)) (مسند احمد: ۳۶۲۶)

(۹۱۷۴)۔ عَنِ ابْنِ حَصْبَةَ، أَوْ أَبِي حَصْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((تَدْرُونَ مَا الصُّرْعَةُ؟)) قَالَ: قَالُوا: الصُّرْعَةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصُّرْعَةُ كُلُّ الصُّرْعَةِ، الصُّرْعَةُ كُلُّ الصُّرْعَةِ، الرَّجُلُ يَغْضِبُ، فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ، وَيَقْشَعُرُ شَعْرَهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبُهُ، وَإِنَّمَا تَطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ.)) (مسند احمد: ۲۳۵۰۳)

(۹۱۷۵)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ قَدَامَةَ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي وَأَقْبِلُ لَعَلِّي أَعْيِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَغْضِبْ.)) فَأَعَادَ عَلَيْهِ حَتَّى أَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لَا تَغْضِبْ.)) (مسند احمد: ۲۰۶۲۶)

(۹۱۷۴) تخریج: صحیح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۲۳۴۱ (انظر: ۲۳۱۱۶)

(۹۱۷۵) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۸ / ۵۳۲، وابویعلی: ۶۸۳۸، والطبرانی:

۲۱۰۲ (انظر: ۲۰۳۵۷)

فوائد:..... نبی کریم ﷺ سائل اور مخاطب کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کا مطالبہ پورا کرتے تھے۔

(۹۱۷۶)۔ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي ، قَالَ:
((لَا تَغْضَبْ)) قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَرْتُ
جِئِنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ فَإِذَا الْغَضَبُ
يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ (مسند احمد: ۲۳۵۵۸)

(۹۱۷۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: مَرِنِي بِأَمْرٍ وَلَا تُكْثِرْ
عَلَيَّ حَتَّى أَعْقِلَهُ ، قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)) ،
فَاعَادَ عَلَيْهِ قَالَ: ((لَا تَغْضَبْ)) (مسند
احمد: ۸۷۲۹)

(۹۱۷۸)۔ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اسْتَسَاءَ السُّلْطَانُ
تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ)) (مسند احمد: ۱۸۱۴۷)

فوائد:..... حکمرانوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور غیظ و غضب کی عادت کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے، اسی طرح لوگوں کے لیے بھی ناجائز ہے کہ ایسے امور کو سرانجام دیں، جن سے حکمران کو غصہ آتا ہو۔

(۹۱۷۹)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنَ
غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((لَا
تَغْضَبْ)) (مسند احمد: ۶۶۳۵)

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے دور کر سکتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”غصے نہ ہوا کر۔“

فوائد:..... غصہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) محمود اور (۲) مذموم

(۹۱۷۶) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه عبد الرزاق: ۲۰۲۸۶، والبيهقي: ۱۰۵ / ۱۰ (انظر: ۲۳۱۷۱)

(۹۱۷۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۱۱۶ (انظر: ۸۷۴۴)

(۹۱۷۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة حال محمد بن عطية، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۴۴۴ / ۱۷ (انظر: ۱۷۹۸۴)

(۹۱۷۹) تخریج: صحیح لغیرہ (انظر: ۶۶۳۵)

محمود غصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں تو اسلامی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو غصہ آنا چاہئے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ شرعی حدود و قیود سے اعراض کے وقت غصے میں آجاتے تھے، لیکن اس معاملے میں بھی مصلحت اور حکمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾..... ”اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ (برائی کو) اس (طریقے) کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔“ (سورہ فصلت: ۳۴)

مذموم غصہ سے روکا گیا ہے، اس سے مراد وہ غصہ ہے، جس میں انسان اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے ہتلا ہو جاتا ہے یا اپنی ذاتی چودھراہٹ اور آنا کی بنا پر یا برادری و خاندانی عصبیتوں کی وجہ سے ذاتی مسائل میں پھنس جاتا ہے اور اسلامی قوانین کی رو رعایت رکھے بغیر غیظ و غضب کے شعلے اگلنے لگتا ہے، اس غصے سے شیطانی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھنے کی تلقین کی ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ اس کا جوش غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ (بخاری، مسلم) ہمیں چاہئے کہ ہمارے غیظ و غضب، غیرت و حمیت اور صلح و صفائی کا معیار اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام ہوں۔ مذموم غصے کو سمجھنے کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۹۱۸۴)۔

بَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِإِذْهَابِ الْغَضَبِ

غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ ﷺ کے بیان کیے گئے طریقے کا بیان

(۹۱۸۰)۔ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا وَائِلُ صَنْعَانِيُّ مُرَادِيٌّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ أَغْضَبَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ، وَقَدْ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ)) (مسند احمد: ۱۸۱۴۸)

سیدنا عطیہ رضی اللہ عنہ، جن کو صحبت کا شرف حاصل تھا، سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک غضب شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غصے میں آجائے تو وہ وضو کیا کرے۔“

(۹۱۸۰) تخريج: اسنادہ ضعيف، ابوائل الصنعاني المرادي ضعيف، وابو عروة مجهول، أخرجه

ابوداود: ۴۷۸۴ (انظر: ۱۷۹۸۵)

فوائد: یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

(۹۱۸۱)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا حَتَّى إِنَّهُ لَيُتَحَيَّلُ إِلَيَّ أَنْ أَنْفَهُ لَيَتَمَزَّعُ مِنَ الْعَضْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْتِي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ يَقُولُهَا هَذَا الْغَضْبَانُ لَذَهَبَ عَنْهُ الْعَضْبُ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) (مسند احمد: ۲۲۴۳۶)

سیدنا معاذ بن جبلیؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں دو آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ان میں سے ایک اس قدر طیش میں آیا کہ یہ خیال ہونے لگا کہ غصے کی وجہ سے اس ناک پھٹ جائے گی، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے والا آدمی اس کو کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ کلمہ یہ ہے: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ (اے اللہ! میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں)۔“

(۹۱۸۲)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: ((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضْبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ)) (مسند احمد: ۲۱۶۷۵)

سیدنا ابو ذرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو غصہ آجائے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، وگرنہ لیٹ جائے۔“

فوائد: ان احادیث میں غصے کا علاج بتایا گیا ہے کہ آدمی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْعُفْوِ عَنِ الْمَظَالِمِ وَفَضْلِهِ ظلم کو معاف کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان

(۹۱۸۳)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((ثَلَاثٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ كُنْتُ لِحَالِفًا عَلَيْهِنَّ، لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي

سیدنا عبد الرحمن بن عوفؓ نے کہا: بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! تین چیزیں ہیں، میں یقیناً ان پر قسم اٹھاتا ہوں، (۱) صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، پس صدقہ کیا کرو، (۲) جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کسی ظلم کو

(۹۱۸۱) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابو داود: ۴۷۸۰ (انظر: ۲۲۰۸۶)

(۹۱۸۲) تخریج: صحیح، قاله الالبانی، أخرجه ابو داود: ۴۷۸۲ (انظر: ۲۱۳۴۸)

(۹۱۸۳) تخریج: حسن لغیرہ، أخرجه البزار: ۱۰۳۳، وابویعلی: ۸۴۹ (انظر: ۱۶۷۴)

بہا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا (وَقَالَ: أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ: إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.)) (مسند احمد: ۱۶۷۴)

معاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، ایک روایت میں ہے: اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا اور (۳) جب بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

فوائد:..... صدقہ کرنا اور کسی کا ظلم معاف کر دینا، ان کی وجہ سے جن برکتوں کا حصول ہوتا ہے، ان اعمال پر پابندی کرنے والا ہی ان کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تسکین و سکینت عطا کرتے ہیں اور دل کو سدا بہار رکھتے ہیں۔

اشد ضرورت کے علاوہ لوگوں سے سوال کرنا ناجائز ہے، چاہیے یہ کہ بندہ محنت کرے، کم آمدنی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گزارا کرے اور صرف اللہ تعالیٰ سے وسعت رزق کا سوال کرے۔

(۹۱۸۴)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَتَمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ، فَعُضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَن يَشْتُمْنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ غَضِبْتُ وَقَمْتُ قَالَ: ((أَنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضُ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعُدْ مَعَ الشَّيْطَانِ.)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا قِلَّةً.)) (مسند احمد: ۹۶۲۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، جبکہ نبی کریم ﷺ پاس تشریف فرما تھے، لیکن آپ ﷺ تعجب کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ جب اُس شخص نے زیادہ گالیاں دیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بعض گالیوں کا جواب دیا۔ لیکن نبی کریم ﷺ ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو جا ملے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ مجھ پر سب و شتم کرتا رہا، لیکن آپ ﷺ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کی بعض گالیوں کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دراصل تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا، جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جوابی کاروائی شروع کی تو شیطان آگھسا، اب میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا۔“ پھر آپ نے فرمایا: ”ابو بکر! تمہیں چیزیں برحق ہیں: (۱) جس آدمی پر ظلم کیا جائے اور وہ آگے سے چٹم پوٹی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبردست مدد کرتے ہیں، (۲) جو آدمی تعلقات جوڑنے کے لیے عطیے دینا شروع

کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے عطا کرتے ہیں اور (۳) جو آدمی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے (لوگوں سے) سوال کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ (اس کے مال کی) کمی میں اضافہ کرتے ہیں۔“

فوائد:..... اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما کو ذاتی انتقام لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور اگر خلیفہ اول کی جوابی کارروائی کی وجہ سے فرشتہ چلا جائے اور شیطان آگھے تو ہم جیسوں کے لیے بدلہ لینا کیسا ہوگا، جبکہ صورت حال یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ذات پر کیے گئے اعتراض کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔

(۹۱۸۵)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي بِفَوَاضِلِ الْأَعْمَالِ ، فَقَالَ : ((يَا عُقْبَةُ ! صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ)) (مسند احمد: ۱۷۴۶۷)

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کو ملا اور آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے فضیلت والے اعمال کے بارے میں بتلائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عقبہ! تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ سے تعلق ختم کرے، اس کو دے، جو تجھے محروم کرے اور اس کو معاف کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے۔“

فوائد:..... نبی کریم ﷺ سے کیے گئے سوال اور پھر اس کے جواب پر غور کریں۔

(۹۱۸۶)۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً ، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ)) (مسند احمد: ۲۳۰۷۷)

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کو اس کے جسم میں زخم لگایا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کے مطابق اس چیز کو اس کے لیے کفارہ بنائے گا۔“

(۹۱۸۷)۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ

(۹۱۸۵) تخریج: حدیث حسن انظر: (۱۷۳۳۴)

(۹۱۸۶) تخریج: صحیح بشواہدہ، أخرجه الطيالسي: ۵۸۷، والبيهقي: ۸ / ۵۶ (انظر: ۲۲۷۰۱)

(۹۱۸۷) تخریج: صحیح، أخرجه الطبرانی في "المصغیر": ۱۱۶۹، والبيهقي في "الشعب": ۱۱۲۵۸

(انظر: ۲۲۳۳)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ)) نے فرمایا: ”درگزر کر، تاکہ تجھ سے بھی درگزر کی جائے۔“
(مسند احمد: ۲۲۳۳)

فوائد:..... معاف کرنا ایسا زیور ہے کہ اس سے متصف شخص لوگوں میں ہر دلعزیز اور مقبول اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، یہ صفت صبر و حلم، تحمل و برداشت اور غفور و درگزر کو جنم دیتی ہے کہ جن کی بنا پر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، معاف کرنا حکیم اور دانا لوگوں کی صفت ہے، وہ اس کی روشنی میں ہر انسان سے پیش آتے ہیں۔

(۹۱۸۸)۔ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
نَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمًا كَانُوا
هَلَّ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ ، قَاتَلَهُمْ أَهْلُ تَجْبَرٍ
وَعَدَدٍ ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْفِ عَلَيْهِمْ ،
فَعَمَدُوا إِلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ
وَسَلَطُوهُمْ ، فَاسْحَطُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ
يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ)) (مسند احمد: ۲۳۸۵۵)

سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک قوم، کمزور اور مسکین تھی، تکبر اور تعداد والے لوگوں نے ان سے لڑائی کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو ان پر غالب کیا تو انھوں نے اپنے دشمن کا قصد کیا اور ان کو غلام بنا لیا اور ان پر مسلط ہو گئے اور اس طرح روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کو ملنے تک انہوں نے اپنے اوپر اس کو ناراض کر دیا۔“

فوائد:..... جب کمزور لوگوں کو اقتدار مل جائے، تو وہ انتقامی کارروائی شروع نہ کر دیں، بلکہ شریعت کی روشنی میں پناہ اقتدار برقرار رکھیں۔

(۹۱۸۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسند احمد: ۷۴۲۵)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی کی غلطی کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی (لغزشوں اور غلطیوں) کو معاف کر دے گا۔“

(۹۱۹۰)۔ عَنْهُ أَيْضًا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا ، وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ)) (مسند احمد: ۷۲۰۵)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی، جو آدمی ظلم کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔“

(۹۱۸۸) تخریج: اسنادہ ضعیف، الاجلح الکندی ضعیف، و قیس بن ابی مسلم فی عداد المجهولین، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۵ / ۳۹ (انظر: ۲۳۴۶۳)

(۹۱۸۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه بنحوه ابو داود: ۳۴۶۰، وابن ماجه: ۲۱۹۹ (انظر: ۷۴۳۱)

(۹۱۹۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۸ (انظر: ۷۲۰۶)

فوائد:..... ”صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔“ اس کی صورت ہے کہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور اس میں کمی کا باعث بننے والے امور دور ہو جاتے ہیں، اس طرح مخفی برکت کے ذریعے ظاہری طور پر ہونے والی کمی پوری ہو جاتی ہے، یا صدقہ کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ ہونے والی کمی کو کمی ہی نہیں کہا جاسکتا۔

بَابُ التَّرَغِيبِ فِي الرَّفْقِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ نرہی کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان

(۹۱۹۱)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ نرہی والا ہے اور نرہی کو پسند کرتا ہے اور نرہی کی وجہ سے وہ کچھ عطا کرتا ہے، جو سختی اور تشدد پر عطا علی العنْفِ۔“ (مسند احمد: ۱۶۹۲۵)

فوائد:..... اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ان کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، نہ کہ تنگی کا، یہی وجہ ہے کہ اس نے جنت جیسا عظیم انعام دینے کے لیے سہولت آمیز شریعت کو مرتب کیا ہے اور وہ اپنے بندوں میں بھی نرہی اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔

(۹۱۹۲)۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی حدیثِ نبوی بیان کی ہے۔

(۹۱۹۳)۔ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو نرہی سے محروم رہا، وہ خیر سے محروم رہا۔“

(۹۱۹۴)۔ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّسْلَاعِ، فَأَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَعَمٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَانِي

(۹۱۹۱) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابوداود: ۴۸۰۷ (انظر: ۱۶۸۰۲)

(۹۱۹۲) تخریج: حدیث حسن فی الشواہد، أخرجه البزار: ۷۵۶، والبیہقی فی ”الشعب“: ۸۴۱۵ (انظر: ۹۰۲)

(۹۱۹۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۹۲ (انظر: ۱۹۲۵۲)

(۹۱۹۴) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۴۷۸، ۴۸۰۸ (انظر: ۲۴۳۰۷)

اونٹنی، جس پر ابھی تک سواری نہیں کی گئی تھی، بھیجی اور فرمایا: ”عائشہ! اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، وہ اُس کو مزین کر دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے، وہ اُس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔“

مِنْهَا نَاقَةٌ مُحَرَّمَةٌ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرَّفْقِ، فَإِنَّ الرَّفْقَ لَمْ يَكُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يَنْزِعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. ((مسند احمد: ۲۴۸۱۱))

فوائد: نبی کریم ﷺ کا ٹیلوں کی طرف نکل جانا، آپ ﷺ بسا اوقات ایسا کرتے تھے اور آپ ﷺ

کا مقصد خلوت میں جا کر ذکر کرنا ہوتا تھا۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے خیر و بھلائی کر ارادہ کرتا ہے تو ان کو نرمی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔“

(۹۱۹۵)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ.)) (مسند احمد: ۲۴۹۳۱)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! جس نے میری امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا، تو اس پر نرمی کر اور جس نے میری امت پر سختی کی، تو بھی اس پر سختی کر۔“

(۹۱۹۶)۔ وَعَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ مَنْ رَفَقَ بِأُمَّتِي فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَشَقَّ عَلَيْهِ.)) (مسند احمد: ۲۴۸۴۱)

فوائد: نرمی ایسا زیور ہے کہ اس سے متصف شخص لوگوں میں بھی ہر دلعزیز اور مقبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ

کے ہاں بھی محبوب ہو جاتا ہے، نرمی جیسی صفت صبر و حلم، تحمل و برداشت اور عنف و درگزر کو جنم دیتی ہے کہ جن کی بنا پر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، نرمی حکیم اور دانا لوگوں کی صفت ہے، وہ اس کی روشنی میں ہر انسان سے پیش آتے ہیں۔ جبکہ نرمی سے محروم آدمی لوگوں کی نگاہوں میں بھی معیوب چیز کی طرح حقیر ہو جاتا ہے اور عند اللہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الرَّفْقِ بِالْحَيَوَانِ حیوان کے ساتھ نرمی کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے، جو ایک جگہ پر کھڑے

(۹۱۹۷)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ سَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَى

(۹۱۹۵) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۶۵۵۹، والبخاري في "التاريخ الكبير": ۴۱۶ / ۱ (انظر: ۲۴۴۲۷)

(۹۱۹۶) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبراني في "الايوسط": ۳۶۲ (انظر: ۲۴۳۳۷)

(۹۱۹۷) تخریج: حدیث حسن الی قوله: "ولا تتخذوها كراسی" وهذا اسنادہ ضعیف، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۴۳۲ / ۲۰ (انظر: ۱۵۶۲۹)

چوپایوں اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ان جانوروں پر سوار ہو، اس حال میں کہ یہ صحت مند ہوں اور ان کو صحت و سلامت کی حالت میں ہی چھوڑا کرو اور راستوں اور بازاروں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو کرسیاں نہ بنا لو (یعنی خواہ مخواہ ان پر نہ بیٹھے رہو)، پس کتنی ہی سواریاں ہیں، جو اپنے سواریوں سے بہتر اور ان کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔“

قَوْمٌ وَهُمْ وَقُوفٌ عَلَى دَوَابٍّ وَرَوَاجِلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: ((ارْكُبُوهَا سَالِمَةً، وَدَعُوَهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَأْسِي لَا حَادِيَتِكُمْ فِي الطَّرِيقِ وَالْأَسْوَاقِ، فَرُبَّ مَرْكُوبَةٍ خَيْرٌ مِّنْ رَّاكِبِهَا وَأَكْثَرُ ذِكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ.)) (مسند احمد: ۱۵۷۱۴)

فوائد:..... یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنی آدم پر احسان ہے کہ اس نے جانوروں کو قوت گویائی عطا نہیں کی، وگرنہ اس سے لوگوں کو کافی ساری پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان من مانی پر اتر آئے اور بے زبان مخلوق کا کوئی لحاظ نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کی خاطر جانوروں میں بھوک، پیاس اور مشقت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو بولنے کی قوت نہیں دی تو انسان کو یہ وصیت کر دی کہ وہ نہ صرف اس چیز کا احساس کرے، بلکہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا خوفِ خدا کا تقاضا ہے۔

(۹۱۹۸)۔ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ، فَأَمَرَلَهُ بِدَوْدٍ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيُحْسِنُوا غَدَاءَ رَبَاعِيهِمْ، وَمُرْهُمْ فَلْيَقْلِمُوا أَظْفَارَهُمْ وَلَا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ إِذَا حَلَبُوا.)) (مسند احمد: ۱۵۷۱۴)

سیدنا سوادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے میرے لیے کچھ اونٹنیوں کا حکم دیا اور مجھے فرمایا: ”جب تو اپنے گھر پہنچے تو انھیں کہنا کہ موسم بہار میں پیدا ہونے والے ان کے بچوں کو اچھی غذا دیں، نیز انھیں کہنا کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں تاکہ دودھ دوہتے وقت مویشیوں کے تھنوں کو خون آلود نہ کر دیں۔“

۱۵۷۱۴ **فوائد:**..... دودھ دوہتے وقت نرم انداز اختیار کیا جائے اور دوہنے کے وقت ناخن کٹے ہوئے ہوں، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔

(۹۱۹۹)۔ عَنْ ضَرَّارِ بْنِ الْأَزْوَِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ لِقَحَةً، (وَفِي رَوَايَةٍ بَعَثَنِي أَهْلِي بِلُقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِبَهَا) قَالَ: فَحَلَبْتُهَا قَالَ: فَلَمَّا

سیدنا ضرار بن ازور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کو ایک دودھ والی اونٹنی بطور تحفہ دی، ایک روایت میں ہے: میرے بعض اہل خانہ نے مجھے دودھ والی اونٹنیاں دے کر نبی کریم ﷺ کی طرف بھیجا، آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ

(۹۱۹۸) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الطبرانی في "الكبير": ۶۴۸۲ (انظر: ۱۵۹۶۱)

(۹۱۹۹) تخریج: صحیح، قاله الالبانی، أخرجه (انظر:)

میں ان کو دوہوں، پس میں نے ان کو دوہا اور جب میں نے مشقت کے ساتھ سارا دودھ نکالنا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس طرح نہ کر، بلکہ (مزید دودھ) کا سبب بننے والا دودھ (تھنوں میں) چھوڑ دیا کر۔“

أَخَذْتُ لِأَجْهِدَهَا، قَالَ: ((لَا تَفْعَلِ دَعِ دَاعِيَ اللَّبَنِ)) (مسند احمد: ۱۹۱۹۰)

فوائد:..... شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے آخری الفاظ کا یہ معنی بیان کیا: دوہنے والے کو چاہیے کہ وہ دودھ کی کچھ مقدار تھنوں میں باقی رہنے دے اور ان کو مکمل نہ چھوڑ لے، کیونکہ دوہنے کے بعد تھنوں میں باقی رہنے والا دودھ مزید دودھ کے اترنے کا سبب بنے گا اور تھنوں کو مکمل چھوڑ لینے کی صورت میں پچھلا دودھ کافی دیر کے بعد اترے گا۔ (صحیح: ۱۸۶۰)

(دوسری سند) نبی کریم ﷺ اس کے پاس سے گزرے اور وہ دودھ وہ رہا تھا، پس آپ ﷺ نے فرمایا: ”(مزید دودھ) کا سبب بننے والا دودھ (تھنوں میں) رہنے دے۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ صدقہ کے اونٹوں کی طرف جنگل میں گئے اور میرے علاوہ اپنی تمام بیویوں کو اونٹ دیے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے میرے علاوہ سب کو ایک ایک اونٹ دیا ہے؟ پس آپ ﷺ نے مجھے ایک سخت اونٹ دیا، اس پر ابھی تک سوار نہیں ہوا گیا تھا، پس میں اس کو مارنے لگی، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، وہ اُس کو مزین کر دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی جدا ہوتی ہے، وہ اُس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔“

(۹۲۰۰)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ) أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحْلُبُ فَقَالَ: ((دَعِ دَاعِيَ اللَّبَنِ)) (مسند احمد: ۱۸۹۹۹)

(۹۲۰۱)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَادِيَةِ، إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَعْطَى نِسَاءً بَعِيرًا غَيْرِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَهُنَّ بَعِيرًا بَعِيرًا غَيْرِي؟ فَأَعْطَانِي بَعِيرًا آدَدَ صَعْبًا لَمْ يَرْكَبْ عَلَيْهِ، (وَفِي رَوَايَةٍ فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! ارْفُقِي بِهِ فَإِنَّ الرَّفْقَ لَا يُخَالِطُ شَيْئًا إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُؤَارِقُ شَيْئًا إِلَّا شَانَهُ)) (مسند احمد: ۲۵۳۱۹)

عبداللہ بن زیاد کہتے ہیں: بسر کے دو مسلمان بیٹے تھے، میں ان کے پاس گیا اور کہا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اور اس کوڑے سے مارتا بھی ہے اور لگام کے ذریعے کھینچتا بھی ہے، کیا تم نے اس

(۹۲۰۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ بُسْرِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ، الرَّجُلُ مَنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيَضْرِبُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكْفَحُهَا

(۹۲۰۰) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۰۱) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابو داود: ۲۴۷۸، ۴۸۰۸ (انظر: ۲۴۸۰۸)

(۹۲۰۲) تخريج: اسنادہ صحیح (انظر: ۱۷۶۸۶)

بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انھوں نے کہا: ہم نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا، لیکن پھر اچانک گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا: سوال کرنے والے! اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ”اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، یہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔“ (سورہ النعام: ۳۸) پھر اس نے کہا: یہ ہماری بہن ہے، عمر میں ہم سے بڑی ہے اور اس نے رسول اللہ ﷺ کو پایا ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک گدھا دیکھا، اس کو چہرے پر داغا گیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے یہ کام کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔“

سیدنا سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے، جبکہ آپ ﷺ مرض الموت میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں: میں نے آپ ﷺ سے سوال کرنا شروع کر دیا (اور اتنے سوالات کیے کہ) مزید کوئی سوال یاد ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”اور یاد کرو۔“ بہر حال میں نے آپ ﷺ سے جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! گمشدہ اونٹ میرے حوضوں پر آ جاتا ہے، جبکہ میں نے ان کو اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو کیا اس کو پانی پلا دینے میں میرے لیے اجر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، ہر تر جگر کو پلانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اجر ہے۔“

بِاللَّجَامِ هَلْ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ؟ قَالَا: مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتْ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ: أَيُّهَا السَّائِلُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَسْمَأُ مِثْلَكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فَقَالَ: هَذِهِ أُخْتُنَا وَهِيَ أَكْبَرُ مِنَّا وَقَدْ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ۔ (مسند احمد: ۱۷۸۳۷)

(۹۲۰۳)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا قَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا)) (مسند احمد: ۱۴۲۱۱)

(۹۲۰۴)۔ عَنْ سَرَّاقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْعِهِ الَّذِي تُوقَى فِيهِ، قَالَ: فَطَفِقْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَا أَذْكَرُ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: ((أَذْكَرُ)) قَالَ: وَكَانَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّالَةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الصَّالَةُ مِنَ الْإِبْلِ) تَغْشَى حِيَاضِي وَقَدْ مَلَأْتُهَا مَاءً لِإِبْلِي، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرِ أَنْ أَسْقِيَهَا؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((نَعَمْ، فِي سَقْيِ كُلِّ كَبِدٍ أَجْرٌ لِلَّهِ)) (مسند احمد: ۱۷۷۳۰)

(۹۲۰۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۱۱۷ (انظر: ۱۴۱۶۴)

(۹۲۰۴) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ۳۶۸۶ (انظر: ۱۷۵۸۷)

فوائد: ہر جانور کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، یہاں تک کہ شریعت میں جن جانوروں کو قتل یا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو آرام دہ انداز میں قتل اور ذبح کرنا چاہیے، نہ کہ ظالمانہ انداز میں۔

سیدنا عبد الرحمن بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، ایک آدمی ایک جھاڑی کی طرف گیا اور (چڑیا کی طرح کے) سرخ پرندے کے انڈے نکال لایا، پس وہ پرندہ آیا اور رسول اللہ ﷺ نے آپ کے صحابہ کے سروں پر پھڑ پھڑانے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کس نے اس کو تکلیف دی ہے؟“ اس آدمی نے کہا: میں نے اس کے انڈے لیے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”واپس رکھ دے۔“

(دوسری روایت) آپ ﷺ نے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا: ”واپس رکھ دے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ) ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا، پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا، وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے (ہانپتے ہوئے) کچھ چاٹ رہا تھا، پس اس آدمی نے (دل میں) کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اتر آیا اور اپنے موزے پانی سے بھرے اور انہیں اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ (یہ سن کر) صحابہؓ نے

(۹۲۰۵)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا، فَأَنْطَلَقَ إِنْسَانٌ إِلَىٰ عَيْصِيَّةٍ، فَأَخْرَجَ بَيْضَ حُمْرَةٍ فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ تَرِفُ عَلَىٰ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرُءُوسِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((أَيْكُمْ فَبَجَعْ هَذِهِ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: آتَا أَصْبَتْ لَهَا بَيْضًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُرْدُدْهُ.)) (مسند احمد: ۳۸۳۵)

(۹۲۰۶)۔ (وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) ((رُدَّه.)) رَحْمَةً لَهَا۔ (مسند احمد: ۳۸۳۶)

(۹۲۰۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي وَهُوَ بِطَرِيقِي إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِنْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَنِي، فَنَزَلَ الْبِنْرَ فَمَلَأَ خَفِيهِ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّىٰ رَفِيَ بِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَقَّرَ لَهُ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ

(۹۲۰۵) تخریج: صحیح، قالہ الالبانی، أخرجه ابو داود: ۲۶۷۵، ۵۲۶۸ (انظر: ۳۸۳۵)

(۹۲۰۶) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۰۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۳۶۳، ۲۴۶۶، ومسلم: ۲۲۴۴ (انظر: ۸۸۷۴)

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے) میں بھی اجر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ہاں) ہر تر جگر والے (جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال) میں اجر ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک زانی عورت نے گرمی والے دن میں ایک کتا دیکھا، وہ ایک کنویں کا چکر لگا رہا تھا اور پیاس کے مارے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، پس اس نے اپنا موزہ اتارا (اور اس کو پانی پلایا) اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایک عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی، اس نے اس کو باندھ دیا تھا، نہ خود اس کو کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ از خود زمین کے حشرات کھا سکتی۔“

علقمہ کہتے ہیں: ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے، سیدہ نے ان سے کہا: تم یہ بیان کرتے ہو کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، یعنی اس نے اس کو باندھ دیا تھا اور نہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ پلاتی تھی؟ انھوں نے کہا: جی میں نے یہ بات نبی کریم ﷺ سے سنی تھی، سیدہ نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ عورت کون تھی؟ اس عورت نے جو کچھ کیا، بہر حال وہ کافر تھی اور بیشک اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤمن کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ وہ بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دے، پس جب تم

(آجر۔) (مسند احمد: ۸۸۶۱)

(۹۲۰۸)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ أَمْرًا بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، يُطِيفُ بِبَيْتِهَا قَدْ أَذْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَتَرَعَتْ مَوْقَهَا فَعَفَّرَ لَهَا.)) (مسند احمد: ۱۰۵۹۱)

(۹۲۰۹)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((دَخَلَتْ أَمْرًا النَّارِ فِي هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمَهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تُرْسِلْهَا، فَتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.)) (مسند احمد: ۷۵۳۸)

(۹۲۱۰)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْحُزَاعِيُّ، عَنْ سِيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ: أَنَّ أَمْرًا عَذَّبَتْ فِي هِرَّةٍ إِنَّهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمَهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ (قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ كَذَا قَالَ: أَبِي) فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتْ

(۹۲۰۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۴۶۷، ومسلم: ۲۲۴۵ (انظر: ۱۰۵۸۳)

(۹۲۰۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۳۱۸، ومسلم: ۲۲۴۲ (انظر: ۷۵۴۷)

(۹۲۱۰) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الطیالسی فی "مسندہ": ۱۴۰۰ (انظر: ۱۰۷۲۷)

لَمْرَأَةً؛ إِنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ مَا فَعَلَتْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعَذَّبَهُ فِي هِرَّةٍ، فَإِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانظُرْ كَيْفَ نَحَدَّثُ - (مسند احمد: ۱۰۷۳۸)

رسول اللہ ﷺ سے احادیث بیان کرو تو غور بھی کیا کرو کہ کیسے بیان کر رہے ہو۔

فوائد:..... سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ یہ روایت اوپر گزر چکی ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں اس عورت کو کافر قرار دیا ہے، لیکن مسند احمد اور صحیح مسلم کی جو روایت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ وہ خاتونِ حَمِیرِ قبیلے کی تھی، صحیح مسلم کی اسی سند کے ساتھ مروی حدیث میں ہے کہ یہ عورت بنی اسرائیل سے تھی۔ حافظ ابن حجر نے کہا: ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ حَمِیرِ قبیلے کا ایک گروہ یہودیت میں داخل ہوا تھا، اس لیے کبھی اس کو اس کے دین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو اس کے قبیلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب نے مزید کہا: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اس خاتون کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو قید کر دیا تھا، عیاض نے کہا کہ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ خاتون کافر ہو اور اس کو حقیقت میں آگ کا عذاب دیا گیا ہو، یا اس کو حساب کا عذاب دیا گیا ہو، کیونکہ جس سے تفصیلی حساب لیا گیا، اس کو عذاب دیا گیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عورت کافر ہو اور اس کو اس کے کفر کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہو، لیکن بلی کو قید کر لینے کی وجہ سے عذاب میں اضافہ کیا گیا ہو، یا وہ خاتون مسلمان ہو اور اس کو بلی کے جرم کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہو۔ امام نووی نے کہا: ظاہر تو یہی ہے کہ وہ خاتون مسلمان تھی اور بلی کو یہ عذاب دینے کی وجہ سے آگ میں داخل ہوئی۔

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((لَوْ عَفَّرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَيَّ الْبَهَائِمِ لَعَفَّرَ لَكُمْ كَثِيرًا)) (مسند احمد: ۴۱/۶)..... ”جو تم چوپایوں سے (ظلم) کرتے ہو اگر وہ بخش دیا جائے (تو سمجھ لو کہ) بہت کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے میں بھی مکلف ہے، اگر کوئی جانور پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا، آج کل جن لوگوں کا جانوروں کے ساتھ تعلق ہے، جیسے بیوپاری، چرواہے وغیرہ، وہ اسلام کے ان اصولوں کا قطعی طور پر کوئی خیال نہیں رکھتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((أَتَحْرُوْا الْأَحْمَالَ عَلَى الْإِبِلِ فَإِنَّ الْيَدَ مَعْلَقَةً، وَالرَّجْلُ مُوْتَقَةٌ)) (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۱۱۳۰)..... ”اؤنوں سے بوجھ اتار دیا کرو کیونکہ (اس حالت میں) ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں اور ٹانگیں بھی باندھی ہوتی ہے۔“

شریعت اسلامیہ میں ہر ذی روح چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

دنیا میں اس وقت جتنے مذاہب، ادیان اور تہذیبیں موجود ہیں، ان میں اسلام وہ واحد مذہب ہے، جس نے سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کا سبق دیا، ہم بجا طور پر اس حقیقت پر نازاں ہیں، ہاں اس معاملے میں اس دین نے بعض ایسے احکام بھی وضع کیے، جو مغرب اور مغرب نواز طبقے کو چھتے ہیں اور وہ ان کو بنیاد بنا کر اسلام پر طعن کرنے لگتے ہیں۔

شیخ البانی نے اپنی صحیحہ میں جانوروں کے حقوق سے متعلقہ نصوص بیان کرنے کے بعد کہا: ہمارے علم کے مطابق یہ وہ احادیث و آثار ہیں، جو اس موضوع سے متعلقہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حیوانات کے ساتھ نرمی کرنے کی جتنی توجیہات بیان کی ہیں، قرون اولیٰ کے مسلمان ان سے متاثر تھے، جتنے دلائل ہم نے ذکر کیے ہیں، ان کو سمندر میں سے ایک قطرہ سمجھیں۔

یعنی طور پر کہنا پڑے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے، جس نے سب سے پہلے جانوروں کے ساتھ نرمی برتنے کا سبق دیا۔ اس کے برعکس بعض جاہلوں کا خیال ہے کہ یورپی کفار نے حیوانات کے ساتھ نرمی کرنے کی تعلیم دی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل یورپ کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے جتنے آداب موصول ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حیوانات سے نرمی برتی جائے۔ پھر انہوں نے اس میں وسعت اختیار کی اور غلو سے کام لیا، اس کی تنظیم و تسبیح کی اور اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خوبی ان کی طرف منسوب ہونے لگی، بلکہ بعض جاہلوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہی نوگ اس خصلت کے موجد ہیں، ان کو یہ وہم اس بنا پر بھی ہوا کہ اسلامی سلطنتوں میں کوئی ایسا نظام نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ اس خصلت سے متصف ہونے کے سب سے زیادہ مستحق تھیں۔

بعض یورپی ممالک میں غلو کی حد تک حیوانات کے ساتھ نرمی پائی جاتی ہے۔ میں نے (مجلہ ہلال: مجلد ۲۷، ج: ۹، ص: ۱۲۶) میں ”حیوان اور انسان“ کے عنوان میں ان کے غلو کی درج ذیل مثال پڑھی:

تقریباً ۱۹۵۰ء کی بات ہے، کوئٹہ جن کے ریلوے سٹیشن میں چمگاڈوں نے تہ بتہ گھونسلے بنا رکھے تھے، جب یہ طے پایا کہ اس سٹیشن کی عمارت کو گرا کر اس کی تعمیر نو کی جائے تو بلد یہ نے چمگاڈوں کو تتر بتر ہونے سے بچانے کے لیے ایک گنبد تعمیر کیا، جس پر ہزار ہا پونڈ صرف کیے گئے۔

تین سال پہلے کی بات ہے کہ انگلینڈ کی ایک بستی میں دو چٹانوں کے درمیان ایک سوراخ میں کتیا کا پلا گریا، اس کو بچانے کے لیے ارباب حکومت نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ایمر جنسی نافذ کر کے سوا آدمیوں کو مامور کیا۔

جب سے سائنسی علوم کے حصول کے لیے حیوانات کا استعمال شروع ہوا، جیسا کہ انگلینڈ نے اپنے راکٹ یا میزائل میں کتے کو اور امریکہ نے بندر کو بھیجا تھا، اس وقت سے بعض علاقوں میں عام رائے یہی پائی جا رہی ہے کہ حیوانات کو اسی قسم کے سلوک کا مستحق سمجھا جائے۔ (سلسلہ الأحادیث الصحیحہ: ۱/ ۶۹، رقم: ۳۰)

صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال:

یہ اس موضوع سے متعلقہ مرفوع احادیث تھیں، اب ہم صحابہ و تابعین کے آثار پیش کرتے ہیں:

۱۔ میتب بن دار برہنہ کہتے ہیں: رايت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَرْبَ جَمَّالًا، وَقَالَ: لَمْ تَحْمَلْ عَلَيَّ بَعِيرَكَ مَا لَا يَطِيقُ - (طبقات ابن سعد ۷/ ۱۲۷)

میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ ایک اونٹ والے کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو اس اونٹ پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ کیوں لاتا ہے؟

۲۔ عاصم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان رجلا حد شفرة، و اخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بالدرة، وقال: اتعذب الروح؟! الا فعلت هذا قبل ان تاخذها - (سنن بیہقی ۹/ ۲۸۰)

ایک آدمی نے ذبح کرنے کے لیے بکری پکڑی اور اس کے سامنے چھری تیز کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑے لگائے اور کہا: کیا تو اس کی روح کو عذاب دینا چاہتا ہے؟ بکری کو پکڑنے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی؟

۳۔ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان عمر رضی اللہ عنہ رای رجلا يجرشاة ليذبحها، فضربه بالدرة، وقال: سُفُّها، لا أم لك، الى الموت سوقا جميلا - (سنن بیہقی: ۹/ ۲۸۱)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کو کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ آپ نے اسے کوڑے لگائے اور کہا: تیری ماں مرے! اس کو موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔

۴۔ وہب بن کیسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ راعى غنم فى مكان قبيح، وقد راي ابن عمر مكانا امثل منه، فقال ابن عمر: ويحك يا راعى! حولها، فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل راع مسؤول عن رعيته - (مسند احمد: ۵۸۶۹)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ویران سی جگہ پر بکریاں چرا رہا تھا۔ جب ابن عمر نے اچھی چراگاہ دیکھی تو اسے کہا: او چرواہے! تو مرے! اپنی بکریوں کو فلاں مقام میں چرنے کے لیے لے جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ہر گنہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

۵۔ معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: كان لا بسى الدرداء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جمل يقال له: (دمون)، فكان اذا استعاره منه، قال: لا تحملوا عليه الا كذا وكذا، فانه لا يطيق اكثر من ذلك، فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون! لا تخاصمني غدا عند ربى؛ فاني لم اكن احمل عليك الا ما تطيق - (تاريخ دمشق ابن عساکر ۴۷/ ۱۸۵)

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا، اس کو ”دمون“ کہتے تھے، جب کوئی آدمی ان سے عاریۃ اونٹ لیتا تو آپ اس کے لیے بوجھ کا تعین کرتے کہ اس مقدار سے زیادہ نہ لاتا، کیونکہ اس میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے، جب

سیدنا ابودرداء کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے اونٹ سے مخاطب ہو کر کہا: اے دمون! کل میرے رب کے پاس مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ میں تجھ پر اتنا بوجھ لادتا تھا، جتنی تجھے طاقت تھی۔

۶۔ ابو عثمان ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کان لعمر بن عبد العزیز غلام يعمل علی بغل له، یاتیه بدرهم کل یوم، فجاء یوما بدرهم ونصف، فقال: أما بدالك؟ قال: نفقت السوق۔ قال: لا؛ ولكنك أتعبت البغل! أجمه ثلاثة ایام۔ (سلسلة الاحادیث الصحیة: ۳۰، وقال: أخرجه الامام احمد فی الزهد: ۱۹/۵۹/۱)

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا غلام ان کے پتھر پر کام کرتا تھا اور ہر روز ایک درہم کما کر لاتا تھا، ایک دن وہ ڈیڑھ درہم کما کر لایا۔ آپ نے اسے کہا: یہ (آدھا درہم زیادہ) کیسے ممکن ہوا؟ اس نے کہا: آج بازار میں بڑی تیزی تھی۔ انھوں نے کہا: نہیں، تو نے تو پتھر کو تھکا دیا، اب تین دنوں تک اس کو آرام کرنے دے۔

یہ وہ احادیث و آثار ہیں، جن میں جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے، جو کہ مختلف احکام پر مشتمل ہے، جن میں بعض جانوروں کو حرام اور بعض جانوروں کو حلال کیا گیا ہے اور جو جانور انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان امور کا سارے کا سارا انحصار اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی پر ہے، جس حرام جانور کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلی اور کتے کی مثالیں گزر چکی ہیں۔

اس لحاظ سے اسلام یکتا و یگانہ دین ہے، جس میں غیر انسانی مخلوق کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر انسان کو اس امر کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الرَّحْمَةِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابِ فَاعِلِهَا وَوَعِيدِ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ

اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی ترغیب اور ایسا کرنے والے کے ثواب

اور مخلوق پر رحم نہ کرنے والے کی وعید کا بیان

(۹۲۱۱)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَا ذَبِيحَ الشَّاةِ وَإِنِّي أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَا أَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ: ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ)) (مسند احمد: ۱۵۶۷۷)

سیدنا قرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو جب بکری کو ذبح بھی کرتا ہوں تو اس پر رحم کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تو بکری پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔“

(۹۲۱۱) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الحاكم: ۴ / ۲۳۱، وابن ابی شیبہ: ۸ / ۵۲۷، والطبرانی فی

”الکبیر“: ۴۵ / ۱۹ (انظر: ۱۵۵۹۲)

(۹۲۱۲)۔ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمَ، وَمَنْ لَا يَغْفِرَ لَا يُغْفَرُ لَهُ.)) (مسند احمد: ۱۹۴۵۷)

سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور جو نہیں بخشتا، اس کو نہیں بخشتا جاتا۔“

(۹۲۱۳)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا.)) (مسند احمد: ۶۷۳۳)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے کم سن پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا۔“

نوٹ: اسلام اس لحاظ سے کیٹاویگا نہ حیثیت کا مالک ہے کہ اس نے بزرگوں کے احترام و اکرام اور چھوٹوں سے محبت و شفقت کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ کوئی مذہب بسیار کوشش کے باوجود اپنے پیروکاروں کے دلوں میں بڑوں کے احترام اور چھوٹوں سے شفقت کے جذبات پیدا نہ کر سکا۔ مغربی تہذیب تو اخلاقِ حسنہ سے اس قدر عاری ہے کہ وہاں بڑی عمر کے لوگوں کو (Old Houses) میں جمع کر کے ان کو زندگی کے حقیقی لطف اور اپنے بچوں پہ نگاہِ شفقت ڈالنے سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس فرد کو اپنے تمدن کا باشندہ ہی نہیں سمجھتا جو بزرگوں کی بزرگی اور بچوں سے حسن سلوک کا لحاظ نہیں کرتا۔

((لَيْسَ مِنَّا)) کے لفظی معانی ”وہ ہم میں سے نہیں“ کے ہیں، یہ جملہ کسی شخص سے نفرت، بیزاری اور براءت کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس جملہ کے مفہوم سے چند احتمالات پیدا ہوتے ہیں کہ ”وہ ہم میں سے نہیں“ سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری امت سے نہیں یا وہ صادق اور کامیاب مسلمانوں میں سے نہیں یا وہ ہمارے طریقے پر نہیں یا وہ ہمارے حکم اور فیصلے پر نہیں یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہماری سفارش کے مستحق نہیں؟ اس سلسلہ میں محدثین کرام اور سلف صالحین کی توجیہات و تشریحات کا مطالعہ فرمائیں۔

۱۔ حافظ ابن حجر برائے، عبدالرحمن مبارکپوری برائے اور دیگر کئی اہل علم کہتے ہیں: ”لیس منا ای من اہل سنتنا و طریقتنا، ولیس المراد به اخراجه عن الدين، ولكن فائدة ایراده بهذا اللفظ المبالغة فی السردع عن الوقوع فی مثل ذلك“ ”وہ ہم میں سے نہیں“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور طریقے پر نہیں، اس سے مراد اس آدمی کو دین اسلام سے خارج کرنا نہیں، ان الفاظ کا فائدہ ایسی برائیوں سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے۔

۲۔ بعض اہل علم کہتے ہیں: ”فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ عَلَيَّ دِينَنَا الْكَامِلَ۔“ ”ہم میں سے نہیں“ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے مکمل دین پر نہیں، بلکہ اس کا دین ناقص ہے۔

(۹۲۱۲) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ۶۶۱، والطبرانی في ”الكبير“: ۲۴۷۷ (انظر: ۱۹۲۴۴)

(۹۲۱۳) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ۴۹۴۳، والترمذي: ۱۹۲۰ (انظر: ۶۷۳۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۳۔ بعض علمائے دین کہتے ہیں: ”لیس منا ای لیس من أدبنا أو لیس مثلنا۔“..... وہ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے (معینہ) آداب پر نہیں یا وہ ہماری طرح کا (مکمل) مسلمان نہیں۔

جبکہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ مذکورہ بالا تمام مفہیم و مطالب کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حدیث میں وارد ہونے والے ایسے الفاظ کی تاویل کرنے سے باز رہنا چاہئے تاکہ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اس کا اثر بھی زیادہ ہو اور لوگوں کو ایسے جرائم سے باز رہنے کا فائدہ بھی ہو۔

بہر حال یہ الفاظ متعلقہ امر کی قباحت و شاعت پر دلالت کرتے ہیں، یہ الفاظ صاحب شریعت ﷺ کی طرف سے بہت سخت وعید ہیں، ایسے امور سے اجتناب کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہئے۔

(۹۲۱۴)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.)) (مسند احمد: ۱۱۳۸۲)

سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔“

(۹۲۱۵)۔ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ فِي بَعْثٍ بِأَرْمِينِيَّةَ، قَالَ: فَأَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ، أَوْ مَجَاعَةٌ، قَالَ: فَكَتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَاتَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْفَلَهُمْ وَمَتَّعَهُمْ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجَاءَ بِقَطِيفَةٍ مِمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيَةُ. (مسند احمد: ۱۹۴۰۸)

ابو اسحاق کہتے ہیں: سیدنا جریر بن عبد اللہ بجللی رضی اللہ عنہ ارمینہ کے مقام پر ایک لشکر میں موجود تھے، وہ لشکر بھوک میں مبتلا ہو گیا، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔“ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، پس جب وہ آئے تو انھوں نے کہا: کیا تم نے یہ حدیث واقعی رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، پس انھوں نے ساز و سامان کے ساتھ ان کو واپس کیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں: میرے باپ بھی اس لشکر میں تھے، وہ بھی اس سامان میں سے ایک چادر لائے تھے، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔

(۹۲۱۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

(۹۲۱۴) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه الترمذی: ۲۳۸۱ (انظر: ۱۱۳۶۲)

(۹۲۱۵) تخریج: مرفوعہ صحیح، وهذا اسناد اختلف فيه على ابي اسحاق، أخرج المرفوع منه مسلم:

۲۳۱۹ (انظر: ۱۹۱۹۴)

(۹۲۱۶) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۷۲۳۶، والبخاری في "الأدب المفرد":

۳۸۰ (انظر: ۷۰۴۱)

فرمایا: ”رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، بخشو، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا، ان سنی کر دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جاننے بوجھنے کے باوجود اپنے برے افعال پر ڈٹے رہتے ہیں۔“

الْعَاصِیْنَ ۖ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ ﷺ عَلٰی مِیْرِهِ یَقُوْلُ: ((اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا یَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، وَیَلِّ لَافْتِمَاحِ الْقَوْلِ، وَیَلِّ لِلمُصْرِئِیْنَ، الَّذِیْنَ یُصِرُّوْنَ عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ۔)) (مسند احمد: ۷۰۴۱)

فوائد: اللہ تعالیٰ کی ذاتِ رحم کرنے اور بخشنے سے بدرجہ اتم واکمل متصف ہے، لیکن جو انسان، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے حق میں ان دو صفات سے متصف ہو کر حمدی اور معافی کا معاملہ نہیں کرتا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے صادق و مصدوق اور اس حجرے والے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”رحمت کو صرف اس سے چھین لیا جاتا ہے، جو بد بخت ہو۔“

(۹۲۱۷)۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ اَبَا الْقَاسِمِ صَاحِبَ الْحُجْرَةِ ﷺ یَقُوْلُ: ((لَا تُنَزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَرِّیْ۔)) (مسند احمد: ۷۹۸۸)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ سیدنا عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ ﷺ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان کا بوسہ نہ لیں، میرے تو دس بچے ہیں، میں نے تو کسی کا بوسہ نہیں لیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

(۹۲۱۸)۔ وَعَنْهُ اَيْضًا، قَالَ: دَخَلَ عَیْنَةُ بَنُ حِصْنِ عَلِیِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاهُ یُقْبَلُ حَسَنًا اَوْ حُسَیْنًا، فَقَالَ لَهُ: لَا تُقْبَلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ وُلِدْتِیْ عَشْرَةَ، مَا قَبَلْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((مَنْ لَا یَرْحَمُ لَا یُرْحَمُ۔)) (مسند احمد: ۷۱۲۱)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بدو، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ اللہ کی قسم! ہم تو ان کا بوسہ نہیں لیتے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔“

(۹۲۱۹)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اَتَى النَّبِیَّ ﷺ اَعْرَابِیٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَتَقْبَلُ الصَّیِّاَنَ؟ فَوَاللّٰهِ مَا نُقْبَلُهُمْ، فَقَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((مَا اَمْلِكُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ۔)) (مسند احمد: ۲۴۷۹۵)

(۹۲۱۷) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابوداود: ۴۹۴۲، والترمذی: ۱۹۲۴ (انظر: ۸۰۰۱)

(۹۲۱۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۹۹۷ (انظر: ۷۱۲۱)

(۹۲۱۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۹۹۸، ومسلم: ۲۳۱۷ (انظر: ۲۴۲۹۱)

خالد بن حکیم بن حزام کہتے ہیں: سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ایک آدمی کو سزا دی، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا، لوگوں نے کہا: تم نے امیر کو غصہ دلا دیا ہے، پس وہ ان کے پاس گئے اور کہا: آپ کو غصہ دلانا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”قیامت والے دن سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، جو دنیا میں لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔“

سیدنا ہشام حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کچھ ایسے ذمی لوگوں کے پاس سے گزرے، جن کو شام میں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، انھوں نے کہا: انھوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: ان پر لاگو کیا گیا کچھ خراج باقی ہے، انھوں نے کہا: بیشک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”بیشک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کو عذاب دے گا جو آج لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں۔“ اس وقت فلسطین کے امیر عمیر بن سعد تھے، سیدنا حکیم رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو یہ حدیث بیان کی، پس انھوں نے ان کو چھوڑ دیا۔

(۹۲۲۰)۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: تَنَاوَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَفَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَعْضَبْتَ الْأَمِيرَ، فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ أَنْ أُغْضِبَكَ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا.)) (مسند احمد: ۱۶۹۴۳)

(۹۲۲۱)۔ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ مَرَّ بِأَنْسَاءٍ مِنْ أَهْلِ الدَّمَةِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ بِالشَّامِ، فَقَالَ: مَا هُوَ لَآءٌ؟ قَالُوا: بَقِيَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْخَرَاجِ، فَقَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ.)) قَالَ: وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى فِلَسْطِينَ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ. (مسند احمد: ۱۵۴۰۵)

فوائد: مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کا مفہوم انتہائی واضح ہے، مسلمان کو رحم دلی اور نرم دلی جیسی صفت سے

متصف ہو کر اپنے معاملات کو ذلیل کرنا چاہیے، ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْحَيَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

شرم و حیا کی ترغیب دلانے اور اس چیز کا بیان کہ حیا خیر ہی لاتا ہے

(۹۲۲۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَخِيْبٌ يَخْتَلِفُ فِيهِ عَمْرُ بْنُ دِينَارٍ، أَخْرَجَهُ الطَّبَالِيُّ: ۱۱۵۷، وَالْحَمِيدِيُّ: ۵۶۲، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ": ۳۸۲۴. (انظر: ۱۶۸۱۹)

(۹۲۲۰) تخريج: اسنادہ ضعیف، خالد بن حکیم مختلف فیہ صحبتہ، ثم انه اختلف فیہ علی عمرو بن دینار، أخرجه الطيالسي: ۱۱۵۷، والحميدي: ۵۶۲، والطبراني في "الكبير": ۳۸۲۴. (انظر: ۱۶۸۱۹)

(۹۲۲۱) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۶۱۳. (انظر: ۱۵۳۳۰)

(۹۲۲۲) تخريج: حسن، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ۲۴۵۸. (انظر: ۳۶۷۱)

شرمانے کا حق ہے۔“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بیشک ہم اس سے شرماتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”معاملہ اس طرح نہیں ہے، جیسے تم نے سمجھ رکھا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرمانا چاہتا ہو تو وہ سر کی اور ان چیزوں کی حفاظت کرے، جن کو سر نے سمیٹا ہوا ہے اور حفاظت کرے پیٹ کی اور ان چیزوں کی، جن پر پیٹ مشتمل ہے اور موت اور بوسیدگی کو یاد کرے اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے، جس نے ایسے کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے شرمایا، جیسے اس سے شرمانے کا حق ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حیا، ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے اور بدکلامی و بدزبانی، اکھڑ مزاجی اور بدخلتی سے ہے اور اکھڑ مزاجی آگ میں (لے جانے والی) ہے۔“

فوائد: اس حدیث میں جہاں شرم و حیا کو سراہا گیا اور ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے، وہاں بدکلامی اور

بداخلاقی کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بدزبانی اور بدگوئی جس چیز میں ہوگی، اس کو عیب دار بنا دے گی اور حیا جس چیز میں ہوگا، اس کو خوبصورت بنا دے گا۔“

سیدنا یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

((اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، حَقَّ الْحَيَاءِ)) قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَسْتَجِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: ((لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ مَنْ اسْتَحَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ اسْتَحَى مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)) (مسند احمد: ۳۶۷۱)

(۹۲۲۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ)) (مسند احمد: ۹۷۰۸)

(۹۲۲۴)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ)) (مسند احمد: ۱۰۵۱۹)

(۹۲۲۵)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ)) (مسند احمد: ۱۲۷۱۹)

(۹۲۲۶)۔ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

(۹۲۲۳) تخريج: أخرجه البخاری: ۹، ومسلم: ۳۵ (انظر: ۹۷۱۰)

(۹۲۲۴) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الترمذی: ۲۰۰۹ (انظر: ۱۰۵۱۲)

(۹۲۲۵) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ماجہ: ۴۱۸۵، و الترمذی: ۱۹۷۴ (انظر: ۱۲۶۸۹)

(۹۲۲۶) تخريج: اسنادہ ضعیف لا نقطاعه، عطاء لم یسمع من یعلی، وابن ابی لیلی ضعیف (انظر: ۱۷۹۶۸)

فَرَمَا: "يَشْكُ اللَّهُ تَعَالَى حَيَا أَوْ يَرُدُّهُ كَوَيْسُ كَرْتَا هِي" -
 (وَالسُّرَّة) ((مسند احمد: ۱۸۱۳۱)

(۹۲۲۷) - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْحَيَاءُ خَيْرٌ
 كُلُّهُ)) ((مسند احمد: ۲۰۰۵۵)

(۹۲۲۸) - عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ
 سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَعْظُمُ أَخَاهُ فِي
 الْحَيَاءِ ، فَقَالَ: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ))
 ((مسند احمد: ۴۵۵۴)

(۹۲۲۹) - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: ((الْحَيَاءُ وَالْعِشَّةُ
 شُعَبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْبَدَاءُ وَالْبَيَانُ شُعَبَتَانِ
 مِنَ النَّفَاقِ)) ((مسند احمد: ۲۲۶۶۸)

(۹۲۳۰) - عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
 السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ
 بْنَ حُصَيْنٍ وَنَحْوَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: ((الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ))
 فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ
 مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةٌ ، فَقَالَ عِمْرَانُ: أَحَدْتُكَ
 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحَدَّثْتَنِي عَنْ صُحُفِكَ -
 ((مسند احمد: ۲۰۰۶۸)

(۹۲۲۷) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ۸۵۴، والطبراني في "الكبير": ۱۸/ ۵۰۲ (انظر: ۱۹۸۱۷)
 (۹۲۲۸) تخريج: أخرجه البخاري: ۶۱۱۸، ومسلم: ۵۹ (انظر: ۴۵۵۴)
 (۹۲۲۹) تخريج: حديث صحيح دون قوله "العمى والبيان"، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه بين حسان بن
 عطية وبين ابى امامة، أخرجه الترمذى: ۲۰۲۷ (انظر: ۲۲۳۱۲)
 (۹۲۳۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۶۱۱۷، ومسلم: ۳۷ (انظر: ۱۹۸۳۰)

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جیسا سارے کا سارا خیر و بھلائی ہی ہے۔“ بشیر نے کہا: حیا کی بعض صورتوں میں کمزوری اور بعض میں عاجزی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا: میں تجھے رسول اللہ ﷺ سے بیان کرتا ہوں اور تم احادیث کی مخالف چیزیں پیش کرتے ہو، آئندہ میں جب تک تجھے پہچانتا رہوں گا، ایک حدیث بھی بیان نہیں کروں گا، لیکن لوگوں نے کہا: یہ اچھی طبیعت کا آدمی ہے اور اس میں فلاں فلاں خوبی بھی ہے، بہر حال لوگ اس کی صفات شمار کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عمران سکون میں آگئے اور احادیث بیان کرنے لگے۔

(۹۲۳۱)۔ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)) فَقَالَ: بُشَيْرٌ، فَقُلْتُ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا، وَإِنَّ مِنْهُ عِجْزًا، فَقَالَ: أَحَدُنْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَجِئْتُنِي بِالْمُعَارِضِ! لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا نُجَيْدٍ! إِنَّهُ طَيْبُ النَّهْوَى، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ الْوَابِئُ حَتَّى سَكَنَ وَحَدَّثَ۔ (مسند احمد: ۲۰۲۱۴)

نوٹ:..... اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حیا سے مراد وہ شرم و حجک اور وقار و سنجیدگی نہیں جس کا تعین موجودہ معاشرہ کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں حیا سے مراد اخلاق حسنة کا وہ پہلو ہے جو برے اقوال و افعال سے اجتناب کرنے اور کسی مستحق کے حق میں کوتاہی برتنے سے باز رہنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس مفہوم میں حیا کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا حیا خیر ہی خیر ہے، جو انسان کو دھوکہ، فریب دہی اور جعل سازی وغیرہ جیسے غلط کاموں سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حیا، خیر و بھلائی کا ہی نام ہے۔“ (بخاری: ۶۱۱۷، مسلم: ۳۷)

معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کو حیا کہتے ہیں، لہذا مسلمان کو جسمہ حیا ہونا چاہئے، وہ اپنے تہذیب و تمدن، کلچر و ثقافت، چلن پھرن، اٹھک بیٹھک، نقل و حرکت، بول چال، خورد و نوش، میل ملاپ، دوستی و دشمنی، خوشی و غمی، غرضیکہ تمام معاملات میں شرم و حیا کا پیکر بن کر سامنے آئے۔

حیا، حسن اخلاق کا اتنا اہم پہلو ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی اس کو بحال رکھا گیا۔

سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((أَخْبَرُ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.)) (صحیحہ: ۶۸۴)..... ”پہلی نبوت کے کلام سے لوگوں کو آخری بات یہ ملی ہے کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کرنا پھرے۔“

شریعت مطہرہ میں جس ”حیا“ کی تعریف کی گئی ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی توضیح یوں کی ہے: وَفِي الشَّرْعِ: خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ۔ (فتح الباری: ۷۲/۱).....

اعمال کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سچائی، جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو ایمان دار بن جاتا ہے اور جب ایمان دار بنتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آگ کے اعمال کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جھوٹ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو برائی کرتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔“

عالمہ بن عبد اللہ مزنی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور سچی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔“

اہل مکہ میں سے یوسف نامی آدمی کہتا ہے: میں اور ایک قریشی آدمی کچھ تیموں کے مال کی سرپرستی کرتے تھے، ہوا یوں کہ ایک آدمی (خیانت کرتے ہوئے) مجھ سے ایک ہزار درہم لے گیا، پھر اس کا ایک ہزار درہم میرے ہتھے لگ گیا، میں نے قریشی سے کہا: فلاں بندہ میرا ایک ہزار درہم لے گیا تھا، اب اس کا ایک ہزار درہم مجھے مل گیا تو کیا اب میں یہ رقم دبا لوں؟ اس نے کہا: میرے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو تجھے امین بنائے تو تو اس کو اس کی امانت ادا کر دے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کر، جس نے تجھ سے خیانت کی ہو۔“

اللَّهُ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((الْصَّدْقُ، وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرًّا، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: ((الْكَذِبُ، إِذَا كَذَبَ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَغْنَى النَّارِ)) (مسند احمد: ۶۶۴۱)

(۹۲۳۴)۔ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْزَبِيِّ، عَنْ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَقُلْ حَقًّا، أَوْ لِيَسْكُتْ)) (مسند احمد: ۲۰۵۵۱)

(۹۲۳۵)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُقَالُ لَهُ: يُوسُفُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ نَلِي مَالَ آيَاتِمَ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَوَقَعَتْ لَهُ فِي يَدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَلْتُ لِلْقُرَيْشِيِّ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ أَصَبْتُ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ الْقُرَيْشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَانَكَ)) (مسند احمد: ۱۵۵۰۲)

(۹۲۳۴) تخریج: اسنادہ صحیح (انظر: ۲۰۲۸۵)

(۹۲۳۵) تخریج: مرفوعه حسن لغیره، وهذا اسناد ضعيف لابهام ابن الصحابي الذي روى عنه يوسف،

آخره ابوداود: ۳۵۳۴ (انظر: ۱۵۴۲۴)

فوائد:..... شریعت تمام کی تمام امانت ہے، کسی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے اور کسی کا بندوں کے حقوق سے۔ شریعتِ اسلامیہ میں امانت کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی نہ کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امانت مسلمان کا مستقل وصف ہونا چاہیے، نہ کسی کی امانت کے بدلے میں اس صفت کو اپنایا جائے اور نہ کسی کی خیانت کے عوض اس کو ترک کیا جائے۔ اس معاملے میں اپنے پرانے، امین و خائن اور مسلم و کافر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر ایک کی امانت ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے ہاں انتقام لینے کی فضا عام ہے، مثلاً اگر وقت کی حکومت اپنے حقوق ادا نہ کر رہی ہو تو عوام اس کی اطاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، مثلاً بجلی اور گیس چوری کرنا، حکومت کی ملکیت کا کسی قسم کا مال چوری کرنا، ٹرین کے ذریعے سفر کرنے پر کرایہ نہ دینا، دفاتر، سکولز، کالجز اور مختلف حکومتی اداروں میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا، سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا۔ شریعت میں یہ تمام گناہ کی بدترین اقسام ہیں۔ یہی معاملہ کسی انسان کی خیانت کے مقابلے میں اس سے خیانت کرنے کا ہے۔

قارئین کرام! غور فرمائیں کہ شریعت میں نیکی اور گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نافرمانی سے ہے، کسی کی دوستی اور دشمنی سے نہیں۔ درج ذیل حدیث پر غور فرمائیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَسَعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ-)) (بخاری: ۲۱۵۱، مسلم: ۱۵۲۴)..... ”اونٹنیوں اور بکریوں (کو فروخت کرتے وقت) ان کا دودھ مت روکو، اگر کوئی آدمی ایسا جانور خرید لیتا ہے تو اسے دودھ دوہنے کے بعد دو اختیار ہیں، اگر وہ چاہے تو اسے اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، لیکن اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک صاع بھی واپس کرے۔“

مسلم کی روایت میں ہے: ((فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-))..... ”اسے (واپس کرنے کا) تین دنوں تک اختیار ہے۔“ دیکھیں کہ جانور بیچنے والے نے دھوکہ کیا اور دو تین دن جانور کو چارہ ڈالتا رہا، لیکن اس کا دودھ نہیں دوہا۔ جب خریدنے والے نے دودھ دوہ کر استعمال کر لیا اور ایک دو دنوں تک اس پر حقیقت حال واضح ہو گئی تو شریعت نے اسے سودا واپس کرنے کا تین دن تک اختیار دیا ہے اور ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر وہ جانور واپس کرتا ہے تو کھجوروں کا ایک صاع بھی ساتھ واپس کرے، تاکہ بیچنے والا جو چارہ ڈالتا رہا، لیکن دودھ نہیں دوہا، اس کا عوض ہو جائے۔

سبحان اللہ! جانور کا دودھ روکنے والے نے ظلم کیا اور دھوکہ کیا، لیکن شریعت نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس کے دھوکے کے عوض اس کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، بلکہ یہ حکم صادر فرمایا کہ اس کے دھوکے کو اس پر چھوڑ دیا جائے اور اس کے چارے یا محنت کے عوض اس کو کھجوروں کا ایک صاع دے دیا جائے۔

(۹۲۳۶)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِي أَنْ يُذَكَّرَ عَنْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْنِمَهُ)) (مسند احمد: ۲۸۰۵۹)

سیدنا ابو درداء رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی آدمی سے کوئی بات سنی اور وہ آدمی یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ بات اس کے حوالے سے ذکر کی جائے تو وہ بات امانت ہوگی، اگرچہ بات کرنے والا اس کو راز رکھنے کی ہدایت نہ کرے۔“

فوائد:..... لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بندے کو خود بخود سمجھ جانا چاہیے کہ کون سی بات یا چیز امانت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ یہ تاکید کی جائے کہ فلاں بات امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، درج ذیل مثال پر غور کریں:

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَفَّتْ فِيهِ أَمَانَةٌ))..... ”جب کوئی آدمی بات کرے، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے (کہ کوئی سن یا دیکھ تو نہیں رہا) تو اس کی بات امانت ہوگی۔“ (ابوداؤد: ۲۹۷/۲، ترمذی: ۳۵۵/۱)

امام مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا: اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو اور وہ گفتگو کے دوران دائیں بائیں دیکھے، تو اس سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ راز کی بات کرنا چاہتا ہے اور اسے دوسرے لوگوں سے مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ ایسی گفتگو امانت ہوگی اور اس کو راز رکھنا واجب ہوگا۔ ابن ارسلان نے کہا: متکلم کے ادھر ادھر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی اس کی بات سن نہ لے، وہ صرف اپنے ہم مجلس تک اپنے راز کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ دراصل وہ ادھر ادھر دیکھ کر اپنے مخاطب کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی گفتگو سنے، اس کو راز اور امانت سمجھے۔ (تحفة الاحوزی)

لیکن ہمارے ہاں تو تاکید کے باوجود مخصوص مجالس کو امانت نہیں سمجھا جاتا اور بات کو بتگتو بنا کر نشر کر دیا جاتا ہے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالْمُكَافَاةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ

منعم کا شکر ادا کرنے اور نیکی کا بدلہ دینے کا بیان

(۹۲۳۷)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا بَنَ آدَمَ، حَمَلْتِكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَزَوَّجْتِكَ النِّسَاءَ، وَجَعَلْتِكَ

سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ پر سوار کیا اور عورتوں سے تیری شادی کروائی، پھر تجھے ایسا بنا دیا کہ تو خوشحال ہوا اور بلند

(۹۲۳۶) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف عبید اللہ بن الولید الوصافی، وعبد اللہ بن عبید بن عمیر لم یذکروا له سماعا من ابی الدرداء (انظر: ۲۷۵۰۹)

(۹۲۳۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۶۸ (انظر: ۱۰۳۷۸)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تَرْبَعُ وَتَرَأْسُ، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ؟)) (مسند رتبے والا بنا، پس اب ان چیزوں کا شکر کہاں ہے؟“
احمد: ۱۰۳۸۳)

فوائد:..... اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انسان کی ظاہری شان و شوکت پر دلالت کرنے والی بے شمار چیزیں عطا کر دی ہیں، پر شکوہ کوٹھیاں، خوبصورت اور قیمتی لباس، حسن میں اضافہ کرنے کے اسباب، قسما قسم کے مشروبات اور ماکولات، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ، دنیوی تعلیم، باغات، فصلیں اور صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ رابطے۔ شرعی حکم یہ تھا کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا جائے، لیکن معاملہ برعکس ثابت ہوا اور جس کو جتنا زیادہ دیا گیا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا گیا۔

(۹۲۳۸)۔ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، قَالَ: ((أَوْ لَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)) (مسند احمد: ۱۸۳۸۴) نے فرمایا: ”کیا میں بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“

فوائد:..... یہ معصوم ہستی کا شکر ادا کرنے کا انداز ہے کہ کثرتِ عبادت کی وجہ سے جن کے پاؤں میں درم آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے، وہ اس لائق ہے کہ ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔
(۹۲۳۹)۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ قَالَ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ)) فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔“ (مسند احمد: ۸۰۹۲)

فوائد:..... احادیث نمبر (۹۳۳۵ تا ۹۳۳۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم درست ہے، نعمت کا اثر نظر آنے کے دو معانی ہیں، بندے کو نعمتوں کے مطابق اچھے لباس اور اچھی حالت میں رہنا چاہیے، حدیث نمبر (۹۳۳۶) سے یہی معنی ثابت ہوتا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے عوض اعمالِ صالحہ سرانجام دینے چاہئیں اور برے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾..... ”اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“ (سورہ قصص: ۷۵)

(۹۲۳۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۴۸۳۶، ومسلم: ۲۸۱۹ (انظر: ۱۸۱۹۸)

(۹۲۳۹) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، شریک سبیء الحفظ، وابن موهب متروک (انظر: ۸۱۰۷)
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکڑیوں پر یا اس منبر پر فرمایا تھا کہ ”جس نے تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کیا، وہ کثیر مقدار والی چیز کا بھی شکر یہ ادا نہیں کرے گا اور جس نے لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ اور جماعت رحمت ہے اور افتراق و انتشار عذاب ہے۔“ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا: تم بڑے لشکر کو لازم پکڑو، ایک آدمی نے کہا: بڑا لشکر کون سا ہے؟ سیدنا ابو امامہ نے کہا: سورہ نور کی یہ آیت ہے: ”پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جو ابدی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔“ (سورہ نور: ۵۳)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ دے، اگر بدلے کی قدرت نہ ہو تو اس کا ذکر کر دے، پس جس نے اس کا ذکر کر دیا، اس نے اس کا شکر ادا کر دیا اور جس نے ایسی نعمت کا اظہار کیا، جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے، جس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رکھے ہوں۔“

فوائد: ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے حق میں تعریفی کلمات کہے، جیسے: آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے شفقت کی ہے، آپ کا بہت بہت شکر یہ اور اس کے لیے دعا کرے، جیسا کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّنَاءِ)) ”جس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا صلہ عطا فرمائے، اس نے پوری تعریف کی۔“ (ترمذی: ۱۹۵۸)

(۹۲۴۴)۔ عَنِ السُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: ((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ.)) قَالَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ: عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ! فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ (مسند احمد: ۱۸۶۴۱)

(۹۲۴۵)۔ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّحَ بِمَا لَمْ يَسَلْ فَهُوَ كَلَابِيسِ ثَوْبِي زُورٍ.)) (مسند احمد: ۲۵۱۰۰)

(۹۲۴۴) تخریج: قوله: ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله“ صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، فيه ابو عبد الرحمن لم يعرف، أخرجه البيهقي في ”الشعب“: ۹۱۱۹، والبخاري: ۱۶۳۷ (انظر: ۱۸۴۵۰) (۹۲۴۵) تخریج: صحيح، أخرجه الطبراني في ”الاوسط“: ۲۴۸۴، وابن راهويه: ۷۷۴ (انظر: ۲۴۵۹۳) كتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معلوم ہوا کہ دعائیہ کلمات کہنے کے لیے بہترین الفاظ ”جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا“ ہیں۔

جھوٹ کے دو کپڑے پہننے سے مراد یہ ہے کہ گویا جھوٹ نے اس بندے کے سارے بدن کو ڈھانپ لیا ہے، وہ

اپنے حق میں ایسی چیز کا اظہار کر رہا ہے، جو اس کی نہیں ہے۔

(۹۲۴۶)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي شِدَّةِ حَرٍّ انْقَطَعَ شَيْعُ نَعْلِهِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَشِيْعُ ، فَوَضَعَهُ فِي نَعْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَوْ تَعَلَّمُ مَا حَمَلَتْ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْلُ مَا حَمَلَتْ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ))

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سخت گرمی میں چل رہے تھے کہ آپ ﷺ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، پس ایک آدمی تسمہ لے کر آیا اور آپ ﷺ کے جوتے میں ڈال دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو اس چیز کو جانتا ہوتا، جس پر تو نے رسول اللہ ﷺ کو اٹھایا ہے تو تو اس چیز کو کم نہ سمجھتا، جس پر تو نے رسول اللہ ﷺ کو سوار کیا ہے۔

(مسند احمد: ۲۲۶۴۳)

فوائد: ”لَمْ يَعْلُ“ کے الفاظ اکثر سنخوں میں اسی طرح مروی ہیں، البتہ ایک نسخے میں ”لَمْ يَعْلُ“ کے

الفاظ ہیں، علامہ سندھی نے کہا: میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ یہ الفاظ حاضر کے صیغے کے ساتھ ہیں، جن کے معانی ”لَمْ تُقِلُّ“ (کم سمجھنے) کے ہیں، یعنی آپ ﷺ اس آدمی کے عمل کو عظیم قرار دے رہے ہیں، بعض سنخوں میں ”لَمْ تُعْلُ“ اور بعض میں ”لَمْ تُعْلُ“ کے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کی کوئی قریبی مناسبت سمجھ نہیں آ رہی۔ واللہ اعلم۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّوَاضُّعِ وَفَضْلِهِ

تواضع کی ترغیب دلانے اور اس کی فضیلت کا بیان

(۹۲۴۷)۔ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنبَانَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، (قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ) قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا ، (وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَذْنَاهَا إِلَى الْأَرْضِ ،) رَفَعْتُهُ هَكَذَا ، وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ)) (مسند احمد: ۳۰۹)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس بندے نے میرے لیے اس طرح تواضع اختیار کی، پھر یزید راوی نے پھیلی کی زمین کی طرف کیا اور پھر زمین کے قریب کیا، تو میں اللہ اس کو ایسے بلند کروں گا، پھر راوی نے پھیلی کی پشت کو آسمان کی طرف کیا اور پھر آسمان کی طرف بلند کیا۔

(۹۲۴۶) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا من اجل علی بن یزید الالہانی ، وهو واہی الحدیث أخرجه

الطبرانی فی ”الکبیر“: ۷۸۶۵ (انظر: ۲۲۲۸۷)

(۹۲۴۷) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین ، أخرجه البزار: ۱۷۵ ، وابویعلی: ۱۸۷ (انظر: ۳۰۹)

فوائد:..... کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیچ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کرنا چاہی، وہی رفعت والا ہوگا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا چاہا، وہی حقارت والا ہوگا، دونوں جہانوں کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے، جو اس کے قریب ہوا، جس نے اس کے لیے تواضع اختیار کی، رفعت و عظمت کا ستارہ اس کے ماتھے کا جھومر بن کر رہے گا۔

تواضع کا مطلب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی و انکساری، نرمی و رحمدلی اور محبت و الفت سے پیش آنا، حسب و نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا۔ وجہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام و مرتبہ، مال و دولت حسب و نسب جیسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے، کیونکہ ان انعامات کے حصول میں اس کی صلاحیتیں کارفرمائیں ہیں، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے احسان کا نتیجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس کے لیے مضر ثابت ہو اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھے یا ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے لگے۔ نبی کریم ﷺ رفعت و منزلت اور عظمت و مرتبت کے انتہائی اعلیٰ مراتب پر فائز تھے، کسی امتی کا آپ سے کوئی موازنہ نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا: ﴿وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ شعراء: ۲۱۵)..... ”(اے محمد!) اپنے پیروکاروں سے نرمی سے پیش آؤ۔“

لیکن یہ حقیقت مد نظر رہے کہ آدمی نرمی و عاجزی اختیار کرنے سے بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ تواضع کا نتیجہ عزت و سرفرازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کا حسن انجام واضح ہے کہ اسے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔

(۹۲۴۸)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً، رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي السَّافِلِينَ)) (مسند احمد: ۱۱۷۴۷)

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلحاظ درجے کے اتنا بلند کرے گا کہ اس کو علیین میں لے جائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ پر ایک درجہ تکبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو درجے کے لحاظ سے اتنا پست کر دے گا کہ اس کو سب سے نیچا اور گھٹیا ترین بنا دے گا۔“

(۹۲۴۹)۔ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عْتَبَةُ، يَقُولُ: عِرْبَاضٌ خَيْرٌ مِنِّي، وَعِرْبَاضٌ

شرح بن عبید سے مروی ہے کہ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے: سیدنا عرْبَاضُ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے اور سیدنا عرْبَاضُ رضی اللہ عنہ کہتے تھے:

(۹۲۴۸) تخريج: اسنادہ ضعيف لضيف ابن لهيعة، ولضعف رواية دراج عن ابى الهيثم، أخرجه ابن

ماجه: ۴۱۷۶ (انظر: ۱۱۷۲۴)

(۹۲۴۹) تخريج: اسنادہ ضعيف لاضطراب متنه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۱۷ / ۲۹۳ (انظر: ۱۷۶۵۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

يَقُولُ: عَفْبَةٌ خَيْرٌ مِّنِّي سَبَقَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، وہ مجھ سے ایک سال پہلے نبی
کریم ﷺ کے پاس پہنچے تھے۔ (مسند احمد: ۱۷۸۰۹)

(۹۲۴۰)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ
تَرَكَ أَنْ يَلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ
عَلَيْهِ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، دَعَاهُ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى
يُخَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُلِّ الْإِيمَانِ أَبْتَهَنَ
شَاءَ...)) (مسند احمد: ۱۵۷۰۴)

سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتے
ہوئے اچھا لباس نہیں پہنا، حالانکہ وہ اس کی قدرت رکھتا تھا، تو
اللہ تعالیٰ اس کو بھی ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے
یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی جو پوشاک پسند کرتا ہے، وہ
پہن لے۔“

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی اور گہرے تعلق کی ضرورت ہے،
آپ ذیل میں پیش کی گئی بحث پر توجہ کریں، ممکن ہے اس حدیث کی فقہ سمجھ آجائے۔
نبی کریم ﷺ نے خود کنگھی کی بھی ہے اور بالوں کو اچھی طرح سنوارنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن یہ بھی حکم دے دیا
کہ کوئی آدمی ہر روز کنگھی نہ کرے، یہی معاملہ لباس کا ہے۔

مقصود شریعت یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ایسا ہو کہ ہفتوں تک نہانے اور بالوں کو سنوارنے کا اہتمام نہ کرے اور بالآخر
اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے والا قابل نفرت شخص بن جائے اور نہ ایسا ہو کہ ہر روز اور ہر وقت اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر توجہ مرکوز
رکھے، کیونکہ ہر وقت کی خوشحالی، آسودگی اور خوش عیسیٰ بھی انسان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتی ہے اور وہ غرور و تکبر
میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کم صفائی رکھنے والے یا سادہ زندگی گزارنے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے یا کم از کم یہ ہوتا ہے
کہ سادگی کی اہمیت اور فوائد کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔

ایک دن صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ((الَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا
تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.))..... ”کیا تم نہیں سنتے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔“
(ابوداؤد: ۴۱۶۱)

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عمدہ لباس کے ساتھ ساتھ سادہ لباس کو بھی ترجیح دینی چاہیے اور مرغوب، لذیذ اور
انواع و اقسام کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک بھی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی آسائشوں
اور سہولتوں میں الجھنے کی وجہ سے آخرت کا دھیان کم پڑ جاتا ہے اور تکلفات سے اجتناب کرنے کی صورت میں توجہ آخرت
کی طرف رہتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پاکیزگی، صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا اور چیز ہے اور عمدہ

اور قیمتی لباس کا اہتمام کرنا اور چیز ہے۔ سادگی، صفائی کی متضاد چیز نہیں ہے۔

اس کی دوسری مثال یوں سمجھیں کہ نبی کریم ﷺ نے خود بھی جو تا استعمال کیا ہے اور اس کو پہننے کی ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن ننگے پاؤں چلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ غور کریں کہ قیمتی اور خوبصورت جو تا پہننے سے انسان کے جذبات کا کیا حال ہوتا ہے، ننگے پاؤں چل کر ان جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درج ذیل حدیث سے اس مسئلہ کی توضیح ہو جائے گی۔

سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضَعًا لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيَّرَ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا)) ”جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا، درآن حالیکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پسند کرے، پہن لے۔“ (ترمذی، صحیحہ: ۷۱۸) بات سمجھانے کے لیے حدیث دوبارہ پیش کی ہے۔

اس حدیث میں تواضع کی اور دوسروں پر برتری نہ جتانے کی فضیلت ہے۔ ایمان کے جوڑے سے مراد، جنت کے وہ اعلیٰ جوڑے ہیں، جو صرف اللہ ایمان کو پہنائے جائیں گے۔

اگر درج ذیل احادیث پر غور کیا جائے تو سادگی سے متعلقہ گزارشات کو آسانی سے سمجھا جاسکے گا:

سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقُعُ الْقَمِيصَ وَيَقُولُ: ((مَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي)) (الصحيحه: ۲۱۳۰، و رواه أبو الشيخ: ۱۲۸، و السهمي في "تاريخ جرحان": ۳۱۵) آپ ﷺ گدھے پر سوار ہوتے تھے، جو تا سلائی کرتے تھے اور قمیص کو خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاءَ فَحَلَبَهَا)) (الصحيحه: ۲۲۱۸، البخاری فی "الأدب المفرد": ۵۵۰، و الدیلمی: ۴/۳۳) ”وہ شخص تکبر نہیں ہے، جس کے ساتھ اُس کے خادم نے کھانا کھایا اور وہ بازاروں میں گدھے پر سوار ہوا اور بکری کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ میں پھنسا کر اس کو دوہا۔“

بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی چیز اٹھانے میں یا کوئی کام کرنے میں یا اپنے سے کم مرتبہ آدمی کی خدمت کرنے میں یا رڈی سواری استعمال کرنے میں ہنک محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ مزاج ہے، جس کو شریعت کچلنا چاہتی ہے، اسی مقصد کے لیے مندرجہ بالا احادیث بیان کی گئی ہیں۔

(۹۲۵۱)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ ﷻ قَالَ: ((وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) (مسند احمد: ۸۹۹۶) دے گا۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّوَكُّلِ توکل کی ترغیب دلانے کا بیان

(۹۲۵۲)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اللہ تعالیٰ اس طرح بھروسہ کرو، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا، جیسے وہ پرندے کو رزق دیتا ہے، جو صبح کو خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو پیٹ بھرا ہوا۔“ (مسند احمد: ۲۰۵)

(۹۲۵۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ (وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ) عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، إِلَّا تَرَوْنَ أَنَّهَا تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا)) (مسند احمد: ۳۷۳)

(دوسری سند) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو، جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو رزق روزی دے گا، جیسے وہ پرندے کو روزی دیتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ ہوتا ہے اور شام کو سیراب۔“

فوائد: توکل کا مطلب ہے جائز اسباب و وسائل استعمال کر کے اپنے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جائے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہیں ہوگی، اسباب و وسائل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بہر حال ظاہری اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے پرندے گھونسلوں کے اندر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ تلاشِ رزق میں باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے ہیں اور تب اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔

آجکل اکثر و بیشتر تاجروں اور دوکانداروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی تجارت اور دوکانداری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز سمیت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے کئی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض لوگ

(۹۲۵۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸۸ (انظر: ۹۰۰۸)

(۹۲۵۲) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه الترمذی: ۲۳۴۴، وابن ماجه: ۴۱۶۴ (انظر: ۲۰۵)

(۹۲۵۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

پیسے کی ہوس میں پڑ کر حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں اور مختلف حربے استعمال کر کے حرام کو جائز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ انتہائی ضعیف الایمان ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ کاروبار کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو روزی رساں سمجھیں اور اس کی فرمانبرداری کر کے اس پر توکل کرنے کا صحیح حق ادا کریں۔

شیخ الاسلام صابونی نے کیا خوب اشعار کہے ہیں:

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي كُلِّ حَاجَةٍ أَرَدْتَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي وَ يَقْدِرُ
مَتَى مَا يُرِيدُ ذُو الْعَرْشِ أَمْرًا يَعْْبُدُهُ يُصْبَهُ وَمَا لِلْعَبْدِ مَا يَتَخَيَّرُ
وَ قَدْ يَهْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنْ وَجْهِ أَمْنَهُ وَيَنْجُو بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ يَحْذَرُ

”تو ہر اس ضرورت میں رحمن پر توکل کر جس کا تو نے ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور مقدر مقرر کرتا ہے۔ جب عرش والا اپنے بندے کے لیے کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو اس تک پہنچا دیتا ہے اور بندے کے لیے وہ کچھ نہیں ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اس صورت میں ہلاک ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں وہ امن میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہاں سے نجات پا جاتا ہے، جہاں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔“

(۹۲۵۴)۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَزَلَ بِهِ حَاجَةٌ، فَانزَلَهَا بِالنَّاسِ، كَانَ قَمِينًا مِنْ أَنْ لَا تَسْهَلَ حَاجَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، آتَاهُ اللَّهُ بَرِزْقٍ عَاجِلٍ، أَوْ يَمُوتَ آجِلًا)) (مسند احمد: ۳۶۹۶)

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس کو کوئی ضرورت پڑی اور اس نے اس کو لوگوں پر پیش کر دیا تو وہ اس چیز کا زیادہ لائق ہو گا کہ اس کی ضرورت آسانی سے پوری نہ ہو اور جس نے اس حاجت کو اللہ تعالیٰ پر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو جلدی رزق دے گا اور پھر تاخیر سے آنے والی موت دے دے گا۔“

فوائد:..... اگلی روایت کے الفاظ معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہیں۔

(۹۲۵۵)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَانزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغَنَى،

(دوسری سند) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو فاقہ میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے اس فاقے کو لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کا فاقہ پورا نہیں ہو گا اور جس نے اس کو اللہ تعالیٰ پر پیش کیا تو وہ جلد ہی اس کو غنی کر دے گا، جلدی موت کی صورت میں یا جلدی

(۹۲۵۴) تخریج: اسنادہ حسن أخرجه ابويعلى: ۵۳۱۷، والطبرانی في "الكبير": ۹۷۸۵، والحاكم: ۱/ ۴۰۸ (انظر: ۳۶۹۶)

(۹۲۵۵) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

إِمَّا أَجَلَ عَاجِلٍ، أَوْ غَنَى عَاجِلٍ۔)) (مسند غنی کی صورت میں۔“

(احمد: ۳۸۶۹)

فوائد: جو ذات پوری مخلوق کی حاجات و ضروریات پوری کرنے پر قادر بھی ہے اور اپنی عطا کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا، وہی اس صفت کے لائق ہے کہ حاجات و ضروریات میں اسی کو یاد کیا جائے۔ بادشاہوں کے پاس آنے والے ایک آدمی نے وہب بن منبہ نے کہا: وَيَسْحَكَ أَنْتَانِي مَنْ يُغْلِقُ عَنْكَ بَابَهُ وَيُوَارِي عَنْكَ غِنَاهُ وَتَدَعُ مَنْ يَفْتَحُ لَكَ بَابَهُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَنِصْفَ النَّهَارِ وَيَظْهَرُ لَكَ غِنَاهُ..... تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو اس کے پاس آتا ہے، جو اپنا دروازہ تجھ سے بند کر لیتا ہے اور اپنے غنی کو تجھ سے چھپاتا ہے اور تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو نصف رات کو بھی تیرے لیے دروازہ کھولتا ہے اور نصف دن کو بھی اور تیرے لیے اپنے غنی کا اظہار بھی کرتا ہے؟

دراصل انسان اپنی مصلحتوں اور مضرتوں کو سمجھنے سے عاجز ہے، اس کا کام کوشش کرنا ہے، لہذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا جائے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پورے یقین کے ساتھ پکارا جائے۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمود سبکی (المنہل العذب: ۲۸۳/۹) کے کلام کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا: ”أَجَلَ عَاجِلٍ“ (جلد موت) کے دو مفہوم ہیں: (۱) محتاج کا کوئی قریبی فوت ہو جائے گا، جس کا یہ وارث بنے گا۔ (۲) محتاج خود فوت ہو جائے گا اور سرے سے مال سے مستغنی ہو جائے گا۔ ”غنی عَاجِلٍ“ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی طریقے سے خوشحال اور غنی کر دے گا۔ درج ذیل آیت میں اسی حدیث کا مصداق بیان کیا گیا ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورہ طلاق: ۲، ۳)..... ”اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے (ابتلا و آزمائش سے) نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا، جہاں سے اسے کوئی وہم و گمان نہیں ہوگا۔“ (صحیحہ: ۲۷۸۷)

اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ترغیب ہے کہ حاجت و ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور ہر ممکنہ صورت میں لوگوں کے سامنے دستِ سوال پھیلانے سے بچا جائے، اسی میں زندگی کا لطف اور مزہ ہے۔

آج کل لوگوں نے اپنا معیار زندگی اپنی آمدن سے بلند کر دیا ہے، اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کسی قسم کا حربہ استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اسبابِ زندگی کے مطابق اپنے قدم پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتے رہیں۔ اگر صبر و قناعت ہو تو سالن کی بجائے چٹنی اور اچار اور پراٹھوں کی بجائے سوکھی روٹی کھا کر، دس بارہ کی بجائے تین چار سوٹوں پر گزارا کر کے اور مہمانوں کو مہنگے اور پیاس نہ بھانے والے مشروبات کی بجائے عام مشروبات پلا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا جاسکتا ہے اور جیب کے مطابق زندگی کا سرکل بھی چلایا جاسکتا ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے زمانے میں امتیں دکھائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت تاخیر سے دکھائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب میری امت مجھے دکھائی گئی تو اس کی کثرت نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، ہموار جگہ کیا پہاڑ کیا، ہر جگہ کو بھرا ہوا تھا، پھر مجھے کہا گیا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار افراد ایسے بھی ہیں، جو حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔“ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ان میں بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اتنے میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔“

(۹۲۵۶)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَرَى الْأُمَّمَ بِالْمَوْسِمِ، فَرَأَتْ عَلَيْهِ أُمَّتَهُ، قَالَ: ((فَأَرَيْتُ أُمَّتِي، فَأَعْجَبَنِي كَثْرَتُهُمْ، قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ، فَقِيلَ لِي: إِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.)) قَالَ عُكَّاشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَامَ، يَعْنِي آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَهُمْ قَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.)) (مسند احمد: ۳۸۱۹)

نوٹ:..... دم کروانا اور داغ لگوانا جائز ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ توکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جائز اسباب بھی استعمال نہیں کرتے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں تین پرندے پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندہ اپنے خادم کو کھلا دیا، اگلے دن خادم نے ایک پرندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں نے تجھے اس چیز سے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی چیز اگلے دن کے لیے نہ رکھا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دن کا رزق عطا کرتا ہے۔“

(۹۲۵۷)۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثَلَاثَ طَوَائِرَ، فَسَاطَعَمَ خَادِمُهُ طَائِرًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْغَدِ أَتَتْهُ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: ((أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَرْفَعِي شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْتِي بِرِزْقِ كُلِّ عَدٍ.)) (مسند احمد: ۱۳۰۷۴)

(۹۲۵۶) تخریج: حدیث صحیح، ولہ شاهد عن ابن عباس عند البخاری و مسلم، أخرجه ابو یعلیٰ: ۵۳۳۹، والطیالسی: ۳۵۳۹، والبیزار: ۳۵۳۹ (انظر: ۳۸۱۹)

(۹۲۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف، ہلال بن سوید، قال البخاری: روی عن انس "لا یدخر شیء لغد" ولا یتابع علیہ، وعدہ العقیلی وابن عدی فی الضعفاء، أخرجه ابو یعلیٰ: ۴۲۲۳، والبیہقی فی "الشعب": ۱۳۴۷ (انظر: ۱۳۰۴۳)

(۹۲۵۸)۔ عَنْ سَلَامٍ أَبِي شَرْحِبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءَ ابْنِي خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلًا أَوْ يَبْنِي بِنَاءً فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ نَعَانَا وَقَالَ: ((لَا تَيَاسَا مِنَ الْخَيْرِ (وَفِي رِوَايَةٍ مِنَ الرَّزْقِ) مَا تَهَزَّزَتْ رُؤُسُكُمْ، إِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَشْرَةٌ، ثُمَّ يُعْطِيهِ اللَّهُ وَيَرْزُقُهُ.)) (مسند احمد: ۱۵۹۵۰)

سیدنا حَبَّہ اور سیدنا سواء رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، جبکہ آپ ﷺ ایک کام کر رہے تھے یا کوئی عمارت بنا رہے تھے، ہم نے آپ ﷺ کی مدد کی، جب آپ ﷺ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی اور فرمایا: ”جب تک تمہارے سر حرکت کرتے رہیں گے، اس وقت تک تم نے خیر اور رزق سے ناامید نہیں ہونا، بیشک جب انسان کو اس کی ماں جنم دیتی ہے تو اس پر باریک لباس تک نہیں ہوتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔“

(۹۲۵۹)۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُحْصِي شَيْئًا وَآكِلُهُ، قَالَ: ((يَا أَسْمَاءُ! لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ.)) نَأَلْتُ: فَمَا أَحْصَيْتُ شَيْئًا بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي وَلَا دَخَلَ عَلَيَّ، وَمَا نَفَذَ عِنْدِي مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلَّا أَخْلَفَهُ اللَّهُ غَزْوًا جَلًّا. (مسند احمد: ۲۷۵۱۰)

سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میں کوئی چیز گن رہی تھی اور اس کا ماپ کر رہی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسماء! گنا نہ کر، وگرنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر گنا شروع کر دے گا۔“ سیدہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کے بعد میرے پاس جو رزق آیا اور جو خرچ ہوا، میں نے کبھی کسی چیز کو شمار نہیں کیا اور جس دن اللہ تعالیٰ کا جو رزق خرچ ہوا، اس نے اس کا متبادل عطا کر دیا۔

فوائد:..... اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے صدقہ کرنا اور یہ امید رکھنا کہ وہ اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، اگر مسلمان عملی طور پر یہ نظریہ قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظن کے مطابق اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر توکل کے بارے میں سب سے پر اثر آیت یہ ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾..... ”اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔“ (سورہ طلاق: ۳، ۴)

(۹۲۵۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة حال سلام ابی شرحبیل، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۶۵ (انظر: ۱۵۸۵۶)

(۹۲۵۹) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۴ / ۲۴۱ (انظر: ۲۶۹۷۰)

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْفِنَاعَةِ وَالْعِفَّةِ

قناعت اور عفت کی ترغیب دلانے کا بیان

(۹۲۶۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ((لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الْخَلْقِ أَوْ الْخُلُقِ أَوْ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ)) (مسند احمد: ۷۳۱۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی اس شخص کی طرف نہ دیکھے جو تخلیق میں یا اخلاق میں یا مال میں اس سے بلند رتبہ ہو، بلکہ اس کو دیکھے جو اس سے کم تر ہو۔“

(۹۲۶۱)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَيَّ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ)) قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَلَيْكُمْ۔ (مسند احمد: ۷۴۴۲)

(دوسری سند) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تمہاری بہ نسبت بلند رتبہ ہے، اس سے زیادہ لائق ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حقیر نہ سمجھو، جو تم پر ہے۔“

فوائد: جب آدمی دنیوی اعتبار سے اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور نعمتوں کی قدر کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنا آئیڈیل اپنے سے بالا تر لوگوں کو بنایا تو وہ اپنی زندگی میں قناعت جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔

(۹۲۶۲)۔ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ أَتَجَرُّ إِلَى الشَّامِ أَوْ إِلَى مِصْرَ قَالَ: فَتَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ تَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ وَلِمَتَجَرَّكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ رِزْقٌ فِي شَيْءٍ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ))

امام نافع کہتے ہیں: میں تجارت کے لیے شام یا مصر میں جاتا تھا، ایک دفعہ میں عراق کے لیے تیار ہوا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضي الله عنها کے پاس گیا اور کہا: اے ام المؤمنین! اس دفعہ میں عراق کے لیے تیار ہوا ہوں، انھوں نے کہا: تیری پہلی تجارت کو کیا ہوا ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب ایک چیز کسی کے رزق کا سبب بنا ہوا ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، یہاں تک کہ وہ چیز خود تبدیل ہو جائے۔“ بہر حال میں عراق چلا گیا اور واپس آ کر سیدہ عائشہ رضي الله عنها کے پاس گیا

(۹۲۶۰) تخریج: أخرج بنحوه البخاری: ۶۴۹۰، ومسلم: ۲۹۶۳ (انظر: ۷۳۱۹)

(۹۲۶۱) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۶۲) تخریج: اسنادہ ضعیف، والد الضحاک: هو مخلد بن الضحاک ضعیف لا يتابع علی حدیثہ،

والزبير بن عبيد فی عداد المجاہیل، أخرجه ابن ماجه: ۲۱۴۸ (انظر: ۲۶۰۹۲)

فَاتَيْتِ الْعِرَاقَ ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ
 الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ! مَا رَدَدْتُ رَأْسَ مَالٍ
 حَدِيثَ بِيَانِ كِي، يَا كَهْبَا: حَدِيثٌ تُو وِي هِي هِي، جُو مِي س نِي تَجِي
 اُور كِهَا: اِي ام المومنين! اللہ کی قسم! (نفع تو کجا) میں تو اصل
 مال بھی واپس لے کر نہ آسکا، سیدہ نے اس کو دوبارہ وہی
 حدیث بیان کی، یا کہا: حدیث تو وہی ہے، جو میں نے تجھے
 بیان کر دی تھی۔ (مسند احمد: ۲۶۶۲۰)

فوائد: عام طور پر سمجھ دار لوگ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی منافع بخش کاروباری سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو برقرار رکھے، کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ زیادہ مال کے حرص میں اپنے کام کو تبدیل کرتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہو تو ایسا کر لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔

(۹۲۶۳)۔ عَنِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ
 سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((طُوبَى لِمَنْ
 هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَأَنَّ عَيْشُهُ كَفَافًا
 وَقَنَّعَ)) (مسند احمد: ۲۴۴۴۲)

سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، جس کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کی زندگی بقدر ضرورت روزی پر مشتمل ہو اور وہ قناعت کرے۔“

فوائد: طُوبَى کے معانی جنت اور جنت میں ایک درخت کے بھی کیے گئے ہیں۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمتِ عظمیٰ ہے، یہ نعمت کئی نیکیاں سرانجام دینے کا سبب بنتی ہے، بہر حال اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت کو سامنے رکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ اگر بقدر سد رزق روزی اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق مل جائے تو اخروی انجام کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔

عقل مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ فقر و فاقہ کی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے معتدل اور مناسب سامعیار زندگی منتخب کر لے اور زائد از ضرورت مال و دولت کے پیچھے مت پڑے، جس کا انجام خوشحالی، آسودہ حالی اور فارغ البالی ہوتا ہے اور کم لوگ ہی ایسی حالت میں ہیں کہ وہ مال و دولت کے جمع کرنے کے انجام بد سے محفوظ رہ سکے ہوں۔ بالخصوص اس پُر فتن اور ذرائع آمدن کی کثرت والے دور میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے پناہ میں رکھے اور گرز بھر روزی عطا فرمائے۔

مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان مال و دولت کے انبار کو ہی اپنے کامیابی کا راز سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں قناعت اور شکر و صبر جیسی صفات مفقود ہو چکی ہیں، عام مزدور بھی اپنے رزقِ حلال پر قانع و شاکر نظر آنے کے بجائے راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب میں مبتلا ہو کر بے چین نظر آتا ہے۔

(۹۲۶۴)۔ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ،
 سَيَدْنَا أَبُو سَعِيدٍ خُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَانِ كَرْتِي هِي كِه اِي كِ اِنصَارِي آدِي
 كِي كُوِي ضرورت تھی، اس کے اہل خانہ نے اس سے کہا: تم

(۹۲۶۳) تخريج: اسنادہ صحيح، أخرجه الترمذی: ۲۳۴۹ (انظر: ۲۳۹۴۴)

(۹۲۶۴) تخريج: اسنادہ صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ۹۸ / ۵ (انظر: ۱۰۹۸۹)

نبی کریم ﷺ کے پاس جاؤ اور آپ ﷺ سے سوال کرو، پس وہ آپ ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ خطاب کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے: ”جس نے پاکدامنی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے پاکدامن کر دے گا اور جس نے (لوگوں سے) بے نیاز ہونا چاہا، اللہ اسے بے نیاز کر دے گا اور جس نے ہم سے سوال کیا اور ہمارے پاس کچھ ہوا تو ہم اس کو دے دیں گے۔“ یہ حدیث سن کر وہ آدمی چلا گیا اور کوئی سوال نہ کیا۔

فَقَالَ لَهُ أَهْلُهُ: ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْأَلْهُ، فَاتَاهُ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: ((مَنْ اسْتَعْفَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَغْنَىٰ أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلْنَا فَوَجَدْنَا لَهُ أَعْطَيْنَاهُ.)) قَالَ: فَذَهَبَ وَكَمْ يَسْأَلُ- (مسند احمد: ۱۱۰۰۲)

فوائد: عبادات کو مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان کی بسیار کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کمائی کر کے اپنا نظام چلانے کی کوشش کرے اور کسی سے سوال نہ کرے، اگر آمدنی کم ہو تو قناعت اور شکر کے ذریعے اطمینان حاصل کرے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن شرعی حدود کو پورا کر کے۔



کتاب الزُّهْدِ وَالتَّقْوِيلِ مِنَ الدُّنْيَا وَالرِّضَا بِالْكَفَافِ

زہد، دنیا سے معمولی مقدار لینے اور بقدر ضرورت رزق پر

راضی ہو جانے کے مسائل

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا وَنَعِيمِهَا

دنیا اور اس کی زینت و سجاوٹ اور نعمتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے رب نے مجھ پر یہ چیز پیش کی کہ وہ مکہ مکرمہ کی وادی بطناء کو میرے لیے سونا بنا دے، لیکن میں نے کہا: نہیں، اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا، جب میں بھوکا ہوں گا تو تیری سامنے لا چاری و بے بسی کا اظہار کروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور جب سیر ہوں گا تو تیری تعریف کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے، جبکہ آپ ﷺ غلی ہوئی رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا اور اس کا بھرونا کھجور کے پتے تھے،

(۹۲۶۵)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْعَلَ لِي بَطْنَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ: لَا يَا رَبِّ، أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ.)) (مسند احمد: ۲۲۵۴۳)

(۹۲۶۶)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مُضْطَجِعٍ مُرْمَلٍ بِشَرِيظٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ، فَدَخَلَ

(۹۲۶۵) تخريج: اسنادہ ضعیف جدا، عبیداللہ بن زحر الافرقی ضعیف، وعلی بن یزید بن ابی ہلال الالہانی واهی الحدیث، أخرجه الترمذی بائر الحدیث: ۲۳۴۷ (انظر: ۲۲۱۹۰)

(۹۲۶۶) تخريج: صحیح لغیرہ، أخرجه البخاری فی ”الادب“: ۱۱۶۳، وابیوعلی: ۲۷۸۲، وابن حبان: ۶۳۶۲ (انظر: ۱۲۴۱۷)

اتنے میں صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ ﷺ کے پاس آ گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل ہوئے، جب آپ ﷺ ایک طرف مائل ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے پہلوؤں اور رسی کے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ رسی آپ ﷺ کے پہلو پر نشان چھوڑ چکی ہے تو وہ رونے لگ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمر! تم کیوں رو رہے ہو؟“ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کسری و قیصر کی بہ نسبت آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تکریم اور عزت والے ہیں، لیکن وہ تو دنیا میں مال و دولت کو ازار ہے ہیں اور اے اللہ کے رسول! آپ اس مقام میں ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں؟“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیوں نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر بات ایسے ہی ہے۔“

فوائد: اگر دنیا کوئی بہترین چیز ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق سید الاولین والآخرین محمد رسول

اللہ ﷺ ہوتے، چونکہ آپ دائمی اور ابدی نعمتوں کے خواہشمند تھے، اس لیے دنیا کی عارضی نعمتوں سے دور رہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو ایک ماہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس آئے، جبکہ آپ ﷺ بالا خانے میں ایک ایسی چٹائی پر تشریف رکھے ہوئے تھے، جس نے آپ ﷺ کی کمر پر اپنا اثر چھوڑا ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کسری کی طرح کے لوگ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیتے ہیں اور آپ اس طرح ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی نیکیاں ان کو دنیا میں ہی جلدی دے دی گئیں ہیں۔“

عَلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، وَدَخَلَ عُمَرُ فَانْحَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْحِرَافَةً، فَلَمْ يَرِ عُمَرَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَبَيْنَ الشَّرِيطِ ثَوْبًا وَقَدْ أَثَرَ الشَّرِيطُ بِجَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَى عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ!)) قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَبْكِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَهُمَا بَعِيثَانِ فِي الدُّنْيَا فِيمَا بَعِيثَانِ فِيهِ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟)) قَالَ عُمَرُ: بَلَى قَالَ: ((فَأِنَّهُ كَذَّابٌ.)) (مسند احمد: ۱۲۴۴۴)

(۹۲۶۷)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي عُرْفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْتَ هَكَذَا فَقَالَ ﷺ: ((أَنْتُمْ عَجَلْتُمْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا.)) (مسند احمد: ۷۹۵۰)

فوائد:..... گویا نعمتوں کی کثرت میں اس قسم کے خطرے کا امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صورت میں دنیا میں ہی نیکیوں کا عوض دیا جا رہا ہے، درج ذیل مثال پر غور کریں:

سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس (انفاری کے لیے) کھانا لایا گیا، جبکہ وہ روزے دار تھے، پس انھوں نے کہا: قُتِلَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أَعْطَيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطَيْنَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ حَسَنَاتِنَا عَجَلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَمِكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ..... سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے، پھر ہم پر دنیا وسیع کر دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی گئیں پھر رونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ (صحیح بخاری: ۱۱۹۶)

(۹۲۶۸)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَتَرَ فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بَنِي اللَّهِ! لَوْ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْ تَرٌّ مِنْ هَذَا فَقَالَ: ((مَالِي وَلِلدُّنْيَا! مَامَثَلِي وَمِثْلُ الدُّنْيَا لَا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.)) (مسند احمد: ۲۷۴۴)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، جبکہ آپ ﷺ ایسے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جو آپ ﷺ کے پہلو میں اپنا اثر چھوڑ چکی تھی، انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر آپ اس سے نرم و گداز بچھونا لے لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میری اور اس دنیا کی مثال تو سوار کی سی ہے، جو گرم دن میں سفر کر رہا ہو اور دن کی ایک گھڑی کے لیے کسی درخت کا سایہ حاصل کرے اور پھر اس کو چھوڑ کر چل دے۔“

(۹۲۶۹)۔ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَبْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَقَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ تَرْغَبُونَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزْهَدُ فِيهِ، أَصْبَحْتُمْ

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا: تم تو صبح و شام ایسی چیزوں کی رغبت کرنے لگ گئے، جن سے رسول اللہ ﷺ بے رغبتی کرتے تھے، تم دنیا میں راغب ہونے لگ گئے ہو، جبکہ رسول اللہ ﷺ تو اس سے دور رہنے والے تھے، اللہ کی قسم! ہر آنے

(۹۲۶۸) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه وابن حبان: ۶۳۵۲، والطبرانی: ۱۱۸۹۸، والحاكم: ۴ / ۳۰۹ (انظر: ۲۷۴۴)

(۹۲۶۹) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ۴ / ۳۲۶ (انظر: ۱۷۸۱۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والی رات کو رسول اللہ ﷺ جو قرض دینا ہوتا تھا، اس کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی تھی، جو آپ ﷺ نے لینا ہوتا تھا، بعض صحابہ نے کہا: تحقیق ہم نے بھی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ قرض لیتے تھے، یحییٰ کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا: اللہ کی قسم! تین دن نہیں گزرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو قرض دینا ہوتا تھا، اس کی مقدار اس سے زیادہ ہوتی تھی، جو آپ ﷺ نے لینا ہوتا تھا۔

تَرَعْبُونَ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزْهَدُ فِيهَا، وَاللَّهِ! مَا آتَتْ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَذَرَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْلِفُ. وَقَالَ: غَيْرِيحِي: وَاللَّهِ! مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي لَهُ. (مسند احمد: ۱۷۹۷۰)

(دوسری سند) سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں خطاب کرتے ہوئے کہا: کس چیز نے تمہارے طرزِ حیات کو تمہارے نبی کی سیرت سے دور کر دیا ہے! آپ ﷺ تو دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی کرنے والے تھے، لیکن تم اس میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والے ہو۔

(۹۲۷۰)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِصْرَ يَقُولُ: مَا أَبْعَدَ هَدْيِكُمْ مِنْ هَدْيِ نَبِيِّكُمْ! أَمَا هُوَ فَكَانَ أَرْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَمَا أَنْتُمْ فَأَرْعَبُ النَّاسِ فِيهَا. (مسند احمد: ۱۷۹۲۵)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: شام کا وقت تھا، میں مدینہ منورہ کے ترہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا اور ہم احد پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر!“ میں نے کہا: جی اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ تیسرے دن کی شام کو اس میں سے میرے پاس کوئی دینار باقی ہو، ما سوائے اس دینار کے، جس کو میں قرض کے لیے روک لوں گا، میں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے ایسے تقسیم کر دوں

(۹۲۷۱)۔ عَنِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أَحَدٍ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ!)) قُلْتُ: لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَالَ: ((مَا أَحِبُّ أَنْ أَحُدَا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبًا أَمْسِي نَائِلَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَحَشَا عَن يَمِينِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَن يَسَارِهِ.)) قَالَ: ثُمَّ مَشِينَا، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ

(۹۲۷۰) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۷۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۳۸۸، ۶۲۶۸، و مسلم: ص ۶۸۷ (انظر: ۲۱۳۴۷)

گا۔“ پھر آپ ﷺ نے چلو بھر کر دائیں، بائیں اور سامنے ڈالے۔ پھر ہم آگے چلے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابا ذر! بیشک زیادہ مال والے ہی قیامت والے دن کم نیکیوں والے ہوں گے، مگر وہ جس نے اس طرح، اس طرح اور اس طرح مال کو تقسیم کر دیا۔“ پھر آپ ﷺ نے تمہیں پیش کرتے ہوئے دائیں، بائیں اور سامنے چلوؤں سے اشارہ کیا۔ پھر ہم مزید آگے چلے اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذر! تم میرے آنے تک یہیں کھڑے رہو۔“ پھر آپ ﷺ چلے گئے، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، لیکن جب میں کچھ شور اور آوازیں سنیں تو میں نے کہا کہ شاید رسول اللہ ﷺ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، میں نے آپ کے پیچھے جانے کا ارادہ تو کیا، لیکن پھر آپ ﷺ کی یہ بات یاد آئی کہ ”تو نے میرے آنے تک یہیں رہنا ہے۔“ سو میں انتظار ہی کرتا رہا، جب آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے ان آوازوں کا ذکر کیا، جو میں نے سنی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہا: آپ کی امت کا جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔“ میں نے کہا: اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کرتا ہو، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کرتا ہو۔“

فوائد:..... حدیث مبارکہ کے آخری جملے کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۵۴۲۸، ۸۹۳۷)۔

(دوسری سند) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! یہ کون سا پہاڑ ہے؟“ میں نے کہا: احد پہاڑ ہے، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر (یہ پہاڑ) میرے لیے سونے کے سٹکوں میں تبدیل کر دیا جائے تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا اور مجھے یہ چیز خوش نہیں کرے گی کہ اس میں

الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)) وَحَتَّى عَنْ بَيْنِيهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ۔ قَالَ: ثُمَّ مَشِينَا فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيكَ۔)) قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، قَالَ: فَسَمِعْتُ لَغَطًا وَصَوْتًا، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عُرِيضَ لَهُ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبِعَهُ ثُمَّ تَذَكَّرْتُ قَوْلَهُ ((لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ)) فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى جَاءَ فَذَكَّرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ، فَقَالَ: ((ذَلِكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔)) قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ۔)) (مسند احمد: ۲۱۶۷۴)

(۹۲۷۲)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ)۔ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! أَيُّ جَبَلٍ هَذَا؟)) قُلْتُ: أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسْرُئِي أَنْ لِي ذَهَبًا قَطْعًا أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَدْعُ مِنْهُ

(۹۲۷۲) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول.

فَيْرَاطًا..)) قَالَ: قُلْتُ: فِنَطَارًا يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَالَ: ((فَيْرَاطًا..)) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّمَا أَقُولُ الَّذِي أَقُلُّ وَلَا أَقُولُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ..)) (مسند احمد: ۲۱۶۵۵)

سے ایک قیراط بھی باقی رہنے دوں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! قنطار؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیراط، قیراط۔“ تین دفعہ فرمایا، پھر فرمایا: ”اے ابو ذر! میں کم والی بات کر رہا ہوں، زیادہ والی نہیں کر رہا۔“

فوائد: قیراط = (255.1) ملی گرام

اس کے دو معانی ہیں: (۱) مال کثیر، (۲) ایک مقدار وزن جو مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے، مصر میں قیراط (100) رطل کے برابر ہوتا ہے اور رطل (393.660) گرام کے برابر ہوتا ہے، اس طرح ایک قیراط (39) کلو گرام سے زیادہ وزن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا آپ ﷺ کا جذبہ یہ تھا، آپ ﷺ سخاوت کے وصف سے بدرجہ اتم متصف تھے، آپ ﷺ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا اور عملاً اس وصف کو ثابت بھی کیا۔ غور فرمائیں کہ آپ ﷺ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے صرف اس لیے زور دے کر بات کر رہے ہیں کہ انھوں نے ”قیراط“ کی بجائے ”قنطار“ سمجھا، جس کی مقدار زیادہ ہے۔

(۹۲۷۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) قَالَ: ((مَا سُرْنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِغَيْرِي)) (مسند احمد: ۲۱۶۴۸)

(تیسری سند) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ میری وفات والے دن اس میں دینار یا نصف دینار میرے پاس پڑا ہو، البتہ اتنی مقدار جس کو میں قرضے کے لیے روک رکھوں گے۔“

(۹۲۷۴)۔ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ بِالرَّبِيدَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَوْدَاءٌ مُشْبَعَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَرُ الْمَجَاسِيدِ وَلَا الْخَلُوقِ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَيَّ مَا تَأْمُرُنِي بِهِ هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ، تَأْمُرُنِي أَنْ آتِيَ الْعِرَاقَ فَإِذَا آتَيْتُ الْعِرَاقَ مَالُوا عَلَيَّ بِدُنْيَاهُمْ وَإِنَّ خَلِيلِي ﷺ عَهْدَ إِلَيَّ أَنْ دُونَ

ابو اسماء کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جبکہ وہ ربذہ مقام میں تھے اور ان کے پاس کالی سیاہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس میں زعفران اور خلوق خوشبوؤں کا کوئی اثر نہیں تھا، انھوں نے کہا: کیا تم اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے، جس کا یہ سیاہ فام عورت مجھے حکم دے رہی ہے، یہ مجھے کہتی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں، اور جب میں عراق جاؤں گا تو لوگ اپنی دنیا کے ساتھ میرے طرف مائل ہوں گے، جبکہ میرے خلیل ﷺ

(۹۲۷۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۷۴) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۲۱۴۱۶)

جَسْرٍ جَهَنَّمَ طَرِيقًا ذَا دَحْضٍ وَمَزَلَّةٍ وَأَنَا
نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ آخِرَى أَنْ
نَنْجُو عَنْ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُوَاقِفُونَ۔
(مسند احمد: ۲۱۷۴۶)

نے مجھے بتلایا تھا کہ جہنم والے پل صراط سے قبل ایک پھسلن والا راستہ ہے اور ہم نے وہاں سے گزرتا ہے، اگر ہمارے بوجھوں سے ہلکے ہوئے تو زیادہ ممکن ہو گا کہ ہم وہاں سے نجات پا جائیں، بہ نسبت اس کے کہ ہم وہاں اس حال میں جائیں کہ ہم بوجھ والے ہوں۔“

فوائد: بعض نسخوں میں یہ لفظ اس طرح ہے: مُسْغِبَةٌ اس کا معنی: ”بھوکی“ ہے۔

(۹۲۷۵)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ ،
قَالَ: ((أَيَاكَ وَالتَّنْعَمُ ، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيَسُؤُوا
بِالْمُتَنَعِمِينَ۔)) (مسند احمد: ۲۲۴۶۹)

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: ”خوش عیشی سے بچو، پس بیشک اللہ تعالیٰ کے بندے خوش عیش نہیں ہوتے۔“

فوائد: بڑی قابل تعجب بات ہے کہ ایک طرف تو منشاء شریعت یہ ہے کہ انسان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار نظر آنے چاہئیں، لیکن دوسری طرف خوش عیشی کی مذمت کی جا رہی ہے، دراصل خوش عیشی فی نفسہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کے اثرات اور نتائج پر نگاہ ڈالی جائے، تو کئی طرح سے اس میں فساد نظر آتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال فکر آخرت کی کمی ہے۔

ہم اس ضمن میں کچھ اقتباسات نقل کرنا چاہتے ہیں:

دنیوی آسائشیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں، وہ مال و دولت کی صورت میں ہوں یا عہدہ و منصب کی صورت میں۔ بہر حال دنیا نے اکثر لوگوں کو اپنے اثرات کا پابند کر دیا اور ان کو اسلامی مزاجوں کا نہیں رہنے دیا۔ وہ آسائشوں اور سہولتوں کے اس قدر غلام بن جاتے ہیں کہ فقر و فاقہ میں مبتلا لوگوں کے مصائب کو پھانسانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ ان کے رویے میں ناز و نخزے آ جاتے ہیں، ان کی مسکراہٹوں اور حسن سلوک کے لیے ٹھکتیں خاص ہو جاتی ہیں۔ بہر حال کوئی دولت مند ان حقائق سے اتفاق نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے دماغ کے فیصلے کے مطابق انسانِ کامل ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ فیکٹریوں اور صنعتوں کے مالکان، اعلیٰ پیمانے کے تجار، مساجد و مدارس کی انتظامیہ، جن کے گھروں کے ماہوار اخراجات لاکھوں روپوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماتحتوں کو تین چار ہزار فی مہینہ پر ہی گزارا کرنا چاہیے اور اس پر مستزاد یہ کہ اتنی معمولی تنخواہ دے کر اپنا رعب جماڑنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آقا اپنے غلام سے سلوک روا رکھتا ہے۔

رہا مسئلہ قلت مال یا کثرت مال کے بہتر ہونے کا، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کرنا ناممکن ہے کہ

دین کی حفاظت کے لیے، ارکانِ اسلام کی ادائیگی کے لیے اور کئی مفاسد سے بچنے کے لیے قلتِ مال بہترین ذریعہ ہے، یقین مانیے کہ اگر گزر بسر کے بقدر رزق نصیب ہو جائے تو دنیا کا حقیقی سکون مل جاتا ہے۔ یہ غربت ہی ہے جو بچوں کو دینی تعلیم دینے، قرآن مجید حفظ کرنے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے حصول پر آمادہ کرتی ہے اور یہی لوگ ہیں کہ دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے جن کی اکثریت کو استعمال کیا گیا۔ مزاج میں سادگی اور ہر آدمی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ان ہی لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ مسکین لوگ امیر لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بہر حال یہ ایسے حقائق ہیں جو امیر زادوں اور مال و دولت کے طلبگاروں کے لیے ناقابل تسلیم ہیں۔

قارمین کرام! ذہن نشین رہے کہ جب قلتِ مال کی مدح اور کثرتِ مال کی مذمت کی جاتی ہے تو اس وقت کسی خاص امیر یا غریب فرد کو سامنے نہیں رکھا جاتا، بلکہ مطلق ماحول پہ نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا جاتا ہے۔

مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بوڑھا آسمان اور پرانی زمین شاہد ہیں کہ اکثر لوگ اس نعمت کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر رہے اور من پسند اور عیش پرست زندگی میں پڑ کر کئی مفاسد میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت یہ ہے کہ ان بیچاروں کو ان حقائق کا اندازہ ہی نہ ہو سکا، جن کی وضاحت آپ ﷺ نے فرمائی ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے اچھا لباس پہننا اور اچھے ماکول و مشروب کا انتظام کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اس پر دوام اختیار کرنا اور تکلف کرنا کسی طرح خطرے سے خالی نہیں، اس لیے آپ ﷺ نے بسا اوقات جان بوجھ کر سادہ لباس پہننے، کنگھی نہ کرنے اور ننگے پاؤں چلنے کا حکم دیا ہے۔

اگر شریعت کی روشنی میں مال و دولت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو ادا کیا جائے تو اس کو اللہ کی نعمتِ عظمیٰ سمجھا جائے گا، آخر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تو مالدار تھے، ان کو اسی وجہ سے ”غنی“ کا لقب ملا اور انھوں نے اسی کے بل بوتے پر تائید دین کی ایسی مثالیں قائم کر دیں، جو رہتی دنیا تک مال داروں کے لیے آئیڈیل کی حیثیت سے زندہ رہیں گی۔

اگر خوش عیشی، اللہ تعالیٰ کی کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو یقیناً اس کو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی پسند کیا جاتا، لیکن آپ ﷺ کی صورت حال تو یہ تھی کہ آپ ﷺ کا نکیہ چڑے کا تھا اور اس کی بھرتی کھجور کے درخت کی چھال کی تھی۔

(۹۲۷۶)۔ عَنْ أَبِي عَسِيْبٍ، قَالَ: خَرَجَ سَيِّدُنَا أَبُو عَسِيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَرُومِيٍّ، وَهُوَ كَيْتَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَيْلًا، فَمَرَّ بِسِيِّدَعَانِيٍّ فَخَرَجْتُ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ، فَخَرَجْتُ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ فَدَعَاهُ،

مجھے بلا لیا، پس میں نکل پڑا، پھر جب آپ ﷺ

(۹۲۷۶) تخریج: حشر بن نباتة الاشجعی مختلف فیہ، وثقہ غیر واحد، وقال ابو حاتم: صالح یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، وقال النسائی فی روایة: لیس بالقوی، وفی اخری: لیس بہ بأس، وانظر الحدیث الآتی، فانه یشہد لبعضہ (انظر: ۲۰۷۶۸)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو بھی بلایا، پس وہ بھی آگئے، جب آپ ﷺ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو بھی بلایا اور وہ بھی آگئے، پھر آپ ﷺ چل پڑے، یہاں تک کہ کسی انصاری کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور باغ کے مالک سے کہا: ”نیم پخت کھجوریں کھاؤ۔“ پس وہ ایک گچھا لے کر آیا اور اس کو رکھ دیا، پس رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ نے کھایا، پھر آپ ﷺ نے ٹھنڈا پانی منگوایا اور اس کو پیا اور فرمایا: ”تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی روز قیامت ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ گچھا پکڑا اور اس کو زمین پر مارا، اس سے ادھ کچری کھجوریں نبی کریم ﷺ کی طرف گر پڑیں، پھر انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، بالکل، ماسوائے تین چیزوں کے، (۱) وہ دھجی اور چیتھرا، جس کے ذریعے بندہ اپنی شرمگاہ کا پردہ کر لے، (۲) وہ (روٹی وغیرہ کا) ٹکڑا، جس کے ذریعے بندہ اپنی بھوک پوری کر لے اور (۳) وہ چھوٹا سا کمرہ، جس میں بندہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے داخل ہو جائے۔“

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما میرے پاس آئے، میں نے ان کو تازہ کھجوریں کھلائیں اور پانی پلایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ چیزیں ان نعمتوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے۔“

فوائد: عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اگرچہ فقروفاقیہ کی زندگی

فَخَرَجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَاَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ: ((أَطْعِمْنَا بَسْرًا.)) فَجَاءَ بِعِدْقٍ فَوَضَعَهُ، فَأَكَلَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ: ((لَتُسْتَلَنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِدْقَ فَضْرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَازَرَ الْبُسْرُ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ! إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، خِرْقَةٍ كَفَّ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ، أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ، أَوْ حِجْرٍ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ.)) (مسند احمد: ۲۱۰۴۹)

(۹۲۷۷)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: آتَانِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطْبًا وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ.)) (مسند احمد: ۱۴۶۹۲)

(۹۲۷۷) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الطيالسی: ۱۷۹۹، وابویعلی: ۱۷۹۰، وابن

حبان: ۳۴۱۱ (انظر: ۱۴۶۳۷)

گزارنے والوں کی تعداد بھی معقول ہے، ہر ایک کے لیے شریعتِ مطہرہ نے قواعد مقرر کر دیئے ہیں تاکہ نعمتوں والوں کو کسی نعمت سے اور فاقہ مستوں کو فقیری کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِيْمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنَ التَّقْلِيلِ فِي الدُّنْيَا مِنْهَا بِالْكَفَافِ
اس چیز کی ترغیب کا بیان کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کے پاس دنیا کی بقدر ضرورت
قلیل مقدار تھی

(۹۲۷۸)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرَزَقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ)) (مسند احمد: ۶۵۷۲)
سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دیا، اس کو اس پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔“
(۹۲۷۹)۔ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِثْلُهُ۔ (مسند احمد: ۲۴۴۴۲) کی ہے۔

فوائد: اس حدیث کا متن یہ ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((طُوبَى لِمَنْ هَدَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقِنَعًا)) ”بس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، جس کو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کی گزاران برابر برابر تھی، لیکن اس نے اس پر قناعت کی۔“
دیکھیں حدیث نمبر (۹۲۶۳)

(۹۲۸۰)۔ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَتَوْبِ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِنَّ حَقٌّ۔ (مسند احمد: ۴۴۰)

سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: گھر، موٹی اور خشک روٹی اور شرمگاہ کو چھپانے والا کپڑا، جو چیز ان کے علاوہ ہے، وہ زائد ہے اور ابن آدم کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔“

(۹۲۸۱)۔ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي

سیدنا عبید بن عبد سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے لباس طلب کیا، پس آپ ﷺ

(۹۲۷۸) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۰۵۴ (انظر: ۶۵۷۲)

(۹۲۷۹) تخريج: اسنادہ صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۳۴۹ (انظر: ۲۳۹۴۴)

(۹۲۸۰) تخريج: اسنادہ ضعیف، ولا یصح عن النبی ﷺ، حریث بن السائب مختلف فیہ، أخرجه الترمذی: ۲۳۴۱ (انظر: ۴۴۰)

(۹۲۸۱) تخريج: اسنادہ حسن، أخرجه ابوداود: ۴۰۳۲ (انظر: ۱۷۶۵۶)

خَيْشْتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتِنِي الْبِسْهُمَا وَأَنَا مِنْ
 أَكْسَى أَصْحَابِي - (مسند احمد:
 ۱۷۸۰۶)

نے مجھے دو موٹے سے کپڑے پہنا دیے، لیکن جب میں نے
 ان کو زیب تن کیا تو دیکھا کہ اپنے ساتھیوں میں زیادہ لباس
 والا میں ہی تھا۔

فوائد:..... یعنی دوسرے صحابہ کرام کے تن پر اتنا لباس بھی نہیں تھا۔

(۹۲۸۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
 رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ:
 لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُنَا فِي السَّرِيَّةِ
 يَا بَنِي! مَا لَنَا زَادًا إِلَّا السَّلْفُ مِنَ التَّمْرِ،
 فَيَقْسِمُهُ قَبْضَةً قَبْضَةً حَتَّى يَبْصُرَ إِلَى تَمْرَةٍ
 تَمْرَةٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! وَمَا عَسَى
 أَنْ تُغْنِيَ التَّمْرَةَ عَنْكُمْ؟ قَالَ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا
 سُنَى فَبَعْدَ أَنْ فَقَدْنَاهَا فَاخْتَلَلْنَا إِلَيْهَا -
 (مسند احمد: ۱۵۷۸۰)

سیدنا عامر بن ربیعہ رضي الله عنه، جو کہ بدری صحابی تھے، سے مروی
 ہے، وہ کہتے ہیں: اے میرے پیارے بیٹے عبد اللہ! رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم نے ہمیں لشکر میں بھیجتے تھے، ہمارا زادراہ صرف چمڑے
 کے تھیلوں میں ہوتا تھا، وہ اس طرح تقسیم کیا جاتا کہ ہر ایک کو
 ایک ایک لپ آتی تھی، پھر ایک ایک کھجور تک نوبت جا پہنچی۔
 بیٹے نے کہا: اے ابا جان! وہ ایک کھجور تم سے کیا کفایت کرتی
 ہوگی؟ انھوں نے کہا: بچو! یہ بات نہ کرو، جب وہ بھی نہیں ملتی
 تھی تو ہمیں اس کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

(۹۲۸۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ:
 أَقَمْتُ بِالْمَدِينَةِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ
 لِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ
رضي الله عنها: لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا لَنَا ثِيَابٌ إِلَّا الْبُرْدُ
 الْمُتَمْتَعَةُ، وَإِنَّا لِيَأْتِي عَلَيَّ أَحَدِنَا الْيَوْمَ مَا
 يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ، حَتَّى إِنْ كَانَ
 أَحَدُنَا لِيَأْخُذَ الْحَجَرَ فَيَشُدُّهُ عَلَى أَحْمَصِ
 بَطْنِهِ، ثُمَّ يَشُدُّهُ بِنَوْبِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ،
 فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَنَا تَمْرًا
 فَأَصَابَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِّنَّا سَبْعَ تَمْرَاتٍ فِيهِنَّ

عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه کے
 ساتھ مدینہ منورہ میں ایک سال تک سکونت اختیار کی، ایک دن
 انھوں نے مجھے کہا، جبکہ ہم سیدہ عائشہ رضي الله عنها کے حجرے کے
 پاس تھے: میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پھٹ جانے والی
 پرانی چادریں ہوتی تھیں اور ایسے دن بھی آ جاتے تھے کہ ہم
 کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں پاتے تھے، جس کے ذریعے اپنے
 کمر کو کھڑا کر لیتے، یہاں تک کہ اس چیز کی نوبت آ جاتی کہ
 لوگ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر اٹھا کر اپنے بھوکے
 پیٹ پر رکھ کر اس کو کپڑے سے کس دیتے تھے، ایک دن رسول
 اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمارے مابین کھجوریں تقسیم کیں، ہر انسان کو

(۹۲۸۲) تخريج: اسنادہ ضعيف، المسعودی اختلط، ويزيد قد سمع منه بعد الاختلاط، أخرجه البزار:

۳۶۷۹، وابويعلی: ۷۱۹۹ (انظر: ۱۵۶۹۲)

(۹۲۸۳) تخريج: اسنادہ صحيح علی شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ۴ / ۱۰۶ (انظر: ۸۳۰۱)

سات سات کھجوریں ملیں، ان میں خشک اور رڈی کھجوریں بھی تھیں، اور مجھے یہ بات خوش نہیں لگتی تھی کہ اس رڈی کھجور کی بجائے مجھے عمدہ کھجور ملتی، میں نے کہا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: اس کو تختی سے چبانا پڑتا تھا۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، لیکن آج میرے مال کی زکوٰۃ کی مقدار چالیس ہزار ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہمارا کھانا دو سیاہ چیزیں کھجور اور پانی ہوتی تھیں، اللہ کی قسم! ہم نے نہ تو تمہاری اس غلندم کو دیکھا تھا اور نہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہوتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہمارا لباس بدوؤں والی چھوٹی چادریں ہوا کرتی تھیں۔

سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کو روتا ہوا پایا، اس نے کہا: اے ابو عبیدہ! تم کیوں رورہے ہو؟ انھوں نے کہا: میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ان چیزوں کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات اور غنیمتوں کی صورت میں عطا کرے گا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے شام کا ذکر بھی کیا اور مزید

حَسَفَةً، فَمَا سَرَّنِي أَنْ لِي مَكَائَهَا تَمْرَةً جَيِّدَةً، قَالَ: قُلْتُ لِمَ؟ قَالَ: تَشُدُّ لِي مِنْ مَضْغِي. (مسند احمد: ۸۲۸۴)

(۹۲۸۴)۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْسَى لَأَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَإِنَّ صَدَقَتِي الْيَوْمَ لَأَرْبَعُونَ أَلْفًا (وَفِي رَوَايَةٍ: وَإِنَّ صَدَقَةَ مَالِي لَتَبْلُغُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ). (مسند احمد: ۱۳۶۷)

(۹۲۸۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَعَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، وَاللَّهُ! مَا كُنَّا نَرَى سَمْرَاءَ كُمْ هَذِهِ وَلَا نَذَرِي مَاهِي، وَإِنَّمَا كَانَ لِبَاسُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التَّمَارُ يَعْنِي بُرُودَ الْأَعْرَابِ. (مسند احمد: ۸۶۳۸)

(۹۲۸۶)۔ عَنْ أَبِي حَسْبَةَ مُسْلِمِ بْنِ أَكْبَسِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يَبْكِيكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ فَقَالَ: نَبِكِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمًا مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

(۹۲۸۴) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، محمد بن کعب لم یسمع من علی، وشریک النخعی سبیء الحفظ (انظر: ۱۳۶۷)

(۹۲۸۵) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن حبان: ۵۸۰۵، والبزار: ۳۶۷۷ (انظر: ۸۶۵۳)

(۹۲۸۶) تخریج: اسنادہ ضعیف، مسلم بن اکیس مجهول، وروایتہ عن ابی عبیدہ مرسلہ (انظر: ۱۶۹۶)

فرمایا: ”ابو عبیدہ! اگر تیری زندگی لمبی ہو جائے تو تین خادم تجھے کفایت کرنے چاہئیں، ایک خادم تیری خدمت کے لیے، ایک تیرے ساتھ سفر کرے کے لیے اور ایک خادم تیرے اہل خانہ کی خدمت کرنے کے لیے، جو ان کے پاس آتا جاتا رہے، اور تجھے تین سواریاں کافی ہو جانی چاہئیں، ایک تیری سواری کے لیے، ایک تیرے سامان کے لیے اور ایک سواری تیرے غلام کے لیے۔“ اب توجہ کر، میں اپنے گھر کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ غلاموں سے بھرا ہوا ہے اور اصطلبل جانوروں اور گھوڑوں سے بھرا ہوا، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں رسول اللہ ﷺ کو کس منہ سے ملوں گا، جبکہ آپ ﷺ نے ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے، جو مجھے اسی حالت میں ملے، جس پر میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔“

شقیق کہتے ہیں: سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ماموں سیدنا ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی بیماری داری کرنے کے لیے ان کے پاس گئے، وہ رونے لگ گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ماموں جان! کیوں رو رہے ہو، کوئی تکلیف پریشان کر رہی ہے یا دنیوی حرص رونے کا سبب بن رہی ہے؟ انھوں نے کہا: ان میں سے کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”اے ابو ہاشم! ممکن ہے کہ تم ایسے اموال پالو، جو لوگوں کے مابین تقسیم ہوتا ہوں گے، بس صرف تیرے لیے مال میں سے ایک خادم اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ایک سواری کافی ہوگی۔“ لیکن اب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے مال جمع کیا ہے۔

وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَكَرَ الشَّامَ، فَقَالَ: ((إِنَّ يُنْسَأُ فِي أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَحَسْبُكَ مِنَ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ: خَادِمٌ يَخْدُمُكَ، وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ، وَخَادِمٌ يَخْدُمُ أَهْلَكَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ، وَحَسْبُكَ مِنَ الدَّوَابِّ ثَلَاثَةٌ، دَابَّةٌ لِرَحْلِكَ، وَدَابَّةٌ لِتَسْقِطِكَ، وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ.)) ثُمَّ هَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى بَيْتِي قَدْ امْتَلَأَ رَقِيقًا وَأَنْظُرُ إِلَى مَرْبِطِي قَدْ امْتَلَأَ دَوَابَّ وَخَيْلًا، فَكَيْفَ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذَا! وَقَدْ أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَنْ لَقِينِي عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّذِي فَارَقْتَنِي عَلَيْهَا.)) (مسند احمد: ۱۶۹۶)

(۹۲۸۷)۔ عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَالِهِ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُبَيْدَةَ يَعُوذُهُ، قَالَ: فَبَسَّكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ يَا خَالَ أَوْجَعًا يُشِيرُكَ أَمْ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَقَالَ: فَكَلَّا لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَيْنَا فَقَالَ: ((يَا أَبَا هَاشِمِ! إِنَّهَا عَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا يُوتَاهَا أَقْوَامٌ، وَأَنْمَا يَكْفِيكَ فِي جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.)) وَإِنِّي أُرَانِي قَدْ جَمَعْتُ. (مسند احمد: ۱۵۷۴۹)

(۹۲۸۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لانقطاعه، شقیق بن سلمة لم یسمع هذا الحدیث من ابی ہاشم، بینہما سمرة، وهو مجهول، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۳ / ۲۱۹ (انظر: ۱۵۶۶۴)

فوائد: اس حدیث کا آخری جملہ ”وَأَنَّمَا يَكْفِيكَ فِي جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِنِّي أُرَانِي قَدْ جَمَعْتُ.“ (صرف تیرے لیے مال میں سے ایک خادم اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے ایک سواری کافی ہوگی۔) شواہد کی بنا پر حسن ہے۔

(۹۲۸۸)۔ (وَمِنْ طَرِيقِي ثَانٍ)۔ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بِنِ عْتَبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يَبْكِي - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - (مسند احمد: ۱۵۷۵۰)

(۹۲۸۹)۔ عَنْ حَارِثَةَ بِنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقَيْتُ لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ)) لَتَمَنَّيْتُهُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَمَلْتُكَ دِرْهَمًا، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ الْأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: ثُمَّ أَنَّى يَكْفِيهِ فَلَمَّا رَأَاهُ بَكَى، وَقَالَ: لَيْكِنَ حَمْزَةٌ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ - (مسند احمد: ۲۱۳۸۷)

(۹۲۹۰)۔ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَابٍ أَيْضًا، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ

(دوسری سند) سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جبکہ وہ بیمار تھے اور رو رہے تھے۔

حارثہ بن مضرب کہتے ہیں: میں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جبکہ ان کو جسم کے سات مقامات پر داغا گیا تھا، انھوں نے کہا: میرے علم کے مطابق جو تکلیف مجھے ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ”کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے“ میں موت کی تمنا کرتا۔ جب میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، تو میرے پاس ایک درہم بھی نہیں تھا اور اب تو میرے گھر کے ایک کونے چالیس ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں، پھر ان کا کفن لایا گیا اور انھوں نے اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا: لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے کفن نہیں تھا، ما سوائے سفید و سیاہ رنگ کی ایک چادر کے، جب وہ ان کے سر پر رکھی جاتی تو پاؤں سے سکتڑ جاتی اور جب پاؤں پر رکھی جاتی تو سر سے ہٹ جاتی، پھر اس کو ان کے سر پر ڈالا گیا اور پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دی گئی۔

سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی، ہم میں بعض ایسے افراد تھے کہ

(۹۲۸۸) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۸۹) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الطبرانی: ۳۶۷۴ (انظر: ۲۱۰۷۲)

(۹۲۹۰) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه الترمذی: ۳۸۵۳ (انظر: ۲۱۰۷۷)

وہ دنیا میں اپنے اجر کی کوئی چیز کھائے بغیر فوت ہو گئے، ان میں سے ایک سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے کہ جنھوں نے صرف اپنے ترکہ میں ایک دھاری دارچادر چھوڑی تھی، جب لوگ اس سے ان کے سر کو ڈھانپتے تو ان کی ٹانگیں تنگی ہو جاتیں اور جب ٹانگوں پر ڈالتے تو سر تنگا ہو جاتا تھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: ”اس کے سر کو ڈھانپ دو۔“ اور ہم نے ان پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی تھی، لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کا پھل پکا اور وہ اسے چن رہا ہے۔

مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ نُسَعْبُ بْنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمْرَةً، إِذَا غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطُّوا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَقَالَ لِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((غَطُّوا رَأْسَهُ)) وَجَعَلْنَا عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا. قَالَ: وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَ الثَّمَارَ فَهُوَ يَهْدِيهَا. (مسند احمد: ۲۱۳۹۲)

فوائد:..... پھل پکنے سے مراد فتوحات اور دنیوی مال و دولت ہے۔

خالد بن عمیر کہتے ہیں: سیدنا عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ نے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر کہا: اَمَّا بَعْدُ! پس دنیا نے اپنے ختم ہونے کی خبر دے دی ہے اور یہ جلدی پھرنے والی ہے، اب یہ اتنی ہی باقی رہ گئی، جتنا کہ برتن میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جاتا ہے، جس کو اس کا مالک پی لیتا ہے، اور تم لوگ ختم نہ ہونے والے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو، پس اپنے پاس موجود بھلائی کے ساتھ منتقل ہو جاؤ، ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکا جاتا ہے اور وہ ستر سال گرتے رہنے کے باوجود اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا، اللہ کی قسم! اتنی وسیع جہنم کو بھر دیا جائے گا، کیا تم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم! ہمیں بتلایا گیا کہ جنت کے ایک دروازے کے دو پتوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن اس پر بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ ہجوم سے بھرا ہوا ہو گا، میں نے خود دیکھا کہ ہم سات افراد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، ہمارا کھانا صرف درخت کے پتے تھے، جس کے وجہ سے گوشہ دہن پر زخم ظاہر ہونے لگتے تھے

(۹۲۹۱)۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: خَطَبَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنْتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صِبَابَةٌ كَصِبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُتَّقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَتَقْبَلُوا بِخَيْرٍ مَا يَحْضُرُكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فِيهِوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَاللَّهِ! لَتَمْلُوَنَّهُ أَفْعَجِبْتُمْ؟ وَاللَّهِ! لَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِضْرَاعِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا وَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَظِيظِ الزُّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، وَإِنِّي لَتَقَطُّتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعِيدٍ، فَأَتَزَّرَ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ مِنَّا

اور میں نے ایک چادر اٹھائی اور اس کو اپنے اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے مابین دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، نصف سے انھوں نے ازار باندھ لیا، لیکن اب ہم میں سے ہر کوئی ایک ایک شہر کا امیر بن بیٹھا ہے، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اپنے نفس میں تو عظیم سمجھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کم قدر ہوں، نبوت جب بھی ختم ہوتی تھی تو اس کا انجام بادشاہت کی صورت میں نکلتا تھا، اور ہمارے بعد عنقریب تم بھی بادشاہوں کا تجربہ کرو گے۔

أَحَدُ الْيَوْمِ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرَ مِصْرٍ مِّنَ الْأَمْصَارِ، إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبْوَةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا، وَسَبْتَلُونَ، أَوْ سَتَخْبُرُونَ الْأُمَّرَاءَ بَعْدَنَا۔ (مسند احمد: ۱۷۷۱۸)

فوائد: ”نبوت جب بھی ختم ہوتی تھی تو اس کا انجام بادشاہت کی صورت میں نکلتا تھا“۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی فوت ہو جاتا تو اس کے امتیوں میں بادشاہت شروع ہو جاتی، امت مسلمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔

(دوسری سند) سیدنا عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ نے ہمیں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور کہا: میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم سات افراد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے اور ہمارا کھانا صرف اور صرف لوہے جیسی ترکاری کے پتے تھے، اس سے ہمارے گوشہ دہن زخمی ہونے لگتے تھے۔

(۹۲۹۲)۔ (وَعَنهُ مِنْ طَرِيقِي ثَانٍ)۔ قَالَ: سَمِعْتُ عْتَبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ: (وَفِي لَفْظٍ: خَطَبْنَا عْتَبَةَ بْنَ غَزْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ) لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ، حَتَّى فَرَحَتْ أَشَدَّ أَقْنَا۔ (مسند احمد: ۱۷۷۱۷)

فوائد: جن صحابہ نے اسلام کے ابتدائی کٹھن حالات میں نبی کریم ﷺ کی صحبت کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فخر و فاقہ کو پسند کیا۔

موسیٰ کے باپ علی بن رباح سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اسکندریہ میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، لوگوں نے اپنی خوشحالی کا ذکر کیا، اس موقع پر ایک صحابی نے کہا: رسول اللہ ﷺ اس حال میں فوت ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کے اہل و عیال نے جو اور سلت کی کس روٹی نہیں کھائی۔

(۹۲۹۳)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكَانْدَرِيَّةِ، فَذَكَرُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوِّفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ أَهْلُهُ مِنَ الْخُبْزِ الْعَلِيثِ۔

(۹۲۹۲) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۲۹۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۷۷۷۲)

قَالَ: مُوسَى: يَغْنَى الشَّعِيرَ وَالسَّلْتِ إِذَا خُلِطَا۔ (مسند احمد: ۱۷۹۲۴)

فوائد: سَلْت: یہ جو کی ہی ایک قسم ہے، گندم کے مشابہ ہوتی ہے اور اس پر چھلکا نہیں ہوتا۔
الْحُبْزِ الْعَلِيْثِ: وہ روٹی جس میں دو قسم کے آٹے ڈالے جائیں، جیسے گندم اور جو، راوی نے جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں جو کی دو قسموں کا بیان ہے۔

سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اصحاب رسول میں سے ہیں، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مدینہ منورہ آیا، جبکہ میری کسی سے معرفت نہیں تھی، میں صفہ میں ایک آدمی کے ساتھ ٹھہرا، مجھے اور اس کو روزانہ ایک مَد کھجوروں کا ملتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے ایک دن نماز پڑھائی، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیئے ہیں اور گھٹیا روٹی کے سخت کپڑے ہمارے جسم کو کھا گئے ہیں، یہ سن کر نبی کریم ﷺ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: ”اللہ کی قسم! اگر میرے پاس روٹی یا گوشت ہوتا تو میں تم کو ضرور کھلاتا، خبردار! قریب ہے کہ تم ان نعمتوں کو پالو، تم میں سے جس نے اس چیز کو پالیا کہ تم پر بڑی بڑی دیکیں لائی جائیں، (تو پھر تو اس کو کفایت کرے گا) اور تم کعبہ کے پردوں کی طرح کپڑے پہنو گے۔“ پھر اٹھارہ دنوں تک میرے اور میرے ساتھی کا کھانا پیلو کے درخت کا کالا پھل رہا، پھر ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس گئے، پس انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بہر حال ہم کو وہاں سے بھی کھجور ہی ملی، البتہ وہ بہترین قسم کی تھی۔

(۹۲۹۴)۔ عَنْ أَبِي حَرْبٍ أَنَّ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ رَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَتَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ مَعَ رَجُلٍ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْرَقَ بَطُونَنَا التَّمْرُ، وَتَحَرَّقَتْ عَنَّا الْخُنْفُ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ حُبْزًا، أَوْ لَحْمًا لَا طَعَمْتُكُمْ مَوْهُ، أَنَا إِنِّكُمْ تَوْشِكُونَ أَنْ تَذْرِكُوا، وَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ أَنْ يُرَاحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَانِ، وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ اسْتَارِ الْكَعْبَةِ)) قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَاسُونَا، وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَا هَذَا التَّمْرُ۔ (مسند احمد: ۱۶۰۸۴)

فوائد: نبی کریم ﷺ نے مال و دولت کی کثرت کی جو پیشین گوئی، حرف بہ حرف پوری ہوئی، لیکن اپنے ساتھ بہت سارے مفاسد لائی۔

(۹۲۹۴) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه البزار: ۳۶۷۳، وابن حبان: ۶۶۸۴، والطبرانی فی ”الکبیر“ ۸۱۶۰ (انظر: ۱۵۹۸۸)

سیدنا عتبہ بن عمرو اور سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا حکم دیتے تھے، پس ہم میں سے ایک آدمی جاتا اور بوجھ اٹھانے کا کام کر کے ایک مد لے کر آتا، جبکہ آج بعض کے پاس ایک ایک لاکھ درہم موجود ہے۔ شقیق کہتے ہیں: میرا خیال ہے وہ ایک لاکھ والے سے اپنے آپ کو مراد لیتے تھے۔

حسن بھری کہتے ہیں: جب سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا: بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت کی تھی، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ سوار کے زاد راہ کی طرح ہماری روزی بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔ پھر سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ جو ترکہ چھوڑ کر فوت ہوئے، جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ پچیس پچیس یا پینتیس چھتیس درہموں کی قیمت کا تھا۔

سیدنا بریدہ السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم کو دنیا سے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہونی چاہیے۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بیشک میں روزی قیامت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، جو دنیا سے اسی حالت پر جائے گا، جس حالت میں میں اس کو چھوڑ رہا

(۹۲۹۵)۔ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُبَيْةِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي مَسْعُودٍ (يَعْنِي أَبَا مَسْعُودَ الْبَدْرِيَّ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيُحَامِلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ شَقِيقٌ: فَرَأَيْتُ أَنَّهُ يُعْرَضُ بِنَفْسِهِ. (مسند احمد: ۲۲۷۰۳)

(۹۲۹۶)۔ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا اخْتَضَرَ سَلْمَانَ بَكِي، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَيْنَا عَهْدًا، فَتَرَكْنَا مَا عَهَدَ إِلَيْنَا، أَنْ يَكُونَ بُلْعَةً أَحَدِنَا مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّأكِبِ، قَالَ: ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا تَرَكَ فَإِذَا قِيَمَةٌ مَاتَرَكَ بِضْعَةَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، أَوْ بِضْعَةَ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا. (مسند احمد: ۲۴۱۱۲)

(۹۲۹۷)۔ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لِيَكْفِ أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ.)) (مسند احمد: ۲۳۴۳۱)

(۹۲۹۸)۔ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ ﷺ: إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ

(۹۲۹۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۴۱۵، ۶۶۶۸، و مسلم: ۱۰۱۸ (انظر: ۲۲۳۴۷)

(۹۲۹۶) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۰۴ (انظر: ۲۳۷۱۱)

(۹۲۹۷) تخریج: حدیث محتمل للتحسين بشاهده، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۱۳ / ۲۴۵، والدارمی:

۲۷۱۸ (انظر: ۲۳۰۴۳)

(۹۲۹۸) تخریج: حدیث محتمل للتحسين، أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۱۶۲۷ (انظر: ۲۱۴۵۸)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَاللّٰهُ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ تَشَبَّهَتْ مِنْهَا بِشْيْءٍ غَيْرِيَّ -)) (مسند احمد: ۲۱۷۹۰) دنیا میں ملوث ہوا ہے، ماسوائے میرے۔

فوائد: اس امت کا سب سے بہترین گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، لیکن انہوں نے دنیوی وسائل کے اعتبار سے کسی زندگی گزاری، چند ایک مثالیں اس باب میں بھی مذکور ہیں۔

بَابُ قِصَّةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجُوعِ وَفِيهَا مُعْجَزَةٌ عَظِيمَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کا واقعہ اور اس معاملے نبی کریم ﷺ کے عظیم معجزے کا بیان

(۹۲۹۹)۔ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: وَاللَّهِ اِنْ كُنْتُ لَا عَتَمِدُ بِكَيْدِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَاِنْ كُنْتُ لَا شِدَّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا سَأَلْتُهُ اِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي، فَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا سَأَلْتُهُ اِلَّا لِيَسْتَبْعِنِي فَلَمْ يَفْعَلْ، فَمَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَّفَ مَا فِي وَجْهِ، وَمَا فِي نَفْسِي، فَقَالَ: ((اَبَا هُرَيْرَةَ)) قُلْتُ لَهُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((الْحَقُّ))، وَاسْتَاذَنْتُ فَاذِنَ لِي فَوَجَدْتُ لَبْنَا فِي قَدَحٍ قَالَ: ((مِنْ اَيْنَ لَكُمْ هَذَا اللَّبْنُ؟)) فَقَالُوا: اَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ اَوْ اَلْ فُلَانِ، قَالَ: ((اَبَا هُرَيْرَةَ))، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((انْطَلِقْ اِلَى اَهْلِ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ لِي))، قَالَ: وَاهْلُ الصَّفَةِ اَضْيَافٌ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، ایک دن ایسے ہوا کہ میں اس راستے پر بیٹھ گیا، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں (اور کھانا کھلائیں گے)، لیکن انہوں نے ایسے نہ کیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، ان سے بھی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی ایسے نہ کیا، اتنے میں ابو القاسم رضی اللہ عنہ گزرے اور آپ ﷺ نے میرے چہرے اور میرے نفس کی بات پہچان لی اور فرمایا: ”ابو ہریرہ!“ میں نے کہا: جی، اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے ساتھ چلو۔“ پھر جب آپ ﷺ اپنے گھر کے اندر چلے گئے تو میں نے آپ ﷺ سے اندر جانے کی اجازت طلب اور آپ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی، پس میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ پایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟“ گھر

والوں نے کہا: جی فلاں یا آل فلاں نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ!“ میں نے کہا: جی، اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ اور اہل صفہ کو بلا کر لاؤ۔“ صفہ والے لوگ اسلام کے مہمان تھے، ان کا نہ کوئی اہل خانہ تھا اور نہ مال و دولت، جب رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی تحفہ آتا تھا تو آپ ﷺ اس میں کچھ حصہ ان کو بھی بھیجتے تھے، لیکن اب کی بار تو مجھے اس چیز نے غمگین کر دیا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ میں یہ دودھ پیوں گا اور دن رات کا باقی حصہ قوت حاصل کروں گا، لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ قاصد بھی میں ہوں، جب اہل صفہ آ جائیں گے تو میں نے ہی ان کو پلانا ہوگا اور میرے لیے دودھ باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ سو میں گیا اور ان کو بلا کر لے آیا، پس وہ آئے اور آپ ﷺ سے اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی، وہ گھر میں آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ہر! دودھ پکڑو اور ان کو پلاؤ۔“ پس میں نے پیالہ پکڑا اور ان کو دینا شروع کیا، ایک آدمی پیالہ پکڑتا اور پیتا، یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ واپس کر دیتا اور میں دوسرے کو دیتا، پس وہ پیتا، یہاں تک سیراب ہو جاتا اور پھر پیالہ واپس کر دیتا، یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ میں آخری بندے تک پہنچ گیا، اور پھر میں نے وہ پیالہ رسول اللہ ﷺ کو پکڑایا، آپ ﷺ نے پکڑا اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھا، ابھی تک اس میں دودھ کی کچھ مقدار باقی تھی، پھر آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا، پس اس کی دیکھا اور مسکرانے لگے اور فرمایا: ”ابو ہر!“ میں نے کہا: جی، اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور تو، ہم دو باقی

الِإِسْلَامِ، لَمْ يَأْوُوا إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ، إِذَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةٌ أَصَابَ مِنْهَا، وَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، قَالَ: وَأَخْرَجَنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنَ اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَرُّ بِهَا بِقِيَّةِ يَوْمِي وَلَيْلَتِي، فَقُلْتُ: أَنَا الرَّسُولُ فِإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ كُنْتُ أَنَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ فَقُلْتُ: مَا يَبْقَى لِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدًّا، فَاَنْطَلَقْتُ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: ((أَبَاهِر! اخْذْ فَأَعْطِهِمْ))، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِمْ، فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوِي، ثُمَّ يَرُدُّ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الْآخَرَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرَوِي، ثُمَّ يَرُدُّ الْقَدَحَ حَتَّى آتَيْتُ عَلَى آخِرِهِمْ، وَدَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ وَبَقِيَ فِيهِ فَضْلَةٌ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَتَبَسَّمَ فَقَالَ: ((أَبَاهِر!)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((فَأَقْعُدْ فَأَشْرَبْ))، قَالَ: فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: ((اشْرَبْ)) فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ لِي: ((اشْرَبْ)) فَأَشْرَبْتُ حَتَّى قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجِدُ لَهَا فِيَّ مَسَلَكًا، قَالَ: ((نَاوِلْنِي الْقَدَحَ))

فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْ الْفَضْلَةِ ﷺ - (مسند احمد: ۱۰۶۹۰)

زہد اور بقدر ضرورت رزق پر راضی رہنا
 رہ گئے ہیں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سوٹیٹھو اور پیو۔“ پس میں بیٹھ گیا اور پیا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”اور پیو۔“ میں نے اور پیا، پس آپ ﷺ یہی فرماتے رہے کہ ”اور پیو۔“ اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا: نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر پیالہ مجھے پکڑا دو۔“ میں نے آپ ﷺ کو پیالہ دے دیا، پھر باقی ماندہ دودھ آپ ﷺ نے پی لیا۔

فوائد:..... پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجوہات دو ہیں: (۱) پتھر کی ٹھنڈک سے بھوک کی تیری کو کم کرنے کے لیے، یا (۲) پتھر کی مدد سے آدمی اعتدال میں رہتا ہے اور سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ خالی معدے کی صورت میں اس طرح رہنا مشکل ہوتا ہے۔



کِتَابُ الْفَقْرِ وَالْغِنَى

فقر اور غنی کے مسائل

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْفَقْرِ مَعَ الصَّلَاحِ

راست روی اور نیکی کے ساتھ فقیری کی ترغیب کا بیان

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک لوگوں میں سے میرا سب سے زیادہ قابل رشک دوست وہ مومن ہے، جو کم مال اور کم افرادی کنبے والا ہو، لیکن نماز کی زیادہ مقدار والا ہو، اچھے انداز میں اپنے رب کی عبادت کرنے والا، لوگوں میں گنہگار ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو اور اس کی موت جلدی آجائے اور اس کی میراث کم ہو اور اس کے رونے والے بھی کم ہوں۔“

(۹۳۰۰)۔ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ أَعْبَطَ أَوْلِيَائِي (وَفِي رَوَايَةٍ: إِنَّ أَعْبَطَ النَّاسِ) عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ، أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَكَانَ فِي النَّاسِ غَامِضًا، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، فَعَجَلَتْ مَيِّتُهُ وَقَلَّ تَرَائِيهِ، وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ)) (مسند

احمد: ۲۲۵۵۰)

سیدنا نقادہ اسدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا نقادہ کو ایک آدمی کی طرف ایک اونٹنی لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس آدمی نے اس کو کچھ دیے بغیر واپس کر دیا، آپ ﷺ نے ایک دوسرے آدمی کی طرف بھیجا، اس نے اونٹنی دے دے، جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ نقادہ اونٹنی لے

(۹۳۰۱)۔ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيلِيِّ ، عَنْ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ بَعَثَ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ إِلَى رَجُلٍ يَسْتَمْنِحُهُ نَاقَةً لَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ رَدَّهَ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ سِوَاهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ، فَلَمَّا أَبْصَرَ

(۹۳۰۰) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، لیث بن ابی سلیم و عبید اللہ بن زحر الافریقی ضعیفان، ثم هو منقطع، فان عبد الله لم يسمع من القاسم، أخرجه الطيالسي: ۱۱۳۳، والطبراني: ۷۸۶۰ (انظر: ۲۲۱۹۷) (۹۳۰۱) تخریج: اسنادہ ضعیف لجهالة البراء السليبي، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۳۴ (انظر: ۲۰۷۳۵)

بِهَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَ بِهَا نُقَادَةٌ يَفْقُوْذُهَا، قَالَ: ((اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا وَفِيْمَنْ اَرْسَلَ بِهَا))، قَالَ نُقَادَةٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ!، وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا، قَالَ: ((وَفِيْمَنْ جَاءَ بِهَا))، فَامَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلِبَتْ فَدَرَّتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((اللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَا لَ فُلَانٌ وَوَلَدِهِ)) يَعْني الْمَانِعَ الْاَوَّلَ- ((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا يَوْمًا)) يَعْني صَاحِبَ النَّاقَةِ الَّذِي اَرْسَلَ بِهَا- (مسند احمد: ۲۱۰۱۵)

کر آ رہا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! اس اونٹنی میں اور اس کو بھیجنے والے میں برکت فرما۔“ سیدنا نقادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور اس میں بھی برکت ہو، جو اس کو لایا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور اس میں بھی برکت ہو جو اس کو لایا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس کو دوہنے کا حکم دیا، پس اس کو دوہا گیا، اس نے خوب دودھ دیا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! فلاں اور اس کی اولاد کے مال کو زیادہ کر دے۔“ آپ ﷺ کی مراد اونٹنی نہ دینے والا پہلا آدمی تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! فلاں کی روزی کو یومیہ بنا دے۔“ اس سے آپ ﷺ کی مراد اونٹنی بھیجنے والا شخص تھا۔

فوائد:..... ”یومیہ“ سے مراد یہ ہے کہ ہر دن کا رزق اسی دن کو ملتا رہے اور اس طرح بقدر کفاف گزر بسر ہوتی رہے۔

(۹۳۰۲)۔ عَنِ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: ((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ بَيْتِي قُوْتًا)) (مسند احمد: ۹۷۵۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! میرے گھر والوں کی روزی گزارے کے بقدر بنا دے۔“

فوائد:..... ”قوت“ سے مراد بدن کی بقاء کے لیے ضروری اشیائے خوردنی، بقدر سد رمق روزی اور قوت لایموت۔ (دوسری سند) اس کے الفاظ یہ ہیں: ”اے اللہ! محمد (ﷺ) کی آل کی روزی گزارے کے بقدر بنا دے۔“ (مسند احمد: ۷۱۷۳)

(۹۳۰۳)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَانٍ)۔ يَلْفِظُ ((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا)) (مسند احمد: ۷۱۷۳)

(۹۳۰۴)۔ عَنِ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((مَا مِنْ اَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غَنِيٌّ وَلَا فَقِيْرٌ، اِلَّا وَدَّ اَنْمَا كَانَ اُوْتِيَ مِنْ

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر روز قیامت ہر کوئی، وہ غنی ہو یا فقیر، یہ چاہے گا کہ کاش اس کو دنیا میں بقدر سد رمق روزی دی گئی ہوتی۔“

(۹۳۰۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۰۵۵ (انظر: ۸۷۵۳)

(۹۳۰۳) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۳۰۴) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، نفع الاعمی متروک الحدیث، أخرجه ابن ماجه: ۴۱۴۰ (انظر: ۱۲۱۶۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الدُّنْيَا قُوْتًا)) قَالَ: يَعْنِي فِي الدُّنْيَا - (مسند

احمد: ۱۲۱۸۷)

سیدنا فضالہ بن عبید بن اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو بھوک کی وجہ لوگ نماز کے قیام کے دوران گر جاتے تھے، ایسے لوگوں کا تعلق اصحاب صفہ سے ہوتا تھا، بد لوگ کہتے تھے: یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، پس جب رسول اللہ ﷺ نماز کو پورا کرتے تو ان کی طرف پھر کر فرماتے: ”اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو تم یہ پسند کرو گے کہ کاش حاجت اور فاتے میں اور اضافہ ہو جائے۔“ سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔

(۹۳۰۵)۔ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَرَّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ لِمَا بِهِمْ مِنَ الْخِصَاصَةِ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، حَتَّى يَقُولَ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ مَجَانِينُ، فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: ((لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزِدَادُونَ حَاجَةً وَفَاقَةً)) قَالَ فَضَالَةٌ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ۔

(مسند احمد: ۲۴۴۳۵)

فوائد: سبحان اللہ! اگر کوئی آدمی فقر و فاقہ کے ایام صبر کے ساتھ گزار دے گا تو موت کے بعد والی گھائیاں

آسانی سے طے کر لے گا۔

سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دو چیزیں ہیں، ابن آدم تو ان کو ناپسند کرتا ہے (لیکن حقیقت میں وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں)، ایک موت ہے، اور موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے اور دوسری قلت مال ہے، حالانکہ قلت مال کی وجہ سے حساب قلیل ہوتا ہے۔“

(۹۳۰۶)۔ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْجِسَابِ)) (مسند احمد: ۲۴۰۲۴)

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا

(۹۳۰۷)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! عَبْدُكَ

(۹۳۰۵) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۳۶۸ (انظر: ۲۳۹۳۸)

(۹۳۰۶) تخریج: اسنادہ جید (انظر: ۲۳۶۲۵)

(۹۳۰۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف ابن لهیعة، ولضعف دراج فی روايته عن ابی الہیثم (انظر: ۱۱۷۶۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے؟ اتنے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا: اے موسیٰ! یہ جنت میں نے اسی مؤمن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی قسم! تیرے جلال کی قسم! اگر اس مؤمن کے دنوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے اور لیکن اگر اس کا انجام یہ جنت ہو تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے؟ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا: اے موسیٰ! یہ جہنم میں نے اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب! تیری عزت اور جلال کی قسم! اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے، لیکن اس کا انجام یہ ہو تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔“

الْمُؤْمِنُ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، قَالَ: يَا مُوسَى! هَذَا مَا أَعَدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى: أَي رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَ أَقْطَعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يُسْحَبُ عَلَيَّ وَجْهِهُ مِنْذُ يَوْمٍ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا مَصِيرَهُ لَمْ يَرَبُؤَسَا قَطُّ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مُوسَى: أَي رَبِّ! عَبْدُكَ الْكَافِرُ تَوَسَّعَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَفْتَحُ لَهُ بَابُ مِنَ النَّارِ فَيَقَالُ: يَا مُوسَى! هَذَا مَا أَعَدَدْتُ لَهُ، فَقَالَ مُوسَى: أَي رَبِّ! وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا مِنْذُ يَوْمٍ خَلَقْتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ هَذَا، مَصِيرَهُ كَأَنَّ لَمْ يَرَّ خَيْرًا قَطُّ.)) (مسند احمد: ۱۱۷۸۹)

فوائد: یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے تو مؤمن اور کافر کی یہی سوچ ہوگی، جو اس حدیث

میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((يُؤْتَى بِأَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ! يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.)) ”قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس آدمی کو لایا جائے گا، جو اہل دنیا میں بہت نعمتوں والا تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی ہے؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی ہے؟ وہ کہے گا: اے میرے رب!

اللہ کی قسم! نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا، جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف آئی ہوں گی، پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا: اے ابن آدم! کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! اللہ کی قسم! نہیں، کبھی مجھ پر کوئی تکلیف نہیں پڑی اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی۔“ (صحیح مسلم: ۵۰۲۱)

اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں سکون عطا فرمائے۔ (آمین)

(۹۳۰۸)۔ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى مِثْبَرِ الْكُوفَةِ: وَاللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ: نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَشْبَعُ مِنَ الدَّقْلِ، وَمَاتَرَضُونَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ۔ (مسند احمد: ۱۸۵۴۶)

سماک بن حرب کہتے ہیں: سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر ہمیں بیان کیا اور کہا: اللہ کی قسم! تمہارا نبی تو رومی کھجوروں سے سیر ہو جاتا تھا، لیکن تم قسما قسم کی کھجوروں اور مکھن کے بغیر راضی ہی نہیں ہوتے۔

(۹۳۰۹)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ)۔ أَنَّهُ سَمِعَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: أَحْمَدُ اللَّهِ تَعَالَى فَرَبَّمَا آتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّهْرُ يَظُلُّ يَتَلَوَّى مَا يَشْبَعُ مِنَ الدَّقْلِ۔ (مسند احمد: ۱۸۵۴۷)

(دوسری سند) سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، پس رسول اللہ ﷺ پر ایسے مہینے بھی آتے تھے کہ آپ ﷺ پر بل پڑ جاتے تھے اور آپ ﷺ رومی کھجوروں سے بھی سیر نہیں ہو پاتے تھے۔

(۹۳۱۰)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا كَانَ يُفْضَلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزُ الشَّعِيرِ۔ (مسند احمد: ۲۲۵۳۷)

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جو کی روٹی بھی رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں کی ضرورت سے زائد نہیں ہوتی تھی۔

(۹۳۱۱)۔ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ، حَدَّثَنِي أَحَدُ بَنِي سُلَيْمٍ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

ابو العلاء کہتے ہیں: بنو سلیم کے ایک آدمی نے مجھے بیان کیا، میرا یہی خیال ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تھا، بہر حال اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز کے

(۹۳۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۷۷ (انظر: ۱۸۳۵۶)

(۹۳۰۹) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۳۱۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۲۱۸۴)

(۹۳۱۱) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۹۷۲۵ (انظر: ۲۰۲۷۹)

ساتھ آزماتا ہے، جو اس کو عطا کرتا ہے، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کرتا ہے اور مزید وسعت عطا کرتا ہے اور جو اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت نہیں کی جاتی۔

يَتَلَىٰ عَبْدُهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَسِعَهُ،
وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ۔ (مسند احمد: ۲۰۵۴۵)

فوائد: اگر فقر و فاقہ کی وجہ سے نیکی اور راست روی کے امور متاثر نہ ہوں تو پھر ایسی فقیری آخرت کے حساب و کتاب کے لیے مفید ہوگی۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ فقیر مہاجرین اور کمزور لوگوں کی فضیلت کا بیان

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جبکہ ہم آپ ﷺ کے پاس موجود تھے: ”غزباء کے لیے خوشخبری ہے۔“ کسی نے کہا: غزباء کون لوگ ہیں؟ اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بہت زیادہ برے لوگوں کے اندر پائے جانے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد بات ماننے والوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے۔“ وہ کہتے ہیں: ایک اور دن کی بات ہے، سورج طلوع ہو رہا تھا، جبکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میرے امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک روایت میں ہے: سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان سے مراد ہم لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی نہیں، اور تم لوگوں میں بھی بڑی خیر ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ فقراء مہاجرین ہیں، جن کے ذریعے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے اور ان میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی ضرورت اس

(۹۳۱۲)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: ((طُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ)) فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ؟ يَا رَسُولَ
اللَّهِ! قَالَ: ((أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أَنَاسٍ
سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ
يُطِيعُهُمْ)) قَالَ: وَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يَوْمَ مَا آخَرَ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَيَأْتِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ))
قُلْنَا: مَنْ أَوْلَيْكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (وَفِي
رَوَايَةٍ) فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْنُ هُمْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكُمُ خَيْرٌ
كَثِيرٌ)) فَقَالَ: ((فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
تَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهِ، يَمُوتُ أَحَدُهُمْ
وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَفْطَارِ
الْأَرْضِ)) (مسند احمد: ۶۶۵۰)

(۹۳۱۲) تخریج: حدیث حسن لغیرہ (انظر: ۶۶۵۰)

کے سینے میں ہوتی ہے، ان لوگوں کو زمین کے مختلف خطوں سے جمع کیا جائے گا۔“

فوائد: فقراء مہاجرین کے جہاد کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو امن ملتا ہے، سینے میں ضرورت ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دل کی خواہش پوری نہ کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے۔

(۹۳۱۳)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ وَمَا عِنْدَنَا وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَضِيرُ فَلَا نَسْأَلُ شَيْئًا۔ (مسند أحمد: ۶۵۷۸)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک فقراء مہاجرین بروز قیامت مالدار لوگوں سے چالیس سال پہلے سبقت لے جائیں گے۔“

سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے مال میں سے دے دیتے ہیں اور اگر چاہتے ہو تو ہم تمہارا معاملہ سلطان کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا: ہم صبر کریں گے اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔

فوائد: صحیح مسلم کی تفصیلی روایت یوں ہے:

ابو عبد الرحمن کہتے ہیں: وَجَاءَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَقْفَةَ وَلَا دَابَّةً وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَيَأْتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَالُوا فَإِنَّا نَضِيرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا۔) تم آدی سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، میں بھی ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے کہا: اے ابو محمد! اللہ کی قسم! ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خرچ ہے، نہ سواری، نہ مال و متاع۔ سیدنا عبد اللہ نے ان تینوں آدمیوں سے کہا: تم کیا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ ہم تمہیں وہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر تم چاہو تو تمہارا ذکر بادشاہ سے کریں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم فقراء مہاجرین قیامت کے دن مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔“ ان صحابہ نے کہا: ہم لوگ صبر کریں گے اور کچھ نہیں مانگے گے۔

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جنت میں داخل ہوا اور اپنے سامنے سے آہٹ سنی، میں نے پوچھا کہ یہ کون سی آواز ہے؟ اس نے کہا: یہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہیں، پھر میں آگے کو بڑھا اور دیکھا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ فقراء مہاجرین اور مسلمانوں کے بچے ہیں اور سب سے کم مالدار لوگ اور عورتیں ہیں، پھر مجھے بتلایا گیا کہ مالدار لوگوں کا جنت کے دروازے پر ابھی محاسبہ کیا جا رہا ہے اور ان کی مزید جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، رہا مسئلہ خواتین کا، تو دوسری چیزوں یعنی سونے اور ریشم نے ان کو غافل کر دیا تھا، پھر ہم جنت کے آٹھ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے باہر آئے، جب میں دروازے پر ہی تھا تو میرے پاس ایک پلڑا لایا گیا اور مجھے اس میں اور میرے امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، پس میں بھاری ثابت ہوا، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کولا کر ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے میں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ والا پلڑا جھک گیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا اور ایک پلڑے میں رکھا اور باقی ساری امت کو دوسری پلڑے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاری ثابت ہوئے، پھر میری امت کے ایک ایک آدمی کو پیش کیا گیا، پس وہ آگے کو گزرتے گئے، میں نے اس معاملے میں سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ست اور متاخر پایا، پھر وہ ناامید ہو جانے کے بعد آیا، میں نے کہا: عبدالرحمن! انھوں نے کہا: جی اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ تک پہنچنے سے پہلے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میں کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، مگر بڑھاپوں

(۹۳۱۴)۔ حَدَّثَنَا الْهَدَيْلُ بْنُ مَيْمُونٍ لَكُوفِيُّ الْجُعْفِيُّ، كَانَ يَجْلِسُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ يَعْزِي مَدِينَةَ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا شَيْخٌ قَدِيمٌ كُوفِيُّ، عَنْ سَطْرِحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بِلَالٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ فَاذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَذُرَارِي الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ أَرِ أَحَدًا أَقْلَ مِنَ الْإِغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ، فَقِيلَ لِي: أَمَا الْإِغْنِيَاءُ فَهُمْ هَاهُنَا بِالْبَابِ يُحَاسِبُونَ وَيُمَحْصُونَ، وَأَمَا النِّسَاءُ فَالْهَاهُنَا الْأَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ أَحَدِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الْبَابِ آتَيْتُ بِكِفَّةٍ فَوَضَعْتُ فِيهَا وَوَضَعَتْ أُمِّي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَتْ بِهَا، ثُمَّ آتَيْتُ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَضَعْتُ فِي كِفَّةٍ وَجِئْتُ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَوَضَعُوا فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجِئْتُ بِعُمَرَ فَوَضَعْتُ فِي كِفَّةٍ وَجِئْتُ بِجَمِيعِ أُمَّتِي فَوَضَعُوا فَرَجَحَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعُضِرَتْ أُمَّتِي رَجُلًا رَجُلًا فَجَعَلُوا

(۹۳۱۴) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، علی بن یزید الہامی واہی الحدیث، وعبید اللہ بن زحر الافرقی و ابو المہلب مطرح ضعیفان، أخرجه الطبرانی فی "الاوس": ۶۱۴۶، وفی "الصغیر": ۹۳۷ (انظر: ۲۲۲۳۲)

کے بعد، میں نے کہا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: میرے مال کی کثرت کی وجہ سے میرا محاسبہ ہوتا رہا اور مزید جانچ پڑتال کی جاتی رہی۔“

يَمْرُونَ فَاسْتَبَطَّاتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ الْإِيَّاسِ، فَقُلْتُ: عَبْدُ
الرَّحْمَنِ- فَقَالَ: يَا أُمَّيْ وَأُمَّيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَيْكَ أَبَدًا إِلَّا بَعْدَ
الْمَشِيئَاتِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ كَثْرَةِ
مَالِي، أُحَاسِبُ وَأُحَصُّ- ((مسند

احمد: ۲۲۵۸۷)

فوائد: مہاجرین کی فضیلت دوسری احادیث سے ثابت ہے، مذکورہ بالا روایت سے ملتی جلتی ایک حدیث

مبارکہ درج ذیل ہے:

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اتَّعَلَّمُ أَوْلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مِنْ أُمَّتِي؟)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ- فَقَالَ: ((الْمُهَاجِرُونَ، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ
وَيَسْتَفْتِحُونَ فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ: أَوْ قَدْ حُوسِبْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: يَا أَيُّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ؟ وَأِنَّمَا كَانَتْ
أَسْيَافُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى مِتْنَا عَلَى ذَلِكَ- قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَقِيلُونَ فِيهِ أَرْبَعِينَ
عَامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ-)) ”کیا آپ کو میری امت کی اس جماعت کے بارے میں علم ہے جو سب سے
پہلے جنت میں داخل ہوگی؟“ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”وہ جماعت
مہاجرین کی ہے۔ وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازے کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان ان سے
پوچھے گا: آیا تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے: کس موضوع پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے
راستے میں مرتے دم تک ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں۔ سو وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ (داخل
ہو کر) عام لوگوں کے داخلے سے پہلے چالیس سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے۔“ (حاکم: ۷۰/۲، شعب الایمان:

۸۵۳/۴، ۲۸/۲۶۰، صحیحہ: ۸۵۳)

عباس بن سالم نخعی سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو
سلام حبشی کو بلا بھیجا، اس کو پیغام رساں کے ذریعے لایا گیا، وہ
ان سے حوض کے بارے میں حدیث سننا چاہتے تھے، پس ان کو
ان کے پاس لایا گیا، عمر بن عبد العزیز نے ان سے سوال کیا

(۹۳۱۵)- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمِ اللَّخْمِيِّ،
قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي
سَلَامِ الْحَبَشِيِّ، فَحُمِلَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَرِيدِ
يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَوْضِ، فَقَدَّمَ بِهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ

(۹۳۱۵) تخریج: صحیح، قاله الالبانی، أخرجه ابن ماجه: ۴۳۰۳، والترمذی: ۲۴۴۴ (انظر: ۲۲۳۶۷)

اور انھوں نے جواباً کہا: میں نے سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے حوض (کی وسعت) عدن سے عمان بلقاء تک ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے پیالے ستاروں کی تعداد جتنے ہیں، جس نے اس سے پانی پی لے، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اس پر سب سے پہلے آنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔“ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ وہ ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، جو آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور جن کے لیے بند دروازے نہیں کھولے جاتے۔“ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز نے کہا: میں نے تو آسودہ حال عورتوں سے شادی بھی کر لی ہے اور میرے لیے بند دروازے بھی کھولے گئے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر دے، اللہ کی قسم! اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے سر پر اس وقت تک تیل نہیں لگاتا، جب تک وہ پراگندہ نہیں ہو جاتا اور زیب تن کیے ہوئے کپڑے نہیں دھوتا، جب تک وہ میلے نہیں ہو جاتے۔

سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ضعفاء کو میرے لیے تلاش کر کے لاؤ، بیشک تم لوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے اور مدد کئے جاتے ہو۔“

فوائد:..... اس حدیث مبارکہ کے اولین مصداق فقیر مہاجرین ہیں۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: کمزوروں کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یہ تائید و نصرت صالحین کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی دعا اور اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہما کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ اپنے سے کم مال والے صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ((أَسْمَا يَنْصُرُ اللَّهُ

فَقَالَ: سَمِعْتُ ثُوبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَانَ الْبَلْقَاءِ، مَا وَهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيْبُهُ عَدْدُ النُّجُومِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ وَرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ))، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((هُمْ الشُّعْتُ رُؤُوسًا، أَلْدُنْسُ ثِيَابًا، الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعَّمَاتِ، وَلَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدِّ)). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَقَدْ نَكَحْتُ الْمُتَنَعَّمَاتِ، وَفَتِحَتْ لِي السُّدُّ إِلَّا أَنْ يَرْحَمَنِي اللَّهُ، وَاللَّهِ لَا جَرَمَ أَنْ لَا أَذْهَنَ رَأْسِي حَتَّى يَشَعْتُ، وَلَا أَغْسِلُ ثُوبِي الَّذِي يَلِينِي جَسَدِي حَتَّى يَتَسَخَّ.

(مسند احمد: ۲۲۷۲۵)

(۹۳۱۶)۔ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((ابْعُونِي ضَعَفَاتِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تَرْزُقُونَ وَتَنْصُرُونَ بِضَعَفَاتِكُمْ)) (مسند احمد: ۲۲۰۷۴)

هَذِهِ الْأُمَّةُ بِضَعِيفِيهَا: بَدَعُوْتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ۔))..... ”اللہ تعالیٰ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد کرتا ہے۔ (سنن نسائی: ۲/۶۵، الفوائد لتمام: ق ۱۰۵/۲، الحلیۃ لأبی نعیم: ۲۶/۵)

اس روایت کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے، بلکہ مطلوبہ تفسیر کے علاوہ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، اور اسی طرح اس کو امام احمد (۱/۱۶۳) نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح: ۷۷۹) اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ضعیف لوگوں کی عبادات و ادعیہ میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل دنیا کی محبت اور چاہت سے خالی ہوتے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول اور ان کے اعمال پاک ہو جائیں۔ امیر اور غریب اور قوی اور ضعیف میں بیان کیا گیا مذکورہ بالا فرق امیر اور قوی لوگوں کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان تجربات سے نہیں گزرے اور ان کو سرے سے یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔

(۹۳۱۷)۔ عَنِ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلْمَانَ وَصُهَيْبًا وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فِي أَنَاسٍ فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذْتَ سُيُوفَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ مَا أَخَذَهَا بَعْدُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: اتَّقُوا لَوْلَ هَذَا الشَّيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيْدِهَا؟ قَالَ: فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، فَلَيْسَ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَيْ إِخْوَتَنَا! لَعَلَّكُمْ غَضِبْتُمْ؟ فَقَالُوا: لَا يَا أَبَا بَكْرٍ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ۔ (مسند احمد: ۲۰۹۱۶)

سیدنا عائد بن عمرو سے مروی ہے کہ سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سیدنا ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، ان لوگوں نے کہا: اللہ کے دشمن کی گردن اتارنے میں اللہ کی تلواروں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں کہتے ہو؟ (کچھ خیال کرو)۔ پھر جب نبی کریم ﷺ کو یہ ساری بات بتلائی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو بکر! شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا ہو اور اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو تیرا رب بھی تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔“ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی طرف لوٹے اور کہا: اے ہمارے بھائیو! شاید تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں، اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تجھ کو بخش دے۔

فوائد:..... غور کریں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو فقیر صحابہ کے حقوق کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو واقعہ پیش آیا، اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے، کیونکہ سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے تبرے کا مطلب یہ تھا کہ ابوسفیان کو مشرف باسلام ہونے سے پہلے قتل ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ یہ تبرہ اتنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اب سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ

فقراء مساکین کی فضیلت اور ان سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دلانے کا بیان

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فقیر مؤمن جنت میں غنی مسلمانوں سے چار سو سال پہلے داخل ہوں گے۔“ میں نے کہا: حسن تو چالیس برسوں کا ذکر کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے اصحاب رسول کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو چار سو سال کی بات کی ہے، یہاں تک کہ غنی آدمی کہے گا: کاش میں بھی بہت زیادہ محتاج ہوتا۔“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ان فقیروں کی صفات بیان کر دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ان کو بھیجا جاتا ہے، لیکن جب غنیمت کی باری آتی ہے تو اوروں کو روانہ کیا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو (وڈیروں کے) دروازوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔“

(۹۳۱۸)۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ أَبِي الْحَوَارِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ)) قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَذْكُرُ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَقَالَ: عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَرْبَعِمِائَةِ عَامٍ)) قَالَ: حَتَّى يَقُولَ الْغَنِيُّ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَيْلًا)) قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا سَمِعَهُمْ لَنَا بِأَسْمَائِهِمْ؟ قَالَ: ((هُمْ الَّذِينَ إِذَا كَانَ مَكْرُوهٌ، بَعُثُوا لَهُ، وَإِذَا كَانَ مَغْنَمٌ بُعِثَ إِلَيْهِ سِوَاهُمْ، وَهُمْ الَّذِينَ يُحِبُّونَ عَنِ الْأَبْوَابِ)) (مسند احمد: ۲۳۴۹۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فقراء مسلمان، مالدار مسلمانوں سے نصف یوم یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

(۹۳۱۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ)) (مسند احمد: ۸۵۰۲)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اہل جہنم اور اہل جنت کے بارے میں بتلا نہ دوں؟ جنتی لوگ یہ ہیں: ہر کمزور، جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، پرانگندہ بالوں والا اور دو بوسیدہ پرانے کپڑوں والا، (لیکن

(۹۳۲۰)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَكُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ أَشَعَثَ ذِي طَمْرِينٍ لَوْ

(۹۳۱۸) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف زید ابی الحواری (انظر: ۲۳۱۰۳)

(۹۳۱۹) تخریج: اسنادہ حسن (انظر: ۸۵۲۱)

(۹۳۲۰) تخریج: صحیح لغیرہ أخرجه ابو یعلی: ۳۹۸۷ (انظر: ۱۲۴۷۶)

اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی وقعت والا ہے کہ) اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ بھی اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور جہنمی لوگ یہ ہیں: ہر بد مزاج (و بد خلق)، اکڑ کر چلنے والا، بہت زیادہ مال جمع کرنے والا اور بہت زیادہ بخل کرنے والا اور دوسرے لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں۔“

فوائد:..... غریب اور گوشہ نمول میں رہنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن کو معاشرے میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں ہوتا، وہ مغلوب اور بے بس ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کو وقعت نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہوتے ہیں۔ نیز اس حدیث میں بد خلقی و بد مزاجی، غرور و گھمنڈ، بڑائی و تکبر، شہرت و ناموری، مال و دولت اور کنجوسی و بخیلی کی مذمت کی گئی ہے اور ان صفات کے حاملین کو دوزخی کہا گیا ہے۔

(۹۳۲۱)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّخْدِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ بَعْضَنَا لَيَسْتَسِرُّ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرَى، وَقَارِيءٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَنَحْنُ نَسْمَعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَعَدَ فِينَا لِيَعُدَّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ، فَكَفَّ الْقَارِيءُ، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟)) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ قَارِيءٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا كِتَابَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَحَلَقَ بِهَا يَوْمِيءُ إِلَيْهِمْ: ((أَنْ تَحَلَّقُوا)) فَاسْتَدَارَتِ الْحَلْقَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي، قَالَ: فَقَالَ: ((أَبَشِرُوا يَا مَعْشَرَ الصَّعَالِيكِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ)) (مسند احمد: ۱۱۶۲۶)

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں انصاریوں کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، صورتحال یہ تھی کہ پردہ کرنے کے لیے بعض لوگ بعض کی اوٹ میں چھپ رہے تھے اور ایک قاری ہم پر تلاوت کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، تاکہ اپنے نفس کو ان میں شمار کروائیں، پس قاری نے تلاوت بند کر دی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کیا کہہ رہے تھے؟“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارا ایک قاری ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے حلقہ بنایا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”اس طرح حلقہ بنا لو۔“ پس لوگ گھوم کر حلقے میں بیٹھ گئے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا، بہر حال آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے فقیروں کی جماعت! خوش ہو جاؤ، تم مالدار لوگوں سے نصف دن یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو گے۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ذر! دیکھ، مسجد میں کون آدمی سب سے زیادہ رفعت والا ہے؟“ وہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا، اچانک ایک آدمی نظر آیا، اس نے عمدہ پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی، میں نے کہا: یہ ہے، پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”اب دیکھ، مسجد میں کون سا آدمی سب سے کم درجہ ہے؟“ میں نے دیکھا، ایک آدمی نے چوتھڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا: جی یہ ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ (کم درجہ) آدمی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس (رفعت والے) زمین بھر افراد سے بہتر ہوگا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جنت میں جھانکا، پس وہاں کے اکثر لوگوں کو فقیر دیکھا، پھر جب میں نے جہنم میں جھانکا تو وہاں کے اکثر لوگوں کو مالدار اور عورتیں پایا۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! غنی لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس طرح وہ اجر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم بھی روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور حج کرتے ہو۔“ میں نے کہا: جی وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیری اندر بھی صدقہ کی صورتیں موجود ہیں، مثلاً راستے سے ہڈی ہٹا

(۹۳۲۲)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! انظُرْ أَرَفَعَ رَجُلِي فِي الْمَسْجِدِ)) فنظرتُ فإذا رجلٌ نعليه حلةٌ، قال: قلتُ: هَذَا؟ قال: قال لي: ((انظر أَوْضَعَ رَجُلِي فِي الْمَسْجِدِ)) قال: فنظرتُ فإذا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخْلَاقٌ، قال: قلتُ هَذَا، قال: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا)) (مسند احمد: ۲۱۸۲۵)

(۹۳۲۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَالنِّسَاءَ)) (مسند احمد: ۶۶۱۱)

(۹۳۲۴)۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ يُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، وَيَحُجُّونَ، قَالَ: ((وَأَنْتُمْ تَصُومُونَ وَتُصَلُّونَ وَتَحُجُّونَ)) قلتُ: يَتَصَدَّقُونَ وَلَا تَتَصَدَّقُ، قَالَ: ((وَأَنْتَ فَيْتُ صَدَقَةٌ، رَفَعَكَ الْعَظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَهَدَايَتِكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ،

(۹۳۲۲) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۲۲۲ / ۱۳، والبزار: ۳۹۷۹ (انظر: ۲۱۴۹۳)

(۹۳۲۳) تخریج: حدیث صحیح دون قولہ "الاعنیاء"، أخرجه ابن حبان: ۷۴۸۹ (انظر: ۶۶۱۱)

(۹۳۲۴) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البیهقی: ۸۲ / ۶، وفي "الشعب": ۷۶۱۹، وأخرجه بنحوہ الترمذی: ۱۹۵۶ (انظر: ۲۱۳۶۳)

دینا صدقہ ہے، راستے کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، زائد طاقت کے ساتھ کمزور کی مدد کر دینا صدقہ ہے، واضح الفاظ ادا نہ کر سکنے والے کی طرف سے وضاحت کر دینا صدقہ ہے اور اپنی بیوی سے جماع کر لینے میں صدقہ ہے۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی شہوت کو پورا کریں اور اس میں ہمارے لیے اجر بھی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا یہ بتلا کہ اگر تو اس عضو خاص کو حرام کام پر لگا دے تو کیا تو گنہگار ہوگا؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تم شتر سے بیخ کر ثواب کی نیت کرتے ہو، اور کہ خیر والا کام کر کے ثواب کی نیت نہیں کرتے۔“

سیدنا ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی محتاجی کی شکایت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابوسعید! صبر کرو، کیوں جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف فقر وفاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، جیسے سیلاب (کا ریلہ) وادی کی بلندی سے اور پہاڑ کی چوٹی سے پستی کی طرف بڑھتا ہے۔“

وَعَوْنُكَ الضَّعِيفَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ صَدَقَةٌ، وَبَيَانُكَ عَنِ الْأَرْثَمِ صَدَقَةٌ، وَمُبَاضَعَتُكَ أَمْرًا تَكُ صَدَقَةً.))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَأْتِي شَهَوَاتِنَا وَنُوجِرُ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ جَعَلْتَهُ فِي حَرَامٍ أَكَانَ تَأْتِمُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَتَحْتَسِبُونَ بِالْشَّرِّ، وَلَا تَحْسِبُونَ بِالْخَيْرِ.)) (مسند احمد: ۲۱۶۹۰)

(۹۳۲۵)۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَكَاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اضْبِرْ أَبَا سَعِيدٍ! فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ.)) (مسند احمد: ۱۱۳۹۹)

فوائد:..... سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا: بیشک میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ((اسْتَعِدَّ لِلْفَاقَةِ.)) ”تو پھر فقر وفاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔“ (مسند بزار: ۳۵۹۵/۲۲۹/۴ ص ۲۸۲)

نبی کریم ﷺ کے اولین پیروکاروں میں غریب اور فقیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اہل کتاب کے مذہبی ادب سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء و رسل کی اطاعت کرنے والوں کا حال بھی یہی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک آپ ﷺ سے سچی محبت کرنے والوں کی اکثریت فقر وفاقہ اور غربت و افلاس میں مبتلا رہی۔

قارئین کرام! بلا شک و شبہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس نعمت کے تقاضے پورے نہیں کیے اور یہی دولت ان کے لیے اسلام سے غفلت برتنے کا سبب بن گئی اور ان کے مزاج تبدیل ہو گئے اور علم

شریعت سے جاہل ہونے کے باوجود اسلام کو اپنی مرضی اور سہولت پسندی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، طویل طویل سفر کیے، علم شریعت کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا، قرآن مجید کو سمجھنے، اسے یاد کرنے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے خوب تگ و دو کی اور نبی کریم ﷺ کی سنتوں کا عملی اور علمی دفاع کیا، چشم فلک گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کثیر تعداد کا تعلق غریبوں سے رہا ہے۔ اگر آج بھی جائزہ لیا جائے تو جو لوگ جہاد کرنے، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے، شرعی تعلیمات کی تبلیغ کرنے، قرآن مجید حفظ کرنے، مساجد کی صفائی کرنے اور ان میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں ادا کرنے اور خلقِ خدا کی خدمت کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، ان کی اکثریت کا تعلق غربت سے ہے۔

ذہن نشین رہے کہ ہم کسی مخصوص امیر یا غریب فرد پر نہیں، بلکہ ماحول پر بحث کر رہے ہیں۔ بہر حال یہ ایسے حقائق ہیں، جو سونے کا بیج لے کر پیدا ہونے والے کے لیے ناقابل تسلیم ہیں۔

(۹۳۲۶)۔ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ)) وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ: ((أَنَّ أَصْحَابَ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَةٌ مَن يَدْخُلُهَا النِّسَاءُ)) (مسند احمد: ۲۲۱۲۵)

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، پس دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والوں میں عام لوگ مساکین تھے اور مرتبے والوں کو (جنت سے باہر) روک لیا گیا تھا، البتہ جہنمیوں کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے، پھر میں آگ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والوں میں سے عام خواتین تھیں۔“

(۹۳۲۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) (مسند احمد: ۲۰۸۶)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جنت میں جھانکا اور اس میں فقراء کی اکثر تعداد دیکھی، پھر میں نے آگ میں اوپر سے دیکھا اور اس میں اکثر تعداد عورتوں کی دیکھی۔“

(۹۳۲۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۱۹۶، ۶۵۴۷، ومسلم: ۲۷۳۶ (انظر: ۲۱۷۸۲)

(۹۳۲۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۳۷، وعلقه البخاری: ۶۴۴۹ (انظر: ۲۰۸۶)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو مومن جنت کے دروازے پر ملیں گے، ایک مالدار ہوگا اور دوسرا فقیر، وہ دنیا میں دوست ہوں گے، پس فقیر کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور مالدار کو اتنی دیر کے لیے روک لیا جائے گا، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ فقیر اس کو ملے گا تو وہ کہے گا: اے میرے بھائی! کس چیز نے تجھے روک لیا تھا؟ اللہ کی قسم! تجھے اتنی دیر کے لیے روکا گیا کہ مجھے تو تیرے بارے میں ڈر محسوس ہونے لگا، وہ کہے گا: اے میرے بھائی! مجھے تیرے بعد ایسی جگہ پر روک لیا گیا، جو بڑی ہولناک اور مکروہ تھی اور تیرے پاس پہنچنے تک مجھ سے اس قدر پسینہ نکلا کہ اگر ”حمض“ پودا کھانے والے ایک ہزار اونٹ اس کو پینے کے لیے آتے تو وہ سیراب ہو کر واپس جاتے۔“

(۹۳۲۸)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ، وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ، كَانَا فِي الدُّنْيَا، فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ، وَحُبَسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فَلَقِيَ الْفَقِيرَ، فَيَقُولُ: أَيُّ أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ احْتَبَسْتَ حَتَّى حَفِنْتُ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ: أَيُّ أَخِي، إِنِّي حُبَسْتُ بَعْدَكَ مَحْبَسًا فَظِيمًا كَرِيهًا، وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ، حَتَّى سَأَلْتُ مِنَ الْعَرَفِ، مَا لَوْ وَرَدَهُ أَلْفُ بَعِيرٍ، كُلُّهَا آكَلَتْهُ حَمَضٌ، لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوَاءٌ...)) (مسند احمد: ۲۷۷۰)

فوائد: ”حمض“: یہ ایک ساق پر کھڑا ہونے والا نمکین اور ترش پودا ہوتا ہے اور مویشیوں کے لیے ایسے ہی خوش گوار چارہ ہوتا ہے، جیسے انسان کے لیے پھل، یہ پودا کھانے سے جانوروں کو پیاس لگتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس باب میں مذکورہ احادیث پر غور کیا جائے، ان میں کسی خاص فقیر اور کسی خاص امیر کو موضوع نہیں بنایا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ مال و دولت ایک نعمتِ عظمیٰ ہے، لیکن اس نعمت کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل کام ہے اور عملی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جوں جوں سرمایہ بڑھتا جائے گا، مزاج میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کسی کی رائے کی روشنی میں نہیں، شرعی نصوص کی روشنی میں کیا جائے گا کہ سرمایہ دار پر کون کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں، صرف ایک مثال پر غور کریں:

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فضیلت والے امتی ہیں، عظمت و منقبت میں سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، دوسرا نقطہ ذہن نشین کریں کہ سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ بیس اکیس سالہ اسلام دشمنی کے بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن یہ بھی اللہ کریم کا فضل ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہو

(۹۳۲۸) تخریج: اسنادہ ضعیف، دوید مجہول، وسلم بن بشیر، قال الحسيني: مجهول، وقال ابن معين: ليس به بأس (انظر: ۲۷۷۰)

گئی، ہر مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو بطور صحابی قبول کرے، لیکن جب سیدنا سلمان، سیدنا مسیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی اسلام دشمنی اور اذیتوں کو سامنے رکھ کر یہ تبصرہ کیا کہ ”اللہ کے دشمن کی گردن اتارنے میں اللہ کی تلواروں نے اپنا حق ادا نہیں کیا“، ان کی مراد یہ تھی کہ ابوسفیان قبولیتِ اسلام سے پہلے قتل ہو جاتا تو بہتر تھا، حقیقت میں تو یہ تبصرہ شرعی اصولوں کے مطابق مناسب نہیں تھا، اسی بنا پر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان فقیر صحابہ سے صرف یہ کہا کہ ”کیا تم یہ بات قریش کے بزرگ اور سردار کے بارے میں کہتے ہو (کچھ تو خیال کرو)؟“ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات انتہائی مناسب تھی، لیکن نبی کریم ﷺ نے فقیر صحابہ کا خیال کر کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وعید سناتے ہوئے یوں خطاب فرمایا: ”اے ابو بکر! شاید تو نے ان کو ناراض کر دیا ہو اور اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو میرا رب بھی تجھ پر ناراض ہو جائے گا۔“ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی طرف لوٹے اور کہا: اے ہمارے بھائیو! شاید تم گھٹ سے ناراض ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں، اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تجھ کو بخش دے۔

اس حدیث مبارکہ میں صرف اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ کہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ فقیروں اور غریبوں کے حقوق کیسے ہیں۔ کیا آج ان کی ادائیگی کی جارہی ہے؟ صرف صدقہ و خیرات کرنے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا، صدقہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بڑا کرتے تھے، ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں رہا، ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے باعثِ ناز نہیں سمجھتے، اسلام صرف نماز کی ادائیگی اور حج و عمرہ کے سفروں کا نام نہیں ہے، اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دل کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کر کے اس میں ایسی طہارت لانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر اسلامی حکم کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

لیکن ہائے افسوس! ہمارے معاشرے میں احترام و اکرام، مؤدّت و محبت اور دوستی و یاری کا معیار کسی کا ایمان و ایقان اور اسلام و استسلام نہیں رہا، بلکہ ہم یا تو اپنے بڑوں کی یاریوں کو برقرار رکھیں گے یا پھر کسی کے مال و منال اور جاہ و منصب کو کوٹنی بنائیں گے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی و بد حالی میں مبتلا لوگوں سے ملاقات کرتے وقت تو ہمارے چہروں پر منکراہٹ کا اظہار نہیں ہو سکتا، لیکن جب کوئی دنیا دار اور جاگیر دار ہمارے گھر کا رخ کرے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے تو گلاب کی پیتاں بکھیر دی جائیں گی،

پر تکلف انداز اختیار کیا جائے گا اور حیثیت سے بڑھ کر اس کی ضیافت کی جائے گی۔ بہر حال ایسا کرنا کسی انسان کا بحیثیت انسان کوئی کمال نہیں ہے، بحیثیت مسلمان تو کجا۔

بَابُ فِي ذِكْرِ قِصَّةِ الرَّجُلِ وَرَوْجَتِهِ الْفَقِيرَيْنِ الْمُتَعَفِّفَيْنِ وَمَا كَرَّمَهُمَا اللَّهُ بِهِ
فقیر لیکن سوال سے بچنے والے میاں بیوی کے قصے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی گئی تکریم کا بیان
(۹۳۲۹)۔ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَيِّدُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ مَرَدِيَّ، وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ: غَزَرَ هُوَ

زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے، (یعنی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی)، ایک دن وہ آدمی سفر سے واپس آیا اور اپنی بیوی پر داخل ہوا، جبکہ وہ سخت بھوک میں مبتلا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا: کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، خوش ہو جاؤ، بس ابھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رزق آیا، پھر اس شخص نے اس خاتون کو ترغیب دلائی اور کہا: تو ہلاک ہو جائے، اگر تیرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ پیش کر؟ اس نے کہا: جی بالکل، لیکن تھوڑی دیر، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، لیکن پھر جب بھوک کا وقفہ زیادہ ہوا تو اس نے کہا: اوتو مر جائے، کھڑی ہو، کوئی روٹی تلاش کر کے میرے سامنے پیش کر، میں تھک چکا ہوں اور مجھ پر مشکل بن رہی ہے، اس نے کہا: جی ابھی تنور کھانے پکانے کے قابل ہوتا ہے، جلدی نہ کرو، پھر جب خاوند تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور اس عورت نے سمجھا کہ وہ پھر بات کرے گا تو اب کی بار وہ خود سے ہی کہنے لگی کہ اگر میں کھڑی ہو کر اپنے تنور کو دیکھ ہی لوں (کیا پتہ کہ واقعی اس میں کوئی چیز پک رہی ہو)، پس وہ اٹھی اور اپنے تنور کو اس حال میں پایا کہ وہ بکری کی دستیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی دونوں چکیاں غلہ پیس رہی تھیں، پس وہ چکی کی طرف گئی اور اس کا جائزہ لیا اور تنور سے بکری کی دستیاں نکالیں۔“ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اللہ کے رسول محمد ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”اگر وہ دونوں چکیوں سے آٹا نکال لیتی اور ان کا جائزہ نہ لیتی تو وہ قیامت کے دن تک غلہ پیستی رہتیں۔“

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَهُ فِي السَّلْفِ الْخَالِي لَا يَقْدِرَانِ عَلَى شَيْءٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ جَائِعًا قَدْ أَصَابَتْهُ مَسْغَبَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَعِنْدِكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَبَشِرْ أَتَاكَ رِزْقُ اللَّهِ، فَاسْتَحْتَهَا فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِبْتِغِي إِنْ كَانَ عِنْدِكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُنِيئَةٌ نَرَجُو رَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الطَّوِيُّ قَالَ: وَيْحَكَ فُومِي فَابْتِغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خُبْزٌ فَأَتَيْتَنِي بِهِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ وَجَهْدْتُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، الْآنَ يَنْضِجُ التَّنُورُ فَلَا تَعْجَلْ، فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا سَاعَةً وَتَحَيَّنَتْ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ لَهَا، قَالَتْ هِيَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا لَوْ قُمْتُ فَنَظَرْتُ إِلَى تَنُورِي، فَقَامَتْ فَوَجَدَتْ تَنُورَهَا مَلَأَى جُنُوبَ الْغَنَمِ، وَرَحِييَهَا تَطْحَنَانِ، فَقَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَنَفَقَتْهَا وَأَخْرَجَتْ مَا فِي تَنُورِهَا مِنْ جُنُوبِ الْغَنَمِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ((لَوْ أَخَذْتُ مَا فِي رَحِييَهَا وَلَمْ تَنْفُضْهَا، لَطَحَحْتَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: 9445)

(دوسری سند) راوی کہتا ہے: ایک آدمی اپنے اہل کے پاس آیا، جب اس نے ان کی حاجت کو دیکھا تو وہ دوسری مخلوق کی طرف نکل گیا، جب اس کی بیوی نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کو سیدھا کیا اور تنور کی طرف جا کر اس کو آگ لگائی اور پھر کہا: اے اللہ! ہمیں رزق دے، پس اس نے دیکھا کہ شب بھرا ہوا ہے، پھر اس نے تنور کی طرف دیکھا تو وہ بھی بھرا ہوا ہے، ادھر سے جب خاوند لوٹا تو اس نے کہا: کیا میرے جانے کے بعد کوئی چیز ملی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے (بہت کچھ مل گیا ہے)۔ پھر وہ چکی کی طرف گیا اور..... جب یہ بات نبی کریم ﷺ کے لیے ذکر کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ اس کو نہ اٹھاتا تو وہ قیامت کے دن تک چلتی رہتی۔“ میں نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھا، جب آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! اگر تم میں سے کوئی آدمی درختوں کی شاخیں اٹھا کر لائے اور ان کو بیچ کر سوال سے بیچ جائے تو یہ عمل اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے۔“

فوائد:..... اس حدیث کا درج ذیل آخری جملہ دوسرے شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔

”اللہ کی قسم! اگر تم میں سے کوئی آدمی درختوں کی شاخیں اٹھا کر لائے اور ان کو بیچ کر سوال سے بیچ جائے تو یہ عمل

اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے۔“

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْغِنَى الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

نیک آدمی کے لیے مناسب غنی کی ترغیب کا بیان

(۹۳۳۱)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي

عبداللہ بن حبیب کے چچے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تخریج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابى بكر بن عياش، فمن رجال البخارى، وهو له اغاليط نص عليه بعض اهل العلم، منهم الامام احمد، وهذا الحديث قد تفرد به، وقد سلف الحديث الان بالطريق الاول، أخرجه البزار: ۳۶۸۷، والطبرانی في "الوسط": ۵۵۸۴ (انظر: ۱۰۶۵۸) (۹۳۳۱) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابن ماجه: ۲۱۴۱ (انظر: ۲۳۱۵۷)

بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ ﷺ کے سر پر پانی کا اثر تھا، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ طیب النفس اور خوش گوار نظر آ رہے ہیں، آپ ﷺ فرمایا: ”جی ہاں۔“ پھر لوگ غنی کی باتوں میں مصروف ہو گئے، جن کو سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس شخص کے لیے غنی میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے غنی کی بہ نسبت صحت بہتر ہے اور طیب النفس ہونا بھی نعمتوں میں سے ہے۔“

مَجْلِسٍ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثْرُ مَاءٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، قَالَ: ((أَجَلْ-)) قَالَ: ثُمَّ خَاصَّ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ، وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ-)) (مسند احمد: ۲۳۵۴۵)

فوائد:..... تقویٰ پر ہیزگاری کے بغیر مالداری ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہر کوئی سرمایہ دار ہونے کو اعزاز اور کامیابی کی علامت سمجھتا ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل بات ہے۔

اسلام اور ہدایت جیسے عظیم احسانات کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، باقی تمام نعمتیں اس کے تابع ہیں، اس

لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ”اپنے کپڑے پہن کر اور اسلحہ لے کر میرے پاس پہنچو۔“ پس میں آپ ﷺ کے پاس پہنچ گیا، جبکہ آپ ﷺ وضو کر رہے تھے، آپ ﷺ نے میری طرف اپنی نگاہ کو بلند کیا اور پھر جھکایا اور فرمایا: ”میں تجھے فلاں لشکر پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں، پس اللہ تعالیٰ تجھے سالم رکھے گا اور غنیمت بھی عطا کرے گا اور میں تیرے لیے اچھے خاصے مال کی رغبت رکھتا ہوں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں مال کی وجہ سے تو مسلمان نہیں ہوا، میں نے اسلام کی رغبت اور آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمرو! نیک آدمی کے لیے مناسب مال بہترین چیز ہے۔“

(۹۳۳۲)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ أَتِنِي-)) فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِي النَّظَرِ ثُمَّ طَأَطَأَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَأَرْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً-)) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَسَلَّمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسَلَّمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((يَا عَمْرُو! نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الْفَاضِلِ-)) (مسند احمد: ۱۷۹۱۵)

(۹۳۳۲) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابویعلی: ۷۲۳۶، وابن حبان: ۳۲۱۰، والطبرانی فی ”الاوسط“: ۳۲۱۳، والحاکم: ۲ / ۲۳۶ (انظر: ۱۷۷۶۳)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی رشک نہیں ہے، مگر دو آدمیوں پر، ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اس کو حق میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق دی ہو، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی سے نوازا ہو تو وہ اور اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہنو، بس تکبر اور اسراف نہیں ہونا چاہیے۔“

(دوسری سند) اسی طرح کی روایت ہے، البتہ آخر میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: ”بیشک اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔“

ابو الاحوص کے باپ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں نے ایک یادو چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، ایک روایت میں ہے: آپ ﷺ نے مجھے پرانگندہ حالت دیکھا اور پھر پوچھا: ”کیا تیرے پاس مال ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھوڑے، اونٹ، بھیڑ بکریاں اور غلام، ہر قسم کا مال دے رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا ہو

(۹۳۳۳)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ)) (مسند احمد: ۴۱۰۹)

(۹۳۳۴)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((كُلُّوْا، وَاشْرَبُوْا، وَتَصَدَّقُوْا، وَابْسُوْا غَيْرَ مَخِيْلَةٍ وَلَا سَرْفٍ)) وَقَالَ يَزِيْدُ مَرَّةً: ((فِي غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ)) (مسند احمد: ۶۶۹۵)

(۹۳۳۵)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ بِنَحْوِهِ) وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ ”وَلَا سَرْفٍ“ ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ)) (مسند احمد: ۶۷۰۸)

(۹۳۳۶)۔ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ، أَوْ شَمْلَتَانِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَرَأَيْتُ رَثَّ الْهَيْئَةِ) فَقَالَ لِي: ((هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مَالٍ مِنْ خَيْلِهِ وَإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيْقِهِ، فَقَالَ: ((فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَبْرَ

(۹۳۳۳) تخريج: أخرجه البخاری: ۷۳، ۱۴۰۹، ومسلم: ۸۱۶ (انظر: ۴۱۰۹)

(۹۳۳۴) تخريج: اسنادہ حسن، أخرجه الترمذی: ۲۸۱۹، وابن ماجه: ۳۶۰۵، والنسائی: ۵/۷۹، وعلقه البخاری فی اول کتاب اللباس (انظر: ۹۳۳۵)

(۹۳۳۵) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۳۳۶) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ۴۰۶۳، والنسائی: ۸/۱۸۰ (انظر: ۱۵۸۹۲)

عَلَيْكَ نِعْمَتُهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَرِ اثْرَ نِعْمَتِهِ
السُّلَّةُ عَلَيْكَ) فَرُحْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ (وَفِي
رِوَايَةٍ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ).
ہے تو پھر اس کو تجھ پر اس کی نعمت کا کوئی اثر بھی نظر آتا
چاہیے۔“ پھر جب میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا تو میں
نے سرخ رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔

(مسند احمد: ۱۵۹۸۲)

فوائد:..... خالص اور انتہائی سرخ سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے، لہذا اس پوشاک کے سرخ ہونے سے

مراد ہلکا سرخ ہے، یا وہ جس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ بھی ہو۔

(۹۳۳۷)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ)۔ أَنَّ أَبَاهُ آتَى
النَّبِيَّ وَهُوَ أَشْعَثُ سَيِّءِ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ لَهُ:
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمَا لَكَ مَالٌ؟)) قَالَ: مِنْ
كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: ((فَإِنَّ
اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ
تُرَى عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ۱۵۹۸۷)

(دوسری سند) جب ابو الاحوص کا باپ نبی کریم ﷺ کے
پاس آیا تو وہ پراگندہ اور رڈی حالت میں تھا، آپ ﷺ نے
فرمایا: ”کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟“ اس نے کہا: جی اللہ
تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوا ہے، آپ ﷺ نے
فرمایا: ”پس بیشک جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت کرتا
ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس پر اس نعمت کا اثر نظر آئے۔“

فوائد:..... بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، ملاحظہ ہو حدیث نمبر (۹۳۳۹)

(۹۳۳۸)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: قَيْدُ اللَّهِ
الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطَى الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ
السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطَيْنَ الْفَضْلَ
وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ)) (مسند احمد:
۱۷۳۶۴)

ابو الاحوص کے باپ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”ہاتھ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ،
جو سب سے بلند ہے، دوسرا خرچ کرنے والے کا ہاتھ، اس کا
مقام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نیچے ہے اور تیسرا سوالی کا ہاتھ، جو
سب سے نیچے ہے، پس تو ضرور ضرور زائد مال خرچ کر دے
اور اپنے نفس سے عاجز نہ آ جا۔“

(۹۳۳۹)۔ عَنْ مَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
((كَانَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا وَيَقُولُ: هُوَ لِأَيِّ الْكَلِمَاتِ
قَلَّمَا يَدْعُهُنَّ أَوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمُعِ

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما جب نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث بیان
کرتے تھے تو زیادہ تر یہ بھی بیان کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا
ہے، اس کو دین میں فقہ عطا کر دیتا ہے اور یہ مال و دولت

(۹۳۳۷) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۳۳۸) تخريج: اسنادہ صحیح، أخرجه ابوداود: ۱۶۴۹ (انظر: ۱۷۲۳۲)

(۹۳۳۹) تخريج: اسنادہ صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۳۷۴۳ (انظر: ۱۶۸۴۶)

شیریں اور سرسبز و شاداب یعنی پرکشش ہے، پس جو شخص اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی اور ایک دوسرے کی تعریف سے بچو، کیونکہ یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے۔“

(وفی رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُقِفْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوٌ خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُذْهُ بِحَفْهِ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادِحَ فَإِنَّهُ الدَّنْبُحُ.)) (مسند احمد: ۱۶۹۷۱)

فوائد:..... مسند احمد محقق کے لحاظ سے حدیث کی ابتدائی عبارت کا مفہوم یہ واضح ہوتا ہے: معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے کم ہی کچھ بیان کرتے تھے اور جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث کم ہی بیان کرنا چھوڑتے تھے..... (عبداللہ رفیق)

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ ان کا بھائی عمر اپنے باپ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جبکہ وہ مدینہ منورہ سے باہر اپنی بکریوں میں تھے، جب انھوں نے اس کو دیکھا تو کہا: میں اس سوار سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جب وہ آیا تو کہا: ابو جان! کیا آپ اپنے بکریوں میں بدو بن جانے پر راضی ہو گئے، لوگ تو مدینہ منورہ میں بادشاہت کے مسئلے پر لڑ رہے ہیں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا: خاموش ہو جا، بیشک میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”بیشک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، جو متقی، غنی اور گنہگار ہو۔“

(۹۳۴۰)۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَخَاهُ عُمَرَ انْطَلَقَ إِلَى سَعْدٍ فِي غَنَمٍ لَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا رَأَى سَعْدًا قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّأِيبِ، فَلَمَّا آتَاهُ قَالَ: يَا أَبَتِ، أَرَضِيتَ أَنْ تَكُونَ أَعْرَابِيًّا فِي غَنَمِكَ، وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُونَ فِي الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ! فَضَرَبَ سَعْدٌ صَدْرَ عُمَرَ، وَقَالَ: اسْكُتْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ)) (مسند احمد: ۱۴۴۱)

فوائد:..... غنی سے مراد نفس کا غنی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ مالدار ہو، جس کے مال نے اس کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کیا ہو۔

(دوسری سند) سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور انھوں نے اس سے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! کیا تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں فتنے کا سردار بن جاؤں، نہیں، اللہ کی قسم! نہیں، یہاں تک کہ مجھے ایسی تلوار دی جائے

(۹۳۴۱)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَهُ ابْنُهُ عَامِرٌ فَقَالَ: أَيُّ بَنِي أَفِي الْفِتْنَةِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَكُونَ رَأْسًا! لَا وَاللَّهِ! حَتَّى أُعْطَى سَيْفًا إِنْ

(۹۳۴۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۶۵ (انظر: ۱۴۴۱)

(۹۳۴۱) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

کہ اگر میں اس کو مومن پر چلاؤں تو وہ اس سے ہٹ جائے اور اگر کافر پر چلاؤں تو اس کو قتل کر دے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”بیشک اللہ تعالیٰ غنی، گناہ اور متقی بندے کو پسند کرتا ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غنی کا تعلق زیادہ مال و دولت اور ساز و سامان سے نہیں ہے، غنی تو نفس کا غنی ہوتا ہے۔“

(دوسری سند) اسی طرح کی روایت ہے، البتہ یہ الفاظ زیادہ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! مجھے تمہارے بارے میں فقیری کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو کثرتِ مال کا ڈر ہے۔“ ایک روایت میں ہے: ”مجھے تمہارے بارے میں بلا ارادہ غلطی کرنے کا ڈر نہیں ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنے کا ڈر ہے۔“

فوائد: اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ فقر کی مضرت، غنی کی مضرت سے زیادہ ہے، کیونکہ فقیری سے صرف دنیا کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ غنی کا ضرر دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اس گزارش کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اکثر و بیشتر مالدار لوگوں کا مال ان کو اللہ تعالیٰ اور موت سے غافل کر دیتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتے ہیں اور فقراء و مساکین پر شفقت کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ فقیری بھی اس آدمی کے لیے مفید ہے جو صبر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر شریعت کے احکام کا لحاظ رکھنے والا ہو۔

اگر دنیوی مال و دولت کے ساتھ دینی تعلیمات کی روشنی میں تقویٰ و پرہیزگاری کی نعمت مل جائے تو پھر سرمایہ امور خیر کا سبب بن جائے گا، درج بالا تمام احادیث مبارکہ کا مفہوم درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((اِنَّمَا الدُّنْيَا لَارْبَعَةَ نَفَرٍ، عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ، قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ..)) قَالَ: ((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا..))

(۹۳۴۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطحاوی فی ”مشکل الآثار“: ۶۰۵۲ (انظر: ۹۶۴۷)

(۹۳۴۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، وانظر الحدیث بالطریق الأول

قَالَ: فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: ((فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ..)) قَالَ: ((وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرِزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخِيطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَتَهُ، وَلَا يَعْلَمُ فِيهِ لِلَّهِ حَقَّهُ، فَهَذَا أَخْبَثُ الْمَنَازِلِ..)) قَالَ: ((وَعَبْدٌ لَمْ يَرِزُقْهُ اللَّهُ نَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِيَ نَيْتُهُ..)) ”دنیا صرف پارافراد کے لیے ہے، (۱) وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی اور وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اس سے متعلقہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہنچاتا ہے، یہ آدمی سب سے افضل منزلت والا ہے، (۲) وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، پس وہ نیک خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح نیک کام کرتا، ان دونوں کا اجر برابر ہے، (۳) وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، علم نہیں دیا، پس وہ اپنے مال کو بے تکا اور بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتا ہے اور اس کے بارے میں نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس سے متعلقہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پہنچاتا ہے، یہ آدمی سب سے گھٹیا مرتبے والا ہے، اور (۴) وہ آدمی جس کو نہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور نہ علم، لیکن اس گھٹیا آدمی کے کردار کو سامنے رکھ کر کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح کے کام کرتا، یہ اس کی نیت ہے۔“ (ترمذی: ۲۳۲۵، مسند احمد: ۱۸۰۳۲)



كِتَابُ الصَّبْرِ وَ التَّرْغِيبِ فِيهِ وَمَا أَعَدَّهُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ

مِنَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ وَالْفَضْلِ الْجَسِيمِ

صبر، اس کی ترغیب، صابر کے لیے اللہ تعالیٰ کے تیار کیے ہوئے

اجرِ عظیم اور فضل کثیر کے مسائل

بَابُ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الصَّالِحُونَ

اس چیز کا بیان کہ انبیاء سب سے زیادہ آزمائش والے ہوتے اور پھر دوسرے نیکوکار

(۹۳۴۴)۔ عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، رضی اللہ عنہ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: ((الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مِثْلَ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ فِي دِينِهِ رِقَةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)) (مسند احمد: ۱۴۸۱)

سیدنا سعد بن ساعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انبیائے کرام اور پھر دوسرے نیکوکار، اور پھر وہ جو دوسروں سے افضل اور بہتر ہو، دراصل آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں سختی اور پابندی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جائے گی اور اگر اس کے دین میں نرمی اور سستی ہوگی تو اس کی آزمائش میں بھی ہلکا پن آجائے گا اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ روئے زمین پر

چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔“

(۹۳۴۴) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الدارمی: ۲۷۸۳، والطیالسی: ۲۱۵، والبزار: ۱۱۵۵، وابن ابی

شیبہ: ۲۳۳/۳ (انظر: ۱۴۸۱)

فوائد: اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور راضی رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے، اس باب کی احادیث اور آخر

میں بیان کی گئی شرح پر غور کریں۔

(۹۳۴۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَفِي وَالدِّهِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.))

(مسند احمد: ۷۸۴۶)

(۹۳۴۶)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تَمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَهْتَرُ حَتَّى تُحْصَدَ.)) (مسند احمد: ۷۱۹۲)

(۹۳۴۷)۔ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانَ)۔ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ خَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الرِّيحُ كَفَتَتْهَا، فَإِذَا سَكَنْتِ اعْتَدَلَتْ وَكَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ بَتَكَفًا بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَاْفِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ، صَمَاءٌ مُعْتَدِلَةٌ يَقْصِمُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ.))

(مسند احمد: ۱۰۷۸۵)

برقرار رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔“

فوائد: اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ مومن اپنے نفس کو بطور عاریہ لی ہوئی ایک چیز سمجھے، اس کو لذات و شہوات سے دور رکھے، مصائب و حوادث کا محور سمجھے، نیز اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے نفس کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس طرح سے آزمائشیں اس کے حق میں بہت آسان ہو جائیں گی۔ رہا مسئلہ منافق کا تو سرے سے اس پر نازل ہونے والے امتحانات ہی کم ہوتے ہیں، تاکہ آخرت میں اس کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔

(۹۳۴۵) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الترمذی: ۲۳۹۹ (انظر: ۷۸۵۹)

(۹۳۴۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۶۴۴، ومسلم: ۲۸۰۹ (انظر: ۷۱۹۲)

(۹۳۴۷) تخریج: انظر الحديث بالطريق الأول

مومن اور منافق دونوں کے حق میں ہواؤں کی طرح آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ان سے متاثر ہونے والا اور عبرت حاصل کرنے والا صرف مومن ہوتا ہے، جب بھی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلا آپڑتی ہے تو وہ اپنے طرز حیات کا جائزہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی کہ وہ مجھے سزا دے رہا ہو۔ ہر جسمانی، ذہنی اور مالی آزمائش اس کے لیے یہی پیغام لاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو اور اس سے دور نہ ہو۔ نیز وہ ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے اور اسلامی احکام کے مطابق اس کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

لیکن منافق مضبوط تھے والے درخت کی طرح ان آزمائشوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی پروا کرتا ہے نہ اس کے عذابوں کی پروا۔ حتیٰ کہ ایک دن اچانک کوئی بڑی آفت آتی ہے، جو اس کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔

یک لخت گرا اور جڑیں تک نکل آئیں

وہ پیڑ جسے آندھی میں ہلتے نہیں دیکھا

(۹۳۴۸)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ)) (مسند احمد: ۷۲۳۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔“

(۹۳۴۹)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَطِيقُ أَنْ أَضَعَ يَدِي عَلَيْكَ مِنْ شِدَّةِ حُمَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَنَا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ، إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتَلَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لِيُتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَأْخُذَ الْعِبَاءَةَ فَيَجُوبَهَا، وَإِنْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ)) (مسند احمد: ۱۱۹۱۵)

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا ہاتھ نبی کریم ﷺ پر رکھا اور کہا: اللہ کی قسم! آپ کا بخار اس قدر تیز ہے کہ میں آپ پر ہاتھ رکھنے کی طاقت نہیں پاتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارے لیے آزمائشوں کو سخت کر دیتا ہے، انبیاء میں ایک ایسا نبی بھی تھا کہ اس کو جوؤں سے اس طرح آزمایا گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس کو قتل کر دیں، ایسے نبی بھی تھے کہ جن کو فقر و فاقہ کے ذریعے اس طرح آزمایا گیا کہ وہ چوغہ لے کر اس کو کاٹتے تھے، اور وہ انبیاء آزمائشوں کی وجہ سے اس طرح خوش ہوتے تھے، جیسے تم خوشحالی کی وجہ سے خوش ہوتے ہو۔“

(۹۳۴۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۶۴۵ (انظر: ۷۲۳۵)

(۹۳۴۹) تخریج: اسنادہ ضعیف لابہام الراوی عن ابی سعید، أخرجه ابن ماجہ: ۴۰۲۴ (انظر: ۱۱۸۹۳)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تکلیف دی گئی اور اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے بہ سبب ڈرایا گیا اور اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا اور مجھ پر ایسے تین دن بھی آئے کہ پورا دن اور رات گزر جاتے تھے، جبکہ میرے اور میرے اہل و عیال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، جس کو جاندار کھا سکے، ماسوائے اس کے جو بلال اپنی بغل میں چھپا کر لاتے تھے۔“

(۹۳۵۰)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ ، وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدْ آتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ (وَفِي رِوَايَةٍ : ثَلَاثُونَ) مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِعِيَالِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ إِلَّا مَآيُورِي إِبْطَ بِلَالٍ)) (مسند احمد: ۱۲۲۳۶)

فوائد: خاص طور پر آپ ﷺ کو تکلیف دینے کے لیے نشانہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ آپ ﷺ لوگوں کو بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، کوئی قتل کی دھمکی دیتا، کوئی سوشل بائیکاٹ کرتا، کوئی کسی سزا کی وعید سناتا۔

ابو عبیدہ اپنی پھوپھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ ﷺ کے پاس آئے، جبکہ آپ ﷺ اپنی بیویوں میں تشریف رکھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور اس کا پانی آپ ﷺ پر ٹپک رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کو بخار کی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی، بہر حال ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور وہ آپ کو شفا دے دیتا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے انبیاء ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ جو (نیکی اور تقویٰ میں) ان سے کم ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے کم ہوتے ہیں۔“

(۹۳۵۱)۔ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ نَعُوذُهُ فِي نِسَاءٍ ، فَإِذَا سِقَاءٌ مَعْلَقٌ نَحْوَهُ يَقْطُرُ مَآوُهُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنْ حَرِّ النِّحْمَى ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بِلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) (مسند احمد: ۲۷۶۱۹)

سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۹۳۵۲)۔ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : قَالَ :

(۹۳۵۰) تخريج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابن ماجه: ۱۵۱، والترمذی: ۲۴۷۲ (انظر: ۱۲۲۱۲) (۹۳۵۱) تخريج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۴/۶۲۶ (انظر: ۲۷۰۷۹) (۹۳۵۲) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۹۹۹ (انظر: ۱۸۹۳۴)

”مجھے مومن کے معاملے پر تعجب ہے، بیشک اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر پر مشتمل ہے اور یہ چیز صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اس کو خوشی ملتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی بہتری ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔“

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَجِبْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ فَشَكَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ فَصَبَرَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرًا.)) (مسند احمد: ۱۹۱۴۲)

فوائد:..... وہ مومن اس حدیث کا مصداق ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی

آزمائشوں پر صبر کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کسی نعمت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے اور اس کے حق میں عرش والے کی طرف سے کوئی صبر آزما فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيهِ رَاجِعُونَ“ پڑھے اور دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے غفلت نہ برتے۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے اس پر بڑا تعجب ہے، اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، مومن کو ہر چیز میں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی، جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔“

(۹۳۵۳)۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ، وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُوجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّقْمَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ.)) (مسند احمد: ۱۴۸۷)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ ﷺ کو تکلیف ہونے لگی، پس آپ ﷺ شکایت کرنے لگے اور اپنے بستر پر الٹ پلٹ ہونے لگ گئے، میں (عائشہ) نے کہا: اگر ہم میں سے کوئی فرد اس طرح کرتا تو آپ نے اس کی بات تو محسوس کرنی تھی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیشک نیکو کاروں پر تکلیف سخت ہوتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مومن کو جو

(۹۳۵۴)۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَجَعٌ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي بِتَقَلُّبِ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ

(۹۳۵۳) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الطيالسي: ۲۱۱، والبخاري: ۳۱۱۶ (انظر: ۱۴۸۷)

(۹۳۵۴) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه الحاكم: ۳/ ۳۹۱، والحاكم: ۱/ ۳۴۵ (انظر: ۲۵۲۶۴)

تکلیف بھی لاحق ہوتی ہے، وہ کاٹنا ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز، اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔“

سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما تا ہے، پس جو صبر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے صبر ہوگا اور جو بے صبر بنے گا، اس کے لیے بے صبری ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک ایسی خاتون کو ملا، جو جاہلیت میں زانیہ رہ چکی تھی، وہ اس سے اٹھ کھیلیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کو لگا دیا، اس پر اس عورت نے کہا: رک جا، بیشک اللہ تعالیٰ شرک اور جاہلیت کو لے گیا ہے اور ہمارے پاس اسلام کو لے آیا ہے، پس وہ آدمی چلا گیا اور واپسی پر اس کا چہرہ دیوار پر لگا اور زخمی ہو گیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتلا دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو ایسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دینے میں جلدی کرتا ہے اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، گویا کہ وہ غیر پہاڑ ہوگا۔“

نوٹ: ”عیر“ سے دو چیزیں مراد لی جاسکتی ہیں: (۱) مدینہ منورہ کا عیر پہاڑ، یا (۲) وحشی گدھا، مفہوم یہ ہے کہ ایسے فرد کے گناہوں کو جمع کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی ہلاکت کا سبب بن سکیں۔

مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ.)) (مسند احمد: ۲۵۷۷۸)

(۹۳۵۵)۔ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضی اللہ عنہ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ ، وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.)) (مسند احمد: ۲۴۰۴۱)

(۹۳۵۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْقَلٍ ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَعَلَ يُبْلَا عَمَّهَا ، حَتَّى بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَتِ الْمَرْأَةُ: مَهْ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَهَبَ بِالشَّرِكِ ، (وَقَالَ: عَفَانُ مَرَّةً) ذَهَبَ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَجَاءَنَا بِالإِسْلَامِ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ ، فَأَصَابَ وَجْهَهُ الْحَانِطُ فَشَجَّهُ ، أَسْمَ آتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: ((أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ لَكَ خَيْرًا ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوقَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ عَيْرٌ.)) (مسند احمد: ۱۶۹۲۹)

(۹۳۵۵) تخريج: اسنادہ جید (انظر: ۲۳۶۴۱)

(۹۳۵۶) تخريج: صحيح لغيره ، أخرجه ابن حبان: ۲۹۱۱ ، والحاكم: ۱ / ۳۴۹ (انظر: ۱۶۸۰۶)

(۹۳۵۷)۔ عَنْ عَائِشَةَ  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : ((إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْحُزْنِ لِيُكْفِرَهَا عَنْهُ)) (مسند احمد: ۲۵۷۵۰)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے پاس اس قدر اعمال نہیں ہوتے کہ جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو غموں کے ذریعے آزمانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ذریعے اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔“

فوائد:..... صبر کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر کرنا۔
 - ۲۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنے پر صبر کرنا۔
 - ۳۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مصائب اور آزمائشوں پر صبر کرنا۔
- اس معنی میں ہر نیکی کرنے اور ہر برائی سے بچنے کا سرچشمہ صبر ہے۔ اگر کوئی حقیقی صابر بن جائے تو اس پر تمام شرعی احکام کے تقاضے پورے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ))..... ”بندے کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو اس کے لیے صبر کی بہ نسبت زیادہ بہتر اور وسعت والی ہو۔“ (حاکم: ۴۱۴/۲، صحیحہ: ۴۴۸)

ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ سبق بھی ملا کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ امتحانات تو بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔

بَابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ مُطْلَقًا وَفَضْلِ ذَلِكَ

ناپسندیدہ امور پر مطلق طور پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان

(۹۳۵۸)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ: ((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ)) (مسند احمد: ۸۰۱۴)

سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مؤمن کو جس درد و تکلیف، تعب و تکان، رنج و غم اور ملال و نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا، جو اس کو چھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ اس کی خطائیں معاف کرتا ہے۔“

(۹۳۵۷) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف لیث بن ابی سلیم، أخرجه البزار: ۳۲۶۰ (انظر: ۲۵۲۳۶)

(۹۳۵۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۷۳ (انظر: ۸۰۲۷)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مومن کو دنیا میں کوئی کانٹا چبھتا ہے اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس وجہ سے قیامت کے دن اس کی خطائیں کم کی جائیں گی۔“

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کو تکان، تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کی برائیوں کا کفارہ بناتا ہے۔“

(۹۳۵۹)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فِي الدُّنْيَا يَخْتَسِبُهَا إِلَّا قُضِرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسند احمد: ۹۲۰۸)

(۹۳۶۰)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصِيبُهُ وَصَبٌّ، وَلَا نَصَبٌ، وَلَا حُزْنٌ، وَلَا سَقَمٌ، وَلَا أَدَى، حَتَّىٰ تَلْهُمَ يَهُمُهُ، إِلَّا يُكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ)) (مسند

احمد: ۱۱۰۲۰)

فوائد: بیماری ایک غیر اختیاری چیز ہے، بندہ بغیر کسی ذاتی دخل کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔

بیماریوں اور آزمائشوں کی وجہ سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ چیز تسلی بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کی وجہ سے خطائیں معاف کر دیتا ہے، لہذا شکوہ شکایت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہئے۔

سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بھی نہیں ہے، جو سنی ہوئی تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی بہ نسبت زیادہ صبر کرنے والا ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور اس کے لیے اولاد کو دعویٰ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عافیت دیتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کو رزق عطا کرتا ہے۔“

(۹۳۶۱)۔ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا أَحَدَ أَصْبَرَ عَلَيَّ أَدَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، إِنَّهُ يُشْرِكُ بِهِ وَيَجْعَلُ لَهُ الْوَلَدَ، وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيُدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ)) (مسند احمد: ۱۹۸۶۶)

سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے، جبکہ آپ ﷺ کعبہ کے سامنے

(۹۳۶۲)۔ عَنْ خَبَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ

(۹۳۵۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البخاری فی "الادب المفرد": ۵۰۷ (انظر: ۹۲۱۹)

(۹۳۶۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۷۳ (انظر: ۱۱۰۰۷)

(۹۳۶۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۰۴ (انظر: ۱۹۶۳۳)

(۹۳۶۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۸۵۲، ومسلم: (انظر: ۲۱۰۵۷)

میں ایک چادر کو تکیہ بنا کر تشریف فرما تھے، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں اور اس سے مدد طلب کریں، یہ سن کر آپ ﷺ کا رنگ سرخ ہو گیا یا تبدیل ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”البتہ تحقیق تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، پھر آری لائی گئی اور ان کے سروں پر رکھ کر ان کو چیر دیا گیا، لیکن یہ تکلیف بھی ان کو دین سے باز نہ رکھ سکی اور لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کی ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت نوج لیا گیا، لیکن یہ چیز بھی ان کو دین سے نہ پھیر سکی، اور ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو اس طرح مکمل کرے گا کہ ایک سوار ضعاء سے یمن تک سفر کرے گا، لیکن اس کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یا اپنی بکریوں پر بیٹھ کر کا ڈر ہوگا، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔“

فوائد:..... اللہ اکبر! اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے، سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کتنی اذیتوں کے بعد آپ ﷺ سے دعا کی اپیل کی، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو۔

(۹۳۶۳)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كَفَّرَ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا)) (مسند احمد: ۲۵۳۳۹)

(۹۳۶۴)۔ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ)۔ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُّ بِشُوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا حَطَّتْ مِنْ خَطِيئَتِهِ)) (مسند احمد: ۲۴۶۱۵)

(۹۳۶۵)۔ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ)۔ مِثْلُهُ

(۹۳۶۳) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۶۴۰، ومسلم: ۲۵۷۲ (انظر: ۲۴۸۲۸)

(۹۳۶۴) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(۹۳۶۵) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

وَفِيهِ ((الْأَكْسَبَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَكُفِّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)) (مسند احمد: ۲۴۶۵۸) گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔“

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَرَضِ مُطْلَقًا فِي أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَفَضْلِهِ
مطلق طور پر ہر بیماری پر صبر کرنے کی ترغیب، اگرچہ وہ انسان کے کسی عضو میں ہو
اور اس کی فضیلت کا بیان

(۹۳۶۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ، فَسَمِعْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا؟ قَالَ: ((أَجَلَ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ،)) قُلْتُ: إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ ذِي، مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرُ رِقْقَاهَا)) (مسند احمد: ۳۶۱۸)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ کو بخار تھا، میں نے آپ ﷺ سے کہا: اے اللہ کے رسول! بیشک آپ کو بہت سخت بخار ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ﷺ فرمایا: ”جی، بیشک مجھے اتنا بخار ہوتا ہے، جتنا تم میں سے دو افراد کو ہوتا ہے۔“ میں نے کہا: تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دو گنا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے! روئے زمین پر رہنے والے جس مسلمان کو جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، وہ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں مٹاتا ہے، جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔“

(۹۳۶۷)۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَسَدِ بْنِ كُرَيْزٍ ﷺ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((الْمَرِيضُ تَحَاتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ)) (مسند احمد: ۱۶۷۷۱)

سیدنا اسد بن کرز بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مریض کی خطائیں اس طرح گرتی ہیں، جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔“

(۹۳۶۸)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ سِوَاهُ)) (مسند احمد: ۱۶۷۷۱)

سیدہ معاویہ بنی ہاشم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز مومن کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ

(۹۳۶۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۶۴۷، ۵۶۴۸، و مسلم: ۲۵۷۱ (انظر: ۳۶۱۸)

(۹۳۶۷) تخریج: حدیث حسن، أخرجه الطبرانی فی ”الکبیر“: ۱۰۰۲ (انظر: ۱۶۶۵۴)

(۹۳۶۸) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۲۳۰ / ۳، والحاکم: ۳۴۷

والطبرانی فی ”الکبیر“: ۱۹ / ۸۴۲ (انظر: ۱۶۸۹۹)

المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله به من سيّته.)) (مسند احمد: ۱۷۰۲۳)

ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں: میں پہلے وقت میں یا دوپہر کے وقت مسجد دمشق کی طرف جا رہا تھا، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی، جبکہ سیدنا صنابحی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، میں نے کہا: اللہ تم پر رحم کرے، کہاں جا رہے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہم ادھر ایک بیمار بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پس میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اس بھائی کے پاس پہنچ گئے اور کہا: آپ نے کیسے صبح کی ہے؟ اس نے کہا: جی نعمت کے ساتھ صبح کی ہے، پھر سیدنا شداد رضی اللہ عنہ نے کہا: برائیوں کے معاف ہونے اور گناہوں کے مٹ جانے کے ساتھ خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ ”یشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میں اپنے کسی مؤمن بندے کو آزما تا ہوں اور وہ میری اس آزمائش پر تعریف کرتا ہے تو وہ اس دن کی طرح خطاؤں سے پاک ہو کر اپنے بستر سے کھڑا ہوتا ہے، جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہیں: میں نے اپنے بندے کو مقید کر دیا ہے اور اس کو آزمایا ہے، لہذا فرشتو! تم اس کے وہ سارے اعمال لکھتے رہو، جو تم اس وقت لکھتے تھے، جب وہ صحت مند تھا۔“

(۹۳۶۹)۔ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَرَ بِالرَّوَّاحِ ، فَلَقِيَ شَدَادَ بْنَ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالصَّنَابِحِيَّ مَعَهُ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ؟ قَالَا: نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى آخِ لَنَا مَرِيضٍ نَعُوذُ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ شَدَادُ: أَبَشِرْ بِكُفَّارَاتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا قَيْدُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَاحِبُ)) (مسند احمد: ۱۷۲۴۸)

فوائد: مسلمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ پڑے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، صبر کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔

(۹۳۷۰)۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ سَيِّدَةً عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ مَرُومٍ هِيَ ، وَهِيَ كَهَيْئَةِ هَيْئَةِ هَيْئَةٍ فِي مِثْلِهَا

(۹۳۶۹) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ۷۱۳۶ (انظر: ۱۷۱۱۸)

(۹۳۷۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۵۶۴۶، ومسلم: ۲۵۷۰ (انظر: ۲۵۳۹۸)

رسول اللہ ﷺ پر ہی سب سے سخت تکلیف کو دیکھا ہے۔

الْوَجَعَ عَلَى أَحَدٍ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (مسند احمد: ۲۵۹۱۲)

محمد بن خالد اپنے دادا، جن کو صحبت کا شرف حاصل تھا، سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: وہ اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لیے نکلے، پھر ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ بیمار بھی ہے، پس وہ اس کے پاس گئے اور کہا: میں تمہاری زیارت کرنے، تیمارداری کرنے اور تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، انھوں نے کہا: یہ ساری چیزیں کیسے جمع کر دیں؟ میں نے کہا: میں تمہاری زیارت کے لیے نکلا تھا، پھر مجھے تمہاری بیماری کی خبر بھی مل گئی، اس طرح یہ آتا تیمارداری کا سبب بھی بن گیا اور میں تمہیں اس حدیث کے ذریعے خوشخبری سنانا ہوں، جو میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی منزلت اور درجے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جس تک بندہ اپنے عمل کی بنا پر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جسم یا مال یا اولاد کے ذریعے آزمانا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، یہاں تک اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، جس کا اس کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔“

(۹۳۷۱) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَ لِحَدِّهِ صُحْبَةً، إِنَّهُ خَرَجَ زَائِرًا لِلرَّجُلِ مِّنْ إِخْوَانِهِ، فَبَلَغَهُ بِسُكَّانِهِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَتَيْتَكَ زَائِرًا، عَائِدًا، وَمُبَشِّرًا، قَالَ: كَيْفَ جَمَعْتَ هَذَا كُلَّهُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ، فَبَلَغَنِي سُكَّانُكَ، فَكَانَتْ عِبَادَةً، وَأَبَشْرُكَ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ مَنَزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغَهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاؤُ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبْرُهُ، حَتَّى يَبْلُغَهُ الْمَنَزِلَةُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنْهَا...)) (مسند احمد: ۲۲۶۹۴)

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں۔“ میرے باپ نے کہا: اگرچہ وہ بیماری معمولی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ وہ

(۹۳۷۲) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْنُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ بِنِ عَجْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ:

(۹۳۷۱) تخريج: حسن لغیره، أخرجه ابوداود: ۳۰۹۰ (انظر: ۲۲۳۳۸)

(۹۳۷۲) تخريج: اسنادہ حسن، أخرجه ابویعلی: ۹۹۵، والحاکم: ۴ / ۳۰۸، والنسائی فی ”الکبری“:

۷: ۸۹ (انظر: ۱۱۱۸۳)

کاٹنا ہو یا اس سے بڑی کوئی چیز۔“ یہ سن کر میرے باپ نے اپنے حق میں یہ بددعا کر دی کہ اس کی موت تک بخارا اس سے جدا نہ ہو، لیکن وہ بخارا اس کو حج، عمرے، جہاد فی سبیل اللہ اور باجماعت فرضی نماز سے مشغول نہ کر دے، پس اس کے بعد جس انسان نے میرے باپ کو چھوا، بخارا کی حرارت پائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔

((كَفَّارَاتُ-)) قَالَ أَبِي: وَإِنْ قَلَّتْ؟ قَالَ: ((وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا-)) قَالَ: فَدَعَا أَبِي عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُقَارِقَهُ الْوَعُكُ حَتَّى يَمُوتَ فِي أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلَّا وَجَدَ حَرَّهُ حَتَّى مَاتَ- (مسند احمد: ۱۱۲۰۱)

أَبْوَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى أَمْرٍ مُعِينَةٍ

مخصوص امراض پر صبر کرنے کی ترغیب کا بیان

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَرَضِ الْحُمَى وَالصَّدَاعِ

بخارا اور دوسرے پر صبر کرنے کی ترغیب کا بیان

سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تجھے بخارا ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟“ یہ جلد اور گوشت کے درمیان حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، اس نے کہا: یہ ایسی تکلیف ہے کہ میں کبھی بھی اس میں مبتلا نہیں ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی مثال اس نرم و نازک، تروتازہ کھیتی کی مانند ہے جو کبھی سرخ ہوتی ہے اور کبھی زرد۔“

(۹۳۷۳)- عَنْ أَبِي بِنِي كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَتَى عَهْدُكَ بِأُمَّ مِلْدَمٍ وَهُوَ حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَوْجَعٌ مَا أَصَابَنِي قَطُّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخَامَةِ تَحْمَرُّ مَرَّةً، وَتَضْفَرُ أُخْرَى-)) (مسند احمد: ۲۱۶۰۶)

فوائد: أَلْدَمٌ يُلْدِمُ: کا معنی کسی کو ہمیشہ بخارا رہنے کا ہے۔ اور ”أُمٌ مِلْدَمٌ“ بخارا کی کنیت ہے، مزید دیکھیں

حدیث نمبر (۹۳۹۰)

بخارا، جسم کی زیادتی حرارت کی ایک صورت ہوتی ہے۔

”جو کبھی سرخ ہوتی ہے اور کبھی زرد۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان مختلف کیفیتوں سے گزرتا رہتا ہے، کبھی صحت

کا زمانہ، کبھی ایک بیماری میں مبتلا، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا۔

(۹۳۷۳) تخريج: اسنادہ ضعيف لابهام الرجل الذي حدث عنه اسماعيل بن امية، ولا بهام ام ولد ابى بن

كعب (انظر: ۲۱۲۸۲)

معاذ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے اور جب انھوں نے ان کو سلام کہا تو انھوں نے کہا: صحت کے ساتھ رہو، نہ کہ بیماری کے ساتھ، تین بار یہ دعا کی، پھر کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ”مسلمان بخار اور سردی جیسے بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ اس پر احد پہاڑ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ اس پر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں رہتا۔“

سیدنا ابوامامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخار جہنم کی دھوکنی ہے، جو مومن بھی بیمار ہوگا، یہ اس کے حق میں جہنم والے حصے کے عوض میں ہوگا۔“

(۹۳۷۴)۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ آتَاهُ عَائِدًا، فَقَالَ بُوَالدَّرْدَاءِ لِأَبِي بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِالصَّحَّةِ لَا بِالْوَجْعِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا يَزَالُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بِهِ الْمَلِيلَةُ وَالصَّدَاعُ، وَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا لِأَعْظَمَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتْرُكُهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ)) (مسند احمد: ۲۲۰۷۹)

(۹۳۷۵)۔ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنَ كَبِيرِ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ)) (مسند احمد: ۲۲۵۱۸)

فوائد:..... اگلی حدیث سے مزید وضاحت ہو رہی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ ایک مریض، جسے بخار تھا، کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، آپ ﷺ نے اسے فرمایا: ”خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (یہ بخار) میری آگ ہے، جسے میں اپنے بندہ مومن پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے۔“

(۹۳۷۶)۔ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، مِنْ وَعْكَ (أَيِ حُمَّى) كَمَا كَانَ بِهِ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبشُرْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أَسْلَطْتُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ)) (مسند احمد: ۹۶۷۴)

- (۹۳۷۴) تخریج: اسنادہ مسلسل بالضعفاء، ابن لہیعة سبىء الحفظ، وزبان بن فائد وسهل ضعيفان، أخرجه الطبرانی فی "اللاوسط": ۳۱۴۲ (انظر: ۲۱۷۳۶)
- (۹۳۷۵) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الطبرانی فی "الكبير": ۷۴۶۸ (انظر: ۲۲۱۶۵)
- (۹۳۷۶) تخریج: اسنادہ جید، أخرجه الترمذی: ۲۰۸۸، وابن ماجه: ۳۴۷۰ (انظر: ۹۶۷۶)

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بخارنے نبی کریم ﷺ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟“ اس نے کہا: ام مہدی ہوں، آپ ﷺ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ وہ اہل قبائلیہ کی طرف منتقل ہو جائے، پس وہ اتنی کثرت سے اس میں مبتلا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مقدار کو بہتر جانتا ہے، وہ لوگ تو اس کی شکایت لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تاکہ وہ اس کو تم سے ہٹا دے تو ٹھیک ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے حق میں پاک کرنے والا ٹھہرے (تو پھر اس کو اپنے پاس برقرار رہنے دو)۔“ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ گناہوں سے پاک کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں۔“ انھوں نے کہا: تو پھر اس کو رہنے دو۔

(۹۳۷۷)۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَأْذَنْتِ الْحَمِيَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالَتْ: اُمُّ مَهْدِيٍّ، قَالَ: فَاْمَرَيْهَا اِلَى اَهْلِ قُبَاءَ فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَغْلَسُمُ اللّٰهُ، فَاتَوَّه فَنَشَكُّوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا سِئْتُمْ؟ اِنْ سِئْتُمْ اَنْ اَدْعُوَ اللّٰهُ لَكُمْ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَاِنْ سِئْتُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَكُمْ طَهُوْرًا؟)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ تَفْعَلْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) قَالُوْا: فَدَعَاهَا. (مسند احمد: ۱۴۴۶)

فوائد: صحابہ کرام اخروی کامیابی کے اس قدر حریص تھے کہ دنیا کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔

بَابُ التَّرغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَرَضِ الصَّرْعِ وَثَوَابِ ذٰلِكَ مرگی کی بیماری پر صبر کرنے کی ترغیب کرنے اور اس کے ثواب کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک خاتون، جو جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی تھی، نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو چاہتی ہے کہ میرے تیری شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو ٹھیک

(۹۳۷۸)۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهَا لَمَمٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اذْعُ اللّٰهُ اَنْ يَشْفِيَنِي، قَالَ: ((اِنْ سِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهُ اَنْ يَشْفِيَكَ، وَاِنْ سِئْتِ فَاَصْبِرِيْ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ))

(۹۳۷۷) تخریج: رجاله رجاله الصحيح، وفي متنه غرابه، لكن له شاهد، أخرجه ابويعلى: ۱۸۹۲، وابن حبان: ۲۹۳۵، والحاكم: ۱/ ۳۴۶، والبيهقي: ۶/ ۱۵۸ (انظر: ۱۴۳۹۳) (۹۳۷۸) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابن حبان: ۲۹۰۹، والبزار: ۷۷۲، والحاكم: ۴/ ۲۱۸ (انظر: ۹۶۸۹)

ہے اور اگر تو چاہتی ہے کہ اس پر صبر کرے اور پھر اس کے عوض تجھ پر کوئی حساب ہی نہ ہو۔“ اس نے کہا: جی ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی اور اس کے عوض مجھ پر حساب نہیں ہوگا۔

عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا: کیا میں تجھے جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، انھوں نے کہا: یہ سیاہ فام عورت ہے، یہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے اور اس وجہ سے میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے اور تجھے جنت مل جائے گی اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری عافیت کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔“ اس نے کہا: جی میں صبر کروں گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کر دیں کہ میں ننگا نہ ہو جایا کروں، پس آپ ﷺ نے اس کے حق میں یہ دعا کر دی۔

قَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ - (مسند احمد: ۹۶۸۷)

(۹۳۷۹)۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ السَّوْدَاءُ، آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُضْرَعُ، وَاتَّكَشَفْتُ، فَادْعُ اللَّهُ لِي قَالَ: ((إِنَّ شِئْنِي صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهُ لَكَ أَنْ يُعَافِيكَ)) قَالَتْ: بَلَى أَصْبِرُ فَادْعُ اللَّهُ أَنْ لَا أَتَّكَشَفُ، أَوْ لَا يَنْكَشِفَ عَنِّي، قَالَ: فَدَعَا لَهَا - (مسند احمد: ۳۲۴۰)

فوائد: چونکہ بے ہوشی کے وقت ننگا ہو جانے کا آزمائش سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے صحابیہ نے اس کی

دعا کروالی اور شفا کی وعادہ کروائی، تاکہ آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے۔

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِ الْعَيْنَيْنِ وَثَوَابِ ذَلِكَ

آنکھوں سے محروم ہو جانے پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کے ثواب کا بیان

سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری آنکھ خراب ہو گئی اور نبی کریم ﷺ میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، جب میں شفا یاب ہوا اور باہر گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اگر تیری آنکھوں کی بیماری برقرار رہتی تو تو کیا کرتا؟“ میں نے کہا: اگر میری آنکھوں کی بیماری برقرار رہتی تو میں صبر کرتا اور ثواب کی نیت رکھتا۔

(۹۳۸۰)۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ: أَصَابَنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟)) قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَايَ لِمَا بِهِمَا صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ، قَالَ:

(۹۳۷۹) تخريج: أخرجه البخاری: ۵۶۵۲، ومسلم: ۲۵۷۶ (انظر: ۳۲۴۰)

(۹۳۸۰) تخريج: اسنادہ حسن، أخرجه ابوداود: ۳۱۰۲ (انظر: ۱۹۳۴۸)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس بیماری کے برقرار رہنے کی صورت میں اگر تو صبر کرتا اور ثواب کی نیت رکھتا تو تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملتا کہ تجھ پر کوئی گناہ نہ ہوتا۔“ اسماعیل راوی کے الفاظ یہ ہیں: ”پھر تو صبر کرتا اور ثواب کا ارادہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کو واجب کر دیتا۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اور نبی کریم ﷺ سیدنا زید بن ارقم کی تیمارداری کے لیے گئے، ان کی آنکھ خراب تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے زید! اگر تیری آنکھوں کی بیماری برقرار رہتی؟“..... پھر مذکورہ بالا روایت کی طرح کے الفاظ نقل کیے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے رب تعالیٰ نے فرمایا: جب میں کسی کی دو آنکھوں کی بینائی سلب کر لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب جنت ہوگا۔“

سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن آدم! جب میں تجھ سے تیری دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہوں اور تو صدے کی ابتداء میں ہی ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو میں تیرے لیے اس کے ثواب کے طور پر جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔“

سیدہ عائشہ بنت قدامہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان بندے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ہے کہ وہ اس کی دو آنکھیں بھی سلب کر لے اور پھر آگ

((لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ لِلْقَيْتِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، -)) قَالَ إِسْمَاعِيلُ: ((ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۱۹۵۶۳)

(۹۳۸۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَعُودُ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ، وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ لَهُ: ((يَا زَيْدُ! لَوْ كَانَ بَصْرُكَ لِمَا بِهِ؟)) فَذَكَرَ مِثْلَهُ. (مسند احمد: ۱۲۶۱۴)

(۹۳۸۲)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبَتْ كَرِيمَتِيهِ ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ كَانَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۱۴۰۶۶)

(۹۳۸۳)۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا ابْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيمَتِيكَ فَصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ.)) (مسند احمد: ۲۲۵۸۱)

(۹۳۸۴)۔ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قَدَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَزِيزٌ عَلَيَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَأْخُذَ كَرِيمَتِي مُسْلِمٌ ثُمَّ

(۹۳۸۱) تخریج: حسن لغیرہ (انظر: ۱۲۵۸۶)

(۹۳۸۲) تخریج: اسنادہ قوی، أخرجه ابو یعلی: ۴۲۸۵، والطبرانی فی "اللاوسط": ۸۴۴۲، وعلقه

البخاری باثر الحدیث: ۵۶۵۳ (انظر: ۱۴۰۲۱)

(۹۳۸۳) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابن ماجه: ۱۵۹۷ (انظر: ۲۲۲۲۸)

(۹۳۸۴) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۸۵۶ / ۴ (انظر: ۲۷۰۶۳)

يُدْخِلُهُ النَّارَ)) قَالَ يُؤْنَسُ: يَعْنِي
میں بھی داخل کر دے۔“
عَيْنِيهِ- (مسند احمد: ۲۷۶۰۳)

(۹۳۸۵)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
مَنْ أَذْهَبَتْ عَيْنِيهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ
أَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ)) (مسند
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں جس آدمی سے اس کی آنکھیں
سلب کر لوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے
ثواب میں جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔“
احمد: ۷۵۸۷)

فوائد:..... قوتِ بینائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق نہ ہو تو اس
نعمت کے بغیر زندگی اندھیرے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو اور اس نعمت پر شکر اور صبر کیا جائے تو پھر اس کا صلہ
بھی بہت بڑا ہے۔

بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْمَرَضُ عَنْ عَمَلِ الْخَيْرِ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ الْعَامِلِ
اس چیز کا بیان کہ جس آدمی کو بیماری نیک عمل کرنے سے روک دے،
اس کے لیے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے

(۹۳۸۶)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ، فَقَالَ:
اَكْتُبُوا لِعَبْدِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِي وَثَاقِي)) (مسند
سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا: ”جب کسی آدمی کو اس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ
میرا بندہ دن رات میں جو نیک عمل کرتا تھا، تم اس وقت تک
وہی عمل لکھتے رہو، جب تک یہ میری قید میں ہے۔“
احمد: ۶۴۸۲)

فوائد:..... آدمی باقاعدگی کے ساتھ جو اعمالِ صالحہ سرانجام دے رہا ہو، اگر بیماری کی وجہ سے اس کی روشنی متاثر
ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثواب پورا ملتا رہتا ہے۔

(۹۳۸۷)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
(۹۳۸۵) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشيخين، أخرجه الترمذی: ۲۹۳۲ (انظر: ۷۵۹۷)
(۹۳۸۶) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الدارمی: ۳۱۶ / ۲، والحاکم: ۱ / ۳۴۸،
وابن ابی شیبہ: ۳ / ۲۳۰ (انظر: ۶۴۸۲)
(۹۳۸۷) تخریج: انظر الحديث السابق

نے فرمایا: ”بیشک جب بندہ عبادت کے معاملے میں اچھے طریقے پر رواں ہوتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقررہ فرشتے کو کہا جاتا ہے: تو اس کے وہی عمل لکھتا رہے جو یہ صحتمندی کی حالت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کو دوبارہ صحت عطا کر دوں یا پھر موت دے دوں۔“

سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر دن کے عمل کو اسی دن پر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جب مومن بیمار ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو نے اپنے فداں بندے کو پابند کر دیا ہے، (اب اس کے عمل کا کیا جائے)؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: تم اس کے دن کو اس کے اسی عمل پر ختم کرتے رہو، جو یہ کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ شفا یاب ہو یا جائے یا فوت ہو جائے۔“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندے کو اس کی جسمانی تکلیف کے ساتھ آزما تا ہے تو وہ فرشتے سے کہتا ہے: یہ آدمی جو نیک عمل کرتا تھا، تو اس کو لکھتا جا، اگر اس کو شفا دے دی تو وہ اس کو دھو دے گا اور پاک کر دے گا اور اگر اس کو وفات دے دی تو بخش دے گا اور رحم کرے گا۔“

اللَّهُ ﷻ: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرَضَ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُؤَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا، حَتَّى أَطْلِقَهُ، أَوْ أَكْفَيْتَهُ إِلَى...)) (مسند احمد: 6895)

(9388)۔ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَرَضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبَّنَا! عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ؟، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: اخْتَمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ...)) (مسند احمد: 17449)

(9389)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فَبَلَغَ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَهُ وَرَحِمَهُ...)) (مسند احمد: 12531)

فوائد: بیمار ہونے سے جہاں مختلف قسم کی آزمائشوں اور بیماریوں سے بندوں کو صبر آزماساعات کا سامنا

کرنا پڑتا ہے، وہاں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، گناہوں کے اثرات زائل ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ جب بندہ بیماری کی وجہ سے وہ نقلی عبادت برقرار نہیں رکھ سکتا، جو وہ صحت و تندرستی کے زمانے میں سرانجام دیتا تھا، یا فرضی عبادت کو ان کی اصل کیفیت میں ادا نہیں کر سکتا، مثلاً بیٹھ کر نماز ادا کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اس کی نیت اور ارادے کو دیکھ کر اس کے نامہ اعمال میں اس کے عبادت والے سلسلے کا اندراج ہوتا رہتا ہے، حالانکہ وہ عملی طور پر عمل کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔

(9388) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ 782، والحاكم: 4/ 260 (انظر: 17316)

(9389) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 233، وأبو يعلى: 4233 (انظر: 12503)

بَابُ عَدَمِ قَبُولِ مَنْ لَمْ يُبْتَلْ فِي الدُّنْيَا جس کو دنیا میں آزمایا نہیں گیا، اس کے غیر مقبول ہونے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو، رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا، اس کی صحت اور قوت نے آپ ﷺ کو تعجب میں ڈال دیا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تو نے اُمِّ مِلْدَمِ کو کب محسوس کیا ہے؟“ اس نے کہا: اُمِّ مِلْدَمِ کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بخار۔“ اس نے کہا: جی بخار کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چمڑے اور ہڈیوں کے درمیان پیدا ہونے والی حرارت کو بخار کہتے ہیں۔“ اس نے کہا: مجھے تو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا، آپ ﷺ نے اس سے پھر پوچھا: ”اچھا تو نے کبھی صُدَاعِ محسوس کیا ہے؟“ اس نے کہا: صُدَاعِ کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کن پٹیوں اور سر کے درمیان درد ہوتی ہے۔“ اس نے کہا: مجھے تو یہ بھی کبھی محسوس نہیں ہوا، جب وہ بدو چلا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جہنمی شخص کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھ لے۔“ ایک روایت میں ہے: ”جو آدمی آگ والوں میں سے کسی شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہو، وہ اس کو دیکھ لے۔“

(۹۳۹۰)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ أَعْجَبَهُ صِحَّتُهُ وَجَلْدُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((بِمَتَى أَحْسَنْتَ أُمَّ مِلْدَمٍ؟)) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: ((الْحُمَّى)) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الْحُمَّى؟ قَالَ: ((سَخَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعِظَامِ)) قَالَ: مَا بِذَلِكَ لِي عَهْدٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ) قَالَ: ((فَمَتَى أَحْسَنْتَ بِالصُّدَاعِ؟)) قَالَ: وَأَيُّ شَيْءٍ الصُّدَاعُ؟ قَالَ: ((ضَرْبَانُ يَكُونُ فِي الصُّدْعَيْنِ وَالرَّأْسِ)) قَالَ: مَا لِي بِذَلِكَ عَهْدٌ (وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ) قَالَ: فَلَمَّا قَفَا أَوْ وُلَّى الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ)) (وَفِي لَفْظٍ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)) (مسند احمد: ۸۷۸۰)

فوائد: نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ صحت و عافیت کی دعا کرنے اور آزمائشوں اور بیماریوں کے ٹل جانے کا سوال کرنے کی تعلیم دی ہے، جبکہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، ہاں اگر آدمی کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنائے گا۔ اور جہاں بیمار ہونا بندے کا فعل ہی نہیں ہے، وہاں بیماری کی دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے مذکورہ بالا حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ ممکن ہے کہ وہ بندہ گنہگار ہو اور اس نے نہ تو بہ تا سب ہو کر ان کی بخشش کروائی ہو اور نہ

(۹۳۹۰) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه ابو يعلى: ۶۵۵۶، والبخار: ۷۷۸، وابن حبان: ۲۹۱۶، والحاكم: ۳۴۷ / ۱ (انظر: ۸۷۹۴)

وہ بیمار ہوا ہو کہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہو، یا آپ ﷺ کا مقصود بیماری کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الْدَمَ يُلْدَمُ: کا معنی کسی کو ہمیشہ بخار رہنا ہے اور ”أَمٌ مِلْدَمٌ“ بخاری کنیت ہے۔

(۹۳۹۱)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ
 إِمْرَأَةً آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
 ابْنَةٌ لِي كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرْتُ مِنْ حُسْنِهَا
 وَجَمَالِهَا، فَأَثَرْتُكَ بِهَا، فَقَالَ: ((قَدْ
 قِيلَتْهَا)) فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ
 أَنَهَا لَمْ تَصْدَعْ، وَلَمْ تَشْتِكِ شَيْئًا قَطُّ،
 قَالَ: ((لَا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكَ)) (مسند
 احمد: ۱۲۶۰۸)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون، نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میری اس طرح کی بیٹی ہے، اس نے اپنی بیٹی کے حسن و جمال کا ذکر کیا، میں آپ کو اس کے لیے ترجیح دیتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اس کو بطور بیوی قبول کر لیا ہے۔“ پھر وہ اس کی مدح سرائی کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو کبھی سردرد نہیں ہوا، بلکہ وہ کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی، یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو پھر مجھے تیری بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَوْتِ الْأَوْلَادِ وَثَوَابِ ذَلِكَ بچوں کی وفات پر صبر کرنے کی ترغیب اور اس کے ثواب کا بیان

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے، یہ بہت بڑا اعزاز اور خوشی کی بات ہے، اس پر مستزاد یہ کہ وہ بچے اپنے والدین کے لیے جنت کا سبب بنیں گے، اس باب میں اس موضوع کو (۲۶) احادیث کے ذریعے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ بلوغت سے پہلے فوت ہونے والے بچے کے والدین کو مبارکباد دی جائے۔

والدین کو چاہیے کہ ان کی وفات پر مکمل صبر کا مظاہرہ کریں، ”الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پر ہمیں اور صبر کے دوسرے تقاضے بھی پورے کریں، نوحہ اور وادیلانہ کریں، زبان سے ناشکری اور بے صبری والا کوئی کلمہ نہ کہیں، تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں، یاد رہے کہ غمی کے موقع پر رونا جائز ہے، بلکہ وہ دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے، رونے اور نوحہ کرنے میں فرق ہے۔

(۹۳۹۲)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا لِعَبْدِي سَيْدَا ابْنَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيَانٌ كَرْتُمْ هُنَّ كَمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا))

(۹۳۹۱) تخریج: اسنادہ ضعیف، سنن ابن ربیعہ ضعفہ ابن معین، أخرجه ابو یعلیٰ: ۴۲۳۴ (انظر: ۱۲۵۸۰)

(۹۳۹۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۶۴۲۴ (انظر: ۹۳۹۳)

پسندیدہ چیز لے لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کو بطور عوض دینے کے لیے میرے پاس صرف جنت ہوتی ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی، سوائے قسم کے پورا کرنے کے۔“ قسم کے پورا کرنے سے مراد وہاں سے گزرتا ہے۔

الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۹۳۸۲)

(۹۳۹۳)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحَلَّةَ الْقَسَمِ.)) (مسند احمد: ۷۷۰۷)

فوائد: قسم کے پورا ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾..... ”تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی، فیصل شدہ امر ہے۔“ (سورہ مریم: ۷۱)

اس کی تفسیر صحیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، جس سے ہر مومن اور کافر کو گزرتا ہوگا، بعض مومن جلد یا بدیر گزر جائیں گے، بعض جہنم میں گر جائیں گے، پھر ان کو شفاعت کے ذریعے یا جرم کی سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا اور کافر اور مشرک اس پل سے نہیں گزر پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر جائیں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ کچھ خواتین، رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب آپ مردوں کی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے آپ ہمارے لیے ایک دن کا تعین کر دیں، ہم اس میں آپ کے پاس آ جائیں گی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا وعدہ فلاں کا گھر ہے۔“ پس آپ ﷺ وعدے کے مطابق اس گھر میں تشریف لے آئے اور خواتین کو جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں یہ فرمان بھی تھا: ”جو عورت تین بچوں کو آگے بھیج دیتی ہے اور پھر ثواب کی نیت

(۹۳۹۴)۔ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، قَالَ: ((مَوْعِدُكُمْ بَيْتُ فُلَانٍ)) وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا قَالَ لِهُنَّ، يَعْنِي: ((مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَقْدُمُ ثَلَاثًا مِنَ الْوَالِدِ تَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.)) فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: ((أَوْ

(۹۳۹۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۲ (انظر: ۷۷۲۱)

(۹۳۹۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۲ (انظر: ۷۳۵۷)

سے صبر کرتی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔“ ایک خاتون نے کہا: اگر دو بچے ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں۔“ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی قسم کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم میں سے جس خاتون کے تین بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ثابت ہوں گے۔“ پس ایک عورت نے کہا:.....

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو بچے ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں۔“ محمود راوی کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کہا: میرا خیال ہے کہ اگر تم ایک بچے کے بارے میں سوال کرتے تو آپ ﷺ نے فرمادینا تھا کہ ”اگر چہ ایک بھی ہو“ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میرا گمان بھی یہی ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان میاں بیوی کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو وہ ان کے لیے جہنم سے مضبوط قلعہ ہوں گے۔“ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو بچے ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں۔“ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے تو صرف دو ہی بھیجے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں۔“ سید القراء ابو الحسن زر

(اثنان۔) (مسند احمد: ۷۳۵۱)

(۹۳۹۵)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)) فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: الخ (مسند احمد: ۱۱۳۱۶)

(۹۳۹۶)۔ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((اثْنَانِ)) قَالَ مَحْمُودٌ: فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: أَرَأَيْكُمْ لَوْ قُلْتُمْ: وَوَاحِدًا لَقَالَ: وَوَاحِدًا قَالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ! أَظُنُّ ذَلِكَ۔ (مسند احمد: ۱۴۳۳۶)

(۹۳۹۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ)) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ))، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَقْدَمْ إِلَّا اثْنَيْنِ؟

(۹۳۹۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۰۲، ومسلم: ۲۶۳۳ (انظر: ۱۱۲۹۶)

(۹۳۹۶) تخریج: صحيح لغيره، أخرجه ابن حبان: ۲۹۴۶ (انظر: ۱۴۲۸۵)

(۹۳۹۷) تخریج: اسنادہ ضعیف بهذه السیاق، فیہ ضعف وانقطاع، محمد بن ابی محمد لا یعرف، وابوعبیده بن عبد اللہ لم یسمع من ابیہ عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه الترمذی: ۱۰۶۱، وابن ماجه: ۱۶۰۶ (انظر: ۳۵۵۴)

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا: میرا تو صرف ایک بچہ فوت ہوا ہے؟ ان کو جواباً کہا گیا: اگرچہ ایک بچہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اجر صرف اس وقت ملتا ہے، جب صدمہ کے شروع میں صبر کیا جائے۔“

قَالَ: ((وَأِنْ كَانَا اثْنَيْنِ)) قَالَ: فَقَالَ أَبِي بَنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْفُرَّاءِ: لَمْ أَقْدَمْ إِلَّا وَاحِدًا؟ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَنَالَ: ((إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى))

(مسند احمد: ۳۵۵۴)

فوائد:..... جو نبی آدمی غم والی خبر سنتا ہے، اسی وقت سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے، نوحہ نہ کرے اور

اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ کہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دو، پہلے تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو تو پھر آگ سے بڑی زبردست رکاوٹ بنا چکی ہے۔“ حفص راوی کہتے ہیں: ساتھ سرال ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی، جبکہ اس وقت میری عمر دس برس بھی نہیں تھی۔ علی بن عبد اللہ راوی کہتے ہیں: میں نے ۲۸ھ میں حفص کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا۔

(۹۳۹۸)۔ حَدَّثَنَا عَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثِ بْنِ طَلْحٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ السَّخَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبِضْيٍ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ لِي، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، فَقَالَ: ((لَقَدْ أَحْضَرْتِ بِحِطَّارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ)) قَالَ حَفْصٌ: سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ سِتِّينَ سَنَةً وَلَمْ أَبْلُغْ عَشَرَ سِنِينَ، وَسَمِعْتُ حَفْصًا يَذْكُرُ هَذَا الْكَلَامَ سَنَةً سَبْعَ وَثَمَانِينَ وَمِائَةً. (مسند احمد: ۹۴۲۷)

محمد بن سیرین کہتے ہیں: ہمارے پاس ماویہ نامی ایک خاتون آتی تھی، اس کے بچے فوت ہو جاتے تھے، وہ عبید اللہ بن معمر قریشی کے پاس گئی، جبکہ ان کے پاس ایک صحابی رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی نے بیان کیا کہ ایک خاتون اپنا ایک بیٹا لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس گئی اور اس نے کہا:

(۹۳۹۹)۔ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا: مَاوِيَةُ كَانَتْ تُرْزَأُ فِي وَلَدِهَا، فَأَتَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرِ الْقُرَشِيِّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَتْ ذَلِكَ الرَّجُلَ، إِنَّ امْرَأَةً آتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنِ

(۹۳۹۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۶ (انظر: ۹۴۳۷)

(۹۳۹۹) تخریج: صحيح لغيره (انظر: ۲۰۷۸۳)

اے اللہ کے رسول! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ وہ اس کو زندہ رکھے، اس سے پہلے میرے تین بچے فوت ہو چکے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب سے اسلام قبول کیا، اس وقت سے تین بچے فوت ہوئے ہیں؟“ اس نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو (آگ سے بچنے کا) بڑا مستحکم ذریعہ حفاظت ہے۔“ ماویہ کہتی ہیں: مجھے عبید اللہ بن معمر نے کہا: اے ماویہ! بات اچھی طرح سن (اور اس پر عمل کرتے ہوئے صبر سے کام لے اور اللہ سے ڈرتی رہ) محمد بن سیرین کہتے ہیں: یہ عورت (ماویہ) ابن معمر کے پاس سے نکلی اور ہمارے پاس آئی اور ہمیں یہ حدیث بیان کی۔

ابن سیرین، رجاء نامی ایک خاتون سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس موجود تھی، ایک عورت اپنا ایک بیٹا لے کر آپ ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے اس بچے میں برکت کی دعا کریں، کیونکہ میرے تین بچے فوت ہو چکے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”کیا قبولیت اسلام کے بعد یہ بچے فوت ہوئے ہیں؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو (جہنم سے بچنے کے لیے) بڑی مضبوط ڈھال ہے۔“ پس ایک آدمی نے مجھے کہا: اے رجاء! سن، رسول اللہ ﷺ کیا فرما رہے ہیں۔

سیدنا عتبہ بن عبد سلمیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان آدمی کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں، وہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے ملیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا، داخل ہوگا۔“

لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اذْعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُبْقِيَهُ لِي، فَقَدْ مَاتَ لِي قَبْلَهُ ثَلَاثَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمْنٌ أَسْلَمْتَ؟)) فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((جَنَّةٌ حَصِيئَةٌ.)) قَالَتْ مَاوِيَةُ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ: اِسْمَعِي يَا مَاوِيَةُ! قَالَ مُحَمَّدٌ (يَعْنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ): فَخَرَجْتُ (مَاوِيَةُ) مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ فَاتْتَنَا، فَحَدَّثْتَنَا هَذَا الْحَدِيثَ. (مسند احمد: ۲۱۰۶۴)

(۹۴۰۰)۔ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: رَجَاءُ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ تُو امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اذْعُ لِي فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّهُ قَدْ تُوَفِّي لِي ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمْنٌ أَسْلَمْتَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((جَنَّةٌ حَصِيئَةٌ.)) فَقَالَ لِي رَجُلٌ: اِسْمَعِي يَا رَجَاءُ! مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (مسند احمد: ۲۱۰۶۳)

(۹۴۰۱)۔ عَنِ عْتَبَةَ بِنِ عَبْدِ السَّلْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنَّةَ إِلَّا تَلَقَّوهُ مِنْ أَبْوَابِ

(۹۴۰۰) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۷۰۸/۲۴ (انظر: ۲۰۷۸۲)

(۹۴۰۱) تخریج: صحیح لغیرہ، أخرجه ابن ماجه: ۱۶۰۴ (انظر: ۱۷۶۴۴)

الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَّةِ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ دَخَلَ.)

(مسند احمد: ۱۷۷۹۴)

سیدنا عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان مرد یا عورت نے اپنی نسل سے تین نابالغ بچے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے بھیج دیئے تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ثابت ہوں گے۔“

(۹۴۰۳)۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السَّلْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((يُمَارِ رَجُلٌ مُسْلِمٍ قَدَّمَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ صُلْبِهِ ثَلَاثَةَ لَمْ يَتْلُغُوا الْجَنَّةَ، أَوْ امْرَأَةً، فَهُمْ لَهُ سِتْرَةٌ مِنَ النَّارِ.)) (مسند احمد: ۱۹۶۶۶)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں سیدہ ام سلیم بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اس قسم کی حدیث سنی ہے۔

(۹۴۰۳)۔ وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمِ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِيَ أُمُّ تَيْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْوَهُ. (مسند احمد: ۲۷۶۵۴)

ابوسنان کہتے ہیں: میں نے اپنا بیٹا دفن کیا اور ابھی تک میں قبر میں تھا کہ ابوطلحہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر سے نکالا اور کہا: ”کیا میں تجھے خوشخبری دوں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، انھوں نے کہا: ضحاک بن عبد الرحمن نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ملک الموت! کیا تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ کیا تو نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی محبت قبض کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے: جی ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا: تیری تعریف بیان کی اور ”أَسْأَلُ اللَّهَ وَأَسْأَلُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا: تو پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام ”بَيْتُ الْحَمْدِ“ رکھو۔“

(۹۴۰۴)۔ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنًا لِي وَإِنِّي لَفِي الْقَبْرِ إِذْ أَخَذَ بِيَدِي أَبُو طَلْحَةَ فَخَرَجَنِي، فَقَالَ: أَلَا أُبَشِّرُكَ؟ قَالَ قُلْتُ: بَسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي الضُّحَاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مَلِكُ الْمَوْتِ قَبِضْتَ وَلَدَ عَبْدِي؟، قَبِضْتَ قُرَّةَ عَيْنِهِ، وَتَمْرَةَ قُورِادِهِ؟، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: حَمْدِكَ وَاسْتَرْجَع، قَالَ: ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.)) (مسند احمد: ۱۹۹۶۳)

(۹۴۰۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۹۴۳۹)

(۹۴۰۳) تخریج: حدیث صحیح لغیرہ، أخرجه ابن ابی شیبہ: ۳/ ۳۵۳، والطبرانی فی ”الکبیر“: ۲۵/ ۳۰۶ (انظر: ۲۷۱۱۳)

(۹۴۰۴) تخریج: حسن، قاله الالبانی، أخرجه الترمذی: ۱۰۲۱ (انظر: ۱۹۷۲۵)

فوائد:..... معلوم ہوا کہ آزمائش والی خبر سنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ۔

ابن حصہ یا ابو حصہ ایک ایسے صحابی سے بیان کرتے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کے خطاب کے وقت موجود تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ ”رُقُوب“ (بے اولاد) کون ہوتا ہے؟“ لوگوں نے کہا: جس کی اولاد نہیں ہوتی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مکمل طور پر ”رُقُوب“ ہے، وہ سارے کا سارا ”رُقُوب“ ہے، بس وہی ”رُقُوب“ ہے کہ جو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی اولاد تو ہوتی ہے، لیکن اس نے کوئی بچہ آگے نہیں بھیجا ہوتا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا کیا تم یہ جانتے ہو کہ ”صُعْلُوكُ“ (غریب و نادار) کون ہوتا ہے؟“ لوگوں نے کہا: جس کے پاس مال نہیں ہوتا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مکمل طور پر ”صُعْلُوكُ“ ہے، وہ سارے کا سارا ”صُعْلُوكُ“ ہے، بس وہی ”صُعْلُوكُ“ ہے، جو مالدار ہونے کے باوجود اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال آگے نہیں بھیجا ہوتا۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ بڑا پہلوان کون ہے؟“ انھوں نے کہا: پچھاڑنے والا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سارے کا سارے پہلوان، بڑے سے بڑا پہلوان وہ آدمی ہے جسے غصہ آتا ہے، پھر اس کا غصہ سخت ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے اور رو ٹکٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پالیتا ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے اندر کس کو ”رُقُوب“ (بے اولاد) شمار کرتے ہو؟“ ہم نے کہا: جس کی اولاد نہیں ہوتی۔

(۹۴۰۵)۔ عَنِ ابْنِ حَضَبَةَ أَوْ ابْنِ حَضَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((تَذَرُونَ مَا الرَّقُوبُ؟)) قَالُوا: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، فَقَالَ: ((الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ كُلُّ الرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ، الرَّقُوبُ، الرَّقُوبُ، الَّذِي لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا)) قَالَ: ((أَتَذَرُونَ مَا الصُّعْلُوكُ؟)) قَالُوا: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الصُّعْلُوكُ كُلُّ الصُّعْلُوكِ، الصُّعْلُوكُ، الصُّعْلُوكُ، الَّذِي لَهُ مَالٌ فَمَاتَ وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُ شَيْئًا))، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا الصُّرَعَةُ؟)) قَالَ: قَالُوا: الصُّرَيْعُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ، الصُّرَعَةُ، الصُّرَعَةُ، الصُّرَعَةُ، الرَّجُلُ يَغْضِبُ، فَيَسْتَدُّ غَضَبَهُ، يَحْمَرُّ وَجْهَهُ، وَيَقْشَعِرُ شَعْرَهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ)) (مسند احمد: ۲۳۵۰۳)

(۹۴۰۶)۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا تَعْدُونَ فِيكُمْ الرَّقُوبُ؟)) قَالَ: قُلْنَا الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ،

(۹۴۰۵) تخریج: صحیح لغیرہ، دون قصہ الصعلوک، وهذا اسناد ضعیف لجهالة ابی حصبة او ابن حصبة، أخرجه البيهقي في "الشعب": ۳۳۴۱ (انظر: ۲۳۱۱۵) (۹۴۰۶) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه مسلم: ۲۶۰۸ (انظر: ۳۶۲۶)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، ”رُقُوب“ تو وہ ہوتا ہے، جس نے کوئی نابالغ بچہ آگے نہیں بھیجا ہوتا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے جس شخص کے دو پیش رو ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میرے باپ کی قسم! جس کا ایک پیش رو ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ جس کا ایک پیش رو ہوگا، اے توفیق دی ہوئی خاتون!“ پھر سیدہ نے کہا: آپ کی امت میں سے جس کا کوئی پیش رو نہیں ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پس میں اپنی امت کے لیے پیش رو ہوں گا، میری امت کو میری جیسی تکلیف نہیں پہنچی۔“

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان میاں بیوی کے تین بچے فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحمت کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو بچے ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ دو ہوں۔“ لوگوں نے پھر کہا: اگر ایک ہو تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ ایک ہو۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بیشک ناتمام بچہ ناف کے کٹے ہوئے حصے سے اپنے ماں کو کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا، بشرطیکہ وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے۔“

سیدنا حارث بن اقیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان میاں بیوی کے چار بچے فوت ہو

قَالَ: ((لَا وَلَكِنَّ الرُّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَوَلَدِهِ شَيْئًا.)) (مسند احمد: ۳۶۲۶)

(۹۴۰۷)۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانٌ مِنَ امَّتِي، دَخَلَ الْجَنَّةَ.))، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا بِي، فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ؟ فَقَالَ: ((وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَأْمُرُ بِمُوقَفَةٍ!))، قَالَتْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ امَّتِكَ؟ قَالَ: ((فَأَنَا فَرَطُ امَّتِي، لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِي.)) (مسند احمد: ۳۰۹۸)

(۹۴۰۸)۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يَا هُمَا.))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ اثْنَانِ؟ قَالَ: ((أَوْ اثْنَانِ.))، قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ؟ قَالَ: ((أَوْ وَاحِدًا.))، ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ السَّقَطُ لَيَجْرُ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ.)) (مسند احمد: ۲۲۴۴۰)

(۹۴۰۹)۔ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَقِيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ

(۹۴۰۷) تخریج: اسنادہ حسن، أخرجه الترمذی: ۱۰۶۲ (انظر: ۳۰۹۸)

(۹۴۰۸) تخریج: صحیح لغیرہ دون قصة السقط فی آخره، وهذا اسناد ضعيف لضعف يحيى اليمی، أخرجه ابن ماجه: ۱۶۰۹ (انظر: ۲۲۰۹۰)

(۹۴۰۹) تخریج: اسنادہ ضعيف لجهالة عبد الله بن قيس، أخرجه مختصرا ابن ماجه: ۴۳۲۳ (انظر: ۲۲۶۶۵)

جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر تین ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ تین ہوں۔“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر دو ہوں تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چہ دو ہوں، اور بیشک میرے امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ ان کو آگ کے لیے اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونہ بن جائیں گے اور میری امت میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی سفارش سے مضر قبیلے کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔“

يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: ((وَوَثَلَاثَةٌ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاثْنَانِ قَالَ: ((وَاثْنَانِ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدًا زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ مِنْ مُضْرٍ.)) (مسند احمد: ۲۳۰۴۱)

فوائد: یہ بات درست ہے کہ بعض جہنمیوں کے جسم بڑے بنا دیے جائیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((ضُرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَقِخْدُهُ مِثْلُ وِرْقَانٍ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبْدَةِ.)) ”قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، اس کی جلد ستر ہاتھ موٹی ہو جائے گی، اس کی ران ورقان پہاڑ جتنی ہو جائے گی اور آگ میں اس کے بیٹھے کی جگہ اتنی ہوگی، جتنا میں (محمد ﷺ) اور ربذہ گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔“ (مسند احمد: ۲/۳۲۸، رقم: ۸۳۳۵)

جسم کو بڑا کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ عذاب کو زیادہ محسوس کریں۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔

سیدنا ابولعبابہ اشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے دو بچے اسلام میں فوت ہو چکے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کے دو بچے اسلام میں فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔“ بعد میں جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو انھوں نے مجھ سے کہا: تم وہ آدمی ہو، جن کو رسول اللہ ﷺ نے والدین کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی؟ میں نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: اگر آپ ﷺ یہ بات میرے لیے فرماتے تو یہ بات مجھے ان چیزوں سے زیادہ پسند ہوتی، جن پر حمص اور فلسطین کو بند کیا گیا۔

(۹۴۱۰)۔ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: مَاتَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا.)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَقَيْتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْوَالِدَيْنِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: لِأَنَّ يَكُونَنَّ قَالَهُ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا غُلِقَتْ عَلَيْهِ حِمصُ وَفَلَسْطِينُ. (مسند احمد: ۲۷۷۶۲)

(۹۴۱۰) تخريج: اسنادہ ضعیف لجهالة عمر بن نبهان، أخرجه الطبرانی: ۲۲ / ۶۰۱ (انظر: ۲۷۲۲۰)

فوائد: حصص اور فلسطین اور ان کے خزانوں کا مالک بننا مراد ہے۔

(۹۴۱۱)۔ عَنْ صَعَصَعَةَ بِنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: تَيْتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ: مَا بَالُكَ؟ قَالَ: لِي عَمَلِي، قُلْتُ: حَدِّثْنِي، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا، لَمْ يَلْتَمِعُوا الْجَنَّةَ إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا)) (مسند

صعصعہ بن معاویہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: میرے لیے میرا کام ہے، میں نے کہا: مجھے کوئی حدیث بیان کرو، انہوں نے کہا: جی ہاں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان میاں بیوی کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔“

احمد: ۲۱۶۶۷)

(۹۴۱۲)۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ حَبْبُوهُ مِنَ النَّارِ)) (مسند

سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے تین بچے آگے بھیج دیئے، وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے۔“

احمد: ۱۱۱۲۲)

(۹۴۱۳)۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ لَمْ يَلْتَمِعُوا الْجَنَّةَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ وَإِيَاهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ، وَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ حَتَّى يَجِيءَ أَبَوَانَا، قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ)) (مسند احمد: ۱۰۶۳۰)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان میاں بیوی کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بڑی رحمت سے ان کو ان کے بچوں سمیت جنت میں داخل کر دے گا، جب ان بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے: ہمارے والدین آلیں، (پھر داخل ہوں گے)، تین مرتبہ ان سے یہ بات کہی جائے گی، وہ یہی جواب دیں گے، بالآخر ان سے کہا جائے گا: تم بھی اور تمہارے والدین بھی، سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

(۹۴۱۴)۔ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: تُوَفِّي ابْنَانِ ابوحسان کہتے ہیں: میرے دو بیٹے فوت ہو گئے، پس میں نے

(۹۴۱۱) تخریج: اسنادہ صحیح، أخرجه النسائي: ۴ / ۲۴، ۶ / ۴۸ (انظر: ۲۱۳۴۱)

(۹۴۱۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۱۱۰۶)

(۹۴۱۳) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه النسائي: ۴ / ۲۵ (انظر: ۱۰۶۲۲)

(۹۴۱۴) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳۵ (انظر: ۱۰۳۳۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: رسول اللہ ﷺ کی کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو ہمارے نفسوں کو ہمارے مردوں کے بارے میں خوش کر دے، انہوں نے کہا: جی ہاں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”(مومنوں کے) چھوٹے بچے جنت کے کپڑے ہوں گے (یعنی بے روک ٹوک جنت میں آتے جاتے رہیں گے)۔ ایسا بچہ اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملاقات کرے گا، اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، جس طرح میں نے تیرے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا ہے، اور اسے نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے باپ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔“

سیدنا قرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی کریم ﷺ کے پاس آتا تھا، جبکہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، ایک دن آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟“ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ سے اس طرح محبت کرے، جیسے میں اس سے کرتا ہوں، پس نبی کریم ﷺ نے اس کو گم پایا اور پوچھا: ”فلاں کے بیٹے کا کیا بنا؟“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو فوت ہو گیا ہے، آپ ﷺ نے اس کے باپ سے کہا: ”کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تو جنت کے جس دروازے پر آئے، اسی پر اپنے بچے کو انتظار کرتے ہوئے پائے؟“ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے، یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، یہ تو تم سب کے لیے ہے۔“

فوائد:..... آپ ﷺ کے پہلے سوال کے جواب میں اس آدمی نے جو کچھ کہا، اس سے اس کا مقصود محبت کی شدت کو بیان کرنا تھا۔

لِي فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا تُحَدِّثُنَاهُ يُطِيبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوَاتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ((صِعَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى أَحَدَهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ: أَبُويهِ، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ نَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ كَمَا أَخْذُ بَصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ.)) (مسند احمد: ۱۰۳۳۶)

(۹۴۱۵)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ: النَّبِيُّ ﷺ: ((أُتِجِبُهُ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَبُّكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبُهُ، فَقَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانٍ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِيهِ: ((أَمَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ أَبَا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اللَّهُ خَاصَّةٌ أَوْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: ((بَلْ لِكُلِّكُمْ.)) (مسند احمد: ۲۰۶۳۶)

حسان بن کریب کہتے ہیں: ہم میں سے ایک بچہ فوت ہو گیا، اس کے والدین کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، صحابی رسول سیدنا حوشب رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں تم لوگوں کو وہ بات بیان کروں، جو میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرے اس بیٹے کی طرح کے بیٹے کے حق میں بیان کرتے ہوئے سنی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، اس نے اس کو ادب سکھایا تھا، یا ابھی تک وہ زمین پر ہاتھ پیر مار کر گھسٹتا تھا، وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس بھی آتا تھا، پھر ہوا یوں کہ وہ بچہ فوت ہو گیا اور اس کے باپ نے اس کی وجہ سے اتنا غم محسوس کیا کہ وہ چھ دن تک نبی کریم ﷺ کے پاس بھی نہیں آیا، آپ ﷺ نے ایک دن پوچھا: ”کیا وجہ ہے کہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا؟“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے فلاں آدمی! اچھا بتا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اب تیرا بچہ تیرے پاس ہوتا اور بچوں میں سب سے زیادہ پھر تیرا ہوتا؟ یا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بچہ سب بچوں سے زیادہ جرأت والا ہوتا؟ یا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا بچہ تم سے بچاس برس کا بھرپور نوجوان ہو؟ یا تو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن تجھے کہا جائے: جو بچہ تجھ سے لے لیا گیا تھا، اس کے ثواب میں جنت میں داخل ہو جا؟“

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری پھوپھی کا بیٹا سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ بدر والے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلا، یہ لڑکا لڑائی دیکھنے کے لیے گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن اچانک اس کو تیر لگا اور اس کو قتل کر دیا،

(۹۴۱۶)۔ عَنْ حَسَّانِ بْنِ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَلَّامًا مِنْهُمْ تُوْفِيَ فَوَجَدَهُ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ حَرَّشِبُ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فِي مِثْلِ ابْنِكَ أَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَ لَهُ ابْنٌ قَدْ آدَبَ وَكَانَ يَأْتِي مَعَ أَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ تُوْفِيَ فَوَجَدَهُ عَلَيْهِ أَبُوهُ فَرِيئًا مِنْ سِتَةِ أَيَّامٍ لَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا أَرَى فَلَئِنَّا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ تُوْفِيَ فَوَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا فُلَانُ أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ الْآنَ كَانَتْ سَطِ الصَّبِيَّانِ نَشَاطًا؟ أَتُحِبُّ أَنْ ابْنَكَ عِنْدَكَ أَجْرًا الْعِلْمَانِ جَرَاءً؟ أَتُحِبُّ أَنْ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَهَلَا كَأَفْضَلِ الْكُهُولِ أَوْ يُقَالَ لَكَ: أُدْخِلِ الْجَنَّةَ ثَوَابَ مَا أُجِدَّ مِنْكَ.)) (مسند احمد: ۱۵۹۳۷)

(۹۴۱۷)۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ حَارِثَةُ بْنُ عَمْتَى يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَلَامًا نَطَّارًا مَا انْطَلَقَ لِلْقِتَالِ، قَالَ: فَاصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَجَاءَتْ

(۹۴۱۶) تخریج: اسنادہ ضعیف، ابن لہیعہ سبیء الحفظ (انظر: ۱۵۸۴۳)

(۹۴۱۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۹۸ (انظر: ۱۳۲۵۰)

پس میری پھوپھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرا بیٹا حارثہ، اگر وہ جنت میں ہے تو میں ثواب کی نیت سے صبر کرتی ہوں، وگرنہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام حارثہ! جنتیں تو بہت زیادہ ہیں اور بیشک حارثہ تو فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔“

أُمُّهُ عَمَّتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنِي حَارِثَةٌ، إِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، وَإِلَّا فَسَيَرَى اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ: ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جَنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى))

(مسند احمد: ۱۳۲۸۳)

فوائد:..... اس خاتون کا مقصد رونا اور نوحہ کرنا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے: اجْتَهَذَتْ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ..... میں اس پر رونے میں کوشش کروں گی۔

امام خطابی نے کہا: چونکہ نبی کریم ﷺ نے اس عورت کو اس کے دعوے پر برقرار رکھا، اس لیے اس حدیث سے اس طرح کے رونے کا جواز ملتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر نے ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ یہ واقعہ نوحہ کی حرمت سے پہلے کا ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد نوحہ کو حرام قرار دیا گیا تھا، جبکہ یہ واقعہ غزوہ بدر کے بعد کا ہے۔

بَابُ قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَ زَوْجِهَا أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَمَا تُوَفِّي وَلَدَهُمَا
سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا اپنے خاوند سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کے قصے کا بیان،
جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو طلحہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہما کا بیٹا فوت ہو گیا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے اہل والوں سے کہا: تم نے ابو طلحہ کو اس کے بیٹے کے بارے میں نہیں بتلانا، میں خود اس کو بتاؤں گی، پس جب وہ آئے تو اس نے ان کو شام کا کھانا پیش کیا، انھوں نے کھانا کھایا اور مشروب پیا، پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کے لیے اچھی طرح تیاری کی، جیسا کہ وہ پہلے کرتی تھیں، پس انھوں نے ان سے جماع کیا، جب ام سلیم نے دیکھا کہ اس کا خاوند خوب سیر ہو گیا گیا اور حق زوجیت بھی ادا کر لیا تو اس نے کہا: اے ابو طلحہ! اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ لوگ ایک گھر والوں کو کوئی چیز عاریتہ دیتے ہیں، پھر جب وہ ان سے واپس کرنے کا مطالبہ

(۹۴۱۸)۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ لَأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ: لَا أَهْلِيهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَحَدُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَفَرَّبَتْ إِلَيْهِ عِشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، قَالَ: ثُمَّ تَصَنَعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ وَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ اللَّهُمَّ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَأَحْتَسِبُ ابْنَكَ، فَاَنْطَلَقَ حَتَّى آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ

(۹۴۱۸) تخريج: أخرجه مسلم: ص ۱۹۰۹ (انظر: ۱۳۰۲۶)

کرتے ہیں تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا: نہیں، نہیں، روک سکتے، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا: تو پھر اپنے بیٹے کی وفات پر ثواب کی نیت سے صبر کر، سیدنا ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ چل پڑے، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے اور آپ ﷺ کو سارے ماجرے کی خبر دی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہاری گزشتہ رات میں برکت فرمائے۔“ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو حمل ہو گیا، ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے اور ام سلیم آپ ﷺ کے ساتھ تھیں، جب آپ ﷺ سفر سے واپسی پر مدینہ آتے تھے تو رات کو شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، پس جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دروزہ شروع ہو گیا، نبی کریم ﷺ تو آگے چل دیئے، لیکن سیدنا ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس رک گئے اور انھوں نے کہا: اے میرے رب! تو جانتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند لگتی ہے کہ تیرے رسول کے ساتھ سفر میں نکلوں اور آپ ﷺ کے ساتھ ہی مدینہ میں داخل ہوں، لیکن اب تو دیکھ رہا ہے کہ میں رک گیا ہوں، اتنے میں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا: جو چیز میں پہلے پاتی تھی، ابھی وہ نہیں پارہی، پس ہم چل پڑے اور جب مدینہ پہنچے تو دوبارہ دروزہ شروع ہوا اور انھوں بچہ جنم دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میری ماں نے مجھے کہا: اے انس! کوئی بھی اس کو دودھ نہ پلائے، یہاں تک کہ تو صبح کو اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جائے، وہ کہتے ہیں: میں بچہ لے کر آپ ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ ﷺ کے پاس جانوروں کو داغنے والا ایک آلہ تھا، جب آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: ”شاید ام سلیم نے بچہ جنم دیا ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے وہ آلہ رکھ دیا، میں بچے کو لے کر آگے بڑھا اور اس کو آپ ﷺ کی گودی میں رکھ دیا، رسول

بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي غَايِرِ لَيْلَتِكُمْ)). قَالَ: فَحَمَلْتُ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضْرَبَهَا الْمَخَاضُ، وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخَلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى، قَالَ: تَقُولُ أُمُّ سَلِيمٍ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فَإِنِطَلَقْنَا، قَالَ: وَضْرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمُوا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَسُّ! لَا يَرْضَعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مَيْسَمٌ فَلَمَّا رَأَيْتِي قَالَ: ((لَعَلَّ أُمَّ سَلِيمٍ وَلَدَتْ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَضَعَ الْمَيْسَمَ قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلَا كَهْفَ فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَدَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَنْظُرُوا إِلَيَّ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرِ))، قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَاهُ عَبْدُ اللَّهِ - (مسند احمد: 13057)

اللہ ﷻ نے مدینہ کی عجمہ کھجور منگوائی، اس کو اپنے منہ مبارک میں ڈال کر چبایا، یہاں تک کہ وہ نرم ہو گئی، پھر اس کو بیچ کے منہ میں ڈالا اور بچہ زبان پھیر کر اس کو ننگے لگ گیا، آپ ﷻ نے فرمایا: ”دیکھو کہ انصاریوں کو کھجور سے کتنی محبت ہے۔“ پھر آپ ﷻ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔

(دوسری سند) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابوطلمہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے شادی کی، یہ سیدنا انس بن مالک اور سیدنا براء رضی اللہ عنہما کی ماں تھیں، سیدہ ام سلیم نے ان کے لیے ایک پیارا سا بیٹا جنم دیا، سیدنا ابوطلمہ رضی اللہ عنہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہوا یوں کہ بچہ بہت سخت بیمار ہو گیا، سیدنا ابوطلمہ رضی اللہ عنہ کی روئین یہ تھی کہ وہ نماز فجر کے لیے اٹھتے، وضو کرتے، نبی کریم ﷺ کے پاس آتے، آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے اور نصف النہار کے قریب تک آپ ﷺ کے ساتھ ہی ٹھہرتے، پھر واپس آ کر قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے، پھر نماز ظہر کی تیاری کر کے چلے جاتے اور نماز عشا تک واپس نہیں آتے تھے، ایک دن جب وہ رات کو واپس آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے (شروع میں اس کی موت کو چھپانے کے لیے) اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور اس کو چھوڑ دیا، جب سیدنا ابوطلمہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا: اے ام سلیم! میرے پیارے بیٹے نے رات کیسے گزاری ہے؟ انھوں نے کہا: اے ابوطلمہ! تیرا بیٹا جس دن سے بیمار ہوا، آج رات کو سب سے زیادہ سکون میں تھا، پھر وہ کھانا لے کر آئیں، انھوں نے کھانا کھایا اور ان کا نفس خوشگوار ہو گیا، پھر وہ اپنے بستر کی طرف گئے اور سونے کے لیے اپنا سر رکھا،

(۹۴۱۹)۔ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانٍ) عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ (بْنِ مَالِكٍ) وَالْبَرَاءِ، قَالَ: فَوَلَدَتْ لَهُ بَنِيًّا، قَالَ: فَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، قَالَ: فَمَرَضَ الْغُلَامُ مَرَضًا شَدِيدًا، فَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَقُومُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَتَوَضَّأُ وَيَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُصَلِّي مَعَهُ، وَيَكُونُ مَعَهُ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، وَيَجِيءُ يَقْبَلُ وَيَأْكُلُ، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ تَهَيَّأَ وَذَهَبَ فَلَمْ يَجِءْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ قَالَ: فَرَأَحَ عَشِيَّةً وَمَاتَ الصَّبِيُّ، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: نَسَجْتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا وَتَرَكْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ كَيْفَ بَاتَ بَنِي اللَّيْلَةَ؟ قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا كَانَ ابْنُكَ مُنْذُ اشْتَكَى اسْكَنَ مِنْهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَطَابَتْ نَفْسُهُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَى فِرَاشِهِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَالَتْ: وَقُمْتُ أَنَا فَمَيْسْتُ شَيْتًا مِنْ طَيْبٍ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى

سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے خوشبو لگائی اور ان کے پاس آ کر بستر میں ان کے ساتھ داخل ہو گئی، جب انھوں نے خوشبو محسوس کی تو وہی معاملہ چلا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، پھر جب صبح ہوئی تو انھوں نے روٹین کے مطابق تیاری کرنا شروع کر دی، جیسا کہ ہر روز کرتے تھے، اب سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا: اے ابو طلحہ! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو امانت دی، آپ نے اس سے استفادہ کیا، پھر اس نے تجھ سے طلب کی اور پھر لے لی، کیا تو اس معاملے میں بے صبری کرے گا؟ انھوں نے کہا: نہیں، سیدہ نے کہا: تو پھر آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، وہ بہت زیادہ گھبرائے اور پریشان ہوئے اور جا کر رسول اللہ ﷺ کو سارے معاملے کی خبر دی کہ اس کی بیوی نے اس طرح کھانا کھلایا، خوشبو لگائی اور پھر جو کچھ ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے حق زوجیت ادا کیا ہے اور وہ بچہ تمہارے پہلوؤں میں تھا؟“ انھوں نے کہا: جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت فرمائے۔“ پس سیدہ ام سلیم کو اسی رات حمل ہو گیا، بعد میں جب انھوں نے بچہ جنم دیا تو صبح کو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میں (انس) سے کہا: اس کو کسی کپڑے میں اٹھالے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جا اور عجوہ کھجور بھی لیتا جا، پس میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، نہ اس کو گرتی دی گئی تھی، نہ اس نے کھانا کھایا، بلکہ کوئی چیز نہیں چکھی، جب میں پہنچا تو کہا: اے اللہ کے رسول! سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ ﷺ نے (خوشی سے) فرمایا: ”أَلَسْتُ أَكْبَرُ، کیا جنم دیا ہے اس نے؟“ میں نے کہا: جی لڑکا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، لے آس کو میرے پاس۔“ پس میں نے

دَخَلْتُ مَعَهُ الْفِرَاشَ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَجَدَ رِيحَ الطِّيبِ كَانَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَهَيَّأُ كَمَا كَانَ يَتَهَيَّأُ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا طَلْحَةَ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَوَدَعَكَ وَدَيْعَةً فَاسْتَمْتَعَتْ بِهَا ثُمَّ طَلَبَهَا فَأَخَذَهَا مِنْكَ تَجَزَعُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَإِنَّ ابْنَكَ قَدِمَاتٍ، قَالَ أَنَسُ فَجَزَعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا، وَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا فِي الطَّعَامِ وَالطِّيبِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فَيْتَمَا عَرُوسَيْنِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنَيْكُمَا؟)) قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا.)) قَالَ: فَحَمَلْتُ أُمَّ سَلِيمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَدَلِدُ غُلَامًا، قَالَ: فَحِينَ أَصْبَحْنَا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أَحْمَلُهُ فِي خِرْقَةٍ حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَحْمَلَ مَعَكَ تَمْرَ عَجْوَةٍ، قَالَ: فَحَمَلْتُهُ فِي خِرْقَةٍ قَالَ: وَلَمْ يُحْنِكْ وَلَمْ يَذُقْ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا، قَالَ: فَفَلَسْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَدْتُ أُمَّ سَلِيمَ، قَالَ: ((أَلَسْتُ أَكْبَرُ، مَا وَلَدْتُ؟)) قُلْتُ: غُلَامًا، قَالَ: ((أَلْحَمْدُ لِلَّهِ.))، فَقَالَ: ((هَاتِي إِلَيَّ.)) فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَحَنَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَعَكَ تَمْرُ عَجْوَةٍ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَخْرَجْتُ تَمْرَاتٍ

آپ ﷺ کو پکڑا دیا، آپ ﷺ نے اس کو گزرتی دینا چاہی، اس لیے مجھ سے پوچھا: ”کیا تیرے پاس عجوہ کھجور ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں ہے، پھر میں نے کھجوریں نکالیں، آپ ﷺ نے ایک کھجور لے کر اس کو اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور اتنی دیر تک چبایا کہ وہ آپ ﷺ کے لعاب کے ساتھ مکس ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے بچے کو دی اور فرمایا لگا کہ بچہ کھجور کی مٹھاس محسوس کر رہا ہے، وہ کھجور کی حلاوت اور رسول اللہ ﷺ کے تھوک کو چوسنے لگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا: پہلی چیز جس نے اس بچے کی انتڑیاں کھولیں، وہ رسول اللہ ﷺ کا تھوک تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”انصاریوں کی محبوب چیز کھجور ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس بچے کا نام عبد اللہ رکھا، اس عبد اللہ کی کافی ساری اولاد پیدا ہوئی تھی، یہ عبد اللہ فارس میں شہید ہو گئے تھے۔

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمْرَةً وَالْقَاهَا فِي فِيهِ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْوُكُهَا حَتَّى اخْتَلَطَتْ بِرَيْقِهِ ثُمَّ دَفَعَ الصَّبِيَّ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَجَدَ الصَّبِيَّ حَلَاوَةَ التَّمْرِ، جَعَلَ يَمُصُّ بَعْضَ حَلَاوَةِ التَّمْرِ وَرَيْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَسُ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَ أَمْعَاءَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ عَلَى رَيْقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حِبُّ الْإِنصَارِ التَّمْرِ.)) فَسَمَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلٌ كَثِيرٌ قَالَ: وَاسْتَشْهَدَ عَبْدُ اللَّهِ بِفَارِسٍ - (مسند احمد: ۱۲۸۹۶)

فوائد: صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ایک انصاری آدمی نے کہا: رَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ يَعْنِي مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ میں نے اس عبد اللہ کے نو بیٹے دیکھے، سب نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا۔

ایک اور روایت کے مطابق ان میں سے اکثر نے علم حدیث بھی حاصل کیا تھا۔

بَابُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى))

رسول اللہ ﷺ کے فرمان ”بیشک صدمہ کی ابتداء میں صبر ہوتا ہے“ کا بیان

(۹۴۲۰)۔ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ لَامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: اتَّعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَهَا: ((اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي.))، فَقَالَتْ لَهُ: يَا لَكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَا تَبَالِي بِمُصِيبَتِي. قَالَ: وَلَمْ تَكُنْ عَرَفْتَهُ،

ثابت بنانی سے مروی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کی ایک خاتون سے کہتے کہ کیا تو فلاں عورت کو جانتی ہے؟ اس کا قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، آپ ﷺ نے اس سے کہا: ”اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔“ اس نے آگے سے کہا: پرے ہٹ جائیں آپ مجھ سے، آپ کو میرے مصیبت کی کیا

(۹۴۲۰) تخريج: أخرجه البخاري ۷۱۵۴، ومسلم: ۹۲۶ (انظر: ۱۲۴۵۸)

پرواہ ہے۔ دراصل وہ خاتون آپ ﷺ کو پہچانتی نہیں تھی، جب اس کو بتلایا گیا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے، تو یوں لگا کہ اس پر موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے، پھر وہ آپ ﷺ کے دروازے تک پہنچی اور اس پر کوئی پہرہ دار نہیں پایا، اس نے آ کر کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیشک ممبر وہ ہوتا ہے، جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے۔“

فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِهَا مِثْلَ الْمَوْتِ، فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَابًا، فَسَأَلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أَعْرِفَكَ، فَقَالَ: ((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ..)) (مسند احمد: ۱۲۴۸۵)

فوائد:..... جب مسلمان کو صدمے کی خبر موصول ہو تو اسی وقت سے ممبر کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں، یہ ممبر نہیں ہے کہ فوراً واویلا شروع کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کا انداز پیش کیا جائے، اپنے لیے ہلاکت کی بد دعائیں کی جائیں، خوب رویا پیٹا جائے، چیخ و پکار کی جائے اور جب طبیعت تھک جائے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی جائے۔

بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَابُ عَنِ الْمُصِيبَةِ

مصیبت میں مبتلا ہونے والے کی دعا کا بیان

سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ کہے: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أَللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجْرُنِي فِيهَا، وَأَبْدَلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا۔ (بیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بیشک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ! میں اپنی مصیبت پر تجھ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، پس مجھے اس میں اجر عطا فرما اور اس کا بہترین متبادل عطا فرما)“ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: پس جب سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں مجھے بہترین خاوند عطا کیا۔

(۹۴۲۱)۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أَللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجْرُنِي فِيهَا، وَأَبْدَلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا)) فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو سَلَمَةَ خَلَفَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَهْلِي خَيْرًا مِنْهُ۔ (مسند احمد: ۱۶۴۵۴)

فوائد:..... سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند سیدنا ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین بن گئی تھیں۔

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اَللّٰهُمَّ اَجْرِنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا۔ (پیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور پیشک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر اور بہترین متبادل عطا فرما) تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے اور اس کو بہترین متبادل عطا کرتا ہے۔“ پس جب میرے خاوند سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور میں نے کہا: صحابی رسول ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت اور برداشت عطا کی اور میں نے یہ دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین متبادل عطا فرما، پس میں نے رسول اللہ ﷺ سے شادی کر لی۔

فوائد: معلوم ہوا کہ جلائے مصیبت کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللّٰهُمَّ اَجْرِنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا۔ جو احادیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کے شروع میں ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کا اضافہ کرنا چاہیے۔

سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان مرد اور عورت کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، اگرچہ اس کو کافی زمانہ گزر چکا ہو، پھر وہ نئے سرے سے ”اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پہلی حالت کو واپس کرتا ہے اور اس کو اُتارنا اجر عطا کر دیتا ہے، جتنا مصیبت والے دن عطا کیا تھا۔“

(۹۴۲۲) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۱۸ (انظر: ۲۶۶۳۵)

(۹۴۲۳) تخریج: اسنادہ ضعیف جدا، هشام بن ابی ہشام متروک، وامہ لا یعرف حالها، أخرجه ابن

ماجه: ۱۶۰۰ (انظر: ۱۷۳۴)

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines for writing.

